

READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

سینس ڈائجسٹ
ماہنامہ
برج 2016

دوست سہیلی
ڈاٹ کام

READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

READING
Section



انشائیہ

جون ایلیا

بے ضمیروں اور غداروں کا قصہ
ایک مجذوب کی تلخ باتیں

حساس دلوں میں درد کی شیس
بن کر اتر جانے والی پر فنکار تحسیر

سینس کی مجلس مشاورت و دست درمیں کی تلخ
شہزاد باقیں کے گلے شکوے اور چٹیلوں میں شہرے

16

انکسار ساخدا محمد

49

قصہ شہزادیاں

نامیہ سلطانہ اختر

سلسلہ

بجائت کے

70

ایک کے خط

مندر علی

ماضی کا ایسے با اختیار اور بے اختیار
لسانیا کے سہیل آہنڈ اور بہت آہستہ واقعات
جھوٹا بھرم کتائیں رکھنے والے
ایک بہرائح رساں کا کارنامہ

112

مرزا امجد بنگ

72

سماں قادری

بدینت

کارنامہ

شیش محل

فنی رشتوں میں ابھی
ایک مظالم زدگی کی داستان

اسرار و تحیر کے پردوں میں ملنوف سطر رنگ
بدلتی واردات قلبی کی عکاس و لچپ داستان

103

تیرا

فقط ایک دولت کی خاطر
ہزاروں روپ بدلنے والوں کا قصہ

187

سلسلہ

چتر

جلد 46 • شماره 03 مارچ 2016 • زور سالانہ 800 روپے • قیمت فی ہرچاپ پاکستان 60 روپے •

E-mail: jdpgroup@hotmail.com (021) 35802551 نیکس (021) 35895313 • فون: 74200 • کراچی 215 بکس نمبر 215

Section



روٹیاں

اپنوں کے ہاتھوں اپنوں کی ناقدری
کا عسیرت اثر مناسبراً

منظوراً

149

ایک چکر کی روپ کبھی چھاؤں کبھی دھوپ محبت کی
عنایتوں رفاقتوں اور رقابتوں کا ایک دل پاسلسلہ

155

آپ کے ہاتھوں کبھی ایک انجمن رنگ رنگ
آپ کی پسند آپ کے ذوق سے ہم آہنگ

تشریح

مارگروہی

تحفہ

مخفیل شہر و سخن

محی الدین نواب

دین

162

152

حسن کی داد دیا کے والی
حسینت کی دقت سرسیریاں

محسن اور انکساری کے شہکار
ایک بیک انسان کا قصہ

239

209

کاشف زبیر

مقبول حسین

اہواز

الو اعلیٰ خطبہ جلیل

سے رنگ

تلخ حقائق اور مسکروں فریب کا
حیرت انگیز مستزاج

صیغہ استنید بلگرامی

عسداوتوں کی زنجیر میں
لپٹا معشرہ بی دنیا کا تحفہ

277



258

کفن و دفن

بے پناہ آزمائشوں میں بیتا و دنیا
کا پناہ اور قوم کی الٹا ک داستان

کفن و دفن

پبلشر پرو پرائٹر: نیشن رسول، مقام اشاعت: گراؤنڈ فلور-C-63 فیزا ایکس نیشن، نیکس، مین کورنگی روڈ کراچی 75500
جمیل حسن، مطبوعہ: این حسن پرنٹنگ پریس ہاکی اسٹیڈیم کراچی

نیکی

بستیاں سوالوں کے انہود میں گھری ہوئی ہیں، ساتھ ہی وہ مسئلے ہیں جن سے ساری دنیا دوچار ہے۔ ہر مسئلہ اپنے سے بڑے مسئلے کا حل چاہتا ہے اور یہ دائرہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر ہماری آنکھوں پر ہٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، زبان گل نہیں گئی ہے اور عقل کو جنون نہیں ہو گیا ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندگی کی ان تیز و تند حقیقتوں سے بھاگ کر اپنے اندر پناہ لینا چاہیں، مسئلوں کے اس ہجوم میں انسانیت کے کھوئے چھل گئے ہیں۔ تم ذرا دیکھو تو انسانیت کی جواں ہمتی پر کس قدر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ پر انسانیت کا یہ قافلہ آتماں و خیراں برابر آگے بڑھ رہا ہے۔ جاننے، نہ جاننے اور سب کچھ جان کر انجان بننے کے درمیان ایک جنگ ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔ آج بھی سچائی کو جھٹلایا جاتا ہے پر ایسا ہے کہ لہجے کی کھوٹ اور کپٹ اب نہیں سمجھتی۔ انسان کی تمام بد بختیوں نے تادانی اور تاحی کوشی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، جھگڑا اس لیے ہے کہ بعض مسخرے اس کو عارض پر سر کے بل چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں ٹوکا اور برابر ٹوکتے رہیں گے، یہ ملکوں اور قوموں کا جھگڑا نہیں ہے، قدروں کا جھگڑا ہے۔

انسانیت ایک خاندان ہے نہ اس میں کوئی امتیاز ہے اور نہ تفریق، جو تفریق پیدا کرتے ہیں وہ اس مقدس خاندان میں شامل نہیں۔ لکھنے والوں اور پڑھنے والوں کا جتنا بھی مقدور ہو اس کے مطابق عالمگیر سماج کے قیام کی کوشش کرنا ان کا سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جب ہم امریکا یا انگلستان کو بُرا کہتے ہیں تو وہاں کے شریف عوام اور دانشور مراد نہیں ہوتے، وہ تو ہمارے خاندان کے محترم رکن ہیں۔ انسانیت دشمن چاہے پاکستان کے رہنے والے ہوں یا امریکا اور انگلستان کے، وہ ہماری نفرت کے یکساں طور پر مستحق ہیں۔ دنیا میں صرف دو عقیدے پائے جاتے ہیں۔ انسانیت اور انسانیت دشمنی اور صرف دو قومیں رہتی ہیں انسان اور انسان دشمن۔ یہ دنیا کے ہر حصے میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ یہ شاید ایک اتفاق ہے کہ ہمیں ایک ایسے دور میں اپنے انسانی فرض کی بجا آوری کا موقع ملا ہے جب انسانیت کے دشمنوں نے مغرب کو اپنا مرکز قرار دیا ہے۔ اگر یہ مرکزیت مشرق کو حاصل ہو جائے تو پھر ہماری تمام سخت کلامیوں کا ہدف مشرق قرار پائے گا۔

پیشہ ور مجرموں کے اس عالمی جتھے سے خبردار رہو جو نہ مغرب کا دوست ہے اور نہ مشرق کا۔ تمہاری تمام مصیبتوں اور محرومیوں کے ذمے دار یہی لوگ ہیں۔ یہ اور ان کے ہوا خواہ انسانوں کو بہلانے اور بہکانے کے ہنر میں خلاق ہیں۔ دیکھو، صرف اچھی باتوں ہی کو اپنا دوا نہ سمجھو، صرف باتوں سے بدن پر گوشت نہیں چڑھتا۔ ان جھوٹے اور باتوئی چارہ گروں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں محض خوش رائیخ لفظوں پر تالاب رکھنا چاہیے ہیں۔ اگر زندہ رہنا ہے تو ایسی قناعت سے پناہ مانگو۔ اور ہاں، عالمی اخوت کے جعلی نعروں کا فریب بھی نہ کھانا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس باب میں بہت عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے سر پر ستونوں سے کچھ کم نہیں ہیں۔ انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔

لو انہیں سچا تو یہ کہہ اپنے ذاتی عقیدے کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ انہیں اس کی کوئی لگرنہیں کہ ایک شخص قاتل کی آگ میں جل رہا ہے، انہیں تو صرف اس بات سے سروکار ہے کہ وہ ان کا عقیدہ تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ یہ حضرات زمین اور اس کے معاملوں سے بہت بلند ہیں۔ انہوں نے تو آسمانوں کو گویا پھین لیا ہے۔ ان کے مقدس عقیدے کا نہ کوئی دشمن ہے اور نہ کوئی زبان۔ یہ بستوں کی امنگوں کو بجا دینا چاہتے ہیں۔ عالمی سماج کا نظریہ تمہیں وطن دشمنی اور اپنی تہذیب سے غداری کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ مگر جس عالمی اخوت کا نعرہ یہ لوگ بلند کرتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اپنی آزادی، استحکام، حب وطن سماجی سالمیت اور اپنی عظمتی انا سے یکسر دست بردار ہو جاؤ، اچھا فرض کرو کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے اور ہم بہتان تراشی سے کام لے رہے ہیں، پر یہ سوچو کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور تم اپنی زبان، تہذیب اور اپنے وطن کی محبت سے یکسر بیگانہ ہو جاؤ تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا، تم یا تمہارے دشمن؟ لیکن کر لو اس کا فائدہ تمہارے دشمن اٹھائیں گے جو خود ان حضرات کے بھی دوست نہیں ہیں۔

کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کو برا کہہ کر ہی سکون پاتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف یہیں پائے جاتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم بھی ایسی نہیں ہے جو ایسے لوگوں کو اپنے درمیان پائے اور انہیں برداشت کرتی رہے۔ جنہیں اس قوم پر غصہ آتا ہے ان کا احترام کرو، ان کے سامنے محبت اور عقیدت سے گردنیں جھکاؤ مگر جو صرف برائی کرنا اور پاکستان کی تحریک کو طعنے دینا چاہتے ہیں، انہیں نمک حرام اور خیار جانو کہ بیروں کو برا کہنا اور سمجھنا بھی بڑی نیکی ہے۔

☆...☆...☆...☆

محترم قارئین
السلام علیکم!

مارچ 2016ء کا خوب صورت شمارہ آپ کے حسین لمحات کی نذر ہے۔ ہر سال کچھ یادگار دن اپنی تاریخی اہمیت کا احساس دلانے آتے اور..... گزر جاتے ہیں۔ انہی دنوں میں 23 مارچ کا حوالہ بھی کسی خوب صورت خواب کے ماتہ شامل ہے۔ بے شک اس خواب کی تعبیر اور تکمیل آنے والے دنوں میں ایسے ہوئی پیسے کوئی اپنے گھر کی تعمیر سے تو کین تک محنت و مشقت کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ملک ہمارا اپنا گھر ہے لیکن..... جس گھر میں بے قاعدگی اور بے اصولی جنم لے لے وہ گھر جنم بھی بن جاتا ہے، جس کی چھوٹی سی مثال پچھلے دنوں دیکھنے میں آئی جب ایک شہری اپنی نئی بانیک پر سوار ٹریک قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے سگنل کھلنے کا منتظر تھا کہ ایک باوردی شخص قریب آیا اور بتا کسی تصور کے بانیک کی چابی اپنے اختیار میں کر لی۔ یہ صورت حال دیکھ کر اس باس کھڑے شہری اصل بات سمجھ گئے اور یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ کیا نئی گاڑی خریدنا یا اپنا گھر بنانا اس ملک میں فریب لوگوں کے لیے واقعی کوئی ایسا ہی جرم بن گیا ہے کہ چلتے پھرتے کوئی بھی شخص کبھی باوردی اور کبھی بناوردی میں، پیسے وصول آجائے۔ یہ قابل فکر لمحہ ہے کہ کوئی اپنے ہی گھر میں ناحق زیادتیوں اور نا انصافیوں کا شکار ہو جائے۔ یہ تو معمولی سی بات ہے جس پر آنے والا کل اور آنے والی نسل غیر محفوظ ہیں شاید..... کیا ہمارے ملک میں ان چھوٹی چھوٹی زیادتیوں پر بھی قابو نہیں پایا جاسکتا جو مستقبل میں کسی بڑے جرم کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں۔ گویا ڈھکے چھپے انداز میں بہت خوف ناک ماحول کی پرورش ہو رہی ہے۔ ان تمام معاملات پر افسوس اپنی جگہ لیکن ایک اور دکھ نے دل میں گھر کر لیا ہے، چونکہ پرچہ کی تیاری نکل از وقت کی جاتی ہے، اسی دوران قافردی 2016ء کو چاٹک ایک الٹا ناگ خبر ملی کہ اردو زبان میں طویل ترین داستان ”دیوتا“ کے خالق جناب محی الدین نواب جو کافی دنوں سے طیل تھے، رضائے الہی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون..... اس محبوب تھکا کر کی سسٹنس سے طویل رفاقت بالآخر ختم ہوئی۔ ایک کامیاب مصنف کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ بعد از مرگ بھی اپنی یادگار تحریروں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ محی الدین نواب نے بھی قارئین کے دل اپنے منقر و اسلوب اور خیالات کی اونچی پرواز سے جیت لیے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمائے، (آمین)۔ انہی باتوں کے ساتھ اب چلتے ہیں اپنی پیاری سی محفل کی جانب جہاں سب منتظر ہیں بیانات کے۔

محمد قدرت اللہ نیازی، حکیم ہاؤس خانوالہ سے محفل کی زینت بنے ہیں

”یہ کس نے مانگا لہو کا خراج ہم سے
ابھی تو سونے تھے محفل کو سرخو کر کے“

اے بی ایس اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ایک ماہ بعد.... جنوری میں.... دشمن پاکستانی قوم کو ایک بار پھر گمراہی کا لگانے کے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ کئی والدین کے کلیجے شق ہو گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک دشمن کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرمائے۔ سانحہ چارسدہ کی سوگواروں نے کئی دن تک سسٹنس سے بھی دور رکھا۔ کربھی صدارت پر آغا سلمان پاشا کو برا جمان پایا۔ ان کا تبصرہ پڑھنا شروع کیا تو عجیب الجھن محسوس ہوئی۔ موصوف کا کہنا تھا کہ باورچی خانے سے ذرا فرصت ملی تو..... ہم سوچنے لگے کہ ماجرا کیا ہے تاہم عمران سیریز کا حوالہ دیکھا تو پس منظر واضح ہوا اور یہ اعجاز بھی کہ موصوف عمران سیریز کے دیوانے ہیں۔ آغا محی! صدارت کی مبارک ہو۔ اپنے ایک اور آغا محی ہوتے ہیں۔ آغا فریدان کو بھی ساتھ لیتے آنا تھا۔ سیدنا قب علی شاہ! شعر کی پسندیدگی کا شکر یہ۔ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کو بھی بیگ صاحب جیسا اوکیل میسر آئے اور آزادی آپ کا مقدر رہے۔ محمد یوسف سائول! آپ کو بھی اس بار پریکٹس مل گئیں اب تو حکرادیں۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کے کاملہ عطا فرمائے۔ دوستی جیلے اور الفاظ کا چٹا دمڑہ دے گیا، آتے رہا کریں۔ علاوہ ازیں زرین خان آفریدی بھائی نہیں ہیں۔ مسز صدیقی! اتنی غلوس بھری پیاری دعا پر آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ کی تجویز زبردست ہے۔ کہانیوں میں سب سے پہلی ترجیح بلاشبہ شیش محل ٹھہری۔ رہن دادا کی دور میں نکالیں ٹھکانا کو بربادی سے بچانے کا سبب بن گئیں۔ رہن کو ایک جگہ سوچتے ہوئے فاروق نے اپنے



آپ سے کہا کہ بھائیہ سیٹھ کے پیچھے کو کیسے مارا ہوگا رہن نے؟ بالکل یہی بات میرے ذہن میں بھی گردش کرتی رہی کہ اس قدر نرم دل، پُر خلوص انسان واداکگری کیسے کرتا ہوگا؟ تحریر واقعی بہترین ہے اور پڑھتے ہوئے کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ آخری صفحات پر ڈاکٹر بھٹی کشمیر کے سیکلئے موضوع پر کفن بہ دوش کے ساتھ موجود تھے۔ وادی کشمیر کے پس منظر سے خوب آگاہی ملی۔ کئی تاریخی واقعات چمکی بار پڑھنے کو ملے۔ شیر علی کے باپ کے خدشات درست ثابت ہوئے اور شیر علی آخر کار بھارتی فوجیوں کے ہتھے چڑھا گیا۔ محویر اور غزالہ پاکستانی بہن بھائی مقبوضہ کشمیر کی سیر و سیاحت پر لکھے ہوئے تھے۔ کاشف ذہیر کی میا ویدہ کی طرح بہترین رہی۔ سجاد اور شاہین خدا کی لاشی کا شکار ہو گئے۔ کاشف ذہیر نے ایک بار پھر اچھوتے موضوع پر قلم اٹھایا اور ہم بھی سوچنے لگے کہ یادداشت کم ہونے اور واپس آنے کے درمیانی عرصے کی کیا صورت حال ہوتی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر کاشف ذہیر کی علالت کے بارے میں پڑھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں شفا کے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔“ (بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا میں قبول فرمائے۔ آپ کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے)

اشفاق شاہین، کراچی سے محفل میں شریک ہیں ”ادارے میں جون ایلیا کی پُر مغز اور گنجلک باتیں ہمیں جھنجھوڑتی آئیں اور ہم ہیں کہ خواب غفلت سے جاگنے کو تیار ہی نہیں، یہی ہماری بد قسمتی ہے۔ جس دن ہمارا ہنرمند اپنے ملک کو ترجیح دے گا بھی ہم مضبوط بنیاد رکھ پاگیں گے ایک نئے پاکستان کی۔ محفل میں پہنچے۔ آغا سلمان پاشا وینگ انٹری کے ساتھ کرسی صدارت پر فائز تھے، خوش آمدید۔ نائب شاہ آپ کی ہمت کو سلام۔ عہادت کاظمی، میری نیک دعا میں آپ کے ساتھ۔ جبار روی، صفر معاویہ، جاوید خان، حنا عروج بہترین خطوط کے ساتھ شامل محفل تھے، باقی تمام دوستوں کے خطوط بھی بہت اچھے تھے۔ چلتے ہیں تبصرے کی طرف۔ سلطانہ، ڈاکٹر ساجد امجد نے تاریخ کے کئی خفیہ گوشوں سے روشناس کروایا۔ معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ میا د سسپنس سے بھرپور، پُر اثر مختصر تحریر تھی۔ شیش محل پرچے کی جان ہے خصوصاً فاروق کا کردار اور رہن اور جو لیٹ کے کردار بھی بہت دلچسپ اور اہم ہیں، بہت زبردست جا رہی ہے۔ بدلتے موسم بھی خوب رہی۔ آسمان سے گرا، ملک صفر حیات کا خوب کارنامہ تھا، پُر اثر تحریر تھی۔ ویری گڈ۔ فرسٹ ڈیلیوری، بہت خوب صورت اور قابل داد تحریر تھی۔ حضرت سلطان باہو کے حالات زندگی سے آگاہی اور ان کی تعلیمات سے خود کو منور کیا۔ ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کفن بہ دوش، آخری صفحات کی تحریر تھی۔ ان کا موضوع المناک ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اب کے ڈاکٹر صاحب معاشرتی کہانیاں بھی لکھیں، انہی صفحات پر محفل شعر و سخن میں انتخاب زبردست رہا۔ میرا شعر انجالی رہا خوشی ہوئی۔ کرن شیخ، عارفہ جاوید اور اطہر حسین کا انتخاب لاجواب تھا۔ تمام احباب کو موسم بہار کی آمد مبارک ہو۔“ (بہت شکریہ)

بشری افضل، بہاولپور سے تشریف لائی ہیں۔ ”سسپنس ڈائجسٹ کا نئی لیٹ ملا۔ منقب نازک دیا جلائے کس کے انتظار میں او اس پہنچی ہے۔ بالوں کا اسٹائل بھی اچھا لگا۔ منقب نازک کہہ رہی ہے (آ جا کہ انتظار میں جانے کو ہے بہار بھی) جون ایلیا کا (بے دوئی) پڑھا۔ ایک سٹی سرگزشت نے ہماری معلومات کے ذخیرے میں اضافہ کیا۔ اپنی محفل میں پہنچے تو انکل کی باتیں سنیں۔ آغا سلمان پاشا کو کرسی صدارت پر براہمان پایا۔ محمد جاوید خان آپ کو دیکھ کر، سید عہادت کاظمی آپ کے قدم کیوں بوجھل ہو گئے، اتنی فینشن نہ لیا کریں۔ سید عہادت کاظمی آپ کی بات سے متفق ہوں مگر دنیا کے کام نہیں رکھتے۔ بس اتنا ہی لکھ پانی ہوں۔ باقی آئندہ ماہ۔“ (آئندہ ماہ آپ کے بھرپور تبصرے کا انتظار ہے گا)

صداق معاویہ سعیدی کی رحیم یار خان سے آمد ”سسپنس کا پرانا قاری ہوں۔ اتنا کہ اب ٹھیک سے یاد بھی نہیں کب پڑھا شروع کیا تھا چونکہ سسپنس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ (پھر تو بار بار خوش آمدید..... اتنی محبت کا شکریہ) اس دفعہ 16 فروری 3 دن تاخیر سے ملا اور 3 دن بھی بہت زیادہ محسوس ہوئے۔ سسپنس سے تعلق تو بہت پرانا ہے لیکن بزم یاراں میں شرکت کی جسارت پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ قریب قریب ہر شمارے میں کسی نئے قاری کا خط پڑھتے ہوئے دو باتوں کا احساس ہوا۔ نمبر 1 سسپنس ہر قاری کا ہے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ نمبر 2 آپ کے پاس ردی کی نوکری نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو نئے قاری کا خط برسوں میں پڑھنے کو ملتا۔ اس لیے مجھے بھی حوصلہ ہوا (کافی گہری نظر ہے آپ کی) اور کاغذ کلم لے کر بیٹھ گیا البتہ بلیک لسٹ موجود ہے، اگر میرا خط شائع نہ ہوا، بلیک لسٹ کی نذر بھی ہو گیا تو مجھے یہ احساس ضرور ہوگا کہ میرا سادہ سا خط آپ کو مل تو ضرور گیا ہے۔ پیسے ہی سسپنس ملا، ٹائٹل سے نظریں چراتے ہوئے فہرست میں جھانکا اور اپنی پسندیدہ ترین کہانی شیش محل کا نمبر دیکھا اور فوراً شیش محل میں گھس گئے مکمل پڑھ کر جان چھوڑی۔ کیا کہنے شیش محل کے۔ اس کا ردی جی (سوالگہ مبارکوں) یوں سمجھیے کہ اب سسپنس گویا صرف شیش محل کے لیے خریدتے ہیں۔ شیش محل پڑھتے ہی بزم یاراں کا نظارہ کیا۔ آغا سلمان پاشا کی شاعرانہ انٹری اور صدارت کی کرسی مبارک ہو۔ باقی تبصروں میں جناب صفر معاویہ کا تبصرہ پڑھا اور اچھا لگا۔ باقی تبصرے اور ڈائجسٹ زیر مطالعہ ہے، بلیک



لسٹ سے بچنے کے لیے فوری خط لکھ کر ارسال کر رہا ہوں اگر بزم یاراں میں داخلہ مل گیا تو آئندہ ماہ مکمل ڈائجسٹ اور پوری بزم یاراں پڑھ کر مکمل تبصرے کے ساتھ حاضری ہوگی۔" (بیچے جناب محفل میں تو شمولیت مل گئی..... اب..... دیکھتے ہیں آپ کی اپنایت کا عالم)

زرین آفریدی، حیدرآباد سندھ سے محفل میں چلی آ رہی ہیں "تفکر اسٹاف سسٹمز و احباب سسٹمز اب انشاء اللہ میرا پورا سال کامیاب اور خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ (میرا پہلا تبصرہ جو شامل شمارہ ہوا تھا) میں ان دنوں مری، ایوبیہ کے سیرپائے پر ہوں۔ برف باری اور سردی انجوائے کرنے۔ وہیں سے ہی سسٹمز ڈائجسٹ ماہنامہ فروری 2016ء خرید لیا۔ سب سے پہلے اپنی محفل کے درشن کیے۔ واللہ محفل کی رونقیں تو مجھے مری کے مال روڈ کی رونق سے زیادہ اچھی لگیں۔ (یہ ہوتی ہے محبت..... بہت اچھا لگا) صدارت، آغا سلمان پاشا یہ نام بار بار پڑھا کیونکہ تبصرہ کچھ اور بتا رہا تھا، باورچی خانہ، وال ماش ٹرکا اور تاک جھانک، کام زمانہ نام مردانہ یا حیرت! (کیسی حیرت..... سسٹمز میں سسٹمز نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے) تبصرہ اے ون تھا، کا یا پلیٹ تبصرے کا نام دوں گی جس نے ہمیں مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ مبارک باو۔ پاشا صاحب میں کرل تو نہیں البتہ آری میں ضرور ہوں۔ سید ثاقب لیڈ تو ہمیشہ سے ٹیلنٹڈ رہی ہیں۔ خصوصاً شکر یہ مسز صدیقی صاحبہ کا۔ باقی سب احباب کے چھوٹے بڑے تبصرے بیٹھ رہے۔ چونکہ گھر سے دور برف پوش پہاڑوں سے انجوائے کرنے کے دوران زیادہ کہانیاں نہیں پڑھ سکی۔ دو سلسلہ دار اسٹوری اور ملک صفدر حیات کی کہانی سے انصاف کیا۔ شیش محل میں رہن دادا نے سفر کے دوران بھی ایکشن اور مار دھاڑ ڈھونڈ ہی لیا۔ ماجد علی کو مار بھگا یا اور کھٹکلا کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ اب فاروق کا گر کر بے ہوش ہو جانا، لگتا ہے یہ فٹنڈا اور دی اب چندی گڑھ میں اپنے کارنامے انجام دینے والی ہے۔ ادھر ماروی میں، باب النساء میں بہت کچھ ہو گیا۔ خبارے مکہ شریف پہنچ گئے، محبوب کو ماروی مل گئی۔ بہر حال داستان دلچسپی کا سامان لیے ہوئے ہے۔ ملک صفدر حیات کی آسمان سے گرا، بیجاری ٹھیکہ واقعی آسمان سے گری کجور میں اگی اور مری۔ والدین کے غلط فیصلے پتا نہیں اور کتنی بیٹیوں کی جان لیں گے۔ چودھری افتخار کو تو سزا ملنی ہی تھی۔ ٹائٹل گرل اپنے محبوب سے ملنے کی آس میں دیا جلائے بیٹی ہے۔ کہانیوں کی لہرست میں دو شیئرہ کو دیکھ کر رجنی شیل کی یاد آگئی۔ محفل شعرو سخن میں بھی یہ تبدیلی اچھی لگی۔ مرا سلے کم ختمے لیکن اچھے تھے۔ محفل شعرو سخن پر کافی توجہ دی گئی ہے، اس بار محفل عروج پر تھی۔ ظہیر الدین، شازیہ، نعمان علی، زرین، رمضان پاشا، آغا سلمان پاشا، اشفاق شاہین اور شاماہین غالبہ کے اشعار زیادہ دل کو بھائے۔ اگلے شمارے میں تمام کہانیوں پر تبصرہ دوں گی۔ اس بار معافی۔ (چلیں معاف کیا..... کیا یاد کریں گی، پسندیدگی کا شکر یہ)

سید عبادت کاظمی، ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف لائے ہیں "سسٹمز آج کل بہت اظہار کروانے لگ گیا ہے، کسی روشنی ہوئی محبوبہ کی طرح بہت اظہار کروانا ہے (کبھی کبھی اپنی اہمیت کا بھی احساس دلانا چاہیے) جب..... سسٹمز ملا... اسی دن چار سندھ میں یونیورسٹی پر حملہ ہو گیا۔ امن کے دشمن پتا نہیں کب تک یوں کرتے رہیں گے۔ علم کے راہی اب خوفزدہ ہو رہے ہیں، دل غم سے بھرا حال ہے، سسٹمز نے غم بانٹ لیا کچھ..... ٹائٹل بہت زبردست ہے۔ دیے سے لکھا دھواں شاید حسینہ کو نا گوار گزر رہا تھا۔ بے دولتی جون ایلینے خوب کہا ہنر کے بارے میں..... آغا سلمان پاشا لیڈ رنگ کر رہے تھے۔ زبردست تقریر کی انہوں نے، بہترین تبصرہ تھا۔ سید ثاقب علی شاہ کا تبصرہ بہت اچھا تھا۔ ویسے ہمت اور بیجاری کی بات ہے کہ جنیل سے خط لکھ لیتے ہیں اللہ ان کو رہائی دے (آمین)۔ اس دفعہ محفل دوستاں میں سارے کے سارے ہم نو ا بھائی تھے۔ یعنی صنف نازک کنتی کی تھیں۔ وہ بھی صرف دو۔ واہ بھی وہ یہ ہوئی نا بات۔ گزشتہ ماہ کے سسٹمز میں صنف نازک بہت اٹھلا رہی تھی نا۔ (ہاں کبھی کے دن بڑے بھی کی راتیں) حتا عروج، اطہر حسین، محمد صفدر معادیہ، ڈاکٹر نعیم اکبر، محمد قدرت اللہ نیازی، ناصر علی، جاوید خان اور ادریس احمد خان کے تبصرے اچھے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شیش محل سے اسٹارٹ کیا، جو لیٹ انتقام میں اعدا ہی ہو رہی ہے، اسے پلاننگ کرنی چاہیے۔ ایک نئے کردار کھٹکلا کا اضافہ اچھا لگا لیکن جو لیٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا پہلے ماں اب باپ بھی۔ اور فاروق کو پتا نہیں اس کی محبت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عارف کو تو واپس مت لائیں، ولد ر آغا کا انجام جلد نظر آ جائے۔ اس کہانی نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ ماروی تو پلیز اب ختم کر دیں، بس..... کتنی بہ دوش زبردست کہانی تھی۔ شیر علی جیسے کئی لوجو انوں کی ضرورت ہے شمشیر کو..... ڈاکٹر عبدالرحیب بھٹی کی جا عدا کہانی تبصرہ اینڈ پر ادھار رہا۔ سلطانہ تاریخی کہانی زبردست تھی، ایک لڑکی نے ہندوستان پر حکومت کی، ہمت کی بات ہے۔ آسمان سے گراز بردست اور چوٹکا دینے والی تحریر تھی۔ فاروق انجم بڑا ہاتھ اور کاشف زبیر صیاد کے ساتھ بھائے رہے۔ بدلتے موسم اور دوسرا کال بھی اچھی کہانیاں تھی۔ محفل شعرو سخن میں مدحت کا انتخاب اچھا لگا، پیارے دوست سیف خان کو سلام۔" (رسالے کی پسندیدگی کا شکر یہ)



اور میں احمد خان، نام آباد کراچی سے تمبرہ کر رہے ہیں "سپنس نئی آب و تاب لیے جلوہ گر ہوا۔"

پائل کرل بھی ڈاکر صاحب کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اندر انٹائیپ بھی دلوں کی ترجمانی کر رہا تھا۔ خطوط کی محفل میں سر فہرست سلمان پاشا تھے۔ دیگر دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی جو اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے تھے۔ تاریخ کے جمرہ کوں میں ڈاکٹر ساجد امجد کی رضیہ سلطانہ کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگہی ہوئی۔ جس طرح رضیہ سلطانہ نے مجاہدانہ زندگی کی، جو انجمن میں اول نمبر پر رضیہ سلطانہ کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد شیش محل شروع کی شروع سے آخر سطر تک نگاہ نہیں ہتی۔ کہانی میں یوریت کا احساس نہیں ہوتا اور واقعات کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ بدلتے موسم تو ریر ریاض کی کہانی نے بھی اچھا تاثر دیا۔ نئی آواز میں فریک کو اپنے کیے کی سزا اٹھکڑی کی صورت ملی۔ محفل شعر و سخن میں معیاری اشعار نے مزہ دیا۔ دوسرا گال کہانی بھی افاونیت کے لحاظ سے اچھی تھی۔ بڑا ہاتھ میں ہاتھ آئی دولت ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر مسٹر جارج کو معنوی نام سے خط نہیں لکھتا تو وہ خطوط کو اتنا قیمتی نہیں سمجھتے کہ وہ دولت کی جگہ رکھ دیے اور اپنی دولت بریف کیس میں بھری۔ مجرم ہاتھ ملتا رہ گیا۔ مستعدی بھی اچھی کہانی تھی۔ حضرت سلطان باہو بڑے پائے کے ولی اللہ تھے جب صرف اللہ سے ہی لو لگا کی جائے تو اللہ بھی بندے کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے بشرطیکہ اللہ سے ہی طلب کرے۔ ولیوں کے حالات میں دل نور اور ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ ولی جتنا دنیا سے دور بھانپتا ہے دنیا بھی اس کا پھینکا کرتی ہے۔ اصلی تکی میں کٹر کو قتل میں بھی اصل کا گمان لگا۔ اس میں اس کی پتا کا سامان بھی تھا، اس کی سوئی زندگی میں بہار آگئی۔ آخری صفحات کی بہترین کہانی کفن بہ دوش، ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کی کہانی بہت اچھی اور دلچسپ پیرائے میں لکھی گئی کہانی ہے۔ جس میں وہ سب کچھ ہے جو کسی تحریر کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قاری کو پیٹھے بٹھائے شمیم پہنچا دیا۔ شمیم کی ثقافت و مقامات کا مکمل تعارف وہاں کے رسم و رواج غرض دلچسپی کا ہر حصہ ہے، کہانی بہت اچھی تھی۔"

شاہ کر لطف، فیصل آباد سے حاضر ہوئے ہیں "محترم مدیر میں نے انجام جب انتقام عجب کے نام سے ایک کہانی ارسال کرنے کی جرأت کی تھی اور آپ سے اپنے خط میں درخواست کی تھی کہ تصدیق یا تردید ضرور کر دیا کریں مگر کراچی شاید ساتویں آسمان پر واقع ہے اس لیے لاہوریوں کی درخواست اسے کہاں سنائی دیتی ہے (ارے نہیں بھئی..... کیا کراچی کیا لاہور، پورا پاکستان ہی اپنا سا مٹی ہے۔ آپ کی کہانی ناقابل اشاعت ہے) آپ پر بہت ہنسے آیا اگر تمہوڑا سا تمبرہ کر دیتے تو آپ کا کیا جاتا (اب تو حصہ ختم ہوا) سلطانہ اچھی رہی۔ اس سے زیادہ کراچی والوں کی تعریف نہیں کر سکتا ایک اور کہانی لکھ رہا تھا مگر آپ کی بے اشتیاقی کے بعد نہیں لکھ سکا۔" (اتنی اتنی ہی باتوں پر بڑوں کو روٹھنا نہیں چاہیے)

محمد خواجہ، کوزنگی، کراچی سے حاضر ہیں "سبزیگ سے لکھا سپنس ڈائجسٹ کا نام بہت اچھا لگا۔ ایک خوب صورت حسینہ کی تصویر دو رنگیں چہرے کے دونوں جانب، محسوس چہرے پر چار چاند لگا دیے۔ بچھے چہرے کی کو کے سامنے امید اور تصور چہرے پر عیاں۔ اٹھتے دھوئیں میں دو چہروں کا عکس ایک تصویر جاناں کا خیال ہے شاید۔ جون ایلیا خوب لکھتے ہیں۔ اس وقت وہی تصویر اتنی کرب کی کہانی لیکن بہت ہی فلسفیانہ انداز تحریر میں ڈوبا ہوا۔ دولتی اور بے دولتی کی بہترین عکاسی جس کی مثال ہے کہ ایک برتن جس کے پینڈے میں سوچید ہیں اور پوری قوم اس کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بے کار..... وہ برتن بھی نہ بھرے گا۔ آپ ہی دل برداشتہ ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ 2016ء کی مبارک باوجود دل کھول کر دے لیں لیکن ہو گا وہی کہ یہ بھی 2015ء کی طرح گزر جائے گا۔ آغا سلمان پاشا کو صدارت مبارک ہو۔ بڑا تفصیلی اور دلچسپ طرز تحریر ہے۔ تمبرے بھی بے لاگ اور اچھے ہیں۔ لکھتے رہیں، ہماری بہن حنا عروج کورنگی ہمارے علاقے کی بھی ہیں اور لکھتی بھی خوب ہیں۔ باقی ہر ایک خطوط کا مہمان ایک سے بڑھ کر ایک۔ عقل حیران ہے کس کس کی تعریف کروں۔ محمد یوسف سانول، اور میں احمد خان، ڈاکٹر نعیم اکبر بہت اچھا تمبرہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں اس شمارے میں جتنی بھی کہانیاں ہیں دوسرے شماروں کی بہ نسبت بہت ہی چنیدہ اور لا جواب کہانیاں ہیں۔ سلطانہ سلطانہ اش کی بیٹی سلطانہ کا قصہ کورس میں پڑھا۔ ناولوں میں بھی پڑھا لیکن جو تفصیل اور تسلسل اس میں پڑھا سبحان اللہ بہت گہرے نقش چھوڑے۔ میں گزشتہ دو محفلوں میں شریک نہ ہوا جس کا افسوس ہے کیونکہ میری آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔" (اوہو، اللہ آپ کو صحت اور خوشیاں دے۔ آپ کی حوصلہ افزائی یقیناً رسالے کے معیار میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ شکریہ) صیاہ ایک بہترین کہانی۔ سچ سچ کا سپنس پوری کہانی انجام تک ایک معما اور آخری انتہائی غضب کا نتیجہ آسمان سے گرا، ملک صفر حیات کے کارنامے، ایک زندہ حقیقت، آوی پڑھنے والا اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں چودھری اور وڈیرا طبقہ یوں تو بہت بدنام ہے لیکن جو گل و غارتگری کے افسانے اور دیانتدار تھانے واری کی کاوشیں اور مجرم کو گروں سے پکڑنا، واہ



خوب مزہ۔ شیش محل، ایک انتہائی مہماتی کہانی ہے لیکن مصنفہ کئی کہانیاں اور کئی موڈز کو الجھا کر کہیں کہیں کہانی کے تسلسل کو توڑ دیتی ہیں۔ رہن واداعی اس کہانی کا اصل ہیرو ہے۔ ایک بہادر و جری پارٹی کا سردار لیکن اتنا رحم دل اور ایمان افروز انداز کہ بڑے بڑے شرفاء کو شرم آجاتی ہے۔ یہ نہایت سبق آموز کہانی ہے۔ بدلتے موسم، کہانی نسلی تعصب پر مبنی ہے۔ گورے ہر بار بیماری پڑ جاتے ہیں اور ان کے قوانین اپنے مفادات کی گھرائی کرتے ہیں۔ جب حد برداشت ختم ہو جاتی ہے انسان خون خرابے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مستعدی، ایک بونگ کے منجر نے زمین کیا اور بھانے کی لاکھ کوشش کی لیکن کلرک نے اپنی مستعدی سے بازی پلٹ دی اور ایسا انوکھا کام کر لیا جو کسی کی سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت پسندی اور مستعدی نے منجر کی کارکردگی کی مٹی پلید کر دی۔ بڑا ہاتھ، اس کہانی کا سبق آموز پہلو ہے کہ کچھ لوگ چھوٹے پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ کوئی بڑا کام انجام دینے کو سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہی حال ہوتا ہے کہ بڑے کام میں چھوٹا بھی جاتا رہتا ہے۔ اس نے بڑی دولت حاصل کرنے کے لیے بڑے دولت مند کو چونا لگانا چاہا لیکن اسے کیا معلوم یہ بڑا دولت مند اس سے کئی گنا چالاک تھا۔ اس نے کامیاب منصوبہ بندی کی۔ نئی اقدار، ایک مجرم نے ایک بے گناہ مسافر کو لوٹنے کی کوشش کی۔ وہ بھول گیا کہ وہ ایک بے گناہ مسافر نہیں اور قدرت آج اس کے ساتھ نہیں۔ ایک تیسری آنکھ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ مسافر اس مجرم سے بھی بڑا گناہ گار تھا لہذا ایک چھوٹے جرم نے بڑے جرم میں پھنسا دیا۔ ایک سبق آموز داستان۔ اشعار کی محفل، اشعار کی سلیکشن اس دفعہ پہلے سے کہیں بہتر نظر آئی۔ یہ طبیعت کا سرور تھا یا موسم کی مہربانی، اشعار نے خوب مزہ دیا۔ عمدہ اشعار میں سعدیہ کمال، آغا سلمان پاشا، جاوید اختر رانا، وزیر محمد جان خاص کر لیکن دوسرے بھی بہت اچھے تھے۔ دوسرا گال، کیا کہانی تھی، کیا متھدا تھا۔ بالکل مزہ نہ آیا مجھے۔ شاید کسی کو آیا ہو۔ فرسٹ ڈیلیوری، ایک مختصر لیکن انسانی جذبات کی بھرپور عکاسی کرتی ہوئی، دکھوں زدہ داری، آس اور بے بسی، بسا اوقات ایک ساتھ ہی انسان پر گزر جاتے ہیں اور خدا انسان کو اسی وقت حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ سلطان باہو، ایک ایمان افروز داستان ایک بہت بڑے ولی کی تفصیلی داستان۔ سبحان اللہ انسانوں کے سچا اور انسانیت کے لیے رحمت کے فرشتے۔ کفن، یہ دوش، ڈاکٹر عبدالرب، مٹھی صاحب نے غضب ڈھایا۔ کشمیر کی تاریخ، پس منظر ہندوستان کی زیادتیاں، گل و غار، گری کا اتنا عمدہ تفصیلی جائزہ پیش کیا کہ یہ فن پارہ ہمارے بچوں کو نصاب کی طرح پڑھنا چاہیے۔“ (انتا تفصیلی تبصرہ، واہ بہت خوب)

آرانا حبیب الرحمن، سینٹرل جیل لاہور سے محفل کی زینت بنے ہیں۔ آغا سلمان پاشا، صدارت کی مبارک باوقبول فرمائیے۔ عمران صاحب کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے یہ سوچ لیجیے کہ آپ بھی..... بہترین تبصرہ کرنے پر بھی مبارک۔ سیدنا قب علی شاہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب قیدیوں کو جیلوں سے رہا کرے۔ آئین۔ اس دفعہ محفل میں صنف نازک صرف دو تھیں یعنی کہ سز صدیقی آئی اور جتنا عروج صاحبہ ماشاء اللہ دونوں ذیلرگ رہی ہیں۔ (تھی تو صنف نازک جلدی جلدی آ کر اپنی موجودگی کا احساس تو دلائیے) زرین آفریدی صاحبہ نے بھی پہلی بار آتے ہی غلطی سے اپنے ایک دو جملوں سے میرا دل دکھایا اور دوبارہ کم ہو گئیں۔ زرین صاحبہ آپ شاید نہیں جانتیں جن کو ہم دوست کہہ دیں اسے بھولتے نہیں۔ جتنا عروج آپ کا تبصرہ بھی نمبرون کے لائق تھا۔ بلیک لسٹ والے ہمت نہ چھوڑیں، دوبارہ ٹرائی آئین..... ناز پری صاحبہ اپنے جن یعنی انجاز راضیل کو لے کر دوبارہ محفل میں اٹھی ویں۔ فرسٹ ڈیلیوری رشتوں کے خوب صورت تعلق کا احساس دلاتی ہوئی، بہترین کہانی تھی۔ سلطان باہو کے بارے میں بھی اچھی تحریر لکھی گئی تھی۔ میں خود بھی ضلع بھنگ میں ان کے مزار پر دوبار گیا ہوں۔ ماروی کی اس قسط میں مراد علی منگی روحانی علم کے ذریعے چٹکیں جیتنا نظر آیا۔ شیش محل میں فاروق کی وجہ سے ہی ایک اور داداؤں کا گروہ مل گیا۔ فنڈوں کے گروہ کا اصلی چہرہ اور اچھا تاثر کہانی میں ملتا ہے۔ ایسا حقیقی تاثر صرف اور صرف جرائم پیشہ افراد میں گم ہو کر ہی ملتا ہے ورنہ ہمارے معاشرے میں انہیں بہت برا کہا گیا ہے۔ برے آدمی کہاں کس جگہ نہیں ہوتے۔“

اسم احمد خان، خانوال سے چلے آ رہے ہیں۔ ٹائٹل پر ماہ جبین نہ جانے کس بات پر غور کر رہی ہے۔ چراغ، تعویذ اور دھومیں میں ناویدہ چہروں والا ٹائٹل بس مناسب ہی لگا۔ 6 یا 7 ماہ غیر حاضری رہی۔ کسی نے بھی ہماری کی محسوس نہ کی سوائے اس مرتبہ صندر معاویہ بھائی کے کہ میرے شہر والے باقی دوست کہہ رہے ہیں حاضری دیں۔ لوصفر بھائی آپ نے یاد کیا اور ہم حاضر ہو گئے۔ (پھر تو آپ کا شکوہ بھانئیں رہا نا) آغا سلمان پاشا کی حاضری زبردست رہی، کیا بھرپور تبصرہ کیا ہے۔ آغا جی آپ کی پہلی شرکت اچھی لگی۔ بانی سب بھائیوں اور بہنوں کے تبصرے بھی بہت اچھے تھے۔ کہانیوں میں سب سے پہلے اپنی لیورٹ کہانی شیش محل سے آغاز کیا۔ بھئی سے چندی گڑھ تک کے سفر میں پیش آئے حالات اور واقعات دلچسپ رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فاروق دوبارہ سرکی چوٹ کی وجہ سے چندی گڑھ میں قیام اور جوئیٹ اور فاروق میں دوری کو کتنا عرصہ اور لگے گا۔ جوئیٹ پھاری کو ماں کے بعد باپ کی موت کا صدمہ سہتا پڑے گا۔ شرمعاس کی کہانی اصلی اور نکلی بھی خوب کہانی رہی۔ تھوڑی پر پیچ بھی لگی تھوڑی سیبل بھی



کئی۔ کفن بہ دوش ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کی زبردست کاوش ہے۔ شیر علی اس کہانی کا میرا پسندیدہ کردار نہ جانے بھارتی فوجی
اب کیا کرنے والے ہیں۔ اگلی قسط کا شدت سے انتظار ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر اور
جامع قصہ بہت اچھا لگا۔ ایمان میں پڑھ کر مزید تازگی پیدا ہوئی۔ باقی کہانیاں ابھی زیر مطالعہ ہیں۔ محفل شعر و سخن اشفاق
شاہین، کراچی، مسٹر ایڈمز صغیر معاویہ خان نیوال، پتھیس قاطمہ پشاور، آغا سلمان پاشا پاکیشیا کے اشعار بہت اچھے لگے۔ باقی محفل
کے حاضرین بھی اپنے اپنے طور پر خوب صورت اشعار سے محفل گرم رہے تھے۔ کتر نہیں، معلومات، لطائف وغیرہ اس مرتبہ بہت کم
رہے جو بھی ہیں وہ بہت زبردست رہے۔ اس وقت رات کے گیارہ بج رہے ہیں۔ سردی سے ہاتھ اکڑ رہے ہیں۔ موسم سرما اپنی
شدت دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو موسموں کی شدت اور ہمارے وطن عزیز کو دہشت گردی
اور اندرونی و بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ (ہماری نیک تمنا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں)

۱۰؎ رمضان پاشا بگشن اقبال، کراچی سے تبصرہ کر رہے ہیں "فروری 2016ء کا سسپنس مل گیا۔ اس بار سردی بہت ہی
دکھ تھا۔ خاص کر ویسے سے اگلا ہوا دھواں، خصوصاً دھوئیں سے ابھرتی ہوئی مردانہ شبیہ، کیا خوب! (ہوں)۔۔۔ خوب سمجھتے ہیں یہ
مسکراہٹ اور یہ دھواں آپ کو کیوں اچھا لگا ہوگا) فہرست کی تزئین اور ترتیب سادہ سہی پھر بھی اچھی لگی۔ مخلوط کی محفل میں اول
آنے والے آغا سلمان پاشا صاحب کو مبارکباد۔ سب سے پہلے کفن بہ دوش یہ کہانی اثر انگیز تو تھی ہی، خاص بات یہ کہ اسے پڑھ کر
کشیر کے بارے میں میری ناقص معلومات کا پول کھل گیا۔ اب اگلی قسط میں مزید معلومات کی توقع ہے بشرطیکہ کشیر پر بات ہونے کے
رومانی داستان پر۔۔۔ مستعدی، ایسی ہی کہانیوں کی خاطر میں سسپنس خریدتا ہوں۔ اصلی تعلق نے بھی کافی لطف بہم پہنچایا۔ حضرت
سلطان باہو کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے مگر وہ معلومات ادھوری ادھوری تھیں۔ اب یہ مضمون پڑھ کر کھل آگیا ہی ہوئی۔ اب
ان کے مزار مبارک پر حاضری دینے کو دل بے چین ہے۔ فرسٹ ڈیلیوی بھی متاثر کن کہانی تھی۔ دو شاندار اور جاہل بلکہ جنگ
کہانیاں شیش محل اور ماروی کا مقابلہ جاری و ساری ہے۔ اب خدا جانے کونسی آگے کو نکلے گی۔ آسان سے گرا اس بار صغیر حیات نے
بہت بھاگ دوڑ کی۔ آخر کار اصل مجرم کو بے نقاب کر ہی دیا، کہانی مزید اچھی۔ میا دکانی پر اثر کہانی تھی۔ بہت عمدہ یاد رہے گی۔
دوسرا گل بالکل اچھی نہیں لگی۔ بڑا ہاتھ یہ کہانی جتنی مختصر تھی، اتنی ہی دلچسپ بھی تھی۔ اشعار کی محفل میں ظفر اقبال ظفر، عبدالرحیم اور
ماہین قاطمہ کا انتخاب بہت عمدہ تھا۔"

۱۱؎ محمد صغیر معاویہ خان نیوال سے محفل میں تشریف لائے ہیں "سردی کو ایک خوب صورت دوشیزہ اور ساتھ میں چراغ
سے نکلنے والی دھوئیں سے عین چہروں کے عکس بنا کر سجایا گیا۔ محترم جون ایلیا بے دوشی لے کر آئے۔ سچ کہا کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکا
دے رہے ہیں۔۔۔ نہیں نہیں بلکہ ہم خود کو دھوکا دے رہے ہیں۔ جو ہر پاکستان میں استعمال ہونا چاہیے تھا وہ غیر ممالک کے کام آ رہا
ہے کیونکہ یہاں باصلاحیت شخص کی قدر ہی نہیں ہے لیکن جانے میں دھوئے کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا کی ذہانت ایک طرف اور
اکیلے پاکستان میں بسنے والے افراد کی ذہانت ایک طرف کیا کچھ نہیں دیا اس پاکستان نے ہمیں۔ کراچی کا ایک 8 سالہ بچہ نیو مارک
میں پورا بینک سسٹم ختم ہونے پر کراچی میں بیٹھ کر ایک گھنٹے میں سافٹ ویئر سسٹم آن کرتا ہے جو پورے امریکا کے سافٹ ویئر انجینئرز
نہ کر سکے۔ وہ اب چودہ سال کا ہوگا تقریباً۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ان کی پیشکش پر اور ساتھ معاوضے پر لیکچر بھی دے
رہا ہے۔ کیا کمی ہے میرے پیارے پاکستان میں۔ (بے شک ہم ہی ناقدرے ہیں۔ اللہ ہماری سر زمین کو ہمیشہ سلامت رکھے)
آپ کا ادارہ پڑھا یہ حکمران ناسور کی طرح بن گئے ہمارے لیے۔ ان کو عیش و عشرت سے فرصت ملے تو حوام کے بارے میں
سوچیں۔ حشر میں بیٹوں کی اموات پر سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے۔ سائیں کیا خاک اچھا
ہے۔ یہ جو بچے مر رہے ہیں۔ اپنی محفل میں آئے تو عمران بہت ہی تپے تلے الفاظ میں تبصرہ کر رہے تھے اور بہت عمدہ تبصرہ کر رہے
تھے۔ صدارت بہت مبارک ہو۔ ساتھ میں سسپنس میں بھی دیکھ سیدنا قب علی شاہ اڈیالہ قتل چنڈی سے محفل میں شریک، اللہ آپ
کی مشکل حل کرے۔ مسز صدیقی بہت بہت شکر یہ۔ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے ادارے والوں کو۔ ڈاکٹر نعیم اکبر، اطہر حسین
حنا عروج بھی اپنے بے مثال تبصروں کے ساتھ محفل کی رونق بڑھاتے ہوئے۔ کہانیوں میں سب سے پہلے ڈاکٹر ساجد امجد کی سلطانہ
سے شروع کیا۔ بادشاہ آتش نے رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس نے حکومت تو اچھی کی مگر یا قوت جوشی کو زیادہ اختیارات دینے پر
حکومت گنوا بیٹھی بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ کاشف زبیر صادق لے کر آئے۔ بے مثال تحریر تھی، آخر تک سسپنس پھیلا
رہا۔ سجاد اور شاہین دولت کے لالچ میں گھناؤنے دھندے کرتے رہے لیکن آخر انجام بھی برا ہوا۔ شیش محل کی یہ قسط بہت عمدہ رہی۔
رب نواز عرف رین کا ماجد علی سے سچ اگلا نا شکستہ کو باحقاعت اس کے گھر واپس کرنا، فاروق کا ایکشن رین داوا کا کیل داس کے
اڈوے پر جانا، جولیت کا آغا سے ایشام لینے کا منصوبہ شاید فاروق پورا کرے گا۔ تویر ریاض کی بدلتے موسم بھی گزارہ کر گئی۔ ملک





صنفر حیات آسمان سے گرا لے کر آئے۔ کہانی ٹھیکر کی بھینک موت سے شروع ہوئی پھر ملک صاحب نے کڑی سے کڑی ملائے ہوئے قاتلوں کو ڈھونڈا۔ جی ادا ولیم انور کے قلم سے مختصر مگر عمدہ تحریر۔ محفل شعر و سخن عمدہ اشعار سے مزین رہی۔ علی اختر کی دوسرا گال بہت عمدہ تحریر۔ جہاں روڈ آئینز نے دوسرا گال پیش کرنے کے بجائے باغی ہونا پسند کیا۔ فاروق انجم کی بڑا ہاتھ مسٹر جارج کا نوکر..... بیچارے کو کچھ ہاتھ نہ آیا، اتنی پلاننگ کر کے بھی۔ ماروی کیا ایکشن سے بھر پور رہی۔ اس واقعہ بلک بھینکے کا موقع بھی نہ ملا حالانکہ میں موبائل کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا کیونکہ یہاں 10 بجے لائٹ آف کر دی جاتی ہے۔ نوشاہہ صدیقی کی فرسٹ ڈیلیوری عمدہ رہی۔ اثر نعمانی کی مستعدی میں ٹکرک ہاروے نے مراد یا مین کو۔ سلطان باہو پڑھ کر مزہ آ گیا۔ روح کو سکون مل گیا۔ طلح جھنگ کی بہت نیک بزرگ شخصیت تھی۔ شرماس کی اصلی تکی میں سراغ رساں وہ توند ڈھونڈ سکا جو اصلی والی تھی پر کسی کی خوشی کے لیے اس کی ماں کو لے آیا۔ ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کفن پر دوش لے کر آئے، ہماری خواہش پوری ہوئی۔ (دیکھ لیجیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خواہش پوری کریں) جنتِ نظیر دادی کا جو نقشہ کھینچا وہ لا جواب ہے۔ اگلی قسط کا بے عینی سے انتظار ہے۔ اس واقعہ ڈائجسٹ بہت ہی عمدہ رہا۔“ (رسالے کی پسندیدگی کا بے حد شکر یہ)

✽ نا صر علی، پشاور سے محفل میں شریک ہیں۔ اس بار نائل کی حسینہ کچھ سادہ سی نظر آئی۔ کپڑوں اور آنکھوں میں ایک بات مشترک تھی، دونوں نیلے رنگ کے تھے۔ صدارت کی کرسی پر آغا سلمان پاشا موجود تھے۔ تجربے سے بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کا تبصرہ بہت اچھا تھا۔ محمد یوسف سانول اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت دے، آمین۔ اپنا خط دیکھ کر دل خوش ہو گیا، نائل آپ کا بہت شکر ہے۔ (آپ کی اپنی محفل ہے) کہانیوں میں سب سے پہلے شیش محل سے اشارت کیا۔ ماجد علی استاد کے روپ میں فراڈی نظر آیا۔ ٹھنڈا کی قسمت اچھی تھی رہن دادا نے اس کو بچالیا۔ ماروی میں ایک مراد سے دوسرا ہو گئے اور پھر پوری زیادت پر اپنی حکومت قائم کر دی۔ ماروی کی یہ قسط اچھی رہی۔ آخری صفحات پر ڈاکٹر عبدالرب بھٹی صاحب شاپکار ناول لیے، پڑھ کر مزہ آیا۔ اول میں شفیق اور زلیخا کی محبت کی کہانی بہت پسند آئی۔ صیاد کا شرف زبیر کی خوب صورت اسٹوری تھی۔ غلط کام کا انجام آخر میں برا ہوتا ہے۔ آسمان سے گرا دلچسپ اسٹوری تھی۔ فرسٹ ڈیلیوری اچھی اسٹوری تھی۔ سلطانہ میں بھی وہی ہوا یعنی امرام سازش اور لاپٹی تھے۔ تاریخ کی جس کہانی کو بھی دیکھو، بادشاہ کے امیر سازش پھیلاتے ہیں۔“

✽ مرحا گل، درابن ڈی آئی کے سے حاضر محفل ہیں۔ محبت کے تعویذ سے بندھی خوش شکل حسینہ جلا دیا جس سے امتحا دھواں تین خیالی ٹھکیں، کسی بابے کے آستانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نائل حسینہ بیچے سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حامل بابے کی داسی بنی ہوئی تھی۔ بہت روحانی و پراسرار نائل تھا۔ اس کے بعد جون ایلیا سے خود کو سیراب کیا اور ادارہ سے مستفید ہوئے۔ محفل کی دنیا میں آغا سلمان پاشا کو بے تاج بادشاہ پایا۔ پڑھ کر چٹا لگا صاحب برادر کو کنگ اینڈ باتوں کے ماہر ہیں۔ سید طاہر علی شاہ سب سے پہلے ایک بہن کی طرف سے پُر خلوص دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور باقی سب ساتھیوں کو جہنم سے رہائی دے، آمین..... اور ہاں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں اس بار آپ نے وزارت حاصل کرنی اور باقی مرد بھی سب سے اوپر نظر آئے۔ محمد یوسف کا تبصرہ پسند آیا۔ محمد جاوید آپ کی حیرت ختم ہو گئی۔ سید عبادت جی! گزارش ہے کہ خدارا کہیں سرورق کی حسیناؤں پر قربان نہ ہو جائیں۔ یہ تو ہر ماہ بدلتی رہتی ہیں، آپ کس کس کو خوش رکھیں گے۔ بشیر احمد بھٹی ماضی کو بھلائیں اور حال میں جئیں۔ انجینئر بھٹی صاحب آپ انجینئر بندے ٹھہرے آپ کا شاعری سے کیا لینا دینا۔ بھٹی کہانیاں پڑھیں بہت ہے۔ قدرت اللہ نیازی یہی شوخیاں تو زندگی کا حصہ ہیں اور بونگیاں سے کیا مراد ہے آپ کی۔ اگر مبارک دینی تھی تو قلم کو سیدھی طرح جنبش دینے لیزے میڑھے الفاظ لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اطہر حسین کا تبصرہ مزے کا تھا۔ کھایا اور بہت اچھا لگا۔ واقعی سسٹنس جاسوسی کو جھپٹنا پڑتا ہے۔ حاعر و ج صاحب! کیا آپ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ لیزر پر تبصرہ بالکل نہیں کرنا، کمال ہے۔ بھٹی اتنے مزے کے تبصروں پر آپ تبصرہ کرنے سے قاصر رہیں۔ باچا خان یونیورسٹی میں قیامت خیز دھماکے سے پوری قوم لرز گئی۔ پاک آری اسکول والے واقعے کو ابھی سال گزرا کہ بزدلوں نے مصوم نوجوانوں کی جان لے لی۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کو صبر دے۔ سب سے پہلے تاریخی و سازشی کہانی کو رونق بخشی۔ 2016ء کی بیسٹ تاریخی کہانی پھر اس کے بعد کاشف زبیر کی صیاد کہانی کے ارد گرد پڑا ڈکھا۔ جوکانی لہا اور دلچسپ لگا جیسے جھنگل میں شیروں کا شکار۔ شاہین سجاد کو اپنے کیے دھرے کی سزا ملی۔ شیش محل زبردست ہوتی جا رہی ہے۔ جو لیٹ کے فادر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور پلیز فاروق کی ملاقات جلد از جلد کروا میں جو لیٹ سے۔ ماروی خواجواہ بہت طویل جا رہی ہے۔ آسمان سے گرا ملک صاحب کی زبردست تحریر تھی۔ گرداب کے چودھری انجیر جیسا انجام ہوا چودھری انجیر کا۔ علی اختر کی دوسرا گال ایک سفاک تحریر تھی۔ اچھا ہوا جیکو لین برے انجام کو پہنچ گئی۔ فاروق انجم کی بڑا ہاتھ ماریا چاہا مگر کچھ نصیب نہ ہوا۔ بدلتے موسم واقعی عبرت ناک کہانی تھی۔ ماضی کی وہی چنگاریوں کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے۔ شرماس کی



تحریر محبت سے گندمی ہوئی تھی۔ یہ سب اصل نقل تو چلتا رہتا ہے۔ سلطان باہو کے قصے نے دل کو سیراب کیا۔ مجھے کاون ہو پھر نماز کے بارے میں ایسا بیان پڑھا۔ مسرت و شادمانی سے بھر پور۔ اثر نعمانی کی تحریر نے بھی دماغ پر اثر کیا۔ سپنس کی جان آخری کہانی ڈاکٹر صاحب کی کہانی سپنس سے بھر پور تھی۔ کشمیر پاکستان کی رگ و جاں۔ شیر علی جس کا حوصلہ پہاڑوں جیسا تھا کہانی میں اتنی گہرائی ہے کہ ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ پہلے سے بھی سردی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ محمد علی ایک محنت کش انسان اسے کسی آزمائش میں مست ڈالیے گا۔ چاچا قاسم کمانڈر عبدالرحمان زینو سب بہت مزے کے کردار ہیں۔ مجاہدوں کے حوصلے بہت بلند تھے۔ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اگلے حصے کا انتظار ہے۔ محمد یوسف سانول لنگڑیال کا سب سے بیٹا رہا۔ حقیقت سے قریب تر۔ دوسرے نمبر پر ثنا کا شعر بیٹا رہا۔ تیسرے نمبر پر قدرت اللہ صاحب کا شعر بیٹا رہا۔ باقی اشعار بھی ستاروں کی طرح چمکتے رہے۔ جدید کتر میں زبردست تھیں، کرپڑوی صاحب کے ریاض بیٹ کی کتر میں مزے کی تھیں۔ ”اچنڈ کس اور اسلام“ محمد جاوید کی معلومات اچھی رہیں، معلومات میں اضافہ ہوا۔ پورا رسالہ ایک رات میں ختم کرنا پڑا۔“ (اتنا دلچسپ تبصرہ..... مزہ آ گیا)

محمد انعام، نو دھراں سے تبصرہ کر رہے ہیں ”پلیز انکل میرا خط شائع کر کے دل خوش کر دیں۔ (لیجیے شائع کر دیا..... اب یہ ضرور بتائیے گا دل کتنا خوش ہوا؟) کہانیوں کا آغاز شیش محل سے کیا جو کہ مسلمانوں کی آزادی سے پہلے ہندوستان کے حالات و زندگی کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ گویا یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ دادانے ماجد علی کی سازش کو بے نقاب کر کے اس کی دھلائی کی۔ اس کے بعد ماروی پڑھی۔ اس کہانی کے حالات حقیقت کے قریب نہیں ہیں۔ رضیہ سلطانہ کی تاریخی کہانی مزہ دے گئی۔ معلومات کے ساتھ ساتھ یہ کہ عورت ہونے کے باوجود حکومت بہت زبردست کی۔ ملک کو جو کہ ہندوستان تھا، اس کو خوشحالی تک لے آئی۔ لیکن ایک جوشی غلام کی وجہ سے زیادہ سال تک حکومت نہ کر سکی۔ لیکن اس نے ثابت کر دکھایا کہ وہ حکومت کرنے کے قابل تھی۔ صیاد میں جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے۔ آسمان سے گرا انسان دولت کے لیے اتنا احمق ہوا جاتا ہے کہ سگے رشتے اس کے آگے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ سلطان باہو جو کہ اللہ کے ولی تھے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمات کو سمجھا۔ معلومات کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی ہمارے لیے مشکل راہ ہے۔ کفن بہ دوش میں کشمیر کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ اقوام متحدہ کا مقصد ظلم کو ختم کرنا ہے۔ لیکن جب ظلم مسلمانوں کے علاوہ کسی اور پر ہوتا ہے تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ یہی کفار کا انصاف ہے۔ دوستوں کی محفل میں پہنچے۔ آغا سلمان پاشا تو کھانے پکانے کے ماہر ہیں۔ اسی فن کے نل پوتے پر سب پر بازی لے گئے۔ ثاقب علی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ سید جبارت، کاظمی، ناصر علی، اشفاق شاہین کے خط زبردست تھے۔ فروری کا یہ شمارہ کچھ کہانیوں کے حساب سے زبردست تھا۔“

مرزا طاہر الدین بیگ، میر پور خاص سے حاضر ہیں ”سب سے پہلے تاریخی کہانی رضیہ سلطانہ بہت اچھی لگی، کیا رضیہ سلطانہ کی خواتین حکمران تھیں لکھا گیا کہ رضیہ سلطانہ کی سپاہ اور ان کے بڑے لوگوں کو عورت کی حکمرانی پسند نہیں تھی۔ تاریخ نے اپنی روایت دہرائی اور رضیہ سلطانہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں؟..... مگر تاریخ آگے بتانے سے قاصر ہے رضیہ سلطانہ اور اس کے شوہر کا کیا بنا؟ کس نے نل کیا؟ فاروق انجم کی زبردست کہانی بڑا اچھا دلچسپ بھی اور عبرت لیے ہوئے بھی مزے دار کہانی پڑھ کر دل سے نکلا بہت خوب انجام کا کیا کہنا۔ کفن بہ دوش تاریخی کشمیر کے پس منظر میں لکھی ہوئی کہانی سطر سطر اپنے اندر زبردست کشش لیے ہوئے جیسے بغیر کسی وقفے کے لگا تار پڑھا اور اب دوسری قسط کا بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ اثر نعمانی صاحب نے خوب مستعدی دکھائی اور مستعدی تو محترمہ سیکریٹری صاحبہ نے بھی خوب دکھائی اچھی اور دلچسپ کہانی۔ ملک صغدر کا ایک اور زبردست کارنامہ آسمان سے گرا۔ ملک صاحب نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور ان کی محنت رنگ لائی۔ ایک کے بعد ایک ملزم پھڑے گئے بہت خوب ملک صاحب آپ نے خوب کہا اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر بڑے بڑے پھنے خان اپنے سب پھنے پن بھول جاتے ہیں اور کہانیاں بھی اچھی رہیں۔ آپ کے خط دلچسپ تبصرہ پاکیشیا سے کیا ہے۔ باورچی خانے سے فرصت کے بعد خط لکھا اور اول نمبر پر مبارک باد۔ آپ نے تبصرہ پسند کیا شکر یہ۔ آپ نے ابن معنی (مرحوم) کی یاد دلادی۔ کیا بات بھی موصوف کے ناولوں کی اور بلیک زبر و کا بہت اچھا کردار ایک بار پھر شکر یہ۔“

اب ان قارئین کے نام جن کے نامے محفل میں شامل نہ ہو سکے۔

ایم عمران جوانی، کراچی۔ محمد یونس چودھری، لاہور۔ الطہر حسین، کراچی۔ ذیشان قادری، فیصل آباد۔ جمید احمد ملک، گلستان جوہرہ۔ کراچی۔ حنا عروج، کراچی۔ انم کمال، کراچی۔ مہتاب احمد، حیدرآباد۔ ناہید یوسف، اسلام آباد۔ وسیم احمد، ملتان۔ ثاقب کمال، کراچی۔ یحیٰٰن وہاب، سرگودھا۔ مہتاب الہی، کوئٹہ۔

سلسلے بغاوت کے

ڈاکٹر صاحبہ امجد

جیسے ایک پیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں اسی طرح ایک تخت پر دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے اور یہ بات وقت نے بھی ثابت کی ہے۔ پھر اس ایک سلطنت کے کئی حصے اس تخت شاہی پر بیٹھنے والا کیسے برداشت کر سکتا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اکبر کے دور میں سلطنت نے جتنی وسعت پائی اتنی ہی بغاوتوں نے جنم لیا۔ گویا آسمان کے سانپوں نے پھن نکالا اور جو جتنا قریب تھا اس نے اتنی ہی آسانی سے اپنے محسن کو ڈس لیا... حتیٰ کہ اس کے اپنے ہی بیٹے نے سب سے بڑے باغی کا روپ دھار لیا... بس زمین و آسمان کے یہی رنگ ڈھنگ ہیں جو روپ بدل بدل کر آدمی کو اپنے درمیان انسان بن کر رہنے کے اصول سکھاتے ہیں مگر تاریخ گواہ ہے کہ دولت اور طاقت کے نشے میں انسانیت کو بھولنے والے انسان فقط مٹی کے پتلے بن کر عام سنی زندگی گزار بیٹھے۔ زمین پہ اکڑ کر چلنے والے جب زمین کے اندر دفن ہوئے تو بہت سوں کے لیے عبرت کا سامان ہو گئے... مگر بغاوتوں کا دراز ہوتا سلسلہ پھر بھی نہ تھم سکا... چہرے بدل کر وقت اپنے دائرے میں سفر کو تار پھا اور تاریخ رقم کو تے ہوئے آنے والی نسلوں کے لیے کاتبِ تقدیر کے فیصلوں اور عیاروں کی تدبیریں تحریر کو تار پھا۔

ماضی کا آئینہ۔ باختیار اور بے اختیار انسانوں کے عبرت اثر و واقعات

بھی بڑے اچھے شعر کہتی تھی۔ حسن و جمال میں ایسی یکساں تھی کہ اپنے زمانے کی ”پدمنی“ کہلاتی تھی۔ ہندو پنڈتوں نے براہِ اعتبار حسن عورتوں کی جو قسمیں بیان کی ہیں..... ”پدمنی“ ان میں سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے۔

باز بہادر اس پر ایسا فریفتہ تھا کہ سلطنت کے کام کاج چھوڑ کر اس کی بانہوں میں گرفتار رہا اس کا مشغلہ بن گیا تھا۔ اوہم خاں ان حالات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس فکر میں تھا کہ کسی طرح مالوہ پر حملہ کر دیا جائے۔ باز بہادر

مالوہ کی روپ متی کے حسن کے چہرے زبانوں کا زیور بنے ہوئے تھے۔ اوہم خاں کی حریص آنکھیں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پر تول رہی تھیں لیکن یہ امر محال ہی تو تھا۔ آگرہ سے مالوہ تک کا فاصلہ طے کرنا اس کی پیمانگی سے بعید تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ مالوہ پر باز بہادر کی حکومت تھی اور وہ اس کی محبوبہ جس کے لیے وہ شعر کہتا اور نئے چھیڑتا تھا۔ باز بہادر ہندوستانی لغتوں کی اقسام اور گانے کے فن میں اپنا طاقی نہیں رکھتا تھا۔ روپ متی بھی اس پر فدا تھی۔ وہ خود



کو زیر کر لیا جائے تو روپ متی ہاتھ آسکتی ہے۔ وہ شہنشاہ اکبر کا مقرب خاص ضرور تھا لیکن خود مختار نہیں تھا کہ مالوہ (گجرات) پر چڑھ دوڑتا۔ پھر ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے اکبر کو باز بہادر کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔

”باز بہادر ہمیشہ لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے۔ سلطنت کے کاموں کے بجائے اس کا زیادہ تر وقت حینوں اور طوائفوں کی صحبت میں گزرتا ہے۔ اس کی اس بے اعتنائی کی وجہ سے ظالموں اور جاہلوں کی بن آئی ہے۔ غریبوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ مخلوق خدا زندگی سے عاجز آگئی ہے۔“

اس نے روپ متی اور اس کے حسن و جمال کا تذکرہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ کہیں بادشاہ بھی اس کی دید کا مشتاق نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ جذبہ رقابت اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔

وہ نہایت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ بادشاہ سے جب بھی ملاقات ہوتی وہ باز بہادر کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے سے نہ چوکتا لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کا اپنا اشتیاق ظاہر نہ ہونے پائے۔

ہمایوں نے اکبر کی صورت میں جانشین چھوڑا ضرور تھا لیکن وہ اب بھی دس گیارہ سال کا نابالغ لڑکا تھا۔ ایک وسیع ملک جو ابھی فتح نہیں ہوا تھا کہ ہمایوں کو موت آگئی۔ دشمنوں کا ایک جم غفیر تھا جو رہے سہے ملک کے حصے کرنے پر تلا ہوا تھا۔

اس لڑکے (اکبر) نے تخت پر پاؤں رکھتے ہی باپ کی وصیت کے مطابق بیرم خاں کو ”خان بابا“ کا لقب دیا اور وکالت اتالیقی اور سپاہ سالار کے عہدے تفویض کر کے سلطنت کے سارے اختیارات اس کے سپرد کر دیے۔ بیرم خاں نے نو عمر بادشاہ کی تربیت کی، اس کی بادشاہت کو مستحکم کیا اور دشمنوں کو شکست دی۔ اکبر کے پردے میں بیرم خاں گیارہ سال تک حکومت کرتا رہا لیکن سازشی بھی برابر اپنا کام کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر اس سے بدظن ہو گیا۔ بیرم خاں کی رسوائی اور بدنامی کی خبریں پر لگا کر اڑنے لگیں۔

بادشاہ کی نظر میں پھریں تو دوست بھی دشمن بن گئے۔ بیرم خاں کا اقبال مائل بہ زوال ہو گیا۔ بیرم خاں نے گھبرا کر رنج بیت اللہ کا ارادہ کر لیا۔ اکبر کا خط اسے موصول ہوا۔

”ہم نے ابتدا میں اپنی کم عمری اور سیر و شکار کے شوق میں اور نا تجربہ کاری کی بنا پر خان بابا کو تمام امور سلطنت سپرد کر دیے۔ اب ہم رحمت اور سلطنت کے

معاہدات کو خود سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تم نے کعبۃ اللہ کا احرام باندھ لیا ہے اور کئی حیثیتوں سے تم پر رنج کا فریضہ واجب اور لازم ہے اس لیے اب تم کو عطا کی دینا سے دست کش ہو جانا چاہیے۔“

اس پیغام کے ملتے ہی بیرم خاں نے حکم کی تعمیل کی علم اور نقارہ، ہاتھی گھوڑے، امارت و محل کا سارا سامان اپنے معتمد ملازم کے ذریعے بارگاہ شاہی میں بھیج دیے۔ بیرم خاں کے بساط سے ہٹتے ہی اس کے پٹے ہوئے مہرے اٹھ اٹھ کر خانہ بندی کرنے لگے۔ ان میں ملا میر محمد ادہم خاں پیش پیش تھے۔ جب بیرم خاں سفر حج کے لیے روانہ ہوا تو انہی دونوں کی سازشوں سے بیرم خاں کو قتل کر دیا گیا۔

بیرم خاں کے ہٹتے ہی اکبر خود مختار تھا۔ وہی سازشی عناصر جو بیرم خاں کے قتل میں شریک تھے اکبر کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ اکبر ناخواندہ بھی تھا اور نا تجربہ کار بھی۔ وہ ان خوشامدی امراء پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے لگا۔ ادہم خاں ان میں سب سے آگے تھا۔ اس نے اکبر کے دل میں اتنی جگہ بنائی کہ وہ اس سے خلوت میں بھی ملنے لگا۔

خود مختاری کی ہوا چلتے ہی اکبر کے دل میں ”وسعت ملک“ کی تمنا چلنے لگی۔ اس کا اظہار وہ گا ہے بگا ہے مقرب امراء کے سامنے بھی کرنے لگا۔ ادہم خاں جیسے زیرک امیر نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اکبر کو پوری طرح آمادہ کیا کہ وہ باز بہادر کے خلاف قدم اٹھائے۔ اس نے موقع دیکھ کر صاف کہہ دیا۔

”اس وقت عزت سلطنت کا تقاضا یہ ہے کہ ولایت مالوہ کو سلطنت عظیم میں شامل کر لیا جائے تاکہ وہاں امن وامان قائم ہو اور آپ وہاں کے غریبوں کی دعاؤں کے حق دار بنیں۔“

”یہ ہم اتنی آسان نہیں۔ خان بابا نے بھی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہے۔“

”ظلم سجانی کا اقبال بلند ہو۔ یہ ہم آپ میرے سپرد فرمائیں۔ میں مالوہ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا۔“

”مابدولت تمہاری وفا داری پر ناز کرتے ہیں۔ غریب ایک لشکر روئے کر تمہیں روانہ کریں گے۔“

ظلم جنگ بچ گیا۔ بادشاہ نے مالوہ کی فتح کو ادہم خاں کے سپرد کیا اور میر محمد خاں کو اس کا نائب مقرر کر کے لشکر روانہ کر دیا۔

باز بہادر خواب غفلت میں ایسا مدہوش تھا کہ بادشاہی

تھی لیکن اس وقت اس کا چہرہ بچھ گیا جب اوہم خاں نے اس سے قربت کا مطالبہ کیا۔ وہ ایک وفا شعار عورت تھی۔ پہلے تو اس نے بھی نرم ہو کر کبھی گرم ہو کر اس معاملے کو ٹالنا چاہا لیکن جب اس نے دیکھا کہ اوہم خاں کے سامنے کچھ پیش چلنے کی نہیں تو اس نے بڑی منت سماجت کر کے ایک دن کی مہلت مانگ لی۔

دوسرے دن اس نے غسل کیا۔ بناؤ سنگھار کیا۔ کپڑے بدلے اور یہ ظاہر کیا کہ آج وہ اوہم خاں سے ملنے جا رہی ہے اور اس نے زہر کھا کر جان دے دی۔

اوہم خاں کا تو کھیل ہی چوہٹ ہو گیا۔ اب اس کے لیے سارنگ پور میں کیا رکھا تھا۔ اس نے سارا مال غنیمت اپنے تصرف میں رکھا۔ صرف چند ہاتھی و دربار میں بھجوا دیے اور اردگرد کے بقیہ قلعوں کی تسخیر کے لیے کوچ کر دیا۔ اب اس کا مقصد مال و زر کا حصول تھا۔ روپ متی کی تسخیر نہیں کہ اب وہ اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔

اس نے روپ متی سے بھی سبق نہیں سیکھا کہ وہ اپنے مالک کی کتنی وفادار تھی کہ جان دے دی مگر آبرو پر حرف نہ آنے دیا اور وہ اپنے مالک سے ایک طرح کی بغاوت کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اس سفر میں بڑھ چڑھ خاں کو بھی ساتھ نہیں لیا تھا۔

اکبر کو جب یہ اطلاع ملی کہ اوہم خاں نے مالوہ کے سارے مال و زر پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ دیگر قلعوں کی طرف روانہ ہوا ہے تو وہ خود اس قلعے کا عزم کر کے روانہ ہوا جس پر اوہم خاں حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ اکبر کی پہلی یلغار تھی لیکن وہ اس خود اعتمادی کے ساتھ جا رہا تھا جیسے وہ اس قسم کے بہت سے حملے کر چکا ہے۔ چار پانچ سو سوار اس کے ساتھ تھے اور وہ برق رفتاری سے چلا جا رہا تھا۔ راستوں کی زبان ہوتی تو وہ اس تعجب کا اظہار ضرور کرتے کہ اس نے ایک ماہ کی مسافت ایک ہفتے میں طے کر لی۔ اوہم خاں ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے جالیا۔

ایسے لشکر کو دیکھ کر جس کی قیادت خود جلال الدین اکبر کر رہا ہو، اوہم خاں کا لشکر کائی کی طرح پھٹ گیا۔ اکبر نے میدان میں خیمے ڈالے اور اوہم خاں کی طلبی کا حکم دیا۔ وہ اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کی تلوار گلے میں لٹک رہی تھی۔

”اوہم خاں! تم کیا سمجھ رہے تھے کہ آگرہ سے یہاں تک کا فاصلہ ہمارے پاؤں پکڑ لے گا۔“
”غلام کی یہ مجال کہاں۔“

فوجوں کی پیش قدمی کی خبریں برابر پہنچ رہی تھیں مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رہ سکی اور وہ بدستور اپنی رنگ رلیوں میں مشغول رہا۔ اسے تو اس وقت ہوش آیا جب شاہی فوج اس مقام پر پہنچی جو ملک کے درمیان واقع تھا اور جہاں سے سارنگ پور صرف دس کوس پر تھا۔ باز بہا اور اس وقت اسی شہر میں تھا۔ وہ ہوش میں آتے ہی سارنگ پور سے نکلا۔ دو کوس کے فاصلے پر آ کر اس نے قلعہ بنایا اور بیٹھ گیا۔

اوہم خاں کو یہ خبر مل گئی۔ اس نے چند امراء کو ہراول دستے کے طور پر روانہ کیا کہ اس قلعے کے چاروں طرف جو باز بہا اور نے اپنے لشکر کے گرد بنایا تھا، دیکھیں اور کوئی ایسی ترکیب کریں کہ وہ قلعے سے باہر آجائے۔ شاہی فوج کے پرے کے پرے باز بہا اور کے قلعے کے چاروں طرف پہنچ گئے۔ باز بہا اور نے فوجوں کی ترتیب کی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا لیکن وہ افغان امراء جو باز بہا اور سے رنجیدہ تھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگتے ہی باز بہا اور نے بھی فرار ہونے میں عافیت سمجھی۔ اس نے اپنے گھرانے کے چند افراد اور جو اہرات وغیرہ ساتھ لیے اور بے جا پور کے جنگلوں میں نکل گیا۔

فرار کے وقت باز بہا اور روپ متی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا تھا۔ وہ اس کے پیچھے وہیں رہ گئی تھی۔ اوہم خاں نے معمولی جھڑپوں کے بعد یہ آسانی پورے مالوہ پر قبضہ کر لیا۔ خزانے، لاؤ لشکر، ہاتھی، گھوڑے، خوب صورت گانے والیاں سب کچھ اس کے تصرف میں آ گیا۔ اسے کسی عورت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو روپ متی کا مشتاق وید تھا۔ اس نے کچھ گانے والیوں کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے روپ متی کے بارے میں دریافت کیا۔ ان میں سے ایک نے یہ خبر دی کہ وہ باز بہا اور کے ساتھ نہیں جا سکی۔ شاہی فوج کے ہاتھوں وہ بھی گرفتار ہوئی ہے لیکن اس وقت وہ کہاں ہے، یہ اسے نہیں معلوم۔ اوہم خاں کو یہ اطمینان تو ہو گیا کہ وہ یہیں ہے لیکن اسے تلاش کرنا مسئلہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے ہمیں بدل لیا ہو۔ اس نے ایک گانے والی کو اپنے ساتھ ملایا جو روپ متی کو پہچانتی تھی اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں گرفتار عورتیں رہی گئی ہیں، وہاں روپ متی کو تلاش کیا جائے۔ تلاش بسیار کے بعد سپاہیوں نے روپ متی کو تلاش کر لیا اور اوہم خاں کے سامنے پیش بھی کر دیا۔ اوہم خاں اسے دیکھ کر سانس لینا بھول گیا۔ اس نے ایسا حسن پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کا استقبال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بھی پورے وقار اور حکمت کے ساتھ آئی

”تو پھر تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ مالوہ کے مال وزیر پر تصرف کر لو گے اور ہمیں خبر نہ ہوگی۔“

”حضور کا اقبال بلند ہو۔ غلام سے غلطی ہوئی۔“

”اور پھر تم ہماری اجازت کے بغیر دیگر قلعوں کی طرف بھی بڑھے۔ ان غلطیوں کا انجام جانتے ہو؟“

”مجھے امید ہے کہ قتل سبحانی عبودور گزر سے کام لیں گے ورنہ یہ سر حاضر ہے۔“

”تم کیا سمجھتے ہو، اتنی بڑی غلطیوں کے بعد ہم عبودور گزر سے کام لیں گے؟“

”حضور کی رحم دلی سے یہی امید ہے۔“

ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اکبر کے خیمے کے باہر وہ ہاتھی آکھڑے ہوئے جن پر مالوہ سے لوٹا ہوا سامان لدا ہوا تھا۔ ادہم خاں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے سارا مال

و اسباب اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب وہ اکبر سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا تو ہاتھی ہانوں سے کہتا آیا تھا کہ مال و اسباب لے کر پہنچ جائیں۔

اس نے مال و اسباب پیش کیا اور معافی کے لیے گڑگڑانے لگا۔ اکبر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس کے سارے ٹھوسد معاف کر دیے اور خلعت و انعام سے نوازا۔

ادہم خاں یہ سمجھے ہوئے تھا کہ اس کے قصور معاف ہو گئے اب مالوہ کی حکومت بھی اسے مل جائے گی لیکن اکبر کی

دورانہ نشی نے اس کے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ اس نے مالوہ کی حکومت پیر محمد شاہ کے حوالے کر دی اور ادہم خاں کو اپنے ساتھ آگرہ لے آیا۔

☆☆☆

باز بہادر اپنی ولایت سے نکلا تو بے تحاشا بے بنجا پور کی طرف بھاگا اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لی اور ایک دشوار

گزار مقام پر اپنے اہل و عیال کو ٹھہرا دیا۔ جو مال و اسباب ساتھ لایا تھا، اسے محفوظ کر دیا۔ کچھ دن تو اس علاقے میں گھومتا پھرتا رہا اور پھر ایک ارادے کے ساتھ برہان پور

نکے حاکم کے پاس پہنچ گیا۔

”جلال الدین اکبر اس علاقے کی تسخیر کے لیے کمر کس رہا ہے۔ مالوہ کا حشر آپ نے دیکھ لیا۔ اب برہان

پور بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سب متحد ہو کر شاہی فوج سے مقابلہ کریں۔ اگر ہم

اکیلے لڑتے رہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں نے نواح کے زمینداروں کو آمادہ کر لیا ہے۔ آپ بھی اگر ساتھ دیں تو بہاری طاقت بہت بڑھ جائے گی۔“

پیر محمد خاں کو جب یہ خبر ملی تو اس نے فوراً فوج کشی کر دی۔ باز بہادر تو ظاہر ہے وہاں موجود نہیں تھا، پیر محمد نے

کسی مزاحمت کے بغیر باز بہادر کے اہل و عیال اور تمام مال و اسباب قبضے میں لے کر برہان پور کا رخ کیا۔

باز بہادر اس وقت تک حاکم برہان پور کو ساتھ دینے پر آمادہ کر چکا تھا۔ اس نے جن اندیشوں کا اظہار کیا تھا، وہ

سامنے آ گئے تھے۔ پیر محمد آندھی طوفان کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ باز بہادر کے ساتھ برہان پور کا حاکم بھی مقابلے

کے لیے باہر نکلا۔ برہان پور سے سات آٹھ کوس کے فاصلے پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔

پیر محمد کی بدسلوکی نے اس کی فوج کو اس سے اتنا برگشتہ کر دیا تھا کہ وہ نہایت بے دلی سے لڑ رہی تھی جبکہ باز

بہادر عقاب کی طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہا تھا۔ اس کا انتہائی جذبہ اسے سردھڑکی بازی لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔

اس کی سلطنت چلی گئی تھی۔ اس کے اہل و عیال پیر محمد کے قبضے میں تھے۔ برہان پور کی فوج بھی اپنے علاقے کے

دفاع میں لڑ رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیر محمد خاں کو بری طرح شکست ہوئی اور بادشاہی لشکر کا سارا ساز و سامان لٹ گیا۔

بڑی تعداد میں فوجی مارے گئے۔ پیر محمد اس بری طرح بدحواس ہو کر بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ برہان پور کی

فوج سے توجیح کر نکل آیا تھا لیکن راستے میں علاقے کے مفسدوں سے سامتا ہو گیا جو سب کے سب باز بہادر کے

طرف دار تھے۔ جو سپاہی آئی تھی اسے انہوں نے ٹھکانے لگا دیا۔ وہ اس وقت دریائے نرپدا کے کنارے کنارے

چل رہا تھا۔ مجبور ہو کر اپنا گھوڑا اور یا میں ڈال دیا۔ اتفاق سے اونٹوں کی ایک قطار اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ اونٹوں

نے اس کے گھوڑے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت اسے یہ یاد ضرور آیا ہو گا کہ پیر محمد خاں کے قتل میں وہ برابر کا شریک تھا

بلکہ وہ اس کی سرکوبی کرتا ہوا اس مقام تک اسے لے گیا تھا جہاں اسے بالآخر قتل کر دیا گیا۔

پیر محمد کے ساتھ آئے ہوئے باقی امراء مالوہ پہنچے لیکن جب انہوں نے مالوہ کی حفاظت اپنی طاقت سے باہر دیکھی تو

وہ مالوہ سے واپس آ گئے۔ بادشاہ نے اس جرم میں انہیں قید کر دیا کہ وہ اجازت کے بغیر کیوں واپس آئے۔ باز بہادر دوبارہ مالوہ پر قابض ہو گیا اور اپنے دارالحکومت میں پہنچ کر

از سر نو اپنے ملک کے بندوبست میں مشغول ہو گیا۔ اکبر نے اس نقصان کی تلافی کے لیے عبداللہ خاں ازبک کو روانہ کیا اور چند بہادر امراء کو اس کی کمک کے لیے

خاص کے قریب ہے۔ اکبر اس وقت اپنی خواب گاہ میں آرام کر رہا تھا کہ شور سن کر باہر نکل آیا۔ باہر عالم ہی دوسرا تھا۔ خان اعظم کی لاش زمین پر پڑی تھی اور ادہم خاں اس کے سر ہانے کھڑا تھا۔

اکبر نے غضب ناک ہو کر ادہم خاں سے اس قتل کے بارے میں دریافت کیا۔

”بد بخت، خان اعظم نے حیرا کیا کیا کرتا تھا؟“

ادہم خاں کا برا وقت آچکا تھا۔ اس وقت اسے کوئی عذر بھی نہیں سوجھ رہا تھا۔ غالباً وہ یہ سوچ کر آیا ہی نہیں تھا کہ یہ صورت حال بھی پیش آسکتی ہے۔ وہ کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اکبر کے دونوں ہاتھ تمام لیے۔ یہ سخت بے ادبی تھی کہ کوئی امیر بادشاہ سے اتنا بے تکلف ہو جائے۔

بادشاہ نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور ادہم خاں کے منہ پر دو چھڑا ایسے رسید کیے کہ وہ چکر اکر زمین پر گر گیا۔

”اس گستاخ کو گل کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔“

حکم کی دیر تھی کہ پھرے دار دروڑ پڑے۔ ادہم خاں کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے اور اسے گل کی چھت پر لے جا کر اسے نیچے پھینک دیا۔ اسے جب پھینکا جا رہا ہوگا تو یقیناً اسے بیرم خاں کا خیال آیا ہوگا جس کے گل کی سازش میں وہ بھی شریک تھا۔ بیرم خاں کا خون رنگ لارہا تھا۔

ان تمام امراء کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے جو اس سازش میں شریک تھے۔ ادہم خاں کسی کا نام نہ لے سکا تھا لیکن دل کے چوروں نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جن لوگوں نے اس فساد میں کوشش کی تھی، ان میں سے ہر ایک نے موت کے خوف سے اپنی راہ لی۔ منعم خاں اور محمد قاسم میر بخر نے دریائے جمن عبور کر کے پل تڑوا دیا۔ شہاب الدین احمد خاں بھی چھپ گیا۔

دوسرے دن اشرف خاں میر قشوی حکم ہوا اور اس نے منعم خاں، شہاب الدین احمد خاں اور قاسم میر بخر کو تسلی دے کر اکبر بادشاہ کے حضور میں حاضر کیا۔

منعم خاں اس لالچ میں حاضر دربار ہو گیا تھا کہ اب ادہم خاں بھی نہیں رہا، شمس الدین خاں بھی درمیان سے ہٹ گیا۔ اب صرف وہ ہے۔ اب اس کے سوا کوئی ملکی مہمات میں شامل نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کے دل کے چور نے سرائخانا شروع کیا۔ وہ اور قاسم میر بخر اس نتیجے پر پہنچے کہ بادشاہ کا خسر بھی فرد نہیں ہوا ہے۔ شمس الدین خاں کے گل کا تہ نہ تھی نہ بھی سرائخانے گا۔ وہ حساب

متعین کیا۔ عبداللہ خاں ایک آراستہ فوج کے ہمراہ مالوہ پہنچ گیا۔ باز بہادر بھی دلیرانہ اس کے مقابلے پر اتر لیکن قسمت میں شکست لکھی تھی۔ ناچار بھاگ کر اسی بے جا پورے کوہستان میں پناہ لی جہاں وہ پہلے جا کر چھپا تھا۔

عبداللہ خاں نے ”مانڈو“ تک اس کا پیچھا کیا اور پھر فتح کی خوش خبری بادشاہ تک پہنچا دی۔ باز بہادر کے انجام کے بارے میں ”طبقات اکبری“ کا بیان قدرے مختلف ہے۔

باز بہادر کچھ عرصے تک رائے اودھے سنگھ کی پناہ میں رہا۔ اس نے ایک مدت گجرات میں گزاری اور بالآخر اکبر کے حضور حاضر ہوا اور زمانے کے حوادث سے پناہ پائی۔

☆☆☆

ادہم خاں اپنی بے عزتی پر سانپ کی طرح لوٹ رہا تھا۔ اسے مالوہ سے بلوایا گیا تھا۔ بادشاہ کا مقرب وہ اب بھی تھا لیکن بادشاہ اب اسے اعتبار کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ عہدے دوسروں کو دیے جا رہے تھے۔ سرکار دربار میں شمس الدین خاں کو بہت اہمیت دی جانے لگی تھی۔ بادشاہ نے اسے خان اعظم کا لقب دے کر دکالت اور نیابت کے سارے اختیارات دے دیے تھے۔ ادہم خاں اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ حسد کی آگ اسے اندر ہی اندر جلائے دے رہی تھی۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ شمس الدین خاں اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور انہوں نے بادشاہ کو اس سے برگشتہ کر دیا ہے۔ اس نے اسے کانٹے کو راہ سے ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔

باتوں کے اخبار لگے، راتیں جاگنے لگیں، سازشوں کے جال بٹنے جانے لگے۔ شہاب الدین احمد خاں، محمد قاسم میر بخر، منعم خاں، احمد خاں میٹھا پوری جیسے بااثر امراء اس سازش میں شریک تھے۔ ادہم خاں ان سب کا سرغنہ بنا ہوا تھا۔ اس کے گل میں تدبیریں مٹی اور بگڑتی تھیں۔

یہ لوگ عرصے تک ریشہ دوانیوں میں مشغول رہے لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ادہم خاں کی جوانی کو زیادہ صبر نہ ہوسکا۔ وہ ایک دن موقع پا کر شمس الدین خاں کی خلوت میں پہنچ گیا اور تعظیم و تکریم کا بہانہ کر کے شمس الدین خاں کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اسے باتوں میں لگا کر حملہ کر دیا۔

پورے محل میں شور اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پھرے دار اور عزیز واقارب اس کثرت سے جمع ہو گئے کہ ادہم خاں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ یہاں آتے ہوئے یہ بھی پہنچ گیا تھا کہ شمس الدین خاں کا محل بادشاہ کی خواب گاہ

شاہی کا شکار ہو کر رہے گا۔

کر لیا۔

شکار کھیلتے اور سیر و تفریح کرتے ہوئے وہ صوبہ بہار تک چلا گیا اور جاتک ان باغیوں پر حملہ کر دیا۔ صف آرا وہ بھی ہوئے لیکن اکبر کے ساتھ مختصر سی جماعت و کچھ کرشمک میں پڑ گئے اور صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ خان زماں نے صلاح کے لیے اپنی والدہ کو اکبر کے پاس بھیجا۔ اس خاتون نے اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے اکبر کے آگے جھولی پھیلا دی۔ یہ سفارش ایسی تھی کہ اکبر اسے ٹھکرا نہ سکا لیکن پھر بھی کچھ شرائط ایسی تھیں جن کا اظہار ضروری تھا۔

”میں تمہاری خاطر ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ لوگ مطیع و فرمانبردار رہیں گے بھی یا نہیں۔“

”میں اس کی ضمانت لیتی ہوں۔ اس وقت میرے بچوں کی جاں بخشی فرمائیں۔“

”اگر یہ بات ہے تو میں نے انہیں معاف کیا۔“

”ان کی جاگیروں کے متعلق کیا حکم ہے؟“

”جب ہم نے ان کی خطا میں معاف کر دی تو ان کی جاگیروں کے متعلق کیا مضائقہ ہے۔ لیکن انہیں چاہیے کہ جب تک ہم یہاں مقیم ہیں وہ لوگ دریا سے اس پار نہ جائیں۔ جب ہم آگرہ میں مقیم ہوں تو ان کے وکیل وہاں آئیں اور جاگیروں کے فرامین حاصل کریں اور ان فرامین کے مطابق اپنی اپنی جاگیروں پر قبضہ کریں۔“

اس حکم کے ساتھ ہی اکبر نے جنگ سے ہاتھ اٹھالیا اور امرائے عظام کو حکم دیا کہ دربار میں حاضر ہوں۔ اس قصبے سے فارغ ہوتے ہی اکبر نے مراجعت کی مگر ابھی وہ جو نیور پہنچا تھا کہ اسے خان زماں اور بہادر خاں کے دوبارہ باغی ہونے کی اطلاع ملی۔

مصالحت کے لیے شرط یہ طے ہوئی تھی کہ دونوں بھائی قبل از حکم دریا عبور نہیں کریں گے۔ خان زماں نے بادشاہ کے پشت پھیرتے ہی دریا عبور کر لیا اور اپنی ایک جماعت کو غازی پور اور جو نیور کی فتح کے لیے روانہ کر دیا۔

اکبر ہشکل اپنے لشکر تک پہنچا تھا کہ اس خبر نے اس کے غضب کو آواز دے لی۔ اشرف خاں میرٹھی کو حکم ہوا کہ جو نیور والدہ خان زماں کو گرفتار کر کے قلعہ جو نیور میں قید کر دے۔

اشرف خاں نے جو نیور پہنچتے ہی دونوں باغیوں کی والدہ کو گرفتار کر کے حوالے کر دیا کہ اسے قیدی رکھا جائے۔ کابل اور پنجاب کی طرف سے تشویش

ایک سرورات میں منعجم خاں اور میر بجر نے ملاقات کی۔ بادشاہ کی طرف سے دونوں کے دلوں میں غبار تھا۔ دونوں کو اپنے جرائم معلوم تھے۔ یہی طے ہوا کہ جلد سے جلد آگرہ چھوڑ کر کابل کا رخ کیا جائے اور وہاں جا کر قسمت آزمائی کی جائے۔ دو چار دن کا وقفہ دے کر دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگرہ سے نکل گئے۔

کبھی گھوڑے دوڑاتے کبھی دگی چلتے منزلیں طے کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں کا جاگیردار اکبر کے خیر خواہوں میں تھا۔ اس نے دونوں کی پریشانی سے محسوس کر لیا کہ وہ بادشاہ کے حضور سے بھاگ کر جا رہے ہیں۔ قصبے کے اوباشوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو اس وقت اس کے ہمراہ تھی، ان کے سروں پر پتلی اور دونوں کو پکڑ کر بادشاہ کے حضور میں بھیج دیا۔

اکبر نے ایک مرتبہ پھر چشم پوشی کی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔

☆☆☆

جس وقت باز بہادر نے مالوہ پر دوبارہ قبضہ بخالیا تھا، اکبر نے اس کی سرکوبی کے لیے عبداللہ خاں ازبک کو روانہ کیا تھا اور باز بہادر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اس نے مالوہ میں بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو دبانے کے لیے اکبر نے ایک لشکر روانہ کیا۔ عبداللہ خاں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ شاہی فوج روانہ ہوئی ہے، وہ مالوہ کے شہروں اور قصبوں کو لوٹ کر احمد آباد کی طرف فرار ہو گیا۔

اس بغاوت سے دوسرے شہر ہندوں کے حوصلے بھی جوان ہوئے۔ خان زماں اور بہادر خاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیے رہتے تھے۔ اکبر ان سے ہمیشہ بدظن رہتا تھا۔ اس نے یہ تک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں اپنی تلخ رو سے باہر نکال دے گا۔ جب عبداللہ ازبک نے مالوہ میں بغاوت کی تو ان دونوں بھائیوں نے بھی جو ملک شرتی پر مامور تھے، بغاوت پر کمر باندھ لی۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے جتنے ازبک اس وقت ہندوستان میں تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تیس ہزار سواروں کی فوج منظم کر لی اور تمام بلاد شرتی میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔

اکبر نے مشہور کر دیا کہ وہ شکار کے لیے نکل رہا ہے۔ جاں غاروں کی ایک جمیعت ساتھ لی جیسا کہ وہ اکثر شکار کے وقت کیا کرتا تھا اور آگرہ سے نکل کر جنگلات کا رخ

ناک خبریں پہنچ رہی تھیں لہذا اکبر باغیوں کی سرکوبی کے معاملے کو کسی اور وقت کے لیے ملتوی کر کے آگرہ واپس چلا گیا۔

اس کے منہ پھیرتے ہی خان زماں کو موقع مل گیا اور وہاں کے حاکم سے جنگ کر کے اسے شکست دی۔ اپنی والدہ کو قید سے نکال لیا اور اس کی جگہ حاکم جو پھور کو قید کر دیا۔

اکبر ان دنوں کاٹل اور پنجاب میں اٹھنے والے قوتوں سے نیرو آزما ہو رہا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دن پنجاب میں ٹھہرنے کا تھا لیکن پھر یہ ارادہ ترک کیا اور سب سے پہلے خان زماں کے فتنے کو ختم کرنے کی فکر کی۔ اس سے پہلے کہ خان زماں کو بادشاہی حملے کی خبر پہنچتی آکبر اس کے سر پر جا پہنچا۔ خان زماں کو چونکہ اپنے قصوروں کی معافی کی اب کوئی توقع نہیں تھی اس لیے مقابلے کے سوا اب کوئی راہ نہیں تھی۔ اس نے خان پر کھیل کر مقابلہ کیا اور واقعی جان پر کھیل گیا۔ اس کا بھائی بہادر خاں زعمہ گرفتار ہوا۔ بعد میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ ان بھائیوں کے ہمراہیوں کو قید کر لیا گیا اور ان کو بادشاہ کے حکم سے ہانسی کے پاؤں سے بندھا کر کھایا گیا۔

☆☆☆

قلعہ چوڑکی فتح کے بعد اکبر نے قلعہ دن چنور کی تعمیر کا ارادہ کیا جو وہاں کے حاکم سورجن کے قبضے میں تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر، مغل اعظم کہلانے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی حدود مملکت میں اضافہ کرتا رہے اس کی گوارا دشمنوں کے گلے کاٹی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چوڑا اور اوڑھے پورچ کر چکا تھا اور اب قلعہ دن چنور کے سامنے کھڑا تھا۔

دن اور چنور تالی دو پہاڑ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہندوستان کا سب سے مضبوط قلعہ اپنی مضبوطی کی داستان سارہا تھا۔ ان دو پہاڑوں کی رعایت ہی سے یہ قلعہ دن چنور کہلاتا تھا۔

اکبر کا لشکر جس کی راہبری وہ خود کر رہا تھا، کئی مہینے سے اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ یہ دیکھنے کو آتے تھے ترس گئی تھیں کہ قلعے میں کون ہے۔ فصیل پر کوئی نظر نہ آتا تھا مگر تیروں کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ اکبر کے جاں باز سپاہی کفسو افسوس ل رہے تھے کہ کوئی مقابلے پلے پر ہی نہیں، مقابلہ کریں تو کس سے کریں۔ وہ نشیب میں تھے اور قلعہ بلندی پر۔ ان کے سروں تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آتے تھے یا قلعے کی

دیواروں کا منہ چوم کر بد مزہ ہوتے رہتے تھے۔

کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ مایوسی کی کئی راتیں کٹ چکی تھیں کہ ایک صبح اکبر نے اپنے سرداروں کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ توہیں ان پہاڑوں کے اوپر پہنچا دی جائیں۔ کسی کولب کشائی کی جرأت نہ ہو سکی لیکن ان کا یہ سوچنا بجا تھا کہ توہیں کو پہاڑوں پر چڑھانا کتنا مشکل ہوگا۔ آپس میں سرگوشیاں بھی ہوئیں لیکن بے سووہ انجام یہ ہوا کہ توہیں اوپر پہنچا دی گئیں۔ اکبر نے حکم دیا کہ گولہ باری اس طرح کی جائے کہ گولے قلعے کے اندر جا گریں۔ اتفاق یہ ہوا کہ پہلا ہی گولہ حاکم قلعہ کے محل کے اندر جا گرا۔ اس کے محل کا آدھا حصہ منہدم ہو گیا۔ وہ ایسا سرا سیمہ ہوا کہ قلعے سے نکلا اور اکبر کی خدمت میں پہنچ گیا۔ قلعے کی چابیاں اکبر کے قدموں میں رکھ دیں۔

اکبر کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ توہیں پہاڑ پر لے جائی جائیں؟ دراصل اکبر کو بشارت ہوئی تھی۔ کوئی بزرگ اس سے کہہ رہے تھے کہ دن پہاڑ دشمن کے لیے مورچے کا کام دے رہا ہے۔ اگر تم اس مورچے سے گولہ باری کرو تو فتح یقینی ہے۔ اکبر کے خیال میں یہ بشارت دینے والے بزرگ خواجہ اجیر تھے لہذا اب ان کی خدمت میں پہنچنا ضروری تھا۔ اس لیے بھی کہ اس وقت وہ اجیر سے قریب تھا۔

مالوہ سے ایک مرتبہ پھر بغاوت کی خبریں آرہی تھیں۔ اس نے اپنے چند امراء کو ایک آراستہ لشکر وے کر باغیوں کی سرکوبی کے لیے مالوہ روانہ کیا اور خود اجیر پہنچ کر شہنشاہوں کے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین اجیری کے مزار پر پہنچ گیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ ذرا ترین کے ہجوم میں پیدل چل کر مزار کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جلال شاہی کو باہر چھوڑا اور خود مزار کے قریب گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔

”میں وارثِ تخت سے محروم ہوں۔ مجھے وارث عطا ہوتا کہ میرے بعد بھی اس کفرستان میں کوئی چراغ جلانے والا ہو۔ میں نے سنت مانی ہے کہ اگر میرا وارث مجھے مل گیا تو میں ننگے پاؤں اجیر تک آؤں گا۔“

مزار سے باہر نکلا تو دل کو ایسا اطمینان ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی عمر اٹھائیس سال ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اولاد سے محروم تھا۔ یہاں حاضری دینے کے بعد اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا وارث اس کے سامنے کھڑا ہے۔

کا مکان بھی ہے جس میں وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ جلد ہی ان کی روشن میٹری کا بھی قائل ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت شیخ سلیم کے مرید صفیں بائیں کھڑے ہیں۔ انہیں پہلے سے کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ آنے والا ہے۔ یہ خیال بھی اس کے دل میں آیا کہ وہ بادشاہ ہے اس لیے اس کا استقبال ہو رہا ہے۔ اس کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی جب ان بزرگ نے فرمایا۔

”ہم دنیا دار نہیں کہ کسی لالچ میں تمہارا استقبال کریں لیکن جس نے تمہیں بھیجا ہے، اس کا تقاضا تھا کہ ہم تمہارا استقبال کریں۔“

”میں چاہتا ہوں آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔“

”ہم تو سب ہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔“

”آپ پر سب روشن ہے۔ میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے بعد تخت کا وارث کون ہوگا۔“

”انسان بہت بے صبر ہوتا ہے۔“ حضرت شیخ نے

کچھ دیر مراقبہ میں رہنے کے بعد فرمایا۔ ”تیرے نصیب میں ایک نہیں کئی شہزادے ہیں۔“

”میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند عطا کیا تو اس کی پرورش کے لیے اسے میں آپ کے سایہ عاطفت میں رکھوں گا اور آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں گا۔“

”ہم تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہیں۔“

اکبر نے وہاں بیس دن تک مہمانداری کا لطف اٹھایا اور پھر اجازت لے کر آگرہ کی راہ لی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اکبر کی ایک بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس بیوی کو اکبر نے حسب وعدہ میٹری پہنچا دیا اور شیخ کی مستورات کے ساتھ ٹھہرایا۔

وہ آگرہ میں بدستور دن گزار رہا تھا کہ اسے فرزند کی ولادت کی خبر ملی۔ خبر ایسی تھی... جس کی خوشی سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی۔ جو سامنے آیا اسے شاہانہ نوازشوں سے مالا مال کر دیا۔ یہ معلوم ہوتا تھا وہ خزانہ خالی کر دے گا۔ آگرہ سے میٹری تک سونا اچھالتا چلا گیا۔ یہی لڑکا آگے چل کر نور الدین جہانگیر کہلا یا۔

خوشی کے شادیا نوں کا شور ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنی منت یاد آئی۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر اس کی مراد پوری ہوئی تو وہ آگرہ سے اجیر تک پیدل منزلیں طے کرے گا۔ اس نے یہ منت پوری کی اور بارہ بارہ کوس کی منزلیں پایادہ طے کرتا ہوا سترھویں دن اجیر پہنچ گیا۔

مختصر سا لنگر جو اس کے ہمراہ تھا، اسے لے کر وہ آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب آگرہ دس بارہ کوس دور رہ گیا تو ایک ویران مقام نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کوئی شبی آواز گئی جو اس سے کہہ رہی تھی۔ یہاں پڑاؤ ڈالو، کچھ ٹھہر میں آنے والا ہے۔ اس نے حکم جاری کیا کہ یہاں پڑاؤ ڈالا جائے۔ اب پڑاؤ کی ضرورت نہیں تھی۔ آگرہ کچھ ہی قاصلے پر تو رہ گیا تھا لیکن اس کا حکم تھا کہ یہیں پڑاؤ ہوگا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس مقام کا نام ”میٹری“ ہے۔ یہاں ویرانے کے سوا کچھ نہیں تھا لیکن اکبر کا دل کہہ رہا تھا کہ اس ویرانے میں کوئی پھول ضرور کھلنے والا ہے۔

وہ اس ویرانے میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا جہاں چند پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سیر و شکار کا بھی کوئی موقع نہیں تھا لیکن اکبر کی آنکھیں کسی کی ہنسنے کی قدرت کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن اس انتظار میں چار بزرگوں کی صورتیں عمل میں آئیں۔ چار افراد اس سے ملنے کے لیے اس ویرانے میں پہنچ گئے۔

”ہم چار دوست ہیں اور چاروں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے۔ ہم اجیر میں اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ ہمیں قطعی معلوم نہیں تھا کہ آپ میٹری میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں عالم خواب میں بتانے والے نے بتایا کہ میٹری میں شاہی لنگر خیمہ زن ہے۔ وہاں جاؤ اور اکبر بادشاہ سے مل کر اسے بتاؤ کہ میٹری میں ایک بزرگ حضرت سلیم چشتی تشریف فرما ہیں۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ وہ وہاں ٹھہرے اور ان بزرگ سے ملاقات کیے بغیر چلا جائے۔“

”وہ بزرگ کہاں ہیں؟“

”یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو صرف یہی بتایا گیا تھا جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔“

اکبر نے ان چاروں کو بیش قیمت انعامات سے نوازا اور وہ رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اکبر کا یہ سوچنا بجا تھا کہ ان بزرگ کو تلاش کیا جائے۔ اس نے اپنے مصاحبوں کو طلب کیا اور ان کے سامنے اس خواب کو بیان کیا۔ اتفاق سے ایک مصاحب ایسا بھی تھا جو اس علاقے کو جانتا تھا اور حضرت سلیم چشتی کے ٹھکانے کو جانتا تھا۔ وہ اس مصاحب کے ہمراہ حضرت سلیم چشتی سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ وہ دل میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ اس کی ملاقات پہاڑ پر بیٹھے ہوئے کسی تارک الدنیا فقیر سے ہوگی لیکن وہاں پہنچ کر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ تارک الدنیا نہیں، صاحب اولاد ہیں۔ ان کی خانقاہ ضرور ہے لیکن برابر میں ان

اس ولادت باسعادت کی ایک اور کرامت اکبر نے دیکھی جو قلعہ کانچر کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ قلعہ کانچر شیر شاہ کے بعد سے کانچر کے قبضے میں چلا آ رہا تھا۔ اکبر ہمیشہ اس قلعے کی فتح اور تدبیر میں رہتا تھا۔ شہزادہ سلیم (جہانگیر) کی ولادت کے موقع پر حاکم قلعہ رام چند نے قلعے کی سنجیاں شہزادے کی مبارک باد دیتے ہوئے اکبر کی خدمت میں روانہ کر دیں اور اطاعت کا اظہار کیا۔

یہ ایسی انہونی بات تھی جسے وہ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اتنی تیزی سے فتوحات حاصل ہو رہی تھیں کہ اس نے انہیں حضرت شیخ سلیم کی دعاؤں کا نتیجہ تصور کیا اور سیکری کو ”فتح پور“ کا نام دے کر اسے پایۂ تخت قرار دیا۔

اس اعلان کے ساتھ ہی اس جنگل کو عمارتوں کا جنگل بنا دیا گیا۔ شیخ کی خانقاہ کے قریب پہاڑ کے اوپر عالی شان عمارت کی تعمیر کی بنیاد رکھی۔ تمام امراء اور اراکین سلطنت نے بھی اپنے اپنے معیار اور مرتبے کے مطابق اپنے اپنے مکان تعمیر کیے۔ مسجد، مدرسے، چوک، بازار، باغات سب مہیا ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین شہر آباد ہو گیا جو فتح پور سیکری کے نام سے مشہور ہوا۔

حکم صادر ہوا کہ اجیر کو بھی رتھک جنت بنا دیا جائے۔ ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تیار کیا جائے اور اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان محل بنوایا۔ امراء و خواجگان اور شاہی دربار کے مقربین اپنے اپنے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے۔

اکبر نے اجیر کے نواح کے مواضعات دیدہات کو امراء میں تقسیم کر دیا تاکہ وہاں کی آمدنی سے مکانات تعمیر ہو سکیں۔

☆☆☆

احمد آباد (گجرات) سے انتشار کی خبریں آرہی تھیں۔ بادشاہ کی مصروفیات ان خبروں کو اہمیت نہیں دے رہی تھی لیکن جب سلطان مظفر گجراتی کے وزیر کا خط موصول ہوا تو بادشاہ نے ولایت گجرات کو فتح کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ خط میں لکھا تھا۔

”اس وقت ملک میں کوئی کرتا دھرتا نہیں رہا ہے۔ امیروں کے نفاق کی وجہ سے احمد آباد کی سلطنت ڈانوں ڈول ہو رہی ہے۔ اگر بادشاہ فوج کشی کریں تو ذرا سی توجہ اور کوشش پر یہ ملک امراء شاہی کے قبضے میں آجائے گا۔“ اس عریضے کے پختے پر اکبر نے بیہوشی سے اٹکھ کر ایک

لنگر بطور ہرا دل دے کر روانہ کیا اور خود اس کے پیچھے چلنے کی تیاری کرنے لگا۔

بیر محمد جب ایک مقام ”سردہی“ کے راجا کی سرحدوں پر پہنچا تو راجا نے اپنا اپنی بنا کر ایک راجپوت کو اس کے پاس بھیجا۔ اس اپنی نے راجا کا پیغام پہنچایا۔ بیر محمد سے اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ نہایت دوستانہ ماحول میں باتیں ہوتی رہیں۔ جب اپنی رخصت ہونے لگا اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا تو اس راجپوت نے ”بھدر“ (چھری) نیام سے لگائی اور بیر محمد کے پیٹ میں گھونپ دی۔

اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا بیر محمد کے ہمراہیوں نے اسے دیوچ لیا اور اسی وقت اسی کے فخر سے اس کا کام تمام کر دیا۔

بیر محمد کو زخم تو کاری آیا تھا لیکن وہ جانبر ہو گیا البتہ فوج کشی نہ کر سکا اور بادشاہ کی خدمت میں لوٹ آیا۔ اس کی ناکام واپسی کے بعد اکبر نے خود گجرات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب شاہی لشکر قصبہ پن (احمد آباد) پہنچا تو اکبر نے وہاں کے حاکم کو در پزہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک تیر چلائے بغیر ”پن“ گجراتیوں کے قبضے سے نکل گیا۔ یہیں اسے شہزادہ دانیال کی ولادت کی خبر ملی جسے اس نے ٹیک ٹھکون بچھا اور ایک نئے عزم کے ساتھ احمد آباد کی طرف کوچ کر گیا۔

ابھی وہ احمد آباد کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ سلطان مظفر استقبال کے لیے خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے بھی عنایات کیں اور مظفر خاں کے خطاب سے سرفراز کیا۔

ایک قطرہ خون بہائے بغیر سارا ملک اس کے قبضے میں آ گیا۔ اس فتح عظیم کے بعد اکبر فتح پور میں مقیم تھا کہ اطلاع ملی اختیار الملک گجراتی اور محمد مرزا نے مل کر ایک بڑا لشکر فراہم کر لیا ہے اور اب وہ احمد آباد کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔

اکبر نے خان اعظم کو احمد آباد کی صوبہ داری پر متعین کر دیا تھا اور اب وہ محاصرے میں تھا۔ اکبر نے فوراً چند ہزار منتخب سواروں کو ہرا دل کے طور پر رخصت کیا۔ چند روز کے بعد وہ بھی چند ہزار سواروں کے ہمراہ فتح پور سے نکلا۔

پوری مسافت چالیس روز کی تھی۔ سلاطین کا قافلہ جب چلتا تھا تو یہ فاصلہ تین چار ماہ سے کم میں طے نہیں ہوتا تھا۔ اس نے یہ سفر تیز رفتار اونٹنیوں پر طے کیا۔ رات دن مسلسل سفر کر کے صرف نو دن میں شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔

شہر کے دروازے کے قریب ایک ندی تھی۔ اس

دالوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اکبر کے حضور لے آئے۔
محمد حسین مرزا کو جو لوگ لے کر آئے تھے، انعام کے
لاج میں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ مرزا کو اس نے
گرفتار کیا۔ یہ تکرار اتنی بڑھی کہ جھگڑے کی صورت اختیار
کرنے لگی۔

اکبر کی آواز گونجی۔ ”مرزا خود بتائے گا کہ اسے کس
نے گرفتار کیا۔“ پھر وہ حسین مرزا سے مخاطب ہوا۔ ”تو بتا
تجھے کس نے گرفتار کیا؟“

”مجھے کسی شخص نے گرفتار نہیں کیا۔ مجھے اگر کسی نے
گرفتار کیا ہے تو وہ میرا کفرانِ نعمت ہے اور بادشاہ کا اقبال تھا
بس۔“ اس کے اسی جواب سے بادشاہ کا غصہ فرو ہو گیا۔ اس
نے بس اتنا کیا کہ حسین مرزا کو رائے سنگھ کے حوالے کر دیا
کہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے جس نے اسے قتل
کرا دیا۔

اختیار الملک اس فتح سے بے خبر صوبہ دار کا راستہ
رو کے شہر کے دروازے کے قریب کھڑا تھا کہ اس کے لشکر
میں یہ افواہ اڑ گئی کہ شاہی فوج کو شکست ہو گئی۔ وہ لوٹ مار
کے لالچ میں ایسا اندھا ہوا کہ سو رچا چھوڑ کر شاہی لشکر کو
لوٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت بادشاہ کی ساری فوج
بھاگے ہوئے لشکر کے تعاقب میں تھی۔ اکبر ایک درخت کے
سچے آرام کر رہا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے صرف دو سو
سوار اس کے ساتھ تھے کہ نسیم کے لشکر کی آمد کا شور مچ گیا۔
اکبر نیند سے بیدار ہوا اور مقابلے پر آ گیا۔

صوبہ دار خان اعظم نے جب دیکھا کہ اختیار الملک
راستے سے ہٹ گیا ہے تو وہ شہر سے باہر نکل آیا اور اپنی فوج کو
لے کر اختیار الملک کے تعاقب میں چلا۔ اختیار الملک کا پانچ
ہزار کا لشکر اس افتاد سے گھبرا گیا اور بے ترتیب ہو گیا۔ اختیار
الملک لالچی میں اس درخت کی طرف بھاگا جہاں اکبر ٹھہرا ہوا
تھا۔ اس کے محافظوں نے اختیار الملک کو پہچان لیا اور ان کی
آن میں اس کا سر کاٹ کر اکبر کے حضور پیش کر دیا گیا۔
اس نے خان اعظم کو بدستور احمد آباد پر متعین کیا اور
آگرہ لوٹ آیا۔

☆☆☆

بادشاہ کی خوش قسمتی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔
اس نے کامل فتح کر لیا تھا۔ کشمیر تک کا علاقہ اس کے قبضے
میں آ گیا تھا۔ اس کی فتوحات انسان کے رزق کی طرح اس
کا پھینکا کر رہی تھیں۔ اس کی شہرت نے بڑے بڑے اہل
لوگوں کو اس کے دربار میں لا کھڑا کیا تھا۔ دکن کے دو ممتاز

وقت اختیار الملک کے لشکر کا ایک سوار اپنے گھوڑے کو پانی
پلا رہا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت احمد آباد میں محصور صوبہ دار کا
ایک سپاہی بھی گھوڑے کو پانی پلانے وہاں پہنچ گیا۔
”آج یہ کون سا سردار فوج لے کر آیا ہے۔“ اختیار
الملک کے سپاہی نے پوچھا۔

”یہ کوئی سردار نہیں جلال الدین محمد اکبر بذاتِ خود
تشریف لائے ہیں۔“ صوبہ دار کے سپاہی نے جواب دیا۔
”کیوں جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے جاسوس تو ہمیں
روز پہلے بادشاہ کو فتح پور میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اتنی جلدی وہ
یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں۔“

”تمہارے خبر نے خبر صحیح دی ہوگی۔ اس وقت وہ
وہیں تھے۔ انہوں نے تیز رفتاری سے سفر طے کیا ہوگا
بہر حال اب وہ یہاں ہیں۔ اپنے مالکوں سے کہو کہ جنگ کی
تیاری کر لیں۔“

وہ سوار اپنے گھوڑے پر سرپٹ دوڑا اور لشکر تک یہ
خبر پہنچا دی۔

”ہمیں کانوں خبر نہ ہوئی اور بادشاہ یہاں تک
پہنچ گیا۔“ اختیار الملک نے حیرانی سے کہا۔

”یہ فاصلہ اس نے اتنی جلد طے کیسے کر لیا۔ کیا
ہمارے خبروں نے غلط اطلاع پہنچائی تھی؟“

”یہ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں۔“ اختیار الملک
نے کہا۔ ”ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہوگی۔ ہم دو فوجوں
کے درمیان ہیں، اندر صوبہ دار ہے باہر اکبر۔ سخت حکمت عملی
کی ضرورت ہے۔“

انہوں نے حکمت عملی طے کی۔ اختیار الملک پانچ ہزار
سوار لے کر شہر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ
صوبہ دار بادشاہ کی مدد کے لیے شہر سے باہر نہ آسکے۔ محمد
حسین مرزا نے بادشاہی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔

ہنگامہ کارزار گرم ہو گیا۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ دشمن کا
دھاؤ بڑھنے لگا۔ شاہی لشکر پیچھے ہٹنے لگا۔ شکست کے آثار
پیدا ہو گئے تھے کہ اکبر کی بہادری نے پانسٹا پلٹ دیا۔ وہ
اپنے خاص جاں نثاروں کے ساتھ لٹلا اور محمد حسین مرزا کی
طرف بڑھا۔ محمد حسین مرزا کی نظر جو نہی اس پر پڑی وہ ایسا
بدحواس ہوا کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ لٹلا۔ اس
کے پیچھے اس کی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔

اکبر نے حکم دیا کہ محمد حسین مرزا کا تعاقب کیا جائے۔
محمد حسین مرزا پوری رفتار سے بھاگے جا رہا تھا کہ چانک اس
کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور اس نے سوار کو گرا دیا۔ تعاقب کرنے

امیر برہان الملک اور شاہ فتح اللہ شیرازی اس کے دربار میں حاضر ہوئے اور ملازمت کے خواہاں ہوئے۔ اکبر نے انہیں شاہی خدمات پر مامور کر دیا۔

ان دونوں نے دکن پر حملے کا مشورہ دیا۔ اکبر نے بھی یہ موقع غنیمت جانا۔ اس نے شاہ فتح اللہ شیرازی کو عہد الدولہ کا خطاب دے کر اس مہم پر مقرر کر دیا کہ وہ پہلے احمد آباد خان اعظم کے پاس جائے پھر دونوں مل کر برہان پور اور برار پر حملہ کریں۔ برہان الملک کو بھی عمدہ منصب دیا۔ ہاتھی اور جوہرات عطا کیے اور ان دونوں کا رشتہ بنا کر روانہ کیا۔

یہ دونوں امیر احمد آباد روانہ ہو گئے۔ خان اعظم نے ان کا اسی طرح احترام کیا جو دربار اکبری میں ان کی شہرت تھی۔ خان اعظم نے جنگ کی تیاریاں کیں اور آہٹس میں یہ طے ہوا کہ پہلے برار پر حملہ کیا جائے۔ برار ان دنوں نظام الملک کے زیر اقتدار تھا۔ شاہی لشکر روانہ ہوا اور صوبہ برار کے حاکم نقش شہر ایرج پور پہنچ گیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔

ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ علاقے کا ٹھیک طرح بندوبست بھی نہیں کر پائے تھے کہ نظام الملک کی فوج راجی خان کی سرداری میں پہنچ گئی۔ برار اور برہان پور کے تمام امیر بھی دو سمتوں سے ٹڈی دل فوج لے کر پہنچ گئے۔ خان اعظم ان کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکا اور یہ بہانہ کر کے کہ احمد آباد میں فساد ہو گیا ہے، اپنے قلعے پر چلا گیا۔

اس ناکام مہم کے بعد اکبر کا ارادہ تھا کہ وہ خود دکن پر فوج کشی کے لیے جنوب کی طرف جائے لیکن اسی وقت ”بہر روشانی“ کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے مرید پٹھانوں نے شاہی احکام کو پس پشت ڈال کر شراٹھیزی کا بازار گرم کر رکھا تھا اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔

زمانہ سابق میں ایک ہندوستانی شخص افغانوں کی جماعت میں گیا اور اس نے کفر و الحاد کے مذہب کا رواج شروع کروایا۔ اکثر احمق اس کے مرید ہو گئے اور اس کا نام بہر روشانی رکھا۔ رفتہ رفتہ یہ ایک قبیلے کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کے جنم رسید ہونے کے بعد اس کے بیٹا ”جلالہ“ نے اس کی جگہ لی۔ کثیر مخلوق کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ راہزنی کا بازار گرم کر دیا اور ہندوستان سے کامل جانے والا راستہ بند کر دیا۔

مصلحت یہی تھی کہ پہلے اس فتنے کا سدباب کیا جائے۔ اکبر نے دکن کی مہم ترک کی اور سرکش پٹھانوں کا قلع قمع کرنے کے لیے زین خاں اور شیخ فیضی کو مقرر کر کے روانہ کیا۔

ان دونوں نے بڑی جدوجہد کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ پہاڑی دروں میں پٹھانوں کی کثیر تعداد موجود تھی اور ان کو وہاں سے نکالنا مشکل تھا۔ اکبر نے ایک اور تازہ فوج مان سنگھ کی راہنمائی میں روانہ کی۔ پٹھانوں نے اس فوج کا بھی منہ پھیر دیا۔ ایک اور فوج بیربل کی سرکردگی میں بھیجی گئی۔ یہ فوج دس ہزار جنگ آزماع تجربہ کار سواروں اور پیادوں پر مشتمل تھی۔

بیربل کے پہنچنے ہی تمام فوجوں نے افغانوں کو تاحت و تاراج کرنا شروع کیا۔ مفسد پٹھانوں کی ایک بڑی جماعت قتل ہو گئی۔ ان کے دشوار گزار ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا۔

فوج کشی پوری سرگرمی کے ساتھ جاری تھی۔ کوئل کوہ کے دامن میں جس کے قریب ہی ناہموار چٹانوں سے بنا ہوا ایک دشوار درہ موجود تھا، جاسوسوں نے بیربل کو آ کر خبر دی کہ پٹھان آج کی رات بادشاہی فوج پر شب خون ماریں گے۔ بیربل ایک خود رائے شخص تھا۔ کسی سے مشورہ کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا تین چار کوس کا تو درہ ہے۔ اپنے لشکر کو لے کر نکل جائے۔

اس مقام سے ہٹ جائے جہاں شب خون کا خطرہ ہے۔ وہ پورے لشکر اور بار بردار دستوں کو لے کر کوچ کر گیا۔ پٹھانوں کا ایک جاسوس بھی موجود تھا جس نے آگے بڑھ کر بڑی ہوشیاری سے پٹھان سرداروں کو اس کوچ کی اطلاع دی۔ بیربل جو نجی اس تاریک درے میں داخل ہوا، پٹھانوں نے اس درے کو گھیر لیا۔ آگے پیچھے سے راستہ بند کر دیا۔ اندر اندر ہیرا تھا اور باہر سے سنگ ہاری ہو رہی تھی۔

فوج اس تنگ درے میں ایسی پھنسی تھی کہ نہ آگے جاسکتی تھی نہ پیچھے۔ جو جہاں تھا، وہیں کھڑا رہ گیا۔ باہر سے جو پتھر بھی لڑھکا ہوا آتا تھا، تین چار آدمیوں کے سر پھوڑتا ہوا گزرتا تھا۔ اندر چیتوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ رات بھر ان قیدیوں کے سروں پر پتھر، تیز اور گولیاں برسی رہیں۔ صبح ہوئی تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ تھا۔ بیربل سمیت سب مارے گئے۔

اس حادثے میں تقریباً آٹھ ہزار آدمی مارے گئے۔ زین خاں اور الہا فتح پہنچ گئے کیونکہ وہ بیربل کے ساتھ نہیں تھے بلکہ انہیں معلوم تک نہیں تھا کہ بیربل اور اس کے لشکر پر کیا گزر رہی ہے۔ اس قتل عام کے بعد یہ دونوں دشمن کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور عجمہ گاہ کو صبح ساز و سامان چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ قلعہ انک میں آ کر دم لیا۔

گوہر آبدار

☆ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھے ہی بتاؤ کسی اور کو نہیں کیونکہ اس عیب کو میں نے بدلانا ہے کسی اور نے نہیں۔

☆ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر ملے گا، دوسروں سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور گناہ ملے گا۔

☆ مصنفین اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی لائبریری میں محفوظ رہتے ہیں۔

☆ کسی چیز کو روکنے کے لیے خود کو روکنا پڑتا ہے۔

☆ موت سانس ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔

☆ ناممکن سے "نا" ہٹا دیا جائے تو وہ ممکن بن جاتا ہے۔

☆ جو مرد بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں وہ بھی کبھی سر کے تاج نہیں بن سکتے۔

مرسلہ۔ مرحا گل، درابن کلاں

اکبر نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے راجا ٹوڈرل کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ ٹوڈرل اپنی تجربہ کاری کی بنا پر کوہستان پہنچا۔ اس نے چند مقامات پر قلعے بنوائے اور بڑی تدبیر و کوشش کے بعد افغانوں پر دنیا تلگ کر دی۔ کٹور مان سنگھ نے وترہ خیبر میں اس گروہ کا مقابلہ کیا۔

شاہی لشکر کو فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ اس قلعے سے نکلنے کے بعد اکبر ایک مرتبہ پھر دکن کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے خان خانان کو شہزادہ دانیال اور دوسرے امراء کی فوجوں کے ساتھ روانہ کیا۔ جب خان خانان مندو پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ برہان شاہ نظام الملک کے مرنے پر احمد نگر پر بے باپور کے عادل شاہ نے لشکر کشی کر دی اور اس لڑائی میں برہان شاہ کا بیٹا مارا گیا۔ اس کے بعد نظام الملک کے ایک وزیر میاں منجو نے سارے اختیارات ہاتھ میں لے لیے۔ اختیارات سنبھالتے ہی میاں منجو نے احمد آبادی شہزادہ مراد کے پاس خط بھیجا کہ جلد آ کر دکن پر حملہ کرو۔ شہزادہ مراد بھی نہایت عجلت کے ساتھ دکن کی طرف روانہ ہو گیا۔

ان دنوں احمد آباد میں نظام الملک کی بیٹی چاند بی بی بزمراقتدار آگئی تھی۔ میاں منجو اور اس کے ساتھی شہزادہ مراد اور خان خانان کو خط لکھ کر بلا تے رہے۔ ان کے بلانے پر جب مغل لشکر پہنچ گیا تو اب پہچتانی لگے مگر چاند بی بی کے اہمیت دلانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔

خان خانان اپنے ہرادل کو لے کر آگے بڑھا اور قلعہ احمد نگر کا محاصرہ کر لیا۔ چاند بی بی نے بھی بڑی اہمیت سے کام لیا اور جہم کر مقابلہ کیا۔ جہاں کہیں بھی شاہی فوج زور کثیر خرچ کر کے مورچے باندھتی، نقب لگاتی اور دھمکے اڑاتی، چاند بی بی محاذ پر پہنچ جاتی اور مدافعت تدبیریں کرتی۔ راتوں میں شب خون مارنے کے انتظام کرتی۔

چاند بی بی کی اس اہمیت کی وجہ سے شاہی فوج کو قلعے کا مہیا نہیں ہو رہی تھی۔ آخر بڑی مشکل سے بارودی نقب قلعے کی دیوار اور برج تک پہنچائی گئی۔ چاند بی بی کے جاسوسوں نے اسے بروقت اطلاع دے دی۔ اس نے حملے کے مقررہ دن سے پہلے ہی قلعے کے اندر سے اس مقام تک نقب لگائی جہاں مغلوں نے نقب لگا کر بارود کے تھیلے دبا رکھے تھے اور وہ سارے تھیلے نکلوا لیے اور ان کی جگہ پانی سے بھرے ہوئے گودے رکھوا دیے تاکہ نقب اڑانے پر بجائے آگ کے پانی کے فوارے نکلیں۔ صرف ایک جگہ کا اسے پتہ چل سکا کہ وہ کس جگہ لگائی گئی ہے۔

شہزادہ مراد اور خان خانان مقررہ دن محاذ پر پہنچے۔

کلمہ طیبہ

کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں

دونوں میں ہارہ ہارہ حرف ہیں۔

دونوں نعتوں کے بغیر ہیں۔

پہلا حصہ مقصد زندگی سکھاتا ہے اور دوسرا حصہ طرز زندگی۔

24 حروف تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنی

24 کمینے کی زندگی دین کے مطابق گزارے۔

نقطے نہ ہونے میں بھی ایک حکمت ہے۔ وہ یہ کہ

خدا کی خدائی اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شریک

نہیں، یہاں تک کہ ایک نقطہ بھی نہیں۔

مرسلہ۔ محمد جاوید خان، تحصیل علی پور

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو مائیل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

حالات میں جنگ مناسب نہیں۔ اہل قلعہ کا حال بھی وہی تھا جو باہر پڑے ہوئے لشکر کا تھا۔

ان شرائط پر صلح طے ہوگئی کہ شہزادہ مراد قلعہ احمد نگر اور دولت آباد کا محاصرہ اٹھالے اور ان علاقوں کا پوری طرح تخلیہ کر دے اور اس سارے علاقے کو چاند بی بی اور برہان نظام شاہ کے پوتے بہادر شاہ کے حوالے کر دے۔ تاہم ان جنگ میں مراد کو صوبہ برار اور احمد آباد بیدر کے بعض پرگنوں تفویض کئے جائیں گے۔

لڑائی بند ہوگئی۔ شہزادہ مراد اور خان خانان برار کی طرف لوٹ گئے اور وہاں قصبہ شاہ پور کو اپنا مستقر بنا کر قیام کیا۔ ابھی اطمینان کے چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ تحقیق معلوم ہوا کہ سہیل خان پتیا پوری، امیروں اور چاند بی بی کے اتفاق سے ساٹھ ہزار سوار اور توپ خانہ لے کر احمد نگر سے آگے بڑھ چکا ہے۔ شہزادے نے بھی اپنی فوج آگے بڑھا دی تاکہ سہیل خان کو راستے ہی میں روک لیا جائے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جنگ لازمی تھی۔

یہ ایک جان توڑ مقابلہ ثابت ہو رہا تھا۔ دونوں فریقوں کے ہراول دستے یکے بعد دیگرے غالب و مغلوب ہوتے رہے۔ ایک موقع وہ آیا جب شاہی فوج غالب ہونے لگی۔ اسی وقت دکنیوں نے ایک چال چلی۔ وہ پسا ہوتے ہوئے شاہی فوج کو ایک مشکل مقام تک لے آئے پھر یہاں پر انہوں نے پلٹ کر ایک زبردست حملہ کیا اور شام ہونے تک گھیر گھیر کر حملے کرتے رہے۔ بڑے بڑے امراء گل ہو گئے۔ شاہی لشکر کو بری طرح شکست ہوئی اور تقریباً ساری مغل فوج میدان سے فرار ہوگئی۔ لوگ بدحواس ہو کر بھاگے جا رہے تھے لیکن خان خانان کی غیرت نے اسے بھاگنے نہیں دیا۔ وہ توپ خانے کے قریب ٹھہرا رہا۔

دکنیوں نے جب شاہی لشکر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مالِ فہیمت کے لالچ میں تعاقب شروع کر دیا۔ اس تک دو دو میں انہوں نے اپنے سردار کو بھی تباہ چھوڑ دیا۔ مغرب کے بعد پہ سالار سہیل خان اپنی فوج پر شاواں ایک ندی کے کنارے ٹھہر گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں خان خانان اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں۔

رات بہت تاریک تھی اس لیے خان خانان نے اس وقت کوچ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائے گا۔ وہ توپ خانے کو مورچا بنائے بیٹھا تھا کہ اسے چند مشتعلیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ اس

شہزادے نے سرگنوں میں آگ لگانے کا حکم دیا۔ ایک دھماکا ہوا اور ایک برج کے قریب پچاس گز تک کی فصیل اڑ گئی۔ فوجیں منتشر کھڑی تھیں کہ دوسری دوسری بھی پھٹیں اور قلعے کا دوسرا برج اڑ جائے تو آگے بڑھیں لیکن دوسری سرگنیں نہ پھٹ سکیں۔ یہ وہی تھیں جس میں چاند بی بی نے پانی بھرا دیا تھا۔ شاہی فوجیں حیران تھیں کہ ہوا کیا۔

اگر چاند بی بی نے نسوانی پردہ پالائے طاق رکھا۔ مروانہ لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئی۔ ہتھیاروں سے لیس ہوئی اور اس جگہ پہنچ گئی جہاں کی فصیل اڑ گئی تھی اور شکاف پڑ گیا تھا۔ مغل فوج اس شکاف سے اندر آ سکتی تھی۔ چاند بی بی نے حکم دیا کہ توپ کے گولے دانے جائیں۔ اس حملے کی آڑ میں فصیل کے شکاف کو بھی مستحکم کیا جاتا رہا۔ تمام کاموں کی نگرانی چاند بی بی کر رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر ادھر لشکر کے کمانداروں کے علاوہ عام لشکریوں کا بھی جائزہ لیتی رہی اور ان کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔

مغل دن کے دو بجے سے شام تک جنگ کرتے رہے لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ شکاف کے ذریعے اندر آنے کی جرات نہ ہو سکی۔ دن ختم ہونے پر ناکام اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹ گئے۔

اندھیرا ہوتے ہی چاند بی بی گھوڑے پر سوار ہوئی، ہاتھ میں مشعل لی اور شکستہ دیوار پر پہنچ گئی۔ مزدوروں، تیل داروں کو کام پر لگا کر صبح ہونے تک دیوار تعمیر کرائی رہی۔ رات بھر میں پچاس گز لمبی دیوار کھڑی کر دی۔

صبح ہوئی تو مغل فوج نے حیرت سے اس دیوار کو دیکھا۔ چاند بی بی نے اسی رات دکن کے سرداروں کے نام خطوط روانہ کیے۔ ان خطوں میں اس نے دشمن کے غلبے، اہل قلعہ کی کمزوری اور غلے کی گرانی وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔

قاصد کی روانگی کی خبر زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ شاہی لشکر میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ سہیل خان نے جا پوری ستر ہزار کا لشکر لے کر پتیا پور سے چل پڑا ہے۔ دوسرے باو شاہی لشکر کی رسم منتقل ہوگئی تھی۔ سارے علاقے میں گھاس اور چارے کا کال پڑ گیا تھا۔ گھوڑے اور جانور مرنے لگے۔ ایسے میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ چاند بی بی سے اس شرط پر صلح کرنی جائے کہ برار کا علاقہ مغلوں کو دے دیا جائے اور باقی تمام ملک پر بدستور نظام شاہیوں کا قبضہ رہے۔

صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو چاند بی بی نے پہلے تو انکار کیا لیکن جلد ہی یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی کہ موجودہ

شہزادہ مراد اور خان خاناں میں اختلافات ہو گئے۔ مراد نے اسے دربار اکبری میں واپس بھیج دیا۔ پھر حالات بڑی تیزی سے بدلے۔ شہزادہ مراد کا انتقال ہو گیا۔ دکنیوں نے اس کے انتقال کا فائدہ اٹھایا اور ہر طرف سے یورش کر کے مشن علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔

دکن کے انتشار کی خبریں مسلسل دربار میں پہنچ رہی تھیں۔ یہ خبریں اکبر کے لیے پریشان کن تھیں۔ آخر کار اس نے خان خاناں اور شہزادہ دانیال کو دکن کی طرف روانہ کیا۔ اس کے اگلے ہی سال بادشاہ خود بھی آگرہ، دہلی اور پنجاب کا نظم و نسق اور چٹوڑ کے رانا کی ہم جہانگیر کے سپرد کر کے اتنی ہزار فوج کے ساتھ دکن کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ غیر معمولی بات تھی کہ اکبر بذات خود دکن کی طرف جا رہا تھا۔ اکبر نے برہان پور پہنچنے کے بعد تجر بہ کارامیروں کو محاصرہ کرنے اور مورچے باندھنے کے لیے جگہ جگہ متعین کر دیا۔

بادشاہی فوجوں نے قلعے کی تعمیر کے لیے اپنی ساری قوت لگا دی۔ اس کے باوجود قلعے کی تعمیر میں چار پانچ سال کا عرصہ لگ گیا۔

مظلوں کی راہ روکنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ شہزادہ دانیال کسی مزاحمت کے بغیر احمد نگر پہنچ گیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ وہ کوئی قاصد کسی طرف نہیں دوڑا سکتی تھی۔ وہ شاہی جرم سرا کی دیواروں کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور قلعے کی دیواروں کو پار کر گیا۔ چاند بی بی کی آنکھیں پھینک گئیں۔ یہ پرندہ قلعے کے باہر جاسکتا ہے لیکن میں نہیں جاسکتی۔ حالات نے مجھے کتنا حقیر بنا دیا ہے۔ جن گھروں میں نا اتفاقیاں ہوں، ان گھروں کا یہی حال ہوتا ہے۔

مغل فوجیں لقب لگا رہی تھیں۔ سرگلیں کھودنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں قلعہ فتح ہو جائے گا اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے ایک سالار چنید خاں خواجہ سرا کو بلا لیا۔

”دکن کے امراء کی سرکشی کا نتیجہ ہے کہ اکبر بذات خود دکن کی طرف آیا ہے۔ ظاہر ہے چند دنوں میں قلعہ فتح ہو جائے گا۔“

”چاند سلطان، جو ہوا سو ہوا۔ آپ اظہار رائے فرما لیں۔“

”میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں قلعہ شہزادہ دانیال کے سپرد کر کے اپنی جان بچانی چاہیے اور خود ”جیر“ پہنچ کر

تھوڑی بہت روشنی میں آدمیوں کا بہت بڑا انبوه نظر آیا۔ خان خاناں کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سہیل خان بالکل سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ اس کا پڑاؤ ایک گولے کی زد پر ہے۔ تو پچیس بارود سے بھری تیار کھنڑی تھیں۔ اس نے حکم دیا اور آتش بازوں نے روشنی کا نشانہ لے کر فیتلہ دکھا دیا۔ دکنیوں کے ہتھے میں اچانک جو گولے آکر گرے تو انتشار پھیل گیا۔ ان گولوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جس کو جہاں موقع ملا جا کر چھپ گیا۔ خان خاناں نے فائر چیلوں کو حکم دیا کہ وہ فتح کے شادیاں بجا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مغل سپاہی جو رات گزارنے کے لیے غاروں میں چھپ گئے تھے اس آواز پر دوڑے چلے آئے اور خان خاناں کے گرد جمع ہو گئے۔ اس سنان رات میں فٹاروں کی آواز دور دور تک پہنچ رہی تھی۔ بار بار فٹارے بچے تو مظلوں کی جو جماعت بھاگ گئی تھی، وہ بھی واپس آنے لگی۔ دکنیوں پر ہر اس طاری ہو گیا کہ فتح کے شادیاں کون بجا رہا ہے۔ جو سا ہی دور تھے، وہ یہ سمجھے کہ مظلوں کو فتح مل گئی ہے۔ وہ واپس آنے کے بجائے گولوں کھدروں میں چھپ گئے یا قریب کے دیہات میں چلے گئے۔ اس کے باوجود سہیل خان کے اطراف بارہ ہزار سوار جمع ہو گئے۔ خان خاناں کے پاس بھی چار ہزار مغل جمع ہو گئے۔ رات کا اندھیرا ابھی دن میں تبدیل نہیں ہوا تھا کہ خان خاناں نے سبقت کر کے دشمن پر حملہ کر دیا۔

جب مغل جنگجو جنگی لٹیرے لگاتے ہوئے دشمن کی طرف دوڑے تو رات کے اندھیرے میں اسے تعداد کا اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ یہی سمجھے کہ مظلوں کی پوری فوج آگئی۔ ازاں کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں۔ سیکڑوں زخمی ہوئے یا قتل ہو گئے۔ اس جنگ میں سہیل خان بھی زخمی ہوا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اندھیرے میں کوئی اسے پہچان نہ سکا ورنہ گرفتار ہو گیا ہوتا۔ اس کے سامنے اسے لے کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔

خان خاناں اس فتح کی خبر لے کر شہزادہ مراد کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں نظام الملک کے قلعے کاویل، کھیرلہ اور قلعہ پرنا لہ سمیت کئی علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔

چاند بی بی اور دکن کے امراء کے درمیان اقتدار پر قبضے کے لیے رساکشی جاری تھی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ اس انتھار کی بدولت بہ آسانی پورے دکن پر قبضہ ہو سکتا تھا لیکن

خداوند تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔“

جید خاں کو چاند بی بی کی یہ رائے اتنی ناپسند ہوئی کہ فوراً حرم سرا سے باہر آیا اور تمام اہل قلعہ کو جمع کر کے بلند آواز سے پکارا۔

”چاند بی بی نے اکبری امراء سے ساز باز کرنی ہے اور قلعہ شہزادہ وانیال کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔“ اہل قلعہ یہ سن کر فوراً اشتعال میں آگئے اور ہلا بول کر حرم سرا میں داخل ہو گئے۔

چاند بی بی اس وقت تک مردانہ لباس زیب تن کر کے جبر جانے کی تیاری کر چکی تھی کہ یہ لوگ اندر آئے۔ اس نے ہتھیار ابھی باندھے بھی نہیں تھے کہ مقابلہ کرتی، نہایت بے رحمی سے قتل کر دی گئی۔ جن کو بچانے کے لیے نکل رہی تھی، انہی کی بھیٹ چڑھ گئی۔

نقشب میں بھری بارود نے قلعے کی دیواریں گرا دیں۔ مغلوں نے اندر داخل ہو کر تمام دکنوں کو گرفتار کر لیا۔ شہزادہ وانیال نے جواہرات اور خزانے پر قبضہ کر لیا اور قلعے کو اپنے امیروں کے حوالے کر کے اکبر کے پاس برہان پور چلا گیا۔

☆☆☆

جس زمانے میں اکبر دکن کی جہم پر روانہ ہو رہا تھا اس نے جہانگیر شہنشاہ کہہ کر مخاطب کیا تھا اور اپنا ولی عہد بنا کر اسے چوڑے رانا کی سرکوبی کے لیے متعین کر دیا تھا۔

شہزادہ سلیم (جہانگیر) نے اجیر علی خاں کو رانا پر حملہ کرنے کے لیے فوجوں کو متعین کر دیا اور خود اس علاقے کی سریشکار میں مشغول ہو گیا۔

جب رانا کو ہادشاہی فوجوں کے پہنچنے کی اطلاع ملی تو اس نے سرکار کے چند محال اور تعلقوں کو لوٹ لیا لیکن جیسے ہی مغل فوج کے بہادر چاروں طرف سے اس کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہ سرا سیمہ ہو کر پہاڑوں میں بھاگ گیا۔ مغل فوج نے تمام شہر پسند آبادیوں کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے پامال کر دیا اور کافروں کے اہل دعیال کو گرفتار کر کے ان کے مال و اسباب ضبط کر لیے۔

ابھی اس پورش پر پوری طرح قابو بھی نہیں پایا جا سکا تھا کہ اس کے دکیل کی جانب سے اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کی محبوبہ مہرالنسا (نور جہاں) کی شادی علی گلی نامی ترک سے کر دی گئی ہے اور اسے شیر افکن کا خطاب دیا گیا ہے۔

وہ اب تک باپ کی طرف سے ہونے والی عنایات پر خوش تھا کہ اسے دلی عہد بنایا۔ اجیر کی جاگیر عطا کی اور اس پر اتنا اعتبار کیا کہ رانا سے مقابلے کے لیے بھیجا لیکن یہ

خبر سنتے ہی سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے ساتھ دھوکا کیا گیا تھا۔ اسے جان بوجھ کر آگرہ سے دور بھیجا گیا اور اس کی غیر موجودگی میں مہرالنسا اس سے چھین لی گئی۔ مجھے یہ جاگیر، یہ دلی عہد کی نہیں چاہیے۔ مجھ سے مہرالنسا کیوں چھینی گئی؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ اس کے کئی ہمراہی اس کے خیمے میں آ گئے۔ ابھی وہ خیمے میں تو تھا ہی۔ باپ کے خلاف جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ سب دم سادھے اس کی نفرت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے سمجھاتا۔ پھر جیسے جہانگیر نے خود ہی موقع دے دیا۔

”بنگال کے زمینداروں کی شورش کی اطلاع ملی ہے کہ وہاں سرکشوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ میں اپنی ذات سے زیادہ ملک کی فکر کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟“ بولنے کی خود دعوت دے دی تو ان خوشامدیوں اور رفتہ پر دازوں کو موقع مل گیا۔

”بنگال کی جہم پر تو مان سنگھ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ کو تو اس وقت کسی بڑے منصوبے کی فکر کرنی چاہیے۔“ ”اس منصوبے سے تمہارا مقصد علم بغاوت بلند کرنا تو نہیں؟“

”یہ علم آپ بلند نہیں کریں گے۔ یہ علم تو ہادشاہ سلامت پہلے ہی بلند کر چکے ہیں۔ آپ کی پسند کسی اور کے حوالے کر کے انہوں نے آپ کو بغاوت کی دعوت دے دی ہے۔“

”یہ ہم نے بھی سوچا تھا لیکن کیا تمہیں غل اٹھی کی طاقت کا اندازہ ہے۔ کیا ہم ان سے ٹکرا سکیں گے؟“ ”بادشاہ سلامت تو کتنے ہی سوئے چھوڑ کر دکن جیسے دور دراز مقام پر گئے ہوئے ہیں۔ آپ آگرہ پہنچ کر تمام سیر حاصل پر گنوں پر قبضہ کر سکتے ہیں اور خزانہ اکٹھا کر کے قائمہ حاصل کر سکتے ہیں۔“

کوئی اور موقع ہوتا تو وہ سب جہانگیر کے زیر عتاب آجاتے لیکن اس وقت اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ مہرالنسا سے بچھڑنے کا افسوس تھا، باپ کے خلاف غصہ تھا۔ ایسے میں یہ مشورے اسے صائب معلوم ہوئے۔ یہ گھمنڈ بھی ہوا کہ میرا ساتھ دینے والے موجود ہیں۔

اس نے راجا مان سنگھ کو بنگال کے انتظام کے لیے روانہ کیا۔ رانا کی جہم ملتوی کی اور آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں تمام شاہی قلعے اور جاگیرداروں کے علاقے قبضے میں لیتے ہوئے قلعہ آگرہ کے سامنے جا کر پڑاؤ ڈال دیا۔

باپ بن کر سوچا۔ اس نے نہایت مخلصانہ فرمان لکھا اور قاصد کے حوالے کر دیا۔ زبانی بھی محبت آمیز کلمات کہے اور شہزادے کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے تاکہ مفسدوں کو موقع نہ مل سکے۔ قاصد بھی اسے بنایا جو شہزادے کا ہم سبق اور مکمل کوہ کا ساتھی تھا۔

قاصد محمد شریف آیا تو شہزادے نے آداب شاهی کے مطابق اس کا استقبال کیا۔ شاهی فرمان ملاحظہ کیا اور اس کے جواب میں باپ کے پاس جانے کا دل میں ارادہ کر لیا۔ فرمان کو مشورے کے لیے ساتھیوں کے سامنے رکھا۔ سب کا مشورہ یہی ہوا کہ شہزادہ ابھی بغاوت سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ نا تجربہ کار شہزادہ جوانی کے جوش میں ان کی باتوں میں آ گیا اور باپ کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ محمد شریف کو اپنے پاس روک لیا اور اپنا دلیل السلطنت بنا لیا۔

جب قاصد واپس نہ آیا اور یہ معلوم ہوا کہ شہزادے نے اسے روک لیا ہے تو اکبر کو معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ دکن کی مہم قریب الختم تھی اور یہ امید تھی کہ بہت جلد یہ شہر اور قلعے اس کے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس کے باوجود اکبر نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ شیخ ابوالفضل کو برہان پور میں متعین کر کے آگرہ کی طرف کوچ کر گیا۔

اس کا دل جانتا ہوگا کہ وہ کیا سوچتا ہوا آگرہ کی طرف جا رہا تھا لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ کوچ کی خبر سننے ہی جہا تکبر نے زیادہ سے زیادہ فوج جمع کرنی شروع کر دی۔

جتنی دیر میں اکبر آگرہ پہنچتا جہا تکبر بھی چالیس ہزار سواروں اور جنگی سامان کے ساتھ آگرہ کی طرف چل دیا اور شہرت یہ دی کہ وہ باپ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کا لشکر صاف بتا رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔

جب سے شہزادہ الہ آباد سے روانہ ہوا تھا، اکبر کو اس کے کوچ کی خبریں برابر مل رہی تھیں۔ جن امیروں کی جاگیروں پر شہزادے نے قبضہ کیا تھا، ان کی فریادیں برابر بادشاہ کے حضور پہنچ رہی تھیں۔ یہ اتنی بڑی نافرمانی تھی کہ جو جاگیروں بادشاہ نے عطا کی تھیں، شہزادہ انہیں چھینتا چلا آ رہا تھا۔

جب یہ فریادیں حد سے بڑھنے لگیں تو بادشاہ کو بھی تشویش ہوئی۔ اس نے ایک مرجعہ پھر بیٹے کے نام خط لکھا۔

”اس فرزند کے دیدار کا اشتیاق حد سے زیادہ ہے لیکن اس شان و شکوہ کے ساتھ اس کا آنا ہمارے دل پر شاق گزر رہا ہے۔ اگر اس کا مطلب اظہارِ جمل اور لشکر کا مظاہرہ ہے تو یہ بات بخوبی ظاہر ہو چکی۔ اب بہتر یہ ہے کہ اس بھیڑ بھاڑ کو ہٹاؤ۔ لوگوں کو ان کی جاگیروں پر رخصت

اکبر کی والدہ مریم میکانی (حمیدہ بانو بیگم) شہزادے کو فرزند سے زیادہ چاہتی تھیں۔ اس کے ارادے کو سن کر باہر نکل آئیں۔ ان کی سواری شہزادے کے خیمے کے سامنے آ کر رکی تو شہزادہ گھبرا کر خیمے سے باہر نکل آیا اور اپنی دادی کو نہایت احترام سے خیمے کے اندر لایا۔

”تم اپنی دادی کا تو اتنا احترام کر رہے ہو لیکن وہ باپ جس نے ہزار منتوں سے تمہیں حاصل کیا، تمہیں مانگنے انجیر تک پاپیادہ گیا، اس کے فرمان پر چلنے کو تیار نہیں۔ اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گیا یہ تمہیں زیب دیتا ہے؟“

”کیا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہماری محبوب ہستی ہم سے چھین لی۔“

”تم اگر مہرالنسا کی بات کر رہے ہو تو ہم تم سے یہ کہیں گے کہ ایک عورت کے لیے باپ کے خلاف صف آرا ہونے سے ہوا۔“

”وہ محض عورت نہیں ہماری محبت ہے۔“

”اگر باپ نے ایک کھلونا نہیں دلا یا تو تم گھر کو آگ لگا دو گے۔ اس سے پہلے کہ باپ کو خبر ہو واپس چلے جاؤ اور جس جہم پر تمہیں بھیجا گیا ہے اسے انجام دو۔ باپ کی خوشنودی میں تمہاری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔“

شہزادہ شرمندہ تو بہت ہوا لیکن اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ خاص خاص آدمیوں کے ساتھ لشکر میں سوار ہوا اور الہ آباد پہنچ گیا۔ اس کا لشکر خشکی کے راستے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔

الہ آباد پہنچنے کے بعد اس نے یہ جسارت کی کہ شاهی قلعے اپنی سرکار کے آدمیوں میں ترقی، اضافہ اور خطاب دے کر تقسیم کر دیے اور ہر جگہ اپنے حکام مقرر کر کے خود مختار بن گیا۔ بادشاہی خزانے میں نقد تیس لاکھ روپے تھے جو وہ اپنے تصرف میں لے آیا۔

اس خبر کو دکن کی لشکر گاہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ سلیم سے بادشاہ کی محبت نے یہاں بھی اس کے قدم روک لیے۔ مشورے تو یہ مل رہے تھے کہ شہزادے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے لیکن اس کی پدرانہ شفقت کچھ اور کہہ رہی تھی۔ دو بیٹوں کے انتقال سے اس کا دل پہلے ہی داغدار تھا۔ مراد بھی چلا گیا تھا، دانیال بھی انتقال کر گیا تھا۔ اب ایک سلیم (جہا تکبر) ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس کی بغاوت پر رشیدہ ضرور تھا لیکن ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اسے طرح طرح کے مشورے مل رہے تھے لیکن اس نے وہ کیا جو اس کے دل سے نکلا۔ اس نے بادشاہ اکبر کو ایک طرف رکھ دیا اور

کر دو اور مقرر طریقے پر جریدہ پہنچ کر باپ کی منتظر آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور اگر بدخواہوں کی ہرزہ سرائی سے تم کسی دوسرے اور اندیشے میں گرفتار ہو تو یقین کرو، ہمارے دل میں تمہاری طرف سے کوئی میل نہیں ہے۔ تم الہ آباد واپس چلے جاؤ۔ جس وقت تمہارے دل سے یہ دہم نکل جائے، خدمت میں حاضر ہو جانا۔“

یہ خط شفقت کے قلم سے لکھا گیا تھا لیکن اسے اس میں بھی سازش کی بو آ رہی تھی۔ جب دل صاف نہ ہو تو سوئی بھی بھالا معلوم ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اسے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ اپنے آدمیوں کو جہاں چاہے متعین کر دے اور خود ملک کے نظم و نسق میں مصروف ہو جائے۔ اس سے شہزادے نے یہ مطلب نکالا کہ بادشاہ اسے اکیلا کر دینا چاہتا ہے۔ میں اپنے سرداروں کو کہیں اور متعین کر کے خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ جو بادشاہ مجھ سے مہر النسا چھین سکتا ہے، وہ میری طاقت چھیننے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ سردار ہی تو میری طاقت ہیں۔ ہمارے سردار اور ہماری فوج ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ اتنا وہ ہی میں ٹھہرا رہا کہ کوچ کر کے وہاں تک آچکا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک عرضداشت بادشاہ کی خدمت میں بھیجی۔

”میرا تو ارادہ صرف حضور سے ملاقات کرنے کا تھا اور جو باتیں موقع طلب لوگ بناتے ہیں، ان کا خیال تک میرے دل میں نہیں گزرا ہے۔ اب جبکہ آپ کا حکم صادر ہو گیا ہے، میں اطاعت امر کو واجب سمجھتا ہوں اگرچہ کچھ روز کے لیے حضور سے جدا رہنا پڑے گا۔“

اس کے بعد شہزادے نے الہ آباد کی طرف کوچ کر دیا۔ اس کے واپس ہوتے ہی اکبر نے ازراہ شفقت صوبہ بنگال اور اڑیسہ کو شہزادے کی جاگیر میں دے دیا اور وہاں کی صوبہ داری بھی اسے عطا کر دی۔

الہ آباد میں شہزادہ اسی طرح ٹھہرا رہا اور بادشاہوں کی طرح جاگیروں کے عطا کرنے، خطاب اور تقاریر دینے اور امیروں کو محاللات پر مقرر کرنے میں مشغول رہا۔

وہ الہ آباد میں رہ کر بادشاہت ضرور کر رہا تھا لیکن پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے اب بھی کھٹکا لگا ہوا تھا کہ نہ جانے کب کس کے بہکادے میں آکر آنکھیں پھیر لے۔ اسے یہ خدشہ یونہی نہیں تھا۔ اب دربار اکبری پہلے کی طرح نہیں رہا تھا۔ اب اس کے گرد ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے جنہوں نے اسے گمراہ کر کے بے دین کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے دین الہی کے نام سے ایک

مذہب خود ایجاد کر لیا تھا۔ فیضی اور ابوالفضل اس کی گمراہی میں برابر کے شریک تھے۔ یہ دونوں شیخ مبارک کے بیٹے تھے۔ یہ شخص فلاسفہ کی کتابیں پڑھ کر دہریہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ بے دینوں کا پیشوا بن گیا۔ اس کے بیٹے بادشاہ کے اکثر مصاصیحوں اور مقریوں کے مقتدا بن گئے۔ پھر ان لوگوں نے اکبر کے مزاج کو بھی ایسے رخ پر ڈال دیا کہ لوگوں میں اس کی ذات بھی ہدف بن گئی۔

☆☆☆

اکبر جب دکن سے آگرہ واپس آیا تھا تو ابوالفضل کو برہان پور میں چھوڑ آیا تھا۔ اب شہزادہ سلیم (جہانگیر) کے جاسوسوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ابوالفضل بادشاہ کے طلب کرنے پر دارالحکومت جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ اطلاع اسے اس وقت پہنچائی گئی جب وہ شراب کی ایک محفل میں سر سے پاؤں تک نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس اطلاع نے اس کا نشہ اور بڑھا دیا۔ اس کے دل میں یہ خیال پہلے ہی سے موجود تھا کہ ابوالفضل جیسے لوگوں نے بادشاہ کو بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے دین الہی کے نام سے نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اکبر کو خوش کرنے کے لیے درباری امراء بھی اسی رنگ میں رنگ گئے تھے۔

شہزادہ، اکبر کی زندگی کے اس پہلو سے ناخوش تھا اور اس کا ذمے دار ابوالفضل کو سمجھتا تھا۔ اب جو اس کے دارالحکومت کی طرف جانے کی خبر سنی تو ضرور یہ سمجھا کہ اگر وہ بادشاہ تک پہنچ گیا تو اس کے خلاف ریشہ وائیدوں سے باز نہیں آئے گا۔ بادشاہ کا دل اس کی طرف سے پھیر دے گا۔ ”وہ آگرہ تک نہیں پہنچے گا۔“ اس نے نشے کی بوجھل آواز میں کہا۔ محفل پر خاست گردی اور راجا نرسنگ راؤ کو اپنے حضور طلب کیا۔

”مجھے تمہاری بہادری اور وفاداری پر ناز ہے۔“

جہانگیر نے نشے میں ڈولتے ہوئے کہا۔

”حضور کی ذمہ داری ہے۔“

”اس وقت ہم نے تمہیں ایک خاص کام سے بلایا ہے جسے کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔“

”میں حضور کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا۔“

”یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم ابوالفضل سے واقف ہو یا نہیں۔ میرے باپ کو بہکانے والوں میں ابوالفضل سرفہرست ہے۔ اس شخص کی وجہ سے مملکت کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارے خلاف حکایتوں کا پشاور لے کر دارالحکومت جا رہا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اسے دارالحکومت تک نہ پہنچنے دو۔ تم اس کے گوالیا رہنچنے

سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور راستے ہی میں اسے روک کر اس کا کام تمام کر دو۔“

”ایسا ہی ہوگا۔“

”خیال رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔“

”میرے اچانک غائب ہوجانے پر شک تو ہوگا۔“

”اس کا سدباب کرنا تمہارا کام ہے۔“

راجا نے اثبات میں گردن ہلائی۔ شیخ ابو الفضل سے اس کی پرانی دشمنی تھی اور اب اسے انتقام لینے کا بہترین موقع مل رہا تھا۔ اسی لیے وہ اتنی جلدی رضامند ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے وطن جانے کا بہانہ کیا اور شہزادے سے رخصت ہو کر حسب الحکم گوالیار پہنچ گیا اور شیخ ابو الفضل کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے با اعتماد آدمیوں کو اس راستے پر چھپا رکھا تھا جہاں سے ابو الفضل کو گزرنا تھا۔

شیخ ابو الفضل ایک چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ گوالیار کے قریب پہنچا تھا کہ راجا کے آدمیوں نے جو گھات لگائے پیٹھے تھے، حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ ابو الفضل کو فرار کا موقع نہ مل سکا۔ موقع پر ہی اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں میں سے بھی کچھ قتل ہوئے کچھ فرار ہو گئے۔

اس سانحے کی اطلاع اکبر کو ملی تو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ اطلاع دینے والے نے راجا نرسنگ راؤ کا نام لیا تھا اور راجا نرسنگ اس وقت جہانگیر کی ملازمت میں تھا۔

اطلاع ملتے ہی کرا اکبری کی گرجا دار آواز سے گونج اٹھا۔

”گستاخ سلیم نے جلال اکبری کو آواز دی ہے۔ اس نے ہماری نری کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم اپنی فوجوں کو حکم دیں گے کہ وہ سلیم کا سرتار کر ہماری خدمت میں پیش کرے۔“

جہانگیر کی خوش قسمتی کہ اکبر اس وقت اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے اکبر کی گرج سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئیں۔

”بیٹا، کیا میں نے اپنے پوتے کو اسی دن کے لیے گودوں میں کھلایا تھا کہ وہ جوان ہو تو اس کا باپ اسے قتل کرنے کی باتیں کرے۔“

”آپ دیکھ رہی ہیں کس نے کیسی مذموم حرکت کی ہے۔“

”بے شک! یہ قتل ہوا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ قتل اس کے حکم سے نہ ہوا ہو۔ اگر اس کے حکم سے ہوا بھی ہے تو ابو الفضل اور میرے سلیم کا کوئی مقابلہ نہیں۔“

”اکبر کے عدل کا تقاضا ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے۔“

”ہم غمناک نہیں ہوتے۔“

”اگر اسی طرح غمناک ہوا ہوتا رہا اور ہمارے امراء قتل ہوتے رہے تو جلال اکبری کا خوف کسے رہے گا۔“

”سلیم ابھی بچ رہا ہے اور مفردوں میں گھرا ہوا ہے۔ اسے پیار سے سمجھایا جاسکتا ہے۔“

”اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سمجھا کر دیکھ لیا۔ حنا یا ت کی بارش کر کے دیکھ لیا۔ وہ کسی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں۔“

”تمہارے سمجھانے کی بات اور ہے ہمارے سمجھانے کا اثر دوسرا ہوگا۔ اس سے ہماری ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔“

”اب کوئی فائدہ نہیں۔“

”ہم تمہاری ماں ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔“

اکبر نے گردن جھکا دی۔ اس نے اقرار بھی نہیں کیا کہ ملاقات کرائی جائے گی، انکار بھی نہیں کیا اور ماں کے پاس سے اٹھ گیا۔ یہاں سے اٹھ کر شہزادے کی سوتیلی والدہ سلیمہ سلطان بیگم کے محل میں پہنچا۔ یہ خاتون دانائی اور سخن سنجی میں بے مثل تھیں۔ اکبر کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، وہ ان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی مقصد سے وہاں پہنچا تھا۔ غصے میں بھرا ہوا تو تھا ہی، شہزادے کو غائبانہ خوب سخت سب سنائیں۔ والدہ سے جو باتیں ہوئی تھیں، وہ بھی دہرا دیں۔

”آپ نے تمام باتیں سن لیں۔ اب آپ فرمائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔“

”مریم مکانی درست فرماتی ہیں۔“ سلیمہ سلطان نے کہا۔

”جوانی کا غصہ ہے، سمجھانے ہی سے ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔“

”اسے کس بات کا غصہ ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا۔“

”وہ مہرالنسا کو نہیں بھول سکا ہے۔“

”مریم مکانی بھی یہی فرماتی ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ سب کے حواس پر مہرالنسا کیوں ہوا ہے۔“

”اس لیے کہ مہرالنسا شہزادے کی ضد بن گئی ہے۔ اس کی یہ ضد کسی بھی طوفان کا ٹپش خمیہ بن سکتی ہے۔ طوفانوں کے رخ تلواروں سے نہیں، تدبیر سے موڑے جاتے ہیں۔“

”یہ تدبیر ہی تو تھی کہ ہم نے مہرالنسا کی شادی کرادی۔“

الہ آباد واپس چلے جائیں۔ ہم نے ان کے حکم پر سر جھکایا اور الہ آباد چلے آئے۔
 ”تم چالیس ہزار کے لشکر کے ساتھ آئے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ تمہارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا۔ باپ بیٹوں کی ملاقات نکو اوروں کے سائے میں نہیں ہوتی۔“
 ”اگر تمہا جائیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہمیں قید نہیں کر لیا جائے گا؟“

”تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تمہاری وادی ہوں اور یہ تمہاری والدہ۔ کیا یہ ضمانت کافی نہیں؟“
 شہزادہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے ابوالفضل کے قتل کے بارے میں باز پرس ہوگی لیکن جب ساری گفتگو میں قتل کا نہیں ذکر نہیں آیا تو وہ کچھ نرم پڑ گیا۔ پھر دونوں خواتین نے ضمانت بھی لی تو وہ آگرہ آکر باپ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو گیا۔

دونوں خواتین اس سے وعدہ لینے کے بعد آگرہ واپس آگئیں اور یہ انتظار ہونے لگا کہ شہزادہ کب آگرہ کی جانب کوچ کرتا ہے۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ شہزادے نے کوچ کر دیا ہے۔

جاسوس پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ جب شہزادے کی سواری دارا گھلاف سے ایک منزل دور رہ گئی تو مریم مکانی خود اس کے استقبال کے لیے گئیں اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے اپنے محل میں اتارا۔

باپ اور بیٹا عرصہ دراز کے بعد ایک شہر میں تھے لیکن ابھی آمناسا مانتا نہیں ہوا تھا۔ پہلے یہ سوچا گیا کہ سلیم، اکبر سے ملاقات کے لیے جائے لیکن مریم مکانی کی بوڑھی آنکھوں نے بڑی دور تک دیکھا۔ اگر شہزادہ ملاقات کے لیے خود گیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ بیٹے باپ سے ملنے جایا ہی کرتے ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے سے ملنے آئے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ اسے عداوت ہے لہذا ابھی فیصلہ کیا گیا کہ اکبر خود اس سے ملنے آئے۔

باادب با ملاحظہ کی صدا کی بلند ہوئیں۔ بابا جانی خود اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی لمحے جلال الدین محمد اکبر مغل اعظم شہنشاہ ہند اس کے سامنے تھا لیکن اس وقت وہ بادشاہ نہیں باپ تھا۔ چہرے پر شفقت کی نری، بازو پھیلے ہوئے۔ شہزادے نے تنظیم میں اپنا سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔

”جان پدر! اپنے باپ کو معاف نہیں کر دے؟“
 ”مغل اکی اکیوں ہمیں گناہ گار کرتے ہیں۔“

”یہ تدبیر نہیں غلطی تھی۔ ہم نے اس وقت آپ کو سبھانے کی کوشش کی تھی، اب سلیم کو سبھانے کا وقت ہے۔“
 ”آپ کے بھول وہ ہماری غلطی تھی، کیا اب وہ غلطی واپس ہو سکتی ہے؟ اسے مہر النساء کے بغیر ہی ہمارا فرمانبردار بننا ہوگا۔“

”اگر غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا تو ضروری نہیں کہ ایک اور غلطی کی جائے۔ بچے جب روتے روتے تھک جاتا ہے تو چاہتا ہے کوئی اسے چپ کرانے۔ یہی حال سلیم کا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مریم مکانی کے ہمراہ ہم بھی سلیم کے پاس جائیں اور اسے سبھائیں۔“

اکبر نے بادل ناخواستہ اجازت دے دی۔ دونوں خواتین روانہ ہوئیں۔ اکبر نے خاصہ کے ایک مشہور ہاتھی ”فتح لشکر“ نامی خلعت جو اہرات اور دوسرے تحفے بیٹے کے لیے بھیجے۔

یہ دونوں خواتین الہ آباد پہنچیں تو شہزادے نے نہایت ادب اور خوش دلی سے استقبال کیا۔ ان میں سے ایک وادی تھی اور ایک والدہ۔ شہزادے نے دونوں کا استقبال فرض تھا لیکن جس کیفیت سے وہ گزر رہا تھا اور سب کو اپنا ذہن سمجھنے لگا تھا، اس کی روشنی میں ایسا استقبال حوصلہ افزا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کم از کم ان دونوں خواتین کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ ہے اور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ گفتگو شروع ہوئی تو آغاز وادی نے کیا۔

”بیٹا جو روش تم نے اختیار کی ہے وہ تمہارے باپ کو بہت رنج پہنچا رہی ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا دل سلطنت کے کاموں کی طرف سے ہٹا جا رہا ہے۔ چنداں یہی حالت رہی تو مفسدوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ دل کتنے خوش ہوں گے جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ باپ بیٹوں کے درمیان یہ رنج برقرار رہے۔“

”انہیں ہمارا نہیں رعب شاہی کے اٹھ جانے کا رنج ہو رہا ہوگا۔“

”تم ایک عورت کے لیے اپنے والد سے بدگمان ہو رہے ہو۔“

”مہر النساء عورت نہیں، ہماری محبت ہے۔“
 ”مغل شہزادوں کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی محبت کے لیے ملک کا سکون غارت کر دیں۔ جانتے ہو ملک میں شورش بڑھ رہی ہے۔“

”یہ شورش ہم نے نہیں، انہوں نے پیدا کی ہے۔ ہم تو ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ ان کا حکم ہوا کہ ہم

رہے ہیں۔ میری سبکی ہو رہی ہے۔ سخن طرازیوں کو دراندازیوں کا موقع مل رہا ہے۔ یہ مرید تو مرشد اور قبلہ گاہ کے حکم کو حکم آخر جانتا ہے چنانچہ حسب فرمان یہاں آکر ٹھہرا ہوا ہے اور چند دن سے برابر انتظار کر رہا ہے لیکن اب تک ساز و سامان کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ یہ بات دنیا پر روشن ہے کہ رانا کی مہم کے اس قدر وسیع ملک میں دشوار گزار پہاڑوں پر فوج کبھی کرنی پڑے گی۔ روپے کے بغیر اور لشکر و توپ خانے کے خاطر خواہ انتظام کے بغیر یہ مہم سرانجام نہیں پاسکتی۔ ان انتظامات کے لیے بار بار منت سماجت کرنے سے آپ کو بھی ملال ہوگا اور مجھے بھی سخت ہوگی۔ اس لیے حضور مجھے کچھ عرصے کے لیے جاگیر پر جانے کی اجازت دے دیں تاکہ وہاں جا کر لڑائی کی خاطر خواہ تیاری کر لوں۔“

اس عرضداشت کے بعد بادشاہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ اس کی چچی بخت النساء بیگم کو ایک دو محرم راز امیروں کے ہمراہ روانہ کیا۔ انہوں نے بھی سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ مجبور ہو کر بادشاہ نے اسے الہ آباد جانے کی اجازت دے دی۔

شہزادہ سلیم کوچ پر کوچ کرتا ہوا الہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اس مرتبہ بھی اس کے پاس تحائف روانہ کیے۔ شہزادے نے لشکر امیر الفاظ کا تبادلہ ضرور کیا لیکن اپنا رویہ نہیں بدلا۔

الہ آباد میں اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ الہ آباد پہنچنے ہی اسے خوشامد یوں نے گھیر لیا۔ اس کے نادان دوست اسے ہر وقت شراب اور افیون میں غرق رکھنے کے لیے موجود تھے۔ اس نشے میں اس سے عجیب و غریب حرکتیں سرزد ہو جایا کرتی تھیں۔

بادشاہ تک یہ خبریں برابر پہنچ رہی تھیں لیکن وہ اپنی محبت سے مجبور تھا۔ اسے خوش رکھنے کے لیے تحفے تحائف بھیجتا رہتا تھا۔ بادشاہ کی نرمی نے اسے بے خوف کر دیا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ بات محفوظ ہو گئی تھی کہ شاید بادشاہ اس سے ڈرتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا رہے، بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا۔

☆☆☆

ایک خوب صورت لڑکا شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملازمت کا خواہشگاہ ہوا۔ لڑکا کیا تھا پری ہیکر تھا۔ کسی مصور کا شاہکار تھا۔ خوب صورت بھی تھا، نازک اندام بھی۔ نسوانی ادائیں تھیں۔ سبزے کا ابھی آغاز ہوا

معافی تو ہمیں طلب کرنی چاہیے۔ نادانستگی میں ہم نے آپ کا دل دکھایا۔“

”ہم سے جو کچھ سرزد ہوا تمہاری اور مملکت کی بہتری کے لیے ہوا۔ ہمارے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ہم غلط نہیں۔“

”ہم شرمندہ ہیں۔“

”چچتا دابھیں بھی کم نہیں لیکن ہم نے اس وقت جو بہتر سمجھا، وہ کیا۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہمارا ضدی بیٹا ہمارے فیصلے پر اتنا ناخوش ہوگا۔“

”آپ خود تشریف لائے، میں نے ہر گز فراموش کر دیا۔“

شہزادے نے نذرانے میں ہزار مہریں اور سات ہاتھی پیش کیے۔ اکبر نے بھی بیٹے کو ہاتھی دیا اور طرح طرح کے جواہرات اور مرصع سامان عطا فرمایا۔ اپنی پگڑی سر سے اتار کر بیٹے کے سر پر رکھ دی۔ دوبارہ مستقل دلی عہدہ دینے کا اعلان کر دیا اور شاد دیا نے بہانے کا حکم ہوا۔

ملاقات کا یہ جشن سات روز تک جاری رہا۔ پورا آگرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں۔ امراء اور سرداروں کو خطابات سے نوازا جاتا رہا۔

سات دن سات ساعتوں کی طرح گزر گئے۔ جشن سے فراغت کے بعد اکبر کو اس مہم کا خیال آیا جسے چھوڑ کر شہزادہ الہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر شہزادے کو رانا کی مہم پر مامور کر کے نامور امراء کی ایک جماعت کے ساتھ رخصت کیا گیا۔

سازشیوں کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ باپ بیٹوں میں اتفاق ہو جائے۔ انہوں نے شہزادے کے رخصت ہوتے ہی سازشوں کے جال پھیلانے شروع کر دیے۔

جہاں گھیرنے پہلا پڑا اور پور سیکری میں رکھانا کہ خزانہ اور لشکر جس کی منظوری دی جا چکی تھی، وہاں پہنچ جائے۔ شاعی کارندوں نے جان بوجھ کر تاخیر کی۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ نہ خزانہ پہنچا نہ لشکر۔ دن پردن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب زیادہ ہی دن گزر گئے تو اس کے دل میں بادشاہ کی طرف سے بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ اس نے یہی سمجھا کہ بادشاہ پھر کسی کے بہکادے میں آ گیا ہے اور اسے مہم پر بھیج کر کچھ تار رہا ہے۔

اس نے بادشاہ کے نام خط لکھا۔

”آخر اس بندے کا تصور کیا ہے کہ سرکار کے دفتر کی آواز مٹتے ضروری سامان مہیا کرنے میں اس طرح سستی کر

تھا۔ چمپئی رنگ سیاہ زلفیں دباتوں میں مٹھاس۔ شہزادہ اسے دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس کی قابلیت سے زیادہ اس کے حسن پر مرعہ اور اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیا۔ اس نے بھی دولت کے لالچ میں شہزادے کو رجھانا شروع کر دیا۔ شہزادہ بھی اس پر ایسا عاشق ہوا کہ اس لڑکے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ باوقار امراء ایک معمولی لڑکے کے ہر وقت شہزادے کے ساتھ رہنے سے سخت نالاں تھے لیکن وہ شہزادہ تھا، خود مختار تھا اسے کون روک سکتا تھا۔ یہ ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی شکایتیں دربار تک پہنچائی جا رہی تھیں۔ ان شکایتوں کا علم شہزادے کو بھی تھا۔ ان شکایتوں سے بچنے کے لیے اس نے بادشاہ کے مقرر کردہ بہترین جاگیرداروں کے تبادلے شروع کر دیے۔

عبداللہ خاں کو شہزادے نے ہی ترقی دی تھی اور بلند مراتب پر پہنچایا تھا۔ وہ خلوت میں شہزادے کو سمجھاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں تو شہزادے کو بتائے بغیر الہ آباد سے نکلا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی روداد بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اسے اپنے پاس روک لیا۔

کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ اس لڑکے کا ایک اور عاشق پیدا ہو گیا۔ یہ شہزادے کا ایک واقعہ نکار تھا۔ وہ لڑکا بھی ایسا ہر جاتی نکلا کہ شہزادے کے ساتھ ساتھ اس واقعہ نکار سے بھی تعلق پیدا کر لیا۔ بعض لوگوں کو خشک ہو گیا۔ سائے گردش کرنے لگے۔ لڑکے کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ جب اچھی طرح تعقدیق ہو گئی تو شکایتیں شہزادے تک بھی پہنچنے لگیں۔ واقعہ نکار کو بھی معلوم ہو گیا کہ رقابت کا مکمل شروع ہو چکا ہے۔ رقیب بھی کوئی اور نہیں مستقبل کا بادشاہ ہے، ولی عہد سلطنت ہے۔ بات کھلی تو سزا سننی ہے۔ اس نے اس لڑکے کو ایسے سبز باغ دکھائے اور شہزادے کی طرف سے ملنے والی سزا سے ایسا ڈرایا کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ دکن کی طرف بھاگ جانے پر تیار ہو گیا لیکن ڈراب بھی رہا تھا۔

”میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار تو ہوں لیکن شہزادہ جانے دے گا؟“

”ہم کون سا سے بتا کر جائیں گے۔“

”کسی نہ کسی طرح پتا چل ہی جائے گا۔“

”میں تمام خفیہ راستوں سے واقف ہوں۔ کچھ لوگ میری مدد کرنے والے بھی موجود ہیں۔ بس اتنا کرو جب تک

میں یہاں سے نکلنے کا انتظام نہ کر لوں، اپنی اداؤں سے شہزادے کو دیوانہ بنائے رکھو۔ اسے تمہارے سوا کچھ نظر بھی نہ آئے۔ کوئی اس سے تمہاری شکایت بھی کرے تو اس پر یقین نہ کرے اور مجھ سے ملنا تو بالکل ہی ترک کر دو۔“

لڑکے نے اس کی باتوں پر پوری طرح عمل کیا۔ شہزادہ کچھ دنوں سے اس کی طرف سے سر دھری دیکھ رہا تھا۔ اب جو ٹوٹ کر ملا تو شہزادے کا نشہ گہرا ہو گیا۔ جتنی شکایتیں مل رہی تھیں سب ساغر کی تہ میں بیٹھ گئیں۔

”لوگ مجھے تمہارے خلاف درغلزار ہے ہیں۔“

”میرے خلاف؟ میں کوئی بڑا جاگیردار ہوں جو میرے خلاف بھڑکاتے ہیں۔“ اس لڑکے نے شہزادے کے ساغر میں شراب اٹھ لیتے ہوئے کہا۔

”ان میں سے ایک کہتا ہے تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔“

”میں اگر آپ کے دسترخوان سے اٹھ جاؤں تو

بھوک سے مر ہی نہ جاؤں۔“

”پھر لوگ مجھے کیوں تنگ کرنے چلے آتے ہیں؟“

”صرف اس لیے کہ جس انعام سے آپ مجھے

نوازتے ہیں، وہ انہیں ملنے لگے۔“

”ایسی صورت کہاں سے لائیں گے بے چارے۔“

شہزادے نے کہا اور اس لڑکے نے ایک ساغر اور بھر دیا۔ نشہ اور گہرا ہوا۔ ”یاور رکھو، ہم تمہاری جدائی برواشت نہیں کر سکیں گے۔“

”آپ سے الگ ہو کر میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔“

”تم نے ٹھیک کہا۔ تم اگر ہم سے جدا ہوئے تو ہم بھی

تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔“

وہ لڑکا سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا۔ اسے وہ سزا یاد آگئی جس کا ذکر واقعہ نکار نے کیا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کبھی نہ کبھی یہ معاملہ کھلے گا ضرور کہ میرے تعلقات واقعہ نکار سے بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات کھلے، اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ واقعہ نکار ٹھیک کہتا ہے۔

وہ جب شہزادے کے پاس سے اٹھا تو انجانے خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ اسی رات واقعہ نکار سے ملا۔ ایک سایہ پھر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

”شہزادے کو خشک ہو گیا ہے۔“

”کیسا خشک؟“ واقعہ نکار نے پوچھا۔

”یہی کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔“

”اس نے کیا کہا تم سے؟“

”یہی کہ میں اس سے جدا ہونے کو ہوں اور یہ دمکی

بھی دی کہ اگر میں اس سے الگ ہوا تو وہ مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو اسے درغلا تے ہیں۔“
 ”اس سے پہلے کہ اس کا شک یقین میں بدلے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔“
 ”میں یہی تو بتانے آیا تھا کہ ہمیں یہاں سے جلد نکل جانا چاہیے۔“

آنے والی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔
 آٹھ دس سوار قریب ہوتے ہوتے ان کے سردوں پر پہنچ گئے اور حلقہ بنا کر انہیں گھیر لیا۔ ان کے فرار ہوتے ہی شہزادے کو خبر ہو گئی تھی۔ وہ سارے جوہر وقت اس لڑکے کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس وقت بھی قریب ہی تھا جب وہ دونوں سرنگ میں اتر رہے تھے۔ دونوں گرفتار کر کے شہزادے کے رو برو لائے گئے۔

”ہم کل رات ہی کو یہاں سے نکل جائیں گے۔ جب آدمی رات ادھر آدمی ادھر ہو تو میرے پاس چلے آنا۔“ وہ لڑکا اندھیرے میں اندھیرا بن کر کم ہو گیا۔
 دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا پھر رات آئی۔ مشعلیں روشن ہوئیں۔ وہ لڑکا حسب وعدہ واقعہ نگار کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہ اس کے ساتھ نکل سے نکلا۔ محل سے باہر باغ میں کسی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ ایک جگہ پہنچ کر واقعہ نگار رک گیا۔
 ”یہاں سے وہ سرنگ شروع ہو جائے گی جو ہمیں باہر نکالے گی۔ اندر بالکل اندھیرا ہوگا، احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے چلتے رہنا۔“

”ہم نے کہا تھا نا کہ تم جب ہم سے الگ ہوئے ہم تمہیں زندگی سے آزاد کر دیں گے۔“ شہزادے نے اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا۔

”کیا ہم دن تک پیدل جائیں گے؟“
 ”کوئی سوال مت کرو، بس چلتے رہو۔“
 یہاں چند میڑھیاں تھیں جنہیں اتر کر وہ سرنگ میں پہنچ گئے۔ ہاتھ کو ہاتھ بھانکی نہیں دے رہا تھا لیکن وہ چلتے رہے۔ اس سرنگ نے انہیں ایک جنگل میں پہنچا دیا۔ یہاں اندھیرے میں دو گھوڑے بندھے نظر آئے۔
 ”اس جنگل میں یہ گھوڑے؟“

خوف سے اس لڑکے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ بولنا تو کجا اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شہزادے نے اپنے رو برو ان دونوں کی کھال کھنچا دی۔


”چپ رہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے کچھ درد کرنے والے یہاں ہیں۔“
 ایک آدمی کسی درخت کی ادٹ سے باہر آیا۔ واقعہ نگار نے ایک تھیلی اس کی طرف بڑھادی۔ اس میں یقیناً وہ معادضہ ہوگا جو گھوڑے والے سے طے ہوا ہوگا۔
 وہ آدمی کسی طرف ردپوش ہو گیا۔ وہ دونوں ان دو گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں کئی اور گھوڑوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں جو کچھ فاصلے سے آرہی تھیں۔
 ”گھوڑا تیز بھاگاؤ۔ کوئی ہمارا چھپا کر رہا ہے۔“
 ”کون ہو سکتا ہے؟“

اب تک ان مظالم کی کہانیاں اکبر کے سامنے پیش کی جا رہی تھیں جو شہزادے نے جاگیرداروں پر روا رکھے تھے۔ شراب نوشی کے قصے بھی سننا رہتا تھا۔ ابوالفضل کے گل تک کو فراموش کر دیا تھا لیکن اس دردناک سزا کا سن کر وہ بے چین ہو گیا۔

”یہ سوچنے کا وقت نہیں۔ جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو۔“
 اب وہ ایک کچی سڑک پر آ گئے تھے اس لیے گھوڑوں نے پوری رفتار سے بھاگ سکتے تھے لیکن پیچھے سے

”ہم تو اپنے سامنے ذبح کی ہوئی بکری کی کھال بھی کھنچوانے پر راضی نہ ہوں۔ معلوم نہیں ہمارے بیٹے میں یہ سخت ولی کہاں سے آگئی۔“
 ”حضور! کچھ اور نہیں یہ ہر وقت کی شراب نوشی کا خمیازہ ہے۔“

”ہم اب اسے اس لیے معاف نہیں کر سکتے کہ وہ نشے میں رہتا ہے۔ ہم خود اللہ آباد جائیں گے۔ خدی سلیم ہمارے سوا کسی کی زبان نہیں سمجھے گا۔“
 اس اعلازہ کے ساتھ ہی قلعے میں کھلی سی بج گئی۔ حرم کی خواتین سرا سیمہ تھیں۔ اکبر کے الہ آباد جانے کا مطلب یہ تھا کہ ہاپ بیٹے کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ اس مرتبہ اکبر نے والدہ کی سفارش بھی ٹھکرادی۔ کوچ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اکبر کسی کی سفارش ماننے کو تیار نہیں تھا۔



مہرالنسا نے بہت دن بعد قلعے میں قدم رکھا تھا اور اس وقت شہزادے کی والدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ شہزادے کے ہارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں، سب اس کے کانوں میں پڑ چکی تھیں۔ وہ شہزادے کو تقریباً بھول چکی تھی لیکن قلعے میں قدم رکھتے ہی اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ایک وقادار بیوی کی طرح اسے اس وقت شہزادے سے زیادہ اپنے

شوہر کی جان کی فکر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر شہزادے کا حصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس کے شوہر کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس نے شہزادے کی والدہ سے بات کی۔

”اگر کسی طرح شہزادے سے میری ملاقات کرا دی جائے تو ممکن ہے میں اسے سمجھا سکوں۔“

”کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تمہاری ضد کر رہا ہے، تمہیں طلب کرے گا لیکن اب تم کسی اور کی ہو۔ تمہیں دیکھ کر اس کا غصہ مزید بھڑکے گا۔“

”میں کوشش تو کر سکتی ہوں۔“

”یہ کوشش بھی ظلِ الہی کی اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔“

”آپ میری یہ درخواست ظلِ الہی تک پہنچادیں۔“

”اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے میں یہ بھی کر کے دیکھ لوں گی۔“

بادشاہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی ضرور گئی لیکن ہر سفارش کی طرح اس نے یہ سفارش بھی ٹھکرا دی۔

”اب ہمارے ملازموں کی بیویاں شہزادوں کو سمجھا سکیں گی۔ ہرگز نہیں۔“

اکبر نے جو کہا تھا، وہ کر دکھایا۔ بیٹے کو الہ آباد سے اپنے ہمراہ لانے کے لیے کشتی سے کوچ کیا۔ اتفاق سے کشتی ریت کے ٹیلے پر چبھ گئی۔ ملاحوں کی کوشش کے باوجود وہاں سے نہ نکل سکی۔ آخر کار دوسری کشتی لائی گئی اور اکبر اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ اکبر کے ساتھیوں نے اسے بدشگونی قرار دیا۔ اکبر ان باتوں کا بہت قائل تھا لیکن اس وقت ایسا غصہ سوار تھا کہ کوئی پروا نہیں کی۔

سفر پھر شروع ہوا۔ ابھی وہ پیش خانہ کی منزل پر جا کر اترا ہی تھا کہ سخت بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش دوسرے دن تک جاری رہی۔ ستارہ شناسوں نے اسے بھی بدشگونی قرار دیا۔

نصب شدہ خیمے پانی پر تیر رہے تھے۔ صرف شاہی خیمہ اور چند امراء کے خیمے تھے جو شدید بارش اور تیز آمدی کا مقابلہ کر سکے۔ جو لوگ شہر سے خیمہ گاہ تک ابھی نہ آسکے تھے، بارش کے سبب نکل نہ سکے۔ ستارہ شناسوں نے ایک مرتبہ پھر بادشاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی۔

”حضور! ہمارا حساب کہتا ہے کہ اس وقت آپ کا سفر میں رہنا ٹھیک نہیں۔“

”کیا تمہارے ستارے بارش کو بھی روک سکتے ہیں۔ اب ہمیں کسی کی کوئی پروا نہیں۔“

ستارہ شناس زیادہ بحث کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔

وہ خاموشی سے اٹھ گئے لیکن جلد ہی یہ انواہیں گردش کرنے لگیں کہ ستارہ شناسوں کے قیافوں کے مطابق کوئی بڑی آفت ہے جو بادشاہ کا پیچھا کر رہی ہے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ چند امراء شاہی سراپردہ میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کو ان انواہوں سے آگاہ کیا۔

بارش رک گئی تھی۔ مطلع صاف ہو گیا تھا۔ بس پانی اترنے کا انتظار تھا کہ کشتیاں پھر دریا میں ڈال دی جائیں۔ ایک سوار تقریباً پانی میں تیرتا ہوا ”پیش خانہ“ کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جلد ہی معلوم ہوا کہ وہ آگرہ سے منزلیں مارتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ کیا خبر لایا ہے کسی کو کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا لیکن یہ سب جان گئے تھے کہ خبر غیر معمولی ہوگی اسی لیے وہ اس طوفان میں یہاں تک پہنچا ہے۔ وہ سیدھا شاہی سراپردہ کے سامنے جا کر ٹھہر گیا تھا۔ جلد ہی اسے بار پانی کی اجازت مل گئی۔ جلد ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اکبر کی والدہ مریم مکانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔

ایک بدشگونی اور ظاہر ہو گئی۔ اب لوگوں کو یقین تھا کہ بادشاہ الہ آباد جانے کا ارادہ ترک کر کے آگرہ کی طرف کوچ کر جائے گا لیکن اکبر نے کوئی اور ہی راہ اختیار کی۔ سلیم (جہانگیر) کا بیٹا خرم (مستقبل کا شاہ جہاں) دادا کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس وقت قریب ہی بیٹھا تھا۔ اکبر نے اسے روانہ کیا کہ وہ آگرہ جائے اور دادی کی خیریت معلوم کر کے فوراً اطلاع دے۔ خرم نے کشتی دریا میں ڈال دی۔ ملاح اسے آگرہ کی طرف لے چلے۔

اکبر وہیں ٹھہرا رہا کہ آگرہ سے خیریت کی اطلاع آنے کے بعد ہی وہ آگے قدم بڑھائے گا۔ خرم نے واپس آ کر اطلاع دی اور دادی کی زبانی عرض کیا۔

”اگر آخری دیدار کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوٹ آؤ اور ماں کی خوشنودی حاصل کر لو۔ دونوں جہاں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ماں کے سر ہانے اس کے آخری وقت میں حاضر رہو۔“

اکبر کو یہ سنتے ہی اپنی کوتاہی یاد آگئی۔ والدہ حضور میرے الہ آباد جانے کی مخالف تھیں۔ میں ان کی حکم عدولی کر کے رخصت ہوا تھا۔ اسی لیے راستے مجھ پر بند ہوتے گئے۔ پہلے کشتی ریت پر چڑھی پھر بارشوں نے راستہ روکا اور اب یہ خبر آگئی۔

اس نے الہ آباد جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور آگرہ لوٹ آیا۔ مریم مکانی کی آنکھیں اس کے انتظار میں کبھی کبھی کھلتی تھیں کبھی بند ہو جاتی تھیں۔ اطبا دو رویہ صفیں بانڈھے

کھڑے تھے کہ باادب با ملاحظہ کی صدا میں بلند ہوئیں۔
اطبائیک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ اکبر نے کمرے میں قدم
رکھا اور ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مریم مکانی نے یہ مشکل
آنکھیں کھولیں۔

”مجھے معلوم تھا تم ضرور واپس آ جاؤ گے۔“

”ہاں، میں واپس آ گیا ہوں۔ اب کہیں نہیں جاؤں

گا۔ بھئی آپ کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔“

”نہیں میرے بچے۔ تم بادشاہ ہو۔ تمہیں مملکت کے

کام سنبھالنے ہیں۔ بس میرے بچے سلیم کا خیال رکھنا۔

اسے ٹھیس نہ پہنچے۔“

یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس دن شام تک وہ

خالی حلقے سے جا ملیں۔

☆☆☆

جہانگیر الہ آباد میں تھا۔ اس تک یہ خبریں پہنچیں کہ اکبر

نے الہ آباد کی طرف کوچ کر دیا ہے تو اس نے بھی جنگ کی

تیا ریاں شروع کر دی تھیں۔ پھر یہ خبر آئی کہ وہ آگرہ کی طرف

لوٹ گیا ہے اور اب یہ خبر اس کے سامنے بھی کہ اس کی داوی اس

دنیا میں نہیں رہیں۔ داوی بھی یہی جو اس کے سامنے ڈھال بن

کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ اکبر کے قدموں میں زنجیر ڈال دیا

کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے باپ کا غزوہ چہرہ یاد آیا۔

وہ اب اکیلے ہوں گے۔ میں بھی وہاں نہیں ہوں کہ دلا سا دیتا۔

باپ کی محبت اچانک جاگ اٹھی۔ وہ اپنے قصور معاف کرانے

کے لیے باپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ باپ نے بھی سنجوسی

نہیں کی۔ پشیمان بیٹے کو گلے لگالیا۔

☆☆☆

اکبر نے جب سے بے راہ روی اختیار کی تھی اور

مگر ابھی کے راستے پر چل نکلا تھا، اس کے امراء کی ایک بڑی

تعداد نے اسے خوش کرنے کے لیے اس کی روش اختیار

کر لی۔ بادشاہ کی تھلید میں ڈاڑھی منڈوالی بھی اور اسے سجدہ

کرنے لگے تھے لیکن چند ایسے بھی تھے جو اس روش کے

خلاف تھے۔ ان ہی میں ایک خان اعظم کو فکراش بھی تھا جس

کا اصل نام مرزا عزیز تھا۔ نثر و نظم میں اور اکثر علوم میں وہ

اپنے زمانے کا بڑا دانش ور اور صاحب کمال تھا۔ اس کی ماں

نے اکبر کو دو دوہ پلایا تھا۔ اس رعایت سے وہ اکبر کا رضاعی

بھائی تھا اسی لیے سر چڑھا تھا اور بادشاہ سے بے تکلفی سے

بات کیا کرتا تھا۔ جب اکبر کے دینی خیالات میں تبدیلی آئی

اور اس نے امراء کو ڈاڑھی منڈوانے کی ترغیب دی تو خان

اعظم نے لائو، ڈاڑھی چھوڑ دی۔ ابوالفضل اور شیخ فیضی سے

بیٹی

حضرت محمد ﷺ نے فرمایا۔

☆ عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ

اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔

☆ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برامت

سمجھو۔ اس لیے کہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں (دل

گدا فرمان)

☆ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک

فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر میں تیرے باپ کی

مدد کروں گا۔

☆ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا

کرتا ہے۔

☆ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ پس جتنی بیٹیاں ہوں

گی گو یا اللہ کی رحمت اتنی ہی بر سے گی۔ پس والدین

یا خصوصاً باپ کو چاہیے اپنی بیٹیوں سے بے حد پیار

کرے۔ بیٹی مثل کونج ہوتی ہے جس نے جلد یا بدیر

بچھڑ ہی جانا ہوتا ہے اور بیٹی کو بھی چاہیے اپنے باپ کے

اوڑھائے گئے آچل کی مکمل حفاظت کرے۔ اپنے

باپ کی اجلی عزت پر حرف نہ آنے دے۔

مرسلہ۔ محمد جاوید، تحصیل علی پور

باب علم حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے لاجواب جوابات

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک

عیسائی اور ایک یہودی آئے اور آپ کو لاجواب

کرنے کے لیے دو سوال کیے۔ 1۔ وہ کون سی چیز

ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا۔ 2۔ تم کہتے

ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے وہ کیا ہے جو قرآن میں

نہیں لکھا ہے؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا کے بولے۔

1۔ اللہ تعالیٰ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اسے نیند نہیں آتی

2۔ قرآن پاک میں سب کچھ لکھا ہے جو لوگ نہیں لکھا۔

مرسلہ۔ محمد جاوید، تحصیل علی پور

دینی مباحثے کرتا رہتا تھا جس سے وہ دونوں سخت خفا تھے اور چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح دربار سے چلا جائے چنانچہ اسے کوشش کر کے احمد آباد کا صوبہ دار مقرر کر دیا تھا۔

چند سال گزرنے پر اس کی والدہ کی درخواست پر اکبر نے اس کو حاضر ہونے کا فرمان لکھا کہ چونکہ تمہاری والدہ تمہارے لیے بہت بے چین ہیں اس لیے تم احمد آباد میں اپنا نائب مقرر کر کے جلد دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ کافی دن گزر گئے اس نے اس نامے کا جواب تک نہیں دیا۔ اس پر اکبر نے سختی سے لکھا۔

”تمہاری ڈاڑھی اتنی بوجھل ہو گئی ہے کہ اپنے قبلہ گاہ کی حاضری سے تم کو روک رہی ہے۔“

اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اب وہ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہونے والا ہے۔ اس نے دربار میں جانے کے بجائے بعض پرگنوں کو ناخست و تاراج کیا اور کافی نقد فراہم کر لیا اور فوج کے مطالبات ادا کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کسبھایت کی بندرگاہ کو چلا گیا جہاں سے تمام بندرگاہوں کو جہاز جاتے تھے۔ یہاں سے وہ ایک جہاز پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ چلا گیا۔ جب اکبر کو اس کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس کے پاس ایک نصیحت آمیز فرمان بھیجا۔

”میری اجازت کے بغیر سنگ و گل کے کعبہ کی زیارت کے لیے جانا عقل کے خلاف ہے اور تمہارے اسلام کے خلاف بھی جس کا تم بہت دم بھرتے ہو۔“

جتنا سخت خط اکبر نے لکھا تھا، اس سے زیادہ اس نے لکھ دیا۔

”تم کو بدخواہوں نے راہِ راست سے ہٹا دیا ہے اور دنیا بھر میں بدنام کر دیا ہے۔ یہ تو سوچا ہوتا کہ کبھی کسی بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا کوئی چیز کلام اللہ کی طرح تم پر بھی نازل ہوئی ہے۔ کیا کوئی معجزہ ”شق القمر“ کی طرح تم سے واقع ہوا ہے یا تمہارے چار یار صفا ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اس دینِ بدنامی سے وابستہ کر لیا ہے۔ میں تمہارے خیر خواہوں سے جو دراصل بدخواہ ہیں، زیادہ وفادار ہوں۔ بیت اللہ بھی اسی لیے آیا ہوں کہ یہاں مقیم رہ کر تمہارے راہِ راست پر لوٹ آنے کی دعا کرتا رہوں۔ امید ہے اس گناہ گار کی وعاد قاضی الحاجات کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور وہ تمہیں راہِ راست پر لے آئے گا۔“

یہ باتیں گستاخی پر مبنی ضرور تھیں کہ وہ بادشاہ کو ”تم“ سے مخاطب کر رہا تھا لیکن حقیقت پر مبنی تھیں مگر پھر ایسا ہوا کہ شریف مکہ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا

اور وہ خفا ہو کر پھر اکبر کے پاس چلا آیا۔ نہ صرف آ گیا بلکہ بادشاہ کی خوشنودی کے لیے ڈاڑھی منڈوا دی، سجدہ کرنے لگا اور دوسری تمام باتوں میں بادشاہ کی پوری پوری متابعت کرنے لگا۔

یہ وہی زمانہ تھا جب سلیم (جہانگیر) الہ آباد سے واپس آ کرہ آچکا تھا اور باپ بیٹوں میں صلح ہو گئی تھی۔ اس نے آتے ہی جہانگیر کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ جہانگیر کے بیٹے خسرو کو آگے لانا چاہتا تھا کیونکہ خسرو اس کا داماد تھا۔ اس وقت دربار میں دو آدمیوں کا طوطی بول رہا تھا۔ راجا مان سنگھ اور خان اعظم کوکلاش اور خسرو سے دونوں کی رشتے داری تھی۔ خسرو، خان اعظم کا داماد اور یہ لڑکی راجا کی بھانجی تھی۔ دونوں اس گتھ جوڑ میں لگ گئے کہ کسی طرح ولی عہدی کا تاج جہانگیر کے بجائے اس کے بیٹے خسرو کے سر پر سجا دیا جائے۔ انہوں نے یہ کہہ کر اکبر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ کثرت شراب نوشی سے جہانگیر کے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا ہے لہذا اسے علاج کی ضرورت ہے۔

بادشاہ مان سنگھ سے بھی خوش تھا اور خان اعظم سے اس لیے خوش ہو گیا تھا کہ اس نے بادشاہ کے دین کو اختیار کر لیا تھا۔ جب ان دونوں نے ایک ہی بات کی تو بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا۔

اکبر نے ایک روز سلیم (جہانگیر) کو اپنے پاس بلا دیا۔ وہ اس وقت دربار میں نہیں حرم سرا میں بیٹھا تھا۔ جہانگیر نہایت ادب سے اس کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ نے نہایت شفقت سے فرمایا۔

”مسلل سفر میں رہے ہو۔ شرانگیزیوں کے مسلسل بہکانے سے اٹنی سیدھی حرکتوں میں مبتلا رہے۔ اب کچھ عرصہ خلوت خانے میں آرام کرو تا کہ اطبا تمہارے مزاج کو معقول کرنے کے لیے تدبیر کریں۔“

”آپ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھے نظر بند کیا جا رہا ہے۔“

”مجھے اگر تمہیں نظر بند کرنا ہوتا تو کسی قلعے میں نظر بند کرتا۔ یہاں تمہاری ماں کے سامنے یہ ذکر نہ پھیرتا۔ بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم کل تک محدود رہو اور ہماری نظروں کے سامنے رہو جسے تم نگرانی بھی کہہ سکتے ہو۔“

اس اچانک نظر بندی کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ شہزادہ یہ سمجھا کہ باپ نے اسے دھوکے سے نظر بند کر دیا ہے۔ اس وقت وہ بے بس تھا۔ وہ اپنا لشکر اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ حرم

پاس پہنچ گیا۔

”دیکھا آپ نے... شاہ بھائی (جہانگیر) نے کیا حرکت کی ہے۔ انہوں نے میری مدد کے لیے آنے والے ہاتھی کو روکنے کے لیے اپنے لوگوں کو اکسایا۔ انہوں نے ایسے پتھر پھینکے کہ ٹیل بان زخمی ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی چلاتے ہیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مسلسل نظر بندی سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔“

بادشاہ کے نزدیک ہی خان اعظم اور مان سنگھ بھی براہمان تھے۔ انہوں نے بھی خسرو کی حمایت کی۔

”یہ واقعی خسرو کے ساتھ زیادتی ہے۔ شاہ بھائی نے آپ (اکبر) کے ادب و لحاظ کا پاس بھی نہیں رکھا۔ آپ کی موجودگی میں انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ شاہی آداب کا مذاق اڑایا ہے۔ ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔“

اکبر بھی دور سے دیکھ چکا تھا کہ ٹیل بان کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ وہ زخمی کیسے ہوا۔ خسرو نے رنگ آمیزی کے ساتھ جو کچھ بیان کیا، اسے سن کر وہ برہم ہو گیا۔ شہزادہ خرم کو جو اس کے قریب ہی بیٹھا تھا یہ کہہ کر سلیم کے پاس بھیجا۔

”تم اپنے شاہ بھائی کے پاس جا کر کہو شاہ بابا کہتے ہیں دونوں ہاتھی اور دونوں مہادت تمہارے ہی ہیں پھر ایک جانور کی طرف داری میں ہمارے ادب و لحاظ کو نظر انداز کرنا اور ہمارے آدمیوں کو تکلیف دینا کہاں تک درست تھا۔“

شہزادہ خرم باپ کے پاس گیا اور دادا کا پیغام پہنچا دیا۔ سلیم نے جواب میں نہایت ادب کے ساتھ کہلا بھیجا۔

”یہ حرکت میرے علم و اطلاع اور مرضی کے بغیر ہوئی ہے۔ میں خود اس بے جا جرات اور گستاخی کو پسند نہیں کرتا۔“ خرم نے واپس آ کر نہایت خوش اسلوبی سے باپ کی دکالت بھی کی اور بادشاہ کے رنج و ملال کو دور کر دیا۔

خان اعظم اور مان سنگھ کو یہ امید تھی کہ اب بادشاہ کا عتاب جہانگیر پر نازل ہوگا اور یہ پھانس، بانس بن جائے گی۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ جہانگیر کا ذہنی فتور ابھی دور نہیں ہوا لیکن معاملے کو یوں یہ آسانی رفع دفع ہوتے دیکھ کر وہ دونوں وہاں سے کھسک گئے۔ خسرو بھی اپنا سامنہ لے کر رہ گیا۔

☆☆☆

شہزادہ مراد کی موت کے بعد بھی اکبر نے تسخیر دکن کی مہم جاری رکھی تھی۔ نظام شاہی امراء نے قوت حاصل کر کے حاکم بشیر خوجا کو شکست دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اکبر

کی خواتین اسے تسلیم دے رہی تھیں کہ یہ نظر بندی بہت جلد ختم ہو جائے گی لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ نظر بندی باپ کے مرنے پر ہی ختم ہوگی۔

قلعے میں سازشیں اپنے عروج پر تھیں۔ خان اعظم اور مان سنگھ برابر اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح جہانگیر کو باپ کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ اس نظر بندی کو جہانگیر نے قبول کر لیا تھا۔ اب دونوں یہ چاہتے تھے کہ نظر بندی کے دوران اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جو بادشاہ کے عتاب کا سبب بن جائے۔ انہوں نے ہمدردی جتانے کے لیے بادشاہ کو تجویز دی کہ مسلسل نظر بندی کی وجہ سے جہانگیر کے دل میں ملال رہتا ہوگا۔ اس کا دل بہلانے کے لیے تفریح کا کوئی سامان کیا جائے۔ بادشاہ اس تجویز پر ان کا شکر گزار ہوا اور ہاتھیوں کی لڑائی کا جشن منعقد کیا۔

جہانگیر کے پاس ایک ہاتھی ”گراں بار“ نامی تھا جو تن و توش، طاقت اور لڑائی میں بہت مشہور تھا۔ خسرو کے پاس بھی ایک قوی بیکل ہاتھی ”آپ روپ“ نام کا تھا۔ یہ ہاتھی بھی لڑنے میں نہایت مہارت رکھتا تھا۔ بارہا دیکھا گیا تھا کہ کوئی ہاتھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اکبر نے مقابلے کے لیے ان ہی دو ہاتھیوں کا انتخاب کیا۔ لڑائی کے قاعدے کے مطابق ایک مددگار ہاتھی کی بھی ضرورت تھی۔ اس کے لیے شاہی خاصہ کے ایک ہاتھی ”ورن پنھن“ کا انتخاب ہوا تاکہ جب بھی مقابلے کے دو ہاتھیوں میں سے کوئی ایک مطلوب ہونے لگے تو ”ورن پنھن“ اس کی مدد کرے۔

مقابلے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ بادشاہ اپنے معالجین کے ساتھ خسرو کے میں بیٹھا۔ سلیم اور خسرو گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ دونوں کو پیکر ہاتھی ایک ساتھ چھوڑے گئے۔ ایک زوردار چکھاڑ کے ساتھ دونوں ہاتھی ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ پھر بار بار ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ سارا میدان دہلنے لگا۔

چند ایک زبردست ٹکروں کے بعد جہانگیر کا ہاتھی اپنے مقابل پر غلبہ پانے لگا۔ بس یہی موقع تھا جب سازش پر عمل ہونا تھا۔ خسرو نے جہانگیر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ انہوں نے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے ہاتھی کو روکنے کے لیے چٹنا چلانا شروع کر دیا اور شاہی ٹیل بان پر پتھر پھینکے۔ ایک پتھر لگنے سے ٹیل بان کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ اب سازش کے دوسرے سڑیلے پر عمل کرنا تھا۔ خسرو ہجوم میں سے گزرتا ہوا دادا کے

کے امراء نظام شاہیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ اکبر نے خان خاناں پر لطف و کرم کی نظر کی اور اس کی بیٹی کو شہزادہ دانیال کے ساتھ بیاہ دیا اور دانیال کو دکن کی طرف روانہ کیا۔ شہزادے کی روانگی کے بعد خود بھی دکن کا سفر کیا۔

خان خاناں اور دانیال دکن پہنچے تو معلوم ہوا قلعہ اسیر کا حاکم بہادر خاں اپنے باپ کے برعکس بادشاہ کا مطیع و فرمانبردار نہیں۔ دانیال کے پیچھے پیچھے آتا ہوا اکبر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دانیال کو احمد نگر کی طرف روانہ کیا اور بہادر خاں کو نصیحت کرنے اور سمجھانے کے لیے خود وہیں رک گیا۔

جب صحیحہ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تو بادشاہ برہان پور آ گیا اور شاہی امراء قلعہ اسیر کو فتح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ محاصرہ بہت دیر تک جاری رہا اس وجہ سے قلعے میں گندگی پھیل گئی۔ لوگ بیمار ہو ہو کر مرنے لگے۔ فوج کی کثرت، قلعے کے استحکام اور غلے کی موجودگی کے باوجود بہادر خاں ہمت ہار بیٹھا اور اس نے بادشاہ سے جان کی امان طلب کرتے ہوئے اسیر کا عظیم الشان قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ قلعے کا تمام ساز و سامان، خزانے اور جواہرات بھی بادشاہ کے حصے میں آ گئے۔ قلعہ احمد نگر پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ نے صلح کی درخواست کی۔ بادشاہ نے یہ درخواست اس شرط کے ساتھ قبول کی کہ ابراہیم عادل شاہ اپنی بیٹی کی شادی شہزادہ دانیال سے کر دے گا۔ ابراہیم عادل شاہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ ابراہیم اس وقت بادشاہ کی خدمت میں برہان پور آیا ہوا تھا جبکہ دکن بجا پور میں تھی۔ اکبر نے میر جمال الدین انجو کو دکن اور دیگر تحائف وغیرہ لانے کے لیے روانہ کیا۔ اسیر، برہان پور، احمد نگر اور برار کے علاقے دانیال کے سپرد کر کے آگرہ واپس آ گیا۔

میر جمال انجو جس کو بجا پور روانہ کیا گیا تھا، وہ دکن اور پٹنکیش لے کر ابراہیم کے اہلی کے ہمراہ واپس آیا۔ دریائے گو داوری کے کنارے موگی پنن کے قریب جشن شادی منعقد کیا گیا اور دکن شہزادہ دانیال کے حوالے کر دی گئی۔

میر جمال آگرہ آیا اور پٹنکیش کی رقم بادشاہ کے حضور میں پیش کی۔ اسی سال کے شروع میں شہزادہ دانیال شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے بیمار پڑ گیا اور جلد ہی اس نے داعی اجل کو لبیک کہا۔

اکبر کو ذرا تسکین ہوئی تھی کہ سلیم راہ راست پر آ گیا ہے۔ دکن کی طرف سے بھی وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ آگرہ سوگ کی فضا میں ڈوب گیا۔ درو دیوار نے مامی لباس پہن لیا۔

دکن سے شہزادہ دانیال کے انتقال کی خبر پہنچی تھی۔ ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی۔

اس ناگہانی موت کی خبر اکبر پر بجلی بن کر گری۔ شہزادہ مراد کا ماتم وہ پہلے ہی کر چکا تھا کہ اب چھوٹا بیٹا دانیال بھی رخصت ہو گیا۔ اسے دو جوان بیٹوں کی موت کا ایسا صدمہ ہوا کہ بستر سے لگ گیا۔ پوری زندگی مشقت میں گزری تھی۔ اب جو آرام ملا تو وہ اٹھنا بھول گیا۔ بیماری روز بہ روز بڑھتی جا رہی تھی۔ علاج معالجے بھی بے کار ہو گئے۔ یہ اندازہ عام طور پر ہونے لگا کہ اب وہ بستر مرگ سے اٹھنے کا نہیں۔

اکبر کی آنکھیں ابھی بند نہیں ہوئی تھیں کہ سازشوں نے سرا بھارا۔ لطف یہ تھا کہ اس کی ابتدا خود سلیم (جہانگیر) کے گھر سے ہوئی۔ اس کا چھوٹا بیٹا خرم دادا کی حجاز داری کے لیے اس کے پٹنگ سے لگا بیٹھا تھا لیکن اس سے تین سال بڑا بھائی خسرو تخت پر قابض ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔

دربار میں دو بااثر امیر تھے خان اعظم کو بکاش اور راجا مان سنگھ۔ خسرو کی دونوں سے رشتے داری تھی۔ خان اعظم کے گھر میں راجا مان سنگھ کی بہن تھی اور اسی ہندو عورت کی بیٹی خسرو سے منسوب تھی۔ خسرو نے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے ان دونوں سے مدد مانگی۔ ان دونوں نے بھی سوچا کہ جہانگیر کے تخت نشین ہونے کی صورت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا جبکہ خسرو کے بادشاہ بن جانے کے بعد پس پر وہ ہی حکومت کریں گے کیونکہ خسرو میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ بادشاہت کرتا۔ اکبر بھی خسرو کے مقابلے میں خرم کو اہمیت دیتا تھا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ خرم میں حکومت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ (تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ اسی خرم نے شاہ جہاں بن کر ہندوستان پر حکومت کی)

جب معاملہ خان اعظم اور مان سنگھ کے سپرد ہوا تو یہ سوال سامنے آیا کہ سلیم کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے کیونکہ اکبر کے بعد اسے تخت نشین ہونا تھا۔ ہاں سلیم نہ رہے تو خسرو کو حکومت مل سکتی تھی۔

”سلیم باپ کے خلاف بغاوت کر چکا ہے۔ بادشاہ سلامت ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ تاج اس کے سر پر رکھا جائے۔“ خان اعظم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔

”آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔“ مان سنگھ نے کہا۔ ”اس کی بغاوت کے باوجود بادشاہ سلامت اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ بار بار اس کی خطائیں معاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے خلاف بھی

جارحانہ قدم نہیں اٹھایا۔ اگر اب بھی انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔“
خسرو کچھ زیادہ ہی بے تاب تھا۔ اس نے نہایت دردناک تجویز پیش کی۔

”اس حالت میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ ابا حضور کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔“

”یہ مت بھولو کہ بادشاہ ابھی زندہ ہے۔ اگر ہم نے سلیم کا قصہ پاک کر دیا اور بادشاہ صحت یاب ہو گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔“ راجا مان سنگھ نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا۔

”ہم فی الحال کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔“ خان اعظم نے کہا۔

”تو کیا یونہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟“ خسرو نے کہا۔

”اس عرصے میں سلیم پر نظر رکھو۔ ایسے با اعتماد آدمیوں کا انتخاب کرو جو تیار رہیں۔ بادشاہ کی آنکھیں جیسے ہی بند ہوں، سلیم کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔“
”اگر دیر ہوگی؟“ خسرو نے کہا۔

”اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سلیم کی فوج دارا خلفہ سے بہت دور ہے۔ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کوشش یہ بھی کرتے رہو کہ بادشاہ صحت یاب نہ ہونے پائے۔“
”اس کے لیے ہمیں طیبیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔“

”یہ کوئی مشکل نہیں۔“
خان اعظم کی ایک کیز ایک ستون کے پیچھے چھپ کر یہ باتیں سن رہی تھی۔ یہ کیز بھی شہزادہ سلیم کی منگور نظر رہ چکی تھی۔ اس کے دل میں ابھی تک اس کی محبت کروٹیں لے رہی تھی۔ یہ توقع بھی دل میں کر وٹیں لینے لگی کہ اگر یہ اطلاع وہ شہزادے تک پہنچا دے تو وہ اسے مالا مال کر دے گا۔ وہ اس ستون سے ہٹی اور کسی نہ کسی طرح سلیم تک پہنچ گئی۔
”در شہوارا کہو اتنے دن بعد تمہیں ہمارا خیال کیسے آ گیا۔“

”صاحب عالم! آپ کی جان کو سخت خطرہ ہے۔“
”کس سے خطرہ ہے؟ کھل کر بتا۔“

”یہاں کوئی ہماری باتیں تو نہیں سن رہا ہوگا؟“
”بے فکر ہو کر بتاؤ۔ یہاں پر عمدہ بھی پر نہیں مار سکتا۔“

”حضور کے دشمن حضور کو قید کر کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔“

”تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے؟“
”میں سب کچھ اپنے ان گناہ گارکانوں سے سن کر آ رہی ہوں۔“

”کھل کر کیوں نہیں بتاتی، بات کیا ہے؟“
کیز نے وہ ساری گفتگو شہزادے کے گوش گزار کر دی جو وہ سن کر آ رہی تھی۔ شہزادے نے تمام باتیں سکون سے سنیں اور اپنے گلے میں پڑا ہوا ہار اس کی طرف اچھال دیا۔

”اطلاع دینے پر یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ اس بارے میں اور جو کچھ تمہیں معلوم ہو اس کی بروقت اطلاع ہمیں دیتی رہنا۔ ہم تمہاری وقاداری کا سلسلہ دیتے رہیں گے۔“

کیز نے شہزادے کا دیا ہوا ہار گریبان میں چھپایا اور خاموشی سے نکل گئی۔ اس نے کیز کی باتیں سکون سے سنی ضرور تھیں اور اس وقت اس کی سنگینی کا شاید اسے احساس بھی نہیں تھا۔ کیز کے چلے جانے کے بعد جب اس نے ان باتوں پر غور کرنا شروع کیا تو اسے سنگینی کا احساس ہوا۔ اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ خان اعظم کو کلتاش اور راجا مان سنگھ سے ٹکرانا فی الوقت اس کے بس میں نہیں تھا۔ خصوصاً اس حالت میں کہ اس کی فوج بھی دارا حکومت میں موجود نہیں تھی بلکہ احمد آباد اور دوسری جاگیروں میں تقسیم تھی۔ دوسری طرف اس کے حریف تھے جو پوری طرح دربار پر چھائے ہوئے تھے۔ وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ صرف یہ دو امیر ہی نہیں قلعے میں پھیلے ہوئے اور بہت سے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہوں گے۔ وہ یہاں رہ کر کب تک اپنا بچاؤ کر سکے گا۔ اسے کسی بھی وقت گرفتار کیا جاسکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سازش پر پڑے نکالے، اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ قلعے میں رہ کر وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔

وہ قلعے سے نکلا اور اپنی حویلی میں خانہ نشین ہو گیا۔ اتنا محتاط ہوا کہ قلعے میں باپ کی تیارداری کے لیے آمدورفت تک بند کر دی۔

اس کا بیٹا خرم دادا کی تیارداری کے لیے قلعے ہی میں رک گیا تھا۔ سلیم کو اس کی طرف سے بھی ٹکر لگی ہوئی تھی۔ اس نے خرم کو کئی مرتبہ پیغام بھجوایا کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں نہ رہے اور وہاں سے نکل آئے لیکن اس نے ہر مرتبہ باپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ دم واپس تک میں دادا حضرت کی تیارداری ہی میں لگا رہوں گا۔ ان کو چھوڑ کر نہیں اٹھوں گا۔ جب ہر

تدبیر ناکام ہو گئی تو جہانگیر نے خرم کی ماں کو قلعے میں بھیجا۔ وہ نگین اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔

”اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میرے بچے، میں تو جیتے ہی مرجاؤں گی۔“

”امی حضور! ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ دادا حضور کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اب ہم انہیں چھوڑ کر کیسے چلے جائیں۔“

”دشمنوں سے کچھ بھید نہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں۔“

”ان کی جنگ شاہ بھائی سے ہے، ہم سے نہیں۔ ان سے کہیں کہ وہ اپنا خیال رکھیں۔“

”کیا تمہارے دادا کے حقوق تمہارے باپ سے زیادہ ہیں؟“

”شاہ بھائی اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ دادا حضور اس وقت بیمار ہیں۔ دشمن انہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے مار سکتے ہیں۔ ہم ان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔“

ماں نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، منت سماجت کی لیکن خرم نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔

”جب تک شاہ بابا کی سانس چل رہی ہے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔“

نے چاری ماں بیٹے کو خطرے میں چھوڑ کر اکیلی واپس چلی گئی۔ بعد میں پتا چلا کہ خرم کے نہ جانے ہی میں خرم کی بھلائی تھی۔ خان اعظم اور مان سنگھ کے سونے آدی قلعے کے دروازوں پر متعین تھے کہ جیسے ہی خرم باہر نکلے اسے گرفتار کر لیں۔

دشمنوں کے نرنے میں امید کی ایک کرن تھی جو جنگا رہی تھی۔ یہ ذات تھی بخش مرٹضیٰ خاں کی۔ یہ ایک ایسا امیر تھا جو سلیم کا پوری طرح طرف دار تھا اور کھلے عام سلیم کی حمایت کیا کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سلیم کے گرد گھیرا جگ ہوتا جا رہا ہے تو اس نے بہادر جاں فزاروں کی ایک جماعت لے کر سلیم کی مدد اور رفاقت پر کمر باندھ لی اور اپنی جماعت کے ساتھ شہزادے کی حویلی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔

ادھر خان اعظم کے آدمیوں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ بھی مایوس ہو کر سست پڑ گیا۔ اس کے ہٹ جانے کے بعد صرف مان سنگھ خسرو کی پشت پر رہ گیا۔ نادان خسرو نے اتنا بڑا منصوبہ تیار تو کر لیا تھا لیکن کوئی فوج بنا کر نہیں رکھی تھی جو اس کے ارادوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتی۔ وہ ابھی تک مان سنگھ پر تکیے کیے

بیٹھا تھا۔ خان اعظم کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد صرف مان سنگھ رہ گیا تھا۔ بخش مرٹضیٰ خاں نے اس کا علاج بھی تلاش کر لیا۔ اس نے بادشاہ سے کہہ کر اسے بنگال کی صوبہ داری کی قلعہ دے کر دار الحکومت سے رخصت کر دیا۔

جب قلعے پر سے مخالفوں کا تسلط ختم ہو گیا تو شہزادہ سلیم باپ کی تیمارداری کے لیے حاضر ہو گیا۔ قلعے کے دروازوں اور شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر اپنے بھروسے کے آدمیوں کو نگرانی کے لیے متعین کر دیا۔

جلال الدین اکبر آخری سانس لے رہا تھا۔ جہانگیر کو دیکھ کر اکبر کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ شہزادے نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے خود شہزادے کو اپنا جانشین مقرر کر لیا اور تقریباً نصف صدی کروفر کے ساتھ حکومت کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔

اب کوئی طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی جو شہزادہ سلیم کو تخت شاہی پر قدم رکھنے سے روکتی۔ اس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیا اور ابوالمختار نور الدین محمد جہانگیر کے نام سے تخت شاہی پر جلوہ گر ہو گیا۔

☆☆☆

بغاوتوں کا جو سلسلہ اوہم خاں سے شروع ہوا تھا اور جہانگیر تک پہنچا تھا، اس سلسلے میں خسرو کی بغاوت نے ایک اور بغاوت کا اضافہ کر دیا۔

جہانگیر کے بیٹے خسرو نے جو پہلے بھی بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا، بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے ایک جماعت کو ساتھ لیا اور قلعہ آ کر وہ سے نکل کر لاہور کی طرف چلا گیا۔ ارادہ یہی تھا کہ لاہور کے قلعے پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے گا۔ جب جہانگیر کو اطلاع ملی تو اس نے خود خسرو کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ تختہ ابتدا ہی میں ختم ہو جائے۔

خسرو لاہور کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی جہاں بھی پہنچتے تھے تاجروں، مسافروں، راہ گروں کو لوٹ لیتے تھے۔ بادشاہی خزانے کے محاصل لے لیتے تھے۔ رعایا کی زراعت تباہ کر دیتے تھے اور دیہاتوں کو جلاتے چلے جا رہے تھے۔

لاہور کا صوبہ دار دلاور خاں دربار میں آنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ راستے میں تھا کہ اسے خسرو کی بغاوت کا علم ہوا۔ وہ اٹنے پاؤں لاہور کی طرف لوٹ گیا۔ جتنی دیر میں خسرو لاہور پہنچتا، وہ قلعے میں محصور ہو گیا۔

اور بھاگ گئے۔ شاہی کارندوں کو خبر مل چکی تھی۔ خسرو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گرفتار ہو گیا۔

جہاگیر اس وقت لاہور کے قریب ”کامران باغ“ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ کامران باغ سے قلعہ لاہور کے دروازے تک راستے پر دو روپہ پھانسیاں گاڑی جائیں اور باغیوں کو ان پر چڑھا دیا جائے۔ خسرو کے ایک اہم ساتھی حسن بیگ کو جس نے خسرو کو کامل چلنے کا مشورہ دیا تھا، تیل کی کھال میں سی کر گدھے پر اٹھا سوار کر کے گشت کرایا گیا۔ وہ اس کھال میں چار گھڑی سے زیادہ زخم بردہ رکھا۔

جب دوسرے باغیوں کو پھانسیاں دے دی گئیں تو حکم ہوا خسرو کو ہانگی پر بٹھاؤ اور اس کے گلے میں طوق ڈالو اور ان پھانسیوں کے درمیان سے گزارو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ خسرو کو ہانگی پر اس طرح بٹھا دیا گیا جیسے وہ کوئی بادشاہ ہو۔ جب اسے ان پھانسیوں کے درمیان سے گزارا گیا تو نقیب آوازیں لگا رہے تھے۔

”بادشاہ سلامت کو امراء مجرا کر رہے ہیں۔“

یہ کوئی سزا نہیں تھی بس خسرو کو ذلت آمیز احساس دلانا تھا۔ بعد میں خسرو کے ہاتھ پاؤں سونے کی زنجیروں میں جکڑ کر ایک امیر اعتبار خاں کی نگرانی میں وے دیا گیا۔

ان واقعات سے جہاگیر کی طبیعت کبدر ہو گئی تھی لہذا سیر و تفریح کے لیے کامل روانہ ہو گیا۔ خسرو قید میں تھا لیکن اس کے کچھ حای جو بیچ نکلے تھے، اب بھی کسی امید پر سازشوں کے جال بنتے پھرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ عہد باندھا تھا کہ خسرو کو قید سے نکال کر تخت پر بٹھاویں گے۔ منصوبہ یہ تھا کہ جس وقت بادشاہ کی سواری نکلے اسے قابو کر لیا جائے اور خسرو کی بادشاہت کا اعلان کروا جائے۔

سازش پر عمل ہونے سے پہلے ہی اس سازش نے دم توڑ دیا۔ سازشیوں میں سے کسی ایک شخص کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ اس نے شہزادہ خرم کو ساری بات بتا دی۔ شہزادے نے بادشاہ کے کالوں تک یہ بات پہنچائی۔

بادشاہ نے اس سازش کے سرغٹوں کو طلب کر لیا اور ان سے تمام سازشیوں کے نام معلوم کر کے ان سب کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس بغاوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔

اب خسرو اکیلا تھا اور قیدی تھا۔ پھر قیدی میں رہا!

ماخذات

مغلیہ دور حکومت، خانی خاں، طبقات اکبری، نظام الدین احمد، تاریخ فرشتہ، محمد قاسم فرشتہ

خسرو لاہور پہنچا تو قلعے کے دروازے بند پائے۔ خسرو کے پاس وہ بارہ ہزار سوار تھے جن میں زمانے بھر کے لٹکے شامل ہو گئے تھے۔ ان خاطر خواہ سواروں کے باوجود وہ بدحواس ہو گیا تھا کیونکہ اس کے تعاقب میں بخشی مرتضیٰ خاں جو جہاگیر کا بڑا ہمدرد تھا اور ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہا تھا، چلا آ رہا تھا۔

خسرو کے پاس ایسا بھاری جنگی ساز و سامان نہیں تھا کہ قلعے کی دیواروں کو گرا سکتا۔ وہ تو اس امید پر چلا تھا کہ صوبدار خود قلعہ اس کے حوالے کر دے گا۔ اس نے تین دن تک قلعے میں داخل ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے لیکن جب اس نے دیکھا کہ محاصرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو قلعہ چھوڑ کر مرتضیٰ خاں کے مقابلے پر چلا گیا لیکن مرتضیٰ خاں سے ایک معمولی جھڑپ کے بعد ہی اس کے پاؤں اکٹڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔

خسرو کے بھاگنے کے بعد اس کی سواری کی پانکی، جو اہرات کے صندوقچے کے ساتھ مرتضیٰ خاں کے ہاتھ آئی۔ جہاگیر کو معلوم ہوا تو وہ خود مرتضیٰ خاں کے کیمپ میں گیا اور حالات سے باخبر ہوا۔ دوسرے دن راجا پاسو کو جو اس نواح کا سب سے بڑا زمیندار تھا، خسرو کے تعاقب میں روانہ کیا۔

فکست کے بعد خسرو نے اپنے ہمراہیوں سے مشورہ کیا۔ پنجان تو اسے آگرہ بہار کی طرف لوٹ چلنے کا مشورہ دے رہے تھے مگر حسن بیگ مشرقی علاقوں میں جانے کا مخالف تھا۔ وہ کامل کی طرف جانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اس نے یہ پیشکش بھی کی کہ قلعہ روہتا میں چار لاکھ روپیا اور دوسرا سامان جنگ موجود ہے، وہ سب خسرو کی نذر کرے گا۔ خسرو اس خزانے کے لالچ میں حسن بیگ کی تائید کرنے لگا۔ یہ بات پنجانوں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے خسرو کا ساتھ چھوڑ دیا۔

اس بحث و مباحثے میں اتنا وقت گزر چکا تھا کہ جب وہ چناب پر پہنچا تو اس طرف کے تمام حاکموں کے نام خسرو کی راہ بندی کے احکام پہنچ چکے تھے۔ وہاں کے ملاحوں کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ دریا عبور کرنے میں مدد نہ کریں۔ انہوں نے خسرو کا حکم نہ مانا اور بھاگ گئے۔ خسرو کے ہمراہیوں نے بڑی ووڑ دھوپ کے بعد ایک کشتی تلاش کر لی۔ اس کے ملاحوں تک ابھی شاہی حکم نہیں پہنچا تھا۔ خسرو اپنی ایک جماعت کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا۔ ان ملاحوں نے بھی یہ کیا کہ کشتی ریت کے ایک ٹیلے پر چڑھا دی

Downloaded From
Paksociety.com

تاسید سلطان اختر

قصہ شہر شاہان

بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے... اکثر یہ سوچ اسے ایک انجانا سی افسردگی میں مبتلا رکھتی تھی کیونکہ ترقی کے نام پر معاشرتی تباہ کاریوں کو دیکھ کر کوئی بھی حساس دل خوش نہیں رہ سکتا... عوام کے درمیان سے نکل کر ایوانوں میں بیٹھنے والے جب خالی جیب اور خالی پیٹ بھرنے کی ہوس میں مبتلا ہو جائیں تو کب یاد رہتا ہے کہ کبھی کچھ اندھیری راتیں ان کے بھی کچھ مکاٹوں میں اتری تھیں... کسی بیماری نے ان کے کسی پیارے کی اذیتوں میں بھی اضافہ کیا تھا... اور شاید کبھی بھوک و افلاس میں کچھ خواب ان کی پیاسی آنکھوں میں بھی سجے تھے مگر... تعبیریں اتنی الٹی ہوں گی کبھی کسی نے نہ سوچا ہوگا... اپنے خیالوں میں گم جب وہ بھی پرانے رستوں پر نکلا تو ماضی نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔

حساس دلوں میں درد کی ٹیس بن کر اتر جانے والی پرنسز تحریر

میں آ گیا ہوں۔ حالانکہ گاؤں میں اس کے سگی ساتھیوں نے اسے اسلام آباد جانے سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔
”یارا کہاں جا رہا ہے۔ اسلام آباد بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے بھلا۔ مردہ شہر!..... اوہراپنے گاؤں میں تورات تک

بیسویں صدی کے آخری عشرے کے تیز رے برس جب محمود اپنے گاؤں کی ایک تداور سیاسی شخصیت کی سبقت پر ایک وفاقی محکمے میں ملازمت حاصل کرنے کے بعد پہلی بار اسلام آباد آیا تو اسے یوں لگا جیسے وہ گاؤں سے کسی جنت ارضی

مارچ 2016ء

49

سپینس ڈائجسٹ

READING

Section

گھروں میں چولہے چلے رہے ہیں۔“ اس کے کزن مصطفیٰ نے کہا تھا۔

”ہاں جی۔“ باجی ریمانہ کے دیور نے تائید کی۔
 ”جب وہاں گھر کی عورتیں بچوں کو لحاف اوڑھا کر بستر پر لٹا دیتی ہیں، اس وقت ہمارے گاؤں کے بچے ماؤں کے ساتھ چولہوں کے سامنے بیٹھے آگ تاپ رہے ہوتے ہیں۔“

”اوائے یار ادھر تو سائیکل پر بیٹھے اور جدھر مرضی آئی نکل گئے۔ ادھر تو سنا ہے گاڑی بغیر گزارہ ہی نہیں..... کہاں سے لائے گا تو گاڑی۔“

”مجھوری ہے یار۔“ دوستوں کی تشویش کا محمود کے پاس ایک ہی جواب تھا۔ ملازمت اس کی مجھوری بن گئی تھی۔ بی کام کے بعد تین سواتین برس تک وہ چھوٹی موٹی لوگوں میں رہتا رہا۔ کبھی کسی دکان پر سٹریٹ میں کی نوکری تو کبھی کسی اسٹیٹ ایجنسی میں کمیشن پر کام۔ برادری کے ایک بااثر شخص کے کئی ماہ پاؤں دیا تا رہا صاحب کہیں جا کر گاؤں کی ایک بااثر سیاسی شخصیت تک رسائی ہوئی۔ کوئی نیک گھڑی تھی کہ اس نے سفارش کر دی کہ کوئی درخواست نہ اثر دلو گھر بیٹھے اسے ایک وقافتی ٹکٹے میں چودہ گریڈ اسٹیٹ پر تقرری کا پروانہ مل گیا مگر مقام تعیناتی اسلام آباد تھا۔ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے لوگوں سے دور جانا کوئی آسان تو نہ تھا۔ اس پر مستزاد دوستوں کی حوصلہ شکن باتیں..... اسے اسلام آباد جانے سے باز رکھنے کو مختلف حیلے حربے آزمائے جا رہے تھے۔

”اویار بندہ کدھر بھی چلا جائے رزق تو اسے اتنا ہی ملتا ہوتا ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔“

”یہاں تیرا اپنا گھر ہے، اپنے لوگ ہیں..... گھر سے نکلے گا تو سو خرچے نکل آئیں گے..... کرانے پر گھر لے گا یا ادھر اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجے گا..... کھانا یا تو ہوٹل سے کھانا پڑے گا یا خود پکانا ہوگا..... تو نوکری کرے گا یا کھانا پکائے گا۔“

”یار! ادھر مہنگائی بھی بہت ہے۔ سنا ہے اچھے اچھوں کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے وہاں۔“

”مجھوری ہے یار..... نوکری بھی تو کرنی ہے۔“

”جھلے! جو کمائے گا ادھر ہی خرچ ہو جاتا ہے..... اپنا گھر چھوڑ کر دور جانے کا فائدہ؟“

”ماموں کہتا ہے جب تک نوکری نہیں ہوگی وہ شادی بھی نہیں دے گا۔“

”ندوے..... لڑکیوں کی کوئی کمی ہے۔“

”نہیں یار ادھر میری بچپن کی ماںک ہے۔“

ماموں کی بیٹی شائستہ سے اس کا بچپن ہی میں رشتہ طے پا گیا تھا۔ شائستہ گورنمنٹ کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی اور ماموں نے اس کی شادی محمود کی پکی نوکری سے مشروط کر رکھی تھی۔ محمود کی ماں جب بھی بھائی سے محمود اور شائستہ کی شادی کی بات کرتی وہ کہتا۔ ”پہلے محمود کی پکی نوکری لگ جائے دو۔“

محمود کی سرکاری نوکری لگ جانے سے ماں بہت خوش تھی۔ محمود کو پروانہ تقرری ملنے پر وہ مشائی کا ڈیالے کر سب سے پہلے بھائی کے گھر ہی گئی تھی۔ ”اب تو محمود کی پکی نوکری ہوگئی۔ اب تو شادی دو گے نا؟“ اس نے بھائی سے دنوں مسرت سے کہا۔

”ہاں ہاں..... مگر پہلے اسے نوکری پر چڑھنے تو دو۔“

بھائی نے جواب دیا۔
 ”لو اب نوکری چڑھنے میں کیا دیر..... دو چار دن میں محمود اسلام آباد چلا جائے گا..... بتا رہا تھا چودہ دن کے اندر اندر اسے اسلام آباد پہنچتا ہے۔“

”اللہ خیر کرے گا..... اس سے کہنا اسلام آباد پہنچنے میں دیر نہ کرے۔ کہیں اس کی جگہ کسی اور کو نہ کھڑا کر دیں نوکری پر۔“

”نہیں نہیں..... دیر کیوں کرنی..... دو چار دن میں چلا جائے گا۔“

اپنے پرایوں سے مبارکباد ملنا شروع ہوگئی۔ محمود کی خوش قسمتی پر لوگوں کی رال ٹھکنے لگی۔ جوان بیٹوں کے والدین نے محمود سے سفارشات شروع کر دیں۔ ”محمود بیٹا! اسلام آباد جاؤ تو میرے بیٹے کے لیے بھی کوئی نوکری دیکھنا۔“ بعض نے تو تحریری درخواستیں بھی اسے پہنچا دیں۔ پکی سرکاری ملازمت کا پروانہ پا کر محمود وی آئی پی بن گیا تھا۔ شادی کے لیے ماموں کی شرط پوری کرنا بھی ضروری تھی۔ سو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام آباد جانے کو رخصت سفر باندھ لیا۔

☆☆☆

اسلام آباد ان دنوں بڑے سبک سے نقش و نگار والا شہر ہوا کرتا تھا۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترنے کے بعد وہ اپنا سفری بیگ کندھے پر لاوے لوگوں سے پوچھتا پاچھتا اسلام آباد جانے والی دین میں بیٹھ گیا۔ دین انتہائی سبک رفتاری سے سفر کرتی پنڈی سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگئی۔ طویل ہائی وے کا منظر نہایت دلنریب تھا۔ دائیں بائیں ڈھلوانوں پر سبزہ اور درخت..... گرین بیلٹ پر

رنگ برنگ نورستار گلابوں کے پرے۔ محمود کی تو طبیعت باغ باغ ہوگئی۔ اپنے گاؤں میں اس نے اتنے ڈھیرے سارے اور رنگ رنگ کے گلاب کب دیکھے تھے بھلا۔

”زیرو پوائنٹ۔“ بس کٹریکٹر نے آواز لگائی اور دین جو موٹر گاڑی بجلی تھی رک گئی۔

محمود کھڑکی کے نزدیک بیٹھا نہایت اشتیاق سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کیسا دل فریب منظر تھا۔ صاف ستھری سڑک، دو روہ درخت، سبزہ، سڑک پر بڑے لکھم وضبط سے چلتی گاڑیاں، دین میں خاموشی سے سفر کرتے پائیز مسافر اور نفا میں بی گہری رومانویت..... یار دوست خواجواہ ڈرار ہے تھے۔ اسلام آباد تو بڑا صاف ستھرا پرسکون اور انسان دوست سا شہر لگتا ہے۔ مسافر دین ٹاپوں ٹاپ سفر کرتی، کسی کو اتارتی، کسی کو چڑھاتی محمود کی منزل مقصود پر جا پہنچی۔ جو ٹی کٹریکٹر نے صد انگائی۔ ”سپر مارکیٹ“ محمود نے پتا ہانہ کہا۔ ”روکنیار۔“

”روکی ہوئی ہے گی۔“ کٹریکٹر بولا۔

محمود چیخ گیا۔ ”میرا مطلب تھا چلانہ دینا مجھے اترنا ہے۔“

”اتر دس کار۔“

محمود دین سے اتر گیا۔ جیب میں پڑی وہ پرہی نکالی جس پر وہ پتہ درج تھا جہاں اسے جانا تھا۔ گاؤں میں اس کے دوست راشد نے اسے اپنے کسی دور بار کے رشتے دار کا پتا دیا تھا جو کسی اسکول میں چوکیدار تھا اور اسکول ہی کے ایک کوارٹر میں رہتا تھا۔ راشد نے اس سے فون پر رابطہ کر کے محمود سے کہا تھا اپنی رہائش کا بندوبست ہونے تک وہ اس کے پاس ٹھہر سکتا تھا۔

سڑک کنارے کھڑے کھڑے محمود نے چہار اطراف طائرانہ نظر دوڑائی۔ وہی لکھم وضبط، وہی رومانویت جو وہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد راستے بھر دیکھتا آیا تھا۔ گاؤں میں تو مسافر دین جہاں کھڑی ہو جاتی بھرنے تک پہنچنے کا نام نہ لیتی۔ یہاں تو دین ٹاپوں ٹاپ اڑتی چلی آئی تھی۔

ایک راہ گیر سے اس نے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کا راستہ سمجھا اور چل پڑا۔ راستے میں ایک دور راہ گیروں سے مزید راہنمائی لینے کے بعد وہ راشد کے دیے ہوئے پتے پر جا پہنچا۔ راشد کے رشتے دار اقبال شاہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے کوارٹر کی جانب لے گیا۔ ”چھٹی کے بعد یہ سارا اسکول اپنا ہوتا ہے۔“ اقبال شاہ نے بڑی فیاضی سے کہا۔ کوارٹر میں اقبال شاہ کے بال بچے مقیم تھے۔ اس نے

محمود کا اسکول کے ایک کمرے میں بستر لگا دیا۔ اقبال شاہ کا بیٹا گرم چائے لے آیا اور کچھ دیر بعد کھانا بھی۔

”اسکول میں دو چوکیدار ہیں۔ ایک میں دو سوا ایک لڑکا ہے یعقوب۔ اس کی ڈیوٹی دن میں ہوتی ہے۔“ اقبال شاہ نے محمود کو بتایا۔

”میرے یہاں رہنے پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟“ محمود نے پوچھا۔

”دن کو تم ڈیوٹی پر چلے جاؤ گے۔ اپنا بیگ کوارٹر میں رکھ جانا..... شام کو جب تم واپس آؤ گے تو سارا اسکول ہی اپنا ہوگا..... کوئی مسئلہ نہیں آرام سے رہو۔“ اقبال شاہ نے اسے تسلی دی۔

گاؤں میں موسم نہ گرم تھا نہ سرد مگر اسلام آباد میں خاصی خشکی تھی۔ اقبال شاہ نے اسے بستر کے ساتھ ایک پرانا کپڑا بھی اوڑھنے کو دیا اور پہننے کے لیے ایک پرانی جیکٹ بھی۔ محمود جیکٹ پہننے میں مترود ہوا تو اقبال شاہ بولا۔ ”پہنو پار پہنو.....“

نئے بندے کو اسلام آباد کی سردی جلدی لگتی ہے۔“

رات آرام سے گزری۔ اگلی صبح محمود نے دفتر جانے کے لیے کچھ اقبال شاہ سے راہنمائی لی کچھ راستے میں ایک دو اور لوگوں سے معلوم کیا اور پالہ خراس دفتر تک پہنچ گیا جہاں اسے جو اسٹنگ دینی تھی۔

☆☆☆

اگرچہ اسکول میں اقبال شاہ کے ساتھ رہنے میں اسے کوئی پریشانی نہ تھی۔ اقبال شاہ بڑا دوست نوازا آدمی تھا۔ ہر ایک سے اچھی دعا سلام رکھتا۔ اسکول کی پرنسپل، اساتذہ اور دیگر ملازمین سے بھی اس کے اچھے تعلقات تھے۔ محمود سے اس کی چند ہی دنوں میں اچھی گپ شپ ہوگئی تھی مگر پھر بھی محمود کو زیادہ دن اس کے پاس رہنا اچھا نہ لگا۔ دفتر سے چھٹی کے بعد وہ کسی معقول جائے رہائش کی تلاش میں نکل جاتا۔ اس تلاش میں اس نے تقریباً سارا شہر ہی دیکھ ڈالا۔

اسلام آباد ان دنوں بڑا اطمینانی سا شہر تھا۔ مزہ اور رنگ برنگ پھولوں سے مزین۔ شہر کی حدود محدود مکمل منظم، گلیاں اور راستے معمار ہر سیکٹر میں ایک بازار جو مرکز کہلاتا تھا۔ شہر کی آبادی کم، گاڑیوں کا شور نہ ہونے جیسا سرکاری تعلیمی اداروں کی عمارتیں پر شکوہ، رہائشی مکانوں سے زیادہ دفاتر۔ شہر کی انتہائی حد پر ایک نیا سیکٹر جی ایون زیر تعمیر تھا جہاں چھوٹے، درمیانہ اور بڑے مکانات تعمیر کے آخری مراحل میں تھے۔ جی ایون سے سیکرٹریٹ تک، سیکرٹریٹ سے زیرو پوائنٹ تک، زیرو پوائنٹ سے فیض آباد تک اور

فیض آباد سے فیصل مسجد تک ہر راستہ سیدھا اور آسان تھا۔ شہر کے نواح میں چھوٹے چھوٹے ویہی علاقے شہری رنگ روپ میں ڈھل رہے تھے۔ ان علاقوں سے اصلی دودھ، دہی اور مکھن محمود کے اپنے گاؤں سے زیادہ اچھا مل جاتا اور وہ بھی تقریباً اسی بھاؤ! محمود حیران ہوتا کہ یہ لوگوں نے اسلام آباد میں مہنگائی کی خبریں دیے ہی گرم کر رکھی تھیں۔

محمود کے دفتر کے چار پانچ چھڑے مرد کراچی کہنی میں اپنے ہی دفتر کے ایک ساتھی کو الٹا شدہ سرکاری مکان میں کرائے پر رہ رہے تھے، محمود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس طرح رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔

نئی مکانات کا کرائے پر ملنا بھی ان دنوں مشکل نہ تھا اور کرایہ بھی مناسب، شہری نقش و نگار میں ڈھلے دیہی علاقوں میں مکانوں کے کرائے اور بھی کم تھے۔ راول ٹاؤن اور شہزاد ٹاؤن جیسے علاقوں میں بے شمار مکانات آسانی سے کرائے پر دستیاب تھے۔

شام ہوتے ہی شہر میں سناٹا چھا جاتا۔ پبلک ٹرانسپورٹ خال خال دستیاب ہوتی۔ تھوڑی بہت چھل پھل ہوتی تو ہر سیکٹر کے مرکز میں یا پھر سرکاری اسپتالوں میں۔ پولی کلینک، پتھر اور سی ڈی اے اسپتالوں کی بیتیاں بھی باہر سے دیکھنے والوں کو عجیب سی پراسراریت میں ڈوبی دکھائی دیتیں۔

محمود کو باقی سب تو ٹھیک لگتا مگر سرد موسم میں جلد سر پر آکھڑی ہونے والی رات اس کے دل کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کر دیتی۔ گہرا سناٹا اس کے من میں اتر جاتا۔ دل درد میں ڈوب جاتا۔ کبھی اسے یاں یاد آنے لگتی کبھی ابا، کبھی بہن بھائی، کبھی یار دوست اور کبھی شائستہ! گاؤں کے باغوں میں کوکئی کوکلوں کی کوک اس کی یادوں میں گونجنے لگتی۔ وہ کروٹیں بدلے جاتا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہتی۔ اسلام آباد آنے کے بعد اس نے کہیں دور سے سنائی دینے والی ایک پرندے کی آواز اور بھی سنی تھی جو کوئل کی کوک کی طرح دل کو انجانے درد سے دوچار کر دیتی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اس کے ایک روم میٹ نے بتایا تھا کہ وہ فاختہ کی آواز تھی جو یوسف کے کھوہ میں ہونے کا پتا دیتی تھی۔ "یوسف کھوہ..... یوسف کھوہ" محمود کو اس کے اس انکشاف سے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ کان لگا کر سنا تو اسے اپنے روم میٹ کی بات میں صداقت محسوس ہوئی۔ صبح جب وہ دفتر جانے کو تیار ہو رہا ہوتا دور سے آنے والی "یوسف کھوہ" کی پکار اسے ماورائی سی محسوس ہوتی۔ عجیب بات تھی گاؤں کی کوکلوں کی کوک کی یاد اور یہاں اسلام آباد میں

یوسف کھوہ کی پکار سن کر اسے ماں، ابا، بہن بھائی، یار دوست نہیں صرف شائستہ کا خیال آتا۔

☆☆☆

گاؤں میں ماں اس کی شادی کا سامان کرنے لگی تھی۔ گاؤں سے کوئی اسلام آباد آتا جاتا ماں اسے سندیرہ بھجوا دیتی۔ "پنڈی باڑہ سے دو چار سوٹ خرید کر بھجوا دینا۔" وہ ماں کو رنگ برنگی امریکن جار جٹ، ٹنل اور چائنا سلک بھجواتا رہا۔ ماں، شائستہ کے لیے سوٹوں پر کڑھائیاں کر دیا کروا کے رکھ رہی تھی۔ ان دنوں گاؤں میں عورتیں کڑھائی کا کام بھی تو کتنا سستا کر دیا کرتی تھیں۔ پچاس، ساٹھ روپے میں تھیں، موتیوں اور گولے ٹپے کا کام۔ محمود چھٹی پر گھر گیا تو ماں نے سارے کا مدار جوڑے اسے ایک ایک کر کے دکھائے، کالے رنگ کی امریکن جار جٹ کے ٹیٹے دو بیٹے پر معیشتی حال دیکھ کر اس نے سوچا تھا۔ "شائستہ یہ سوٹ پہن کر کتنی اچھی لگے گی۔"

شائستہ کو اللہ جانے کہاں سے اتنا حسن مل گیا تھا۔ اس کے ماں باپ تو دونوں ہی گہری سانولی رنگت کے تھے۔ محمود کی ماں بڑے فخر سے کہاں کرتی تھی۔ "شائستہ اپنی دادی پر گئی ہے۔" شائستہ کی دادی جو محمود کی تانی ہوتی تھی گلگت کی تھی۔ محمود کا نانا جو فوج میں سپاہی تھا گاؤں میں شادی کرنے کے بجائے گلگت کی گوری چٹی لڑکی بیاہ کر لایا تھا۔ گاؤں میں دھوم مچ گئی تھی۔ محمود کے نانا کے تین بیٹے ہوئے دو بیٹیاں، ایک بیٹا تینوں اپنے باپ پر تھے۔ اگلی نسل میں شائستہ اپنی دادی پر گئی تھی۔ گوری چٹی، آنکھیں نیلی اور بال بھورے۔ محمود کی ماں نے بیٹی کے بچپن ہی میں اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ محمود کی نوکری اسلام آباد میں لگنے سے شائستہ اور اس کے گھر والے کبھی خوش تھے۔ شائستہ کی ماں گھر آنے جانے والوں کو یہ بتاتے نہ تھکتی کہ شائستہ کو شادی کے بعد اسلام آباد چلے جانا ہے جہاں اس کا ہونے والا داماد سرکاری ملازمت کرتا ہے۔

"محمود نے سرکار کو مکان کے لیے درخواست دے دی ہے۔ انشاء اللہ اسے جلدی سرکاری بنگلہ مل جائے گا۔" شائستہ کی ماں لوگوں کو بتاتی۔

یہ تو بے چارہ محمود ہی جانتا تھا کہ اسلام آباد میں سب سے مشکل کام کسی سرکاری ملازم کو سرکاری مکان کی الاٹمنٹ ملنا تھی۔ نئے سرکاری مکانوں کی تعمیر نہ ہونے کے برابر تھی اور جو برسوں قبل تعمیر شدہ سرکاری مکانوں میں بیٹھے تھے وہ نکلنے کا نام نہ لیتے تھے۔ سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ کے

کرائے سے دو راندیش قسم کے الاٹیوں نے جا بجا دیں بنائی تھیں۔ لٹکارے مارتی گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ محمود نے بھی سرکاری مکان کی الاٹمنٹ کے لیے درخواست جمع کروادی تھی مگر الاٹمنٹ دئی دور است والا معاملہ لگتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا حکومت اگر چھوٹے گریڈ والے لوگوں کو سرورٹ کوارٹز الاٹ کرنا شروع کرے تو کتنا اچھا ہو۔

☆☆☆

محمود نے اسلام آباد میں تقریباً ڈھائی سال تہا زمی گزاری۔ آمدورفت میں آسانی کے لیے اس نے ماہانہ اقساط پر ایک موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ اسلام آباد اسے بہت اچھا، بہت اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ صبح وہ اپنے ایک روم میٹ کو موٹر سائیکل پر اپنے ساتھ بٹھا کر دفتر جانے کو گھر سے نکلتا اور سیدھی سیدھی سڑکوں، صاف سترے راستوں سے ہوتا دفتر پہنچ جاتا۔ شہر کی سڑکوں میں ان دنوں زیادہ سچ و خم نہیں تھے۔ سہ پہر کو دفتر سے چھٹی کے بعد وہ اور اس کا ساتھی اکٹھے انہی راستوں سے گزرتے گھر لوٹ آتے۔ کھانا بھی سب مل کر اکٹھے پکا لیتے، کبھی بازار سے لے آتے۔ مرکز میں حور بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور چائے خانے بھی۔ افتخانی نان اور کابلی پلاؤ سے محمود اسلام آباد آ کر ہی آشنا ہوا۔ اس کے اپنے گاؤں میں تو گھر گھر حور لگے تھے۔ صبح و شام نضا ان حوروں میں لگائی جانے والی روٹیوں کی خوشبو سے استہا انگیز ہو جایا کرتی تھی۔ اسلام آباد کے افتخانی نان بڑے بڑے سرخی بال، کبھی کرارے اور کبھی نرم بھی ہوتے۔ ایک بان شکم میر کر دیتا۔ محمود کو افتخانی نان چائے کی چسکیوں کے ساتھ کھانے میں بڑا مزہ آتا۔ سینے کی ابتدائی تاربخوں میں جب محمود اور اس کے ساتھیوں کی چیمیں بھاری ہوتیں پشاور موڑ جا کر کسی افتخانی ہوٹل میں چمپلی کباب اور افتخانی نان کھانے کی عیاشی بھی ہو جاتی۔ ایک کباب اور ایک نان محمود کو تو بہت ہوتا۔ نان اور چمپلی کباب کے بعد سوڈا واٹر پینا تو نہایت لازم ہوتا۔ موسم سرد ہوتا تو سینے کے شروع کے دنوں میں دو تین بار گرم سوپ پینے کی عیاشی بھی ہو جاتی۔ سوپ پینے کے بعد گھر واپس لوٹتے ہوئے مونگ پھلی خرید کر آپس میں بانٹ لی جاتیں۔ جیکٹ کی جیب میں بار بار ہاتھ ڈال کر مونگ پھلی نکالنے اور چمیل کر کھاتے ہوئے بانٹیں کرتے چلے جانے کی گری ہی اور ہوتی۔

موسم کے اعتبار سے اسلام آباد محمود کے اپنے گاؤں سے بہت مختلف تھا۔ یہاں گری بھی خوب ہوتی اور سردی تو بندے کا نام پوچھ لیتی۔ بارش بہت ہوتی اور کبھی کبھی تو

بعد مکان اگلی نسل میں کسی سرکاری ملازم کے بیٹے یا بیٹی کے نام ہو جاتا اور برسوں کی چھٹی ہو جاتی۔ اسی لیے سرکاری مکانوں میں رہائش پذیر سرکاری ملازمین کی پوری کوشش ہوتی کہ ان کی رہائش منٹ سے نکل کوئی بیٹا یا بیٹی سرکاری ملازمت میں آجائے تاکہ مکان کی الاٹمنٹ اس کے نام کر دئی جاسکے۔ سرکاری مکان نسل در نسل اپنے قبضے میں رکھنے کی خاطر اکثر سرکاری ملازمین اپنے اچھے بھلے باصلاحیت بیٹوں کا مستقبل بھی داد پر لگانے سے گریز نہ کرتے، کسی کی تعلیم چھڑوا کر اور کسی کی صلاحیتوں کو نظر انداز کر کے کسی بھی سرکاری محکمے میں اسے چھوٹے موٹے گریڈ پر بھرتی کروا دیا جاتا اور سفارش کروا کے وزارت ہاؤسنگ سے دو درجہ اوپر مکان کی الاٹمنٹ کروالی جاتی۔ پھر ریٹائر ہونے والا ملازم سرکاری مکان کی دلیر پر بیٹھ کر چین کی بانسری بجاتا اور اس مکان کی خاطر اپنے تائبناک مستقبل کو قربان کرنے والی اولاد اگلی نسل کی کاشت میں لگ جاتی۔

اسلام آباد جتنا طلسماتی شہر تھا اس سے کہیں زیادہ سرکاری مکانات جاودا اثر تھے۔ اکثر سرکاری ملازمین نے ان مکانات میں اضافی کمرے تعمیر کر کے یا تو اپنے لیے ان مکانوں کی مکانیت میں اضافہ کر لیا تھا یا پھر ان اضافی کمروں کو کرائے پر اٹھا دیا تھا۔ گریڈ سرکاری ملازمین کو الاٹ مکانات میں سرورٹ کوارٹرز بھی تھے جو اپنی جگہ ایک مکمل رہائشی فونٹ تھے۔ بیشتر سرکاری ملازمین نے اپنے سرورٹ کوارٹرز کرائے پر اٹھا رکھے تھے۔ کرائے داروں سے ملنے والا کرایہ بسا اوقات سرکاری ملازم کی تنخواہ میں سے منہا ہونے والے کرایہ مکان اور مزید پانچ فیصد کی مجموعی رقم سے بھی زیادہ ہوتا۔ یوں مکان بالکل مفت پڑتا۔ سرکاری مکانوں میں پانی، بجلی، گیس کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ سو اچھے بھلے لوگ بھی اسی مکان کرائے پر لینے کے بجائے سرکاری مکانوں کے سرورٹ کوارٹرز کرائے پر لینے کو ترجیح دیتے۔ اس ترجیح کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ سرکاری مکانات زیادہ تر شہر کے ان سیکٹرز میں تھے جہاں آس پاس روزمرہ ضرورت کی سہولتیں مثلاً شاہنگ سینٹرز اور شفا خانے دستیاب تھے، کرائے دار دور افتادہ پرائیویٹ مکانات میں رہنے کے بجائے ان سرورٹ کوارٹرز میں رہنا پسند کرتے۔ بعض سرکاری مکانوں میں سرورٹ کوارٹرز کے علاوہ بھی اضافی کمرے تعمیر کر کے انہیں کرائے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ حاصل شدہ کرایہ سرکاری ملازمین کے مالی وسائل میں خاطر خواہ اضافہ کرتا۔ سرکاری مکانوں میں اضافہ شدہ کمروں سے حاصل ہونے والے

لگا تار کئی کئی دن..... محمود کے اسلام آباد آنے کے بعد جب پہلی مرتبہ بارش ہوئی تو وہ دفتر نہیں گیا تھا۔ بارش بھی سردیوں کی تھی جس نے کپکپی چمڑا رکھی تھی۔ رات بھر برستی رہنے والی بارش سے بڑھ جانے والی سردی نے صبح محمود کو بستر سے نکلنے کی ہمت ہی نہ دی۔ اگلے روز وہ دفتر گیا تو اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ ”خیریت تھی محمود صاحب..... کل آپ آفس نہیں آئے۔“

”یار بارش تھی۔“ اس نے جواب دیا۔

ساتھی بے ساختہ مسکرایا اور بولا۔ ”یہ کیا بات ہوئی۔“
”ہمارے گاؤں میں بارش والے دن سب چھٹی کر کے بیٹھے جاتے تھے۔“ محمود نے نہایت سادگی سے بتایا۔
ساتھی ہنس دیا۔ ”محمود صاحب! یہاں تو سال میں پانچ چھ مہینے بارش کے دن ہوتے ہیں۔ کتنی چھٹیاں کریں گے آپ؟“

محمود نے بازار سے ایک چھتری اور پشاور موڑ کے اتوار بازار میں لنڈا سٹیشن سے ایک پرانی برساتی خریدنی تھی۔ اب وہ بارش میں برساتی اوڑھ کر بارش والے دن بھی دفتر جانے کا عادی ہو گیا تھا۔

اسلام آباد نے محمود کو اور بھی بہت سے قرینے سکھا دیے تھے۔ موسم گرما میں صبح و شام لمبی واک، سرما میں لنڈا سے خریدے سوئٹرز، جیکٹ اور کوٹ سے اپنی پرستاشی شاعر بنا کر دفتر جانا، بارش کی کچھل سے بچنے کے لیے گھر سے لنڈا سے خریدے لائٹ بوس، کپن کر دفتر جانا اور دفتر پہنچ کر جوتے تبدیل کر لینا۔ محمود اپنے لباس کے بارے میں بھی نہایت محتاط ہو گیا تھا۔

عید، بقرعید پر اسلام آباد تہوار سے کئی دن پہلے ہی خالی ہونے لگتے۔ دوسرے علاقوں سے یہ سلسلہ ملازمت و کاروبار، اسلام آباد آئے لوگ عید، بقرعید منانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کو جانے لگتے۔ اکیلے مرد، اکیلی عورتیں اور پورے پورے کنبے بھی۔ اپنا اپنا رخت سناٹھائے اسلام آباد سے جانے لگتے۔ ویکوں میں جگہ نہ ملتی۔ لاری اڈوں پر مسافروں کو اندر دھام دکھائی دیتا۔ ہر کس ونا کس جلدی میں نظر آتا۔ محمود بھی عید، بقرعید پر سرکاری چھٹیوں کے ساتھ تین چار دن مزید چھٹی لے کر گاؤں چلا جاتا۔ کبھی کسی خوشی تھی پر بھی گاؤں جانا پڑ جاتا۔ باوجود یہ کہ اسلام آباد اسے راس آگیا تھا، اپنے گاؤں جانے کی خوشی ہی اور ہوتی۔

☆☆☆

شائستہ سے اپنی شادی ہونے سے پہلے ہی محمود نے

سیکٹر ایف سکس میں ای کیٹگری کے ایک سرکاری مکان کا سرونٹ پورشن کرانے پر لے لیا۔ ایسے سرکاری مکان الاٹ ہونے کی فی الحال کوئی امید نہ تھی اور اسلام آباد میں پرائیویٹ مکان کا کوئی ایک پورشن بھی کرانے پر لینا اس کی تہائی تنخواہ تو لے ہی جاتا سو اس نے سرکاری مکان کا سرونٹ پورشن ہی کرانے پر لینا بہتر سمجھا۔ رہنے کو تو شائستہ شادی کے بعد گاؤں میں اس کے والدین کے ساتھ بھی رہ سکتی تھی وہ مہینا دو مہینا بعد گاؤں کا چکر لگایا کرتا مگر ماں اس حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا شادی کے بعد بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ دکھ سکھ، بیماری آزاری سو مسائل ہوتے ہیں جو مایاں بیوی ایک ساتھ رہ کر ہی بنا سکتے ہیں۔ خواہش تو محمود کی اپنی بھی یہی تھی کہ شادی کے بعد شائستہ اس کے ساتھ ہی رہے۔

ایف سکس میں سرونٹ کو آرڈر کرانے پر لینے کی متعدد وجوہات تھیں۔ یہ سیکٹر محمود کے دفتر کے نزدیک تھا۔ تین چار منٹ کی پیدل مسافت پر پبلک ٹرانسپورٹ صبح سے رات تک دستیاب ہوتی۔ آس پاس چھوٹی بڑی کئی مارکیٹیں تھیں جہاں روزمرہ ضرورت کا ہر سامان مل جاتا۔ ٹھلٹے ٹھلٹے مین روڈ تک جانے پر سپر مارکیٹ بھی جو ایک بازو فٹ مرکز خرید و فروخت ہونے کے ساتھ اچھا بھلا تفریحی مقام بھی تھی جہاں محمود اور شائستہ جیسے محدود وسائل والے سفید پوش جوڑے بھی دن روپے کے فریج فرائیز یا پانچ روپے کے ٹکی کے دانے لے کر سپر مارکیٹ میں دنڈو و شاپنگ کرتے ہوئے اپنی چینی شامیں چاہے رکھیں بنا سکتے تھے۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں برگر اور کوئلڈ ریک کی عیاشی بھی ممکن تھی اور گھر واپس لوٹتے ہوئے سپر مارکیٹ میں واقع مشہور و معروف بیکری سے ٹکی بریڈ، فریج بریڈ، انڈے اور کھن بھی خرید کر گردن اکڑائی جاسکتی تھی اور مہینے کی ابتدائی تاریخوں ہی میں بشرط ”رعایتی سیل“ شائستہ کے لیے کوئی جوتی، کوئی شال، کوئی سوٹ بھی خریدنے کی ہمت کی جاسکتی تھی..... ہاں موسم سرما میں چکن کارن سوپ پینے اور ریزمی والوں سے موٹگی پھلکی اور میوے والا گڑ خریدنے کی سہولت بھی دستیاب رہتی۔ گھر سے نکل کر چھل قدی کرتے کرتے پریڈ گراؤنڈ، سیکرٹریٹ اور حکمرانوں کی قیام گاہوں کا بھی دوری سے سہی نگارہ کیا جاسکتا تھا۔ برس کے برس پریڈ گراؤنڈ میں یوم پاکستان کے لیے فوجی پریڈ کی ریہرسل اور آہنی چنگے کے پھسے سے فائل پریڈ بھی دیکھی جاسکتی تھی۔

محمود نے جو سرونٹ کو آرڈر کرانے پر لیا وہ ایک سرکاری

سری گھمانے لے جائے گا۔

ایف سلس میں سروٹ پورٹن کراٹھے پر لینے کا ایک اور بڑا فائدہ پولی کلینک کا نزدیک ہونا تھا۔ شائستہ کے آنے کے بعد اماں، ابا میں سے کوئی رختے کو آگیا اس کے پاس اور خدا خواستہ انہیں ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت پڑی تو دور نہیں جانا پڑے گا۔ سیدھی سڑک، پھر مزے اور دو سڑکیں پار کر کے سامنے ہی پولی کلینک۔ اماں، ابا کو ضرورت نہ بھی پڑی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی تو شائستہ کو تو سہولت رہے گی نا۔

ایف سلس تھا رہائش کے لیے نہایت آئیڈیل سیکٹر۔ ایک طرف حکمرانوں کے ایوان، قوم کے مقدر نویسوں کے محلے اور غیر ملکی سفارت کاروں کے دفاتر، دوسری طرف طبقہ اشرافیہ کی پسندیدہ سپر مارکیٹ، پیدل مسافت پر سرکاری اسپتال اور اس سے وابستہ معالجین کی طبی علاج گاہیں۔ شہید ملت سیکرٹریٹ کے اس پار بلیو ایریا کا تجارتی مرکز جہاں اہورٹڈ اشیا کا بازار گرم رہتا۔ تین چار سنٹ کی ڈرائیو پر میلوڈی مارکیٹ اور اس سے دو اسٹاپ پر سے آب پارہ!

واہ! کیا غنائیت بھی ”آب پارہ“ نام میں..... آب پارہ!..... اسلام آباد کے پرانے علاقوں کے ناموں میں ایسی ہی غنائیت بھی..... آب پارہ..... رہتا..... شالینار..... مرگہ..... غنائیت تو اس پورے شہر کا خاصہ تھی..... ظلم ہو شربا انشہ تھا جو سرحد کے بولہ اور اسلام آباد آنے والے کو یوں اسنے سحر میں جکڑ لیتا کہ آنے والا داہس جانے کا نام نہ لیتا۔ محمود چھٹی پر گھر جاتا تو اسے جلد ہی اسلام آباد کی یاد ستانے لگتی۔

☆☆☆

شادی کے بعد شائستہ اس کے ساتھ اسلام آباد آئی تو وہ بھی اس ظلم ہو شربا کی اسیر ہو گئی۔ اپنے حسن کی ضو پاشی اور ماں سے کیے گھڑا بے سے اس نے چھوٹے سے سروٹ کوارٹر کو جنت بنا دیا۔ ہر اتوار کو محمود کے ساتھ سڑے بازار جا کر وہ گھر کے ہفتہ وار سودا سلف کے ساتھ گھر کی آرائشی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور خرید لاتی۔ کبھی کھڑکیوں، دروازوں پر لٹکانے کے لیے لٹڈا سے پردے، کبھی فرش پر بچھانے کے لیے قالچہ، کبھی خوشنما فلور کشن، کبھی مصنوعی گلہستے، کبھی کوئی دیوار گیر آرائش، کبھی دہلیز پر ڈالنے کو مدد، کبھی چھوٹے سے مچن کی آرائشی کے لیے موٹی پھولوں کے گلے، کبھی مہانوں کے لیے جائے کے خوب صورت مگ تو کبھی میلا مائن کی پلٹین اور سائن کے ڈسکے۔ ماں باپ نے شائستہ کو چیز میں روزمرہ گھریلو استعمال کا جو سامان دیا

افسر کے سرکاری مکان کا حصہ تھا مگر اصل مکان سے بالکل الگ تھلگ۔ سروٹ کوارٹر میں ایک رہائشی کرا تھا، اس سے متصل چھوٹا سا کچن، آگے چھوٹا سامن، کمرے کی بیرونی جانب کھلنے والا دروازہ ایک چھوٹی سی راہداری سے کمرے کے عین مقابل بنے ہاتھ روم اور سروٹ کے بیرونی دروازے کی طرف راہ دیتا تھا۔

اس سیکٹر میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ محمود پیدل بھی اپنے دفتر آ، جا سکتا تھا۔ موٹر سائیکل پر تو ہر ایریا غیر لفٹ لینے کے چکر میں رہتا۔ اس کا روم سیٹ بھی جو مستقل اس کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا جب تک اس کا تبادلہ لاہور نہ ہو گیا مفتیا ہی بنا رہا تھا۔ جب سے وہ تبادلہ ہو کر لاہور گیا تھا دوسرے تاک میں رہنے لگے تھے۔

”یار ذرا جی ایٹ تک اتار دینا۔“

”پھر جانا ہے..... تم ادھر ہی سے تو گزرتے ہو..... مجھے بھی ڈراپ کر دینا۔“

”محمود صاحب آپ پارہ سے تو گزریں گے نا؟“

”مقدر صاحب میں تو چاچا چوک سے سیدھا نکل لیتا ہوں۔“

”ارے صاحب آج ہماری خاطر آپ پارہ سے ہوتے

چلے جائیے گا۔“

”بیٹھے۔“ وہ نیم دلی سے کہتا۔

اور تو اور چھٹی والے دن کے لیے پہلے ہی بنگ ہو جاتی۔ ”یار محمود صاحب کل سڑے مارکیٹ جانا ہے۔ چلے تو جاؤ واپسی پر ٹیکسی والوں کے خڑے دکھنا پڑتے ہیں۔ میں آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ دونوں بھائی مل کر چلے چمیں گے۔ دوپہر کا کھانا آپ ہمارے ساتھ ہی کھا لیجئے گا..... آپ کی بھائی ساگ زبردست بناتی ہیں۔“

ساگ کھانے کا اسے ایسا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ گاؤں میں برسوں تک ہر طرح کا ساگ کھا کر رہا ہوا تھا وہ مگر ساگ کا لالچ دینے والے کو سڑے بازار تو بہر حال لے جانا پڑتا۔

ان مفتیا سوار یوں سے نجات کی بس ایک ہی تدبیر سوچ رکھی تھی اس نے۔ شادی کے بعد جب شائستہ اس کے ساتھ اسلام آباد آجائے گی تو وہ موٹر سائیکل پر دفتر آنے جانے کے بجائے پیدل آیا جایا کرے گا۔ موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ صرف اور صرف شائستہ کے لیے مختص ہوگی۔ وہ شائستہ کو اسلام آباد کے صے صے چھپے کی سیر کرائے گا۔ شکر پڑیاں، دامن کوہ، پیر سوہانہ، چڑیا گھر، راول ڈیم، شاہدرہ، گرمیوں میں تو اسی موٹر سائیکل پر شائستہ کو چھتر پارک، ساگر اراں اور

جب وہ معائنے کے لیے اسپتال جاتی خصوصی توجہ مل رہی تھی۔

☆☆☆

بچے کی پیدائش سے دو ماہ پہلے محمود کی والدہ اس کی چھوٹی غیر شادی شدہ بہن نسیم کے ساتھ اسلام آباد آئیں۔ نسیم نے آتے ہی گھر داری سنبھال لی۔ موسم اچھا تھا۔ سردی ہوتی تو ماں برداشت نہ کر پاتی۔ محمود نے صحن میں جستی چادروں کی چھت ڈلوالی تھی۔ رات کو وہ اپنا پلنگ صحن ہی میں بچھا لیتا۔ ماں بھی آٹھ نو بجے تک صحن ہی میں بیٹھی رہتی۔ رات کو تینوں عورتیں کمرے میں سو رہیں۔ ماں اور بہن کے آنے سے محمود کو یہ تسلی ہو گئی تھی کہ اس کی عدم موجودگی میں شائستہ کو اسپتال لے جانے کی ضرورت پڑی تو وہ دونوں سنبھال لیں گی۔

محمود کے ہونے والے بچے کے لیے ماں کچھ ضروری چیزیں گاؤں سے لے کر آئی تھی۔ باقی تیاری اس نے صحن میں صحن کی چھت کے نیچے بیٹھ کر کی۔ صبح کو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا بکسوا اور نئے پرانے کپڑے نکال کر بیٹھ جاتی اور آنے والے ننھے مہمان کے لیے پوتڑے، نہالے، گدیلے، جھیلے، ٹوپے اور صدریاں سے جاتی۔ زچگی کے بعد شائستہ کے سر پر باندھنے کے لیے اس نے سرخ اور سبز رنگ کا ماتھا بندھی کر اس پر سنہری ستاروں کی نکل ٹانگی تھی۔ بچے کو چٹانے کے لیے وہ گاؤں سے اصلی شہد اور گھنٹی بھی لے کر آئی تھی اور شائستہ کے لیے گوند اور اچھوانی بنانے کو خشک میوہ جات اور دسی گھی بھی۔

”ماں جی کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ لانے کی..... یہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔“ محمود نے ماں سے کہا تھا۔

”میرا بچہ نہ ایسا شہید ملتا ہوگا یہاں نہ ایسا سچا گھی۔“ ماں نے کہا پھر اسے بتایا۔ ”گھی کے لیے میں نے تیری خالہ حمیدہ کو کب سے کہلوار کھا تھا۔ اس نے اپنی ہمسائی سے لے کر دیا ہے..... ہانگل خالص گھی ہے..... سونے کی طرح۔“ محمود مسکرا دیا۔ ”ماں جی املا دٹ تو سونے میں بھی کی جاتی ہے۔“

”مجھے بتا ہے..... لیکن بچانے والے پہچان لیتے ہیں کہ سونا اصلی ہے یا اس میں کھوٹ ہے۔“

”کسوٹی پر رگڑ کرنا پھپھو۔“ شائستہ نے ساس کو دیکھتے ہوئے کہا۔

”میری نون! کسوٹی نہ بھی ہو تو پہچان رکھنے والے ہاتھ اپنے ہاتھ میں سونا لے کر پہچان لیتے ہیں کہ خالص ہے یا کھوٹ ہے۔“

تھا وہ محمود کے گاؤں والے گھر میں اسی طرح بندھا رکھا تھا۔ محمود نے ماں سے کہا تھا جب اسے اپنا مکان الاٹ ہو جائے گا تب لے جائے گا۔ اسلام آباد آنے کے بعد شائستہ تھوڑی تھوڑی کر کے جو روزمرہ گہستی جوڑ رہی تھی۔ اس کا مزہ بھی اور تھا۔ وہ دونوں مل کر اپنی ایک نئی نویلی دنیا آباد کر رہے تھے۔ چھٹی والے دن گھر کے کاموں سے نمٹ کر جب محمود، شائستہ کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر اسے سیر کرانے کو باہر لے جاتا تو اسے یوں لگتا جیسے شائستہ کی صورت ہفت اقلیم کی دولت اس کے ساتھ ہے۔ اس دولت کے نشے میں ڈوبا وہ اسلام آباد کے سہانے رستوں پر دیوانہ وار گھومتا پھرتا..... شائستہ کے آجانے سے اس کی زندگی کتنی باسختی ہو گئی تھی۔ شائستہ کے ہوتے اسے کسی اور کی کمی یا ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔ شائستہ سے شادی کے بعد پہلی عید آئی تو وہ اسے لے کر اپنوں کے ساتھ عید منانے گاؤں گیا لیکن بقرعید پر اس نے شائستہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسلام آباد ہی میں رہنا پسند کیا۔ تیسرے دن کلڑ پر بیٹھے موچی کو جوتے گانتھے دیکھ کر وہ اپنے ایک پرانے جوتے کی مرمت کروانے اس کے پاس لے گیا تو موچی جو روزانہ اس راستے سے اس کے آنے جانے کے باعث اسے پہچانتا تھا۔ بولا۔

”باپو صاحب! سارا اسلام آباد عید منانے اپنے گھر کو گیا ہے آپ ادھر کیا کرتا ہے؟“

”تم ادھر کیا کرتا ہے؟“ محمود نے انسا سوال دارغ دیا۔

موچی اس کے جوتے کی جوڑی کے مرمت طلب حصوں کا معائنہ کرتے کرتے چوٹکا اور اسے دیکھنے لگا پھر بولا۔

”ہم تو ادھر مزدوری کرتا ہے۔“

”ہم بھی مزدوری کرتا ہے خان بھائی۔“ محمود نے خوش دلی سے کہا۔

”یار! تم مزدوری کدھر کرتا ہے..... تم تو روز لاش پیش ہو کر ادھر سے دفتر جاتا ہے۔“

”ہمارا گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھا اس لیے ہم گھر نہیں گیا۔“ محمود نے موچی کو گاؤں نہ جانے کا سبب بتانے میں عار نہ سمجھا۔

”اچا اچا! پھر تو آپ کو ادھر ہی رہنا چاہیے۔ پولی کلینک نزدیک ہے نا۔“

”ہاں ادھر بہت آسانی ہے۔“

شائستہ امید سے تھی۔ محمود نے اس کا نام پولی کلینک ہی میں لکھوادیا تھا۔ زچہ بچہ دارڈ میں اس کے ایک سینئر انفرمیر کی ایک اور امراض زچہ دیکھتے ہیں۔ ان کی وجہ سے شائستہ کو

READING

www.paksociety.com

”ماں جی! کوئی نام شام بھی سوچا؟“ محمود نے شائستہ کو کون انکھیوں سے دیکھتے ہوئے ماں سے پوچھا۔
 ”ہاں ہاں.....“ ماں گرم جوشی سے بولی۔ ”پوتا ہوا تو علی محمود اور پوتی ہوئی تو مثال..... سب کے صلاح مشورے سے لے کر آئی ہوں یہ نام..... بیٹا ہو یا بیٹی..... اللہ خیر سے میری شائستہ بیٹی کے ہاتھ پاؤں چھڑائے..... بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے..... جیتی جان سے ایک نئی جان پیدا ہوتی ہے۔ عورت مر کے جیتی ہے۔“
 ”ماں جی! تمہاری بہو تو پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی ہے اسے اور نہ ڈراؤ۔“ محمود بولا۔

”ایک بات کر رہی ہوں بیٹا..... اللہ کرے گا خیر ہوگی۔“ یہ کہتے ہوئے ماں نے شائستہ کو اپنے گلے سے لگایا۔

☆☆☆

نارٹل ڈبلیوری ہوئی۔ شائستہ بیٹے کی ماں بن گئی۔ پہلی اولاد اور وہ بھی بیٹا! محمود شائستہ، محمود کی ماں اور بہن ہر ایک کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ محمود کی ماں مشائش کا ڈبالیے وارڈ بھر میں ایک ایک کا منہ میٹھا کراتی پھری۔ دو ہی بیٹے تھے اس کے۔ بڑا اللہ لوگ۔ دین دنیا سے بے خبر۔ دوسرا محمود..... اللہ نے کرم کیا جو اسے چٹا دیا۔ محمود نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اپنے دفتر کے ساتھیوں کو ٹریٹ دی۔ پلاؤ کیا ب، ریس ملائی اور ٹھنڈی شہار یوٹلس۔
 ”محمود صاحب آپ کو تو یہ دعا دینے کو جی چاہتا ہے کہ خدا آپ کو ہر سال ایک بیٹا دے۔“ دفتر کے ایک ساتھی ٹریٹ کے دوران بولے۔
 ”شکر ہے آپ نے ہر روز نہیں کہا۔“ دوسرے نے سمجھتی کسی۔ حاضرین نے زوردار قہقہہ لگایا۔

بچے کا نام وہی رکھا گیا جو ماں گاؤں سے سوچ کر بلکہ دیگر اہل خانہ سے بھی اس کی منظوری حاصل کر کے چلی تھی..... علی محمود!

علی محمود کی پیدائش نے محمود اور شائستہ کے رشتے کو مزید تقویت اور جلا دی۔ محمود کی ماں اور بہن بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً ڈھائی ماں اور اسلام آباد میں رہیں۔ ان کے ہونے سے شائستہ کو نہ گھر کے کام کاج کی فکر رہی نہ بچے کی دیکھ بھال میں کوئی پریشانی۔ ان کے جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ساس ہمدیں بھی کیا نعمت ہوتی ہیں۔ جب تک محمود کی والدہ رہیں اسے پتا ہی نہ چلا کہ بچے کے گندے کپڑے دھل گئے، کب پوترے، نہالچے اور گدیے تہ

کر کے اس کے سر ہانے رکھ دیے گئے۔ بچے کو نظر لگے تو نظر کیسے اتاری جائے، پیٹ میں درد ہو تو کیا علامت ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج کیا جائے۔ بچے کی رنگت زرد ہونے لگے تو یرقان کی اس علامت کو بڑھنے سے کیسے روکا جائے..... یہ سب کچھ اس نے محمود کی والدہ سے سیکھا..... انہوں نے ہی اسے بتایا تھا کہ نوزائیدہ بچوں کو فرشتے اپنی دیکھ بھال میں رکھتے ہیں۔ جب کوئی فرشتہ نئے بچے سے کہتا ہے تیری ماں مر گئی تو وہ منہ بسور نے لگتا ہے اور جب وہ کہتا ہے تیری ماں جی گئی تو وہ مسکرائے لگتا ہے۔ واللہ! علم بالصواب..... یہ سینہ گزٹ تھا جو نسل در نسل سادہ لوح اور ان پڑھ عورتوں سے ایک دوسرے کو منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔

ساس اور نند کے جانے کے بعد شائستہ کا ایک پاؤں کمرے سے باہر کچن یا مٹن میں ہوتا اور دوسرا طہی کی دیکھ بھال کے لیے کمرے میں۔ چھوٹا تھا مگر کتنے بہت سے کام کرنے پڑتے تھے اس کے..... محمود دفتر سے آجاتا تو شائستہ کو کچھ آسانی ہو جاتی۔ وہ علی کی دیکھ بھال بڑے ذوق و شوق سے کرتا۔

☆☆☆

بیسویں صدی کے آخری عشرے کے آخری برسوں میں اسلام آباد جو آبادی سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد اور ٹریفک کے شور کے اعتبار سے نہایت پرسکون سا شہر ہوا کرتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک گنجان آباد اور پر شور شہر بن گیا۔ آس پاس کے علاقوں اور بالخصوص کراچی سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔ روڈنیوں کے شہر عروس البلاد کراچی کے باسی کسی اور شہر کے خوگر ہو سکتے تھے بھلا مگر اسلام آباد ایسا شہر طلسم تھا کہ کراچی والے بھی اسلام آباد آ کر کراچی کو بھولنے لگے۔ کراچی کے حالات سے نکل آئے جوت در جوت لوگوں کی اسلام آباد آمد سے نہ صرف شہر کی آبادی گنجان ہوئی بلکہ مکانوں، دکانوں اور زمین کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہوا اور سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ گیا۔ اسلام آباد کی طلسماتی خوشی چنگھاڑ میں بدل گئی۔

شائستہ دوسرے بچے کی ماں بن گئی۔ محمود کی بہن نسیم کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اس ہار شائستہ کی زچگی منوانے ماں کے ساتھ نہ آسکی تاہم ماں اپنی ایک رشتے دار کو جو ہال بچوں سے فارغ تھی اسلام آباد دکھانے کے بہانے اپنے ساتھ لے آئی۔ اس نے محمود کی ماں کا ہاتھ تو کیا بیٹا تھا مہمان بن کر بیٹھ گئی اور اس پر مستزاد مری گھمانے پھرانے کی پر زور فرمائش۔ محمود کی ماں نے بہت ڈرایا کہ مری میں تو

بھورا اور کبھی ان کی شاخیں بالکل تنگی ہو جاتیں۔ خزاں میں ان درختوں کے پتے شاخوں سے جدائی کے دکھ میں سڑک پر کھڑکھڑاتے اور راہ گیروں کے قدموں میں رلتے پھرتے۔ پھر کسی دن علاقے کا خاکا رعب اپنی لمبی ہونٹوں اور مضبوط تنگوں والی جھاڑوں سے سڑک پر رلتے ان خشک پتوں کو سیٹ کر اکٹھا کرتا اور انہیں دیا سلائی دکھا دیتا۔ ڈھیروں ڈھیروں پتے دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاک ہو جاتے، کسی کو یاد بھی نہ رہتا کہ سڑک کنارے پڑی سیاہ راکھ بھی کسی بلند و بالا درخت کی شاخوں کا مہرہ ہوا کرتی تھی۔

گاؤں میں محمود نے صرف دو موسم دیکھے تھے۔ گرمی اور سردی مگر اسلام آباد آ کر تو اسے برس کے برس کئی موسموں سے سابقہ پڑا۔ گرمی، سردی، بہار، خزاں، سادوں، بھادوں، بہت جھڑ، پولن، الرجی..... ہاں ایک موسم الرجی کا بھی تو ہوتا تھا۔

الرجی کا نام محمود نے اسلام آباد آنے سے پہلے گاؤں میں بھی سن رکھا تھا۔ محمود کے بچپن میں جب گاؤں کا کوئی بندہ جسم پر مچھلی، بہت یاد دانی، پھنسیوں کا شکار ہو جاتا تو کہا جاتا خارش ہو گئی ہے لیکن محمود کی جوانی میں جب گاؤں قدرے ترقی یافتہ ہو چکا تھا خارش کو الرجی کہا جانے لگا تھا۔ اسلام آباد آنے کے بعد محمود کو پتا چلا خارش کے علاوہ بھی ایک الرجی ہوتی ہے اور وہ ہے ”پولن الرجی“۔

موسم بہار اسلام آباد کے بے شمار باسیوں کے لیے موسم آزار بن کر آتا۔ ادھر درختوں پر خنپے چمکتا شروع ہوتے ادھر پولن سے الرجک افراد کی جان پر بن جاتی۔ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں مریضوں کا جھوم بڑھ جاتا۔ نیچولازم پڑ جاتے۔ الرجی کا شکار افراد کو کوری کینی امداد ہم پہنچانے کے لیے رضا کار جماعتیں کیپ لگاتیں۔ مریضوں پر جویتی سویتی ان کے متعلقین کی جان پر بھی بنی رہتی۔ طبی امداد ملنے میں دیر ہوئی، سانس بند اور مریض ختم..... سانس کی آمد و رفت ہی سے تو زندگی کی ڈور بندھی تھی۔ پولن الرجی سانس کی گھنٹی کا معاملہ تھا۔ اموات ہوتی رہتی تھیں مریض اور متعلقین اخبار کھولتے تو سب سے پہلے فضا میں پولن کی تعداد کی خبر دیکھتے۔ پولن الرجی کے موسم میں تقریبات کم سے کم رکھی جاتیں۔ الرجی کا شکار وہ افراد جن کا ملازمت، کاروبار یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا ضروری ہوتا کسی ہنگامی ضرورت کے لیے اسپتال ساتھ رکھتے۔ بارش ہوتی تو مریضوں کو کچھ افاقہ محسوس ہوتا لیکن بارش کے بعد جو نمی و صوب لگتی پھر وہی آزار شروع ہو جاتا..... وسط اپریل میں جب اس آزار کا زور ٹوٹا تو

برف پڑی ہوگی تو کمزور عورت۔ کہیں پھسل کر گر پڑی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے مگر وہ بھی پکی تھی اپنی فرمائش سے دستبردار ہو کر نہوی۔ ناچار محمود کو اسے مری گھمانے کے لیے ساتھ لے جانا پڑا۔ اسی کی وجہ سے محمود کی ماں بھو کی اس زچگی کے بعد کبھی مرتبہ کی طرح زیادہ دن نہ ٹھہر سکی۔ شائستہ کو چلہ چھلاتے ہی اس نے واپسی کی تیاری کرنی اور بھو، بیٹے کو چپکے سے سمجھا دیا کہ اس گلے لگائی معیبت سے گلو خلاصی کے لیے جانا ضروری ہے۔ محمود اور شائستہ نے بھی اسی میں عافیت سمجھی۔ دو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے شائستہ کو خود ہی کمر کسنا پڑی۔ ویسے ایمان کی بات یہ تھی کہ خدانے اسے بہت تعاون کرنے والا شوہر دیا تھا۔ دفتر سے واپسی پر وہ نہ صرف بچوں کی دیکھ بھال بلکہ گھر کے کام کاج میں بھی اس کی خاطر خواہ مدد کرتا تھا۔ صبح شائستہ کے سر ہانے ڈبل روٹی کے کھن گے سلائس رکھتے ہوئے آہستگی سے کہتا۔

”بے بی انا شاکر لو پھر سو جانا۔“
”سوئے دیتا ہے آپ کا یہ چھوٹا۔“ شائستہ جسے اس کے اپنے گھر میں اور خاندان بھر میں پیار سے ”بے بی“ کہا جاتا تھا آنکھیں کھول کر محمود سے کہتی۔

”مجھے پتا ہے..... پتا ہے مجھے۔“ محمود محبت سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں گھماتے ہوئے کہتا۔

محمود طبعاً نہایت شریف اور ایثار پسند آدمی تھا۔ شائستہ تو اس کی شریک زندگی تھی اسے غیردوں کے کام آ کر بھی خوشی ہوتی تھی۔ پہلے بیٹے علی محمود کی پیدائش کے بعد اسے ہر بچہ اچھا لگنے لگا تھا۔ دفتر سے واپسی پر جب وہ پیدل چلتا ہوا اپنے سیکٹر میں داخل ہوتا تو جی ٹاؤپ سرکاری مکانوں کے درمیان ذیلی سڑک سے گزرتے ہوئے اسے گھروں کے باہر کھیلتے بچے بہت اچھے لگتے۔ وہ کسی کو بیلو ہائے کہتا، کسی سے ہاتھ ملاتا، کسی کے سر کو پیار سے چھوٹا، کسی سے حال چال پوچھتا وہاں سے گزرتا۔ سپید رنگت اور سنہری بالوں والا ایک چھوٹا سا بچہ جو ایک سرکاری مکان کے سرورٹ کو اڑلے سے آتا جاتا دکھائی دیتا تھا محمود کو دیکھتے ہی یہ آواز بلند سلام داخل محمود ٹھٹک جاتا۔ ”ہاں بھی چھوٹو کیا حال ہے؟“

”ٹھٹک ٹھٹک۔“ وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا۔ محمود کو اس راستے سے عجیب انسیت ہو گئی تھی۔ ذیلی سڑک پر کھیلتے کودتے اور سایہ کٹنگ کرتے بچے جو کبھی بھی اسی سڑک پر کرکٹ بھی کھیلتے دکھائی دیتے سڑک کے دونوں پہلوؤں میں جا بجا ایستادہ اونچے اور گھنے درخت جو ہر نئے موسم میں نیا جولا پہن لیتے۔ کبھی سبز، کبھی زردی مائل، کبھی

مریضوں کے چہروں پر رونق اور ان کے متعلقین کی جان میں جان آتی۔

اکتوبر میں جب ہوا خشک ہونے لگتی تو پولن الرجی کا ایک جھکا پھر لگا کر یہ جھکا پہلے جھکے کی طرح نہ تو شدید ہوتا نہ طویل۔

موسم ٹھنڈا ہوتے ہی محمود پنڈی کے بازار جاتا اور

خشک میوہ جات خرید لاتا۔ لحاف میں دیک کر شائستہ کے

ساتھ باتیں کرتے ہوئے خشک میوے ٹوکننا عجیب لطف

دیتا۔ اب تو علی محمود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر مونگ پھلی کے

دانے، چلغوزے، کشمش اور بادام کی گری ٹوکنے لگا تھا۔

”آپ کو مکان کب الاٹ ہوگا؟“ شائستہ پوچھتی۔

”دیکھو کب ہوتا ہے۔“

”کوشش کریں نا..... بچے بڑے ہوں گے تو ہمیں

بڑے گھر کی ضرورت ہوگی۔“

”کوشش سے کچھ نہیں ہوتا..... لمبی لائن لگی ہوئی

ہے..... بگڑی سفارش ہو یا پھر بھاری رشوت۔“

”ڈھونڈیں نا کوئی سفارش۔“

”کہاں سے ڈھونڈوں یار۔“

”تو..... پھر..... رش..... دت.....“ شائستہ رک رک

کر نہایت محتاط لہجے میں کہتی۔

”اپنے بس کی بات کہاں..... ہزاروں نہیں لاکھوں

کی بات کرتے ہیں..... دو تین لاکھ۔“

”خدا سمجھے انہیں۔“ شائستہ کے لہجے میں دل گرفتگی

در آئی۔

”ہاں خدا ہی سمجھے گا..... بندے تو نہیں سمجھ سکے۔“

”تو کیا ہم ساری زندگی..... سرونٹ ہی میں پڑے

رہیں گے۔“ شائستہ طویل ہو کر کہتی۔

”سرونٹ میں کیوں پڑے رہیں گے..... اللہ کو

ہماری ساری ضرورتوں کا علم ہے اسے پتا ہے کب ہمیں اپنا

مکان ملنا ضروری ہے..... فکر نہ کرو۔ جب اللہ چاہے گا

مکان الاٹ ہو جائے گا ہمیں۔“

”کسی ایسے سیکٹر میں الاٹ کرانا جہاں رات کو اندھیرا

نہ ہوتا ہو..... بندے کو کسی وقت رات کو بھی تو باہر آنے

جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔“

محمود سکرادیتا۔ شائستہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا

تھا۔ صد شکر کہ ان کی اپنی رہائش ایسے سیکٹر میں تھی جو

دارالخلافہ کے حساس علاقوں میں شمار ہوتا تھا، اسی لیے وہاں

رات بھر بیتیاں جلی رہتیں۔

محمود کو اسلام آباد کی بس یہی ایک بات ناپسند تھی

حکمرانوں کی قیام گاہوں کی طرف جانے والے راستے تو

مشرام روشن ہو جاتے اور رات بھر جگمگاتے رہتے۔ عوامی

سیکٹرز میں شام ڈھلتے ہی گھروں سے باہر نکلیاں اور سڑکیں

اندھیروں میں ڈوب جاتیں۔ حالانکہ ان میں سے بعض

راستے تو اتنے پُرخطر تھے کہ ان راستوں پر کسی نئے اور

انجانے آدمی کو حادثہ بھی پیش آسکتا تھا۔ گہرے نالے اور

کھائیاں جہاں ذرا قدم چوکا یا ذرا راستے کا اندازہ غلط ہوا

اور آدمی کسی گہرے نالے یا کھائی میں۔ بعض راستے تو ایسے

تھے جو سبزے سے ڈھکے دکھائی دیتے مگر نیچے گہرائی میں

دلہل۔ جگمگاتی شاہراہوں پر سفر کرتے حکمرانوں کو

اندھیروں میں ڈوبی ان عوامی گزرگاہوں پر چلتی رعایا کے

مسائل کا کوئی احساس ہوتا تو ان پُرخطر راستوں پر بھی کوئی

دیا تو ٹشٹا دکھائی دیتا۔

ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہوگا۔

آفرین ان حکمرانوں پر جو اپنی رعیت کی خبر گیری کے

لیے ہمیں بدل کر گلی گلیوں میں نکلا کرتے تھے۔

علی محمود کے اسکول میں داخلے کا وقت آنے تک فرشتہ

دنیا میں آچکی تھی۔ محمود کو شائستہ کے نام کے وزن پر اپنی تھی

پری کے لیے یہی نام سوچا تھا۔

☆☆☆

محمود نے دارالخلافہ میں رہتے ہوئے کئی منتخب

جمہوری حکومتوں کی بساط لپٹتے ہوئے بھی دیکھی۔ منتخب

وزیر اعظم پاکستان کو اقتدار سے معزول کرنے کا دن اس

نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس روز اسے کسی کام سے

پنڈی جانا پڑ گیا تھا۔ دفتر میں حاضری لگا کر آدھ پون گھنٹا

دفتر میں بیٹھنے کے بعد وہ اسلام آباد اور پنڈی کے روڈ پر

چلنے والی دین میں بیٹھ کر پنڈی چلا گیا۔ کام تمٹا کر واپسی

ہوئی تو ہر چوک ہر رستے پر باوردی اسلحہ بردار دکھائی دیے جو

مسافر گاڑیوں کو راستہ بدل کر جانے کا اشارہ دے رہے

تھے۔ عجب پر اسراریت تھی محمود کے ساتھ مسافر دین میں

بیٹھے ہوئے مسافر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا

ہے؟ کسی کے پاس کوئی حتمی جواب نہ تھا فقط قیاس،

اندازے اور انواہیں..... دین پنڈی سے دارالحکومت پہنچی

تو وہاں بھی وہی پر اسراریت دکھائی دی۔ اس پر اسراریت

کا پردہ جاک ہوا تو ہتا چلا جمہوری حکومت ختم ہو گئی تھی۔ چشم

فلک نے محمود کو عجیب نظارہ دکھایا۔

نظارے تو وہ اور بھی بہت سے دیکھ رہا تھا۔

دارالحکومت اور اس کے جزواں شہر کا نقشہ بدل رہا تھا۔

سنگریں

ماہنامہ کراچی

۲۰۱۶ مارچ

کے حکایات

بازار دیدہ

اس شخص کا زندگی نامہ جس نے پریس پر غلامی مساطک

اجنبیا

ایک مفلوک الحال ملک کو ترقی کے
اوج پہنچانے والے کا تذکرہ

انکا پرست کا سفر

ایک دلچسپ سفر نامے کا نہایت دلچسپ اختتامی حصہ

مہمانانہ

مقبول ترین اداکارہ کی زندگی کے دلچسپ قصے

حوصلہ

وہ دہشت گردوں کے چنگل میں
پھنس گیا تھا، پُر اثر سچ بیانی

دن کی جگہ

مجید بھری زمین، تاریخ عالم، اٹاش، مارچ کی اہم
شخصیت کا تذکرہ اور ”سراب“ جیسی دلچسپ
طویل رو داد اور بھی بہت سی سچ بیانیاں، دلچسپ
قصے سچے واقعات

پس ایک بار سرگرمیوں کے
خود ہی لکرن کے

سید سے سادے راستوں میں بیچ و خم آرہے تھے۔ شہر اٹھا
اور عموماً دونوں طرح سے پھیل رہے تھے۔ فیض آباد فلائی
اور سے ائرپورٹ کی طرف جانے والی ہائی وے کے
دونوں پہلوؤں میں نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی تھیں۔ بلڈرز
گہرائیوں کی بھر دانی کروا کے بستیاں بنا رہے تھے۔
فیروز، فیروز، فیروز بی..... آبادیات سے وابستہ ایک بزنس
ٹائیکون نے تو ایک نیا شہر ہی آباد کر دیا تھا۔ اس کی منصوبہ
بندی قابل داد بھی تھی، قابل دید بھی مگر اس کی دیکھا دیکھی
ایسوں نے بھی اپنی دکائیں کھول لی تھیں جو آبادیات کی ایجاد
سے بھی ناواقف تھے۔ سر چھپانے کے لیے ساتباہوں کے
طلب گاران کے ہتھے بھی چڑھ رہے تھے۔

آمریت کے دور میں سبھی کچھ تیزی سے بدلا۔
مہنگائی ہو شہر، آزادوی بے مہار، عریانی بلاخیز.....
دویر آمریت میں مہنگائی اتنی بڑھی کہ محمود بے چارہ موسم سرما
شروع ہوتے ہی..... بازار سے تھیلہ بھر خشک میوہ
جاتا لانا تو کجا ان کا ذائقہ بھی بھول گیا۔ کبھی کبھی موٹک پھلی
البتہ خرید لاتا۔ چھٹی والے دن شائستہ اور بچوں کو لے کر
اتوار بازار جاتا تو پھلی کے اسٹالز کو دور ہی دور سے دیکھ کر
جی مسوتا پلٹ آتا..... شائستہ کو تلی پھلی بہت مرغوب تھی۔
جب تک سستی رہی وہ ہر ہفتہ پھلی ضرور لاتا، شائستہ مسالا
لگا کر رکھ دیتی اور تقریباً ہر روز ہی دو تین کھڑے مل کر
دسترخوان پر سجا دیتی۔ شائستہ تو بچائیوں کی طرح پھلی کی
ہڈیاں بھی مزے سے چبا جایا کرتی تھی۔

”تمہیں تو بچال میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔“ محمود اسے
پھلی کی ہڈیاں چبانے دیکھ کر کہتا۔

شائستہ کی مسکراہٹ!

اس مسکراہٹ میں تو اس کی جان تھی۔ اس مسکراہٹ کی
خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا سوائے ماضی میں چالیس تاساٹھ ستر
روپے کلو ملنے والی سلور رو ہو بھی اب! بڑھ سو روپے فی کلو
خریدنے کے! اٹھا پھلی کے نرخ اور وہ بھی اتوار بازار میں
کہاں سے کہاں جا پہنچے تھے۔ کتوں کو گود میں اٹھا کر تصویریں
کھینچانے والے آمروں نے اپنے بدسی آقاؤں کی خوشنودی
کے لیے غریبوں کے منہ سے ان کے نوالے بھی چھین لیے
تھے۔ محمود جو چوہہ گریڈ سے ترقی کر کے سولہ گریڈ میں پہنچ چکا
تھا، بیوی اور بچوں کو بازار لے کر جاتا تو کبھی بیٹوں کو سستے سے
گیند بے پر خرما کر اور کبھی فرشتہ بیٹی کو دس دس روپے ملنے
والے ہیریز بیٹے، ہیریز کلپس یا برہ سلسٹ سے خوش کر کے ہفتہ پھر
کئے تھو سلف کے تھیلے اٹھائے بیوی بچوں سے کچھ جھینپا جھینپا

سارا قصہ محمود کے علم میں اس وقت آیا جب وہ عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر چکی تھی۔

اب محمود نے بھاگ دوڑ شروع کی۔ حکم امتناعی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وکیل کیا جس نے فیس ہاتھ میں لینے سے قبل محمود کو امید دلائی کہ چونکہ الاٹمنٹ پہلے اسی کی ہوئی تھی لہذا فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ لیکن تقریباً دس گیارہ ماہ عدالتی جنگ کے دوران اسٹیٹ آفس کے کارندے محمود کی حریف خاتون کے ساتھ بڑے استقلال سے کھڑے نظر آتے رہے نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اندر ہی اندر ایسا جال بچھایا کہ اسٹیٹ آفس کے ریمارکس نے محمود کا معاملہ کمزور اور خاتون کا پلڑا بھاری کر دیا۔ بالآخر عدالت نے اسٹیٹ آفس کے ریمارکس کی روشنی میں خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اسٹیٹ آفس کو ہدایت کی کہ محمود کو اسی کٹیکری کا کوئی دوسرا مکان جلد از جلد الاٹ کیا جائے۔

عدالت کے فیصلے سے محمود اتنا بددل ہوا کہ اس نے دوسرا سرکاری مکان الاٹ کرانے کا خیال ہی ترک کر دیا۔ بعد میں اسے مضائقہ ذریعے سے معلوم ہوا کہ عدالت میں اسٹیٹ آفس سے اپنے حق میں ریمارکس پیش کروانے کے لیے محمود کی حریف خاتون نے تقریباً چار لاکھ کی رقم خرچ کی تھی۔

عدالتی جنگ ہارنے کے بعد محمود کا جب کبھی پکھری کے سامنے سے گزر ہوا اس نے عجیب سا کرب محسوس کیا۔ اسٹیٹ آفس کے کارندے اپنی بظلوں میں قابلمیں دبائے اب بھی نہ جانے کس کس کے حق پر عدالتوں میں شب خون مارتے پھرتے ہوں گے۔

مکان کے سلسلے میں عدالتی جنگ کے دنوں کو یاد کر کے محمود کے دل میں اکثر بڑے باغیانہ خیالات سر اٹھانے لگتے تھے۔

مکان کا کیس ہارے جانے پر شائستہ اور بیچے بھی بہت دل گرفتہ ہوئے تھے۔ ”آپ کا وکیل تو کہتا تھا فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا۔“ شائستہ نے رنجور لہجے میں محمود سے کہا۔

”میری زبان نہ کھلواؤ شائستہ..... میں بہت ہرٹ ہوا ہوں۔“ محمود کا بس نہ تھا کہ رو دے۔ ”یہاں انصاف بکتا ہے۔“ وہ گھائل لہجے میں بولا۔

”دفع کریں۔“ شائستہ نے ہمیشہ کی طرح ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا پھر محمود کا دل رکھنے کو بولی۔ ”بیچ پوچھیں تو مجھے تو سرکاری مکانوں پر نحوست سی چھائی دکھائی دیتی ہے۔“

نئے انتخابات کے بعد حکومت بدلی تو گاؤں کے اسی سیاسی خانوادے کے سیاسی اثر و نفوذ سے جس نے محمود کو سرکاری ملازمت بھی دلوائی تھی۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کی وزارت سے ایک جلد ہی خالی ہونے والے سرکاری مکان کی الاٹمنٹ کا پر دانہ بھی مل گیا۔ محمود کے نزدیک یہ سفارش ناجائز نہ تھی۔ جہاں اس سے کہیں جو نئے سرکاری ملازمین محض سفارش یا رشوت سے دو دو کٹیکری اور پر کے مکان الاٹ کر دیا کے ٹھاٹ سے سرکاری مکانوں کے ٹیکین بنے ہوئے تھے وہاں اس کا اپنے ہی گریڈ کا سرکاری مکان الاٹ کرانے کے لیے سفارش لگانا گناہ نہیں ضرورت تھی۔ وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات نے اسے ”آڈٹ آف ٹرن“ الاٹمنٹ ”سیجیکٹ نوویشن“ کی تھی۔ یعنی مکان خالی ہوگا تو اسے مل جائے گا۔

خوش قسمتی سے مکان کا موجودہ الاٹی جو چند ماہ بعد ہی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا لا دل تھا۔ بیوی خاتون خانہ تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مذکورہ الاٹی مردہ قانون کے تحت سرکاری مکان بعد از ریٹائرمنٹ حد سے حد چھ ماہ اور اپنے تصرف میں رکھنے کا مجاز تھا۔

محمود اس خیال سے خوش تھا کہ سال بھر سے کم عمری میں وہ سرکاری مکان میں شفٹ ہو جائے گا۔ پھر تو مکان کی فکر سے لمبی چھٹی ہو جاتی تھی۔ ابھی اس کی اپنی ریٹائرمنٹ میں بھی کافی وقت تھا پھر ماشاء اللہ دو بیٹوں میں سے کوئی ایک تو سرکاری ملازمت میں ہوگا ہی۔ مکان کی الاٹمنٹ اس کے نام پر منتقل ہو جائے گی۔ کرایہ داری کی علت سے جان چھوٹنے کا تصور ہی محمود کے لیے خاصا دل خوش کن تھا۔ شائستہ اور بیچے اس خوشی میں اس کے برابر کے شریک تھے۔

مگر ہوا یہ کہ مکان کے الاٹی نے بالائے بالاکوئی تدبیر لڑا کر مذکورہ مکان اپنی ایک افسر تہی کے نام الاٹ کر دیا کے اسٹیٹ آفس کے نچلے عملے سے کچھ ساز باز کی اور اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اسے قبضہ دے کر خود بری الذمہ ہوا۔ تہی نے عدالت میں کیس داخل کر دیا کہ وہ خود سرکاری افسر ہے مکان کا سابق الاٹی اس کا سگا بچا اور لا ولد ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہی بچا اور اس کی اہلیہ کی دیکھ بھال کی ذمے دار ہوگی لہذا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسے اس مکان کی محمود کو کی جانے والی الاٹمنٹ کے خلاف اسٹے آرڈر جاری کیا جائے۔ عدالت نے اسے اسٹے دے دیا اور یہ

محمود سے دیکھنے لگا..... کھٹکی باندھ کر..... پھر اچانک اس کے ہونٹوں پر بڑی بے بسی کی مسکان پھیل گئی۔ ”انگور کھٹے ہیں۔“ اس کے لہجے میں کئی گئی، دکھ تھا۔ شائستہ نے اپنا ہاتھ دھیرے سے اس کے شانے پر دھر دیا۔

”تم نہ ہوتیں شائستہ تو میں کیا کرتا۔“ محمود نے گردن موڑ کر اپنے ہونٹ اپنے کندھے پر دھرے شائستہ کے ہاتھ کی پشت سے مس کر دیے۔

☆☆☆

محمود کو سرکاری مکان تو لالٹ نہ ہوا البتہ اس نے شہزاد ٹاؤن میں ایک مکان کی ہائرنگ کرائی۔ ”ہائرنگ“ تو ضرورت مندوں کی ضرورت تھی۔ ”سیلف ہائرنگ“ پالیسی سازوں کی عجیب اختراع تھی۔ یہ کہاں کا انصاف تھا بھلا کہ جن سرکاری ملازمین کے پاس اپنا گھر نہ ہو ان کو سرکاری مکان کی لائسنٹ بھی جوئے شیر لانا ٹھہرے اور پرائیویٹ مکان ”ہائر“ کرانے میں بھی ہزار وقتیں اور جن کے پاس ذاتی مکان موجود ہو ان کی جیبیں ”سیلف ہائرنگ“ کے عنوان سے مزید گرم گویا بھرنے کو مزید پھرتا..... ”سیلف ہائرنگ“ پالیسی سازوں کی ایسی اختراع تھی جس سے ان کے اپنے مفادات بھی وابستہ تھے خود سرکاری رہائش گاہوں میں رہتے اور ذاتی مکان یا تو کسی پرائیویٹ پارٹی کو کرائے پر اٹھا دیتے یا پھر کسی قریبی فرد کے نام جو سرکاری ملازمت میں ہوتا ہائرنگ کرا دیتے۔ ہائرنگ سے ملنے والی خاطر خواہ رقم کا سرکاری چیک ایسے لوگوں کے اٹاٹوں میں خریدنا خانے کا سبب بنتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دونوں ہاتھوں سے فائدے سمیٹ رہے تھے۔ ڈھٹائی سے نعرہ لگاتے ”سب سے پہلے پاکستان اسب سے پہلے پاکستان“

☆☆☆

شہزاد ٹاؤن میں ہائر کے جانے والے مکان کے لیے محمود کو سرکاری کھاتے سے جو گرایہ ملتا اس کے علاوہ بھی اسے اپنی جیب سے مالک مکان کو اضافی رقم ادا کرتی پڑتی۔ شائستہ اور بچے خوش تھے کہ ”سروٹ کوارٹر“ کا لیکل ہٹ کر انہیں ایک ”پراپر“ گھر رہنے کو مل گیا تھا۔ جب سے بچے بڑے ہوئے تھے گھر میں ان کے دوستوں کا آنا جانا بھی ہو گیا تھا اور وہ ماں باپ سے ہار سروٹ کوارٹر کو چھوڑ کر کسی مناسب گھر میں رہنے پر مصر رہنے لگے تھے۔

لیکن شہزاد ٹاؤن میں شفٹ ہونے سے محمود کو دفتر آنا جانا دور پڑنے لگا بچوں کے اسکول بھی گھر سے کافی دور

ہو گئے۔ ایف سکس میں تو بچوں کی اسکول بسیں انہیں گھر سے چند قدم کے فاصلے سے اٹھاتی اور چھوڑتی تھیں۔ شہزاد ٹاؤن والی بسیں باہر باہر مین روڈ سے گزر جاتیں۔ ہائرنگ پر لیا جانے والا گھر مین روڈ سے کافی دور تھا مجموعہ کے وقت تو بچوں کو اپنے ساتھ لے جاسکتا تھا مگر واپسی پر دفتر اور بچوں کے اسکولوں کی چھٹی کا وقت مختلف ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ دفتر سے جلدی نکل سکتا تھا نہ اپنی وجہ سے بچوں کو چھٹی کے بعد روڈ حائی گھنٹے اسکول میں مارا مارا پھرنے کو چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ تینوں بچوں کے لیے سوزو کی وین لگوانی پڑی۔ اخراجات بڑھ گئے۔ بہر حال شائستہ اور بچے ایک پراپر گھر میں رہ کر خوش تھے۔

گھر کے تین کمروں میں سے ایک کو شائستہ نے ڈرائنگ روم کے طور پر آراستہ کر لیا۔ ایک کمرہ اس نے اپنا اور محمود کا بیڈ روم بنالیا۔ ایک کمرہ بچوں کے بیڈ روم کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ گاؤں سے مہمان آنے کی صورت میں چھوٹا سا لاونج بھی خواب گاہ میں بدل جاتا۔ تینوں بچوں میں سے کوئی بھی کسی مہمان کے لیے اپنا کمرہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ یہ بے مردتی انہیں اسلام آباد کی عطا کردہ تھی۔ اسلام آباد میں رہنے کو وہ اپنے لیے ایسا اعزاز سمجھتے جس کا شراج وہ اپنی تعطیلات میں گاؤں جانے پر تھیال اور دوھیال دونوں سے دونوں ہاتھوں سے وصول کرتے۔ دونوں خاندان ان کے ناز اٹھاتے نہ سمجھتے۔ محمود کی ماں ان کے گاؤں نکالنے سے پہلے ہی ایک ایک کو دفتر سے بتانے لتی۔ ”اسلام آباد سے محمود کے بچے آرہے ہیں۔“ شائستہ کی ماں ایک ایک کو جاتی۔ ”میری شائستہ کے بچے اسلام آباد کے بڑے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ فر فر انگریزی پولنا اور لکھنا عام آدمی کے بچوں کا روگ نہیں ہے جو بچے کر کر کے انگریزی پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں، محمود کے بچے جتنے دن گاؤں میں رہتے وی آئی پی پر دو ٹوکول پاتے اور دوسروں کے لیے باعثِ رشک بنے رہتے۔

☆☆☆

اسلام آباد اور جڑواں شہر کے نقش و نگار نہایت سرعت سے تبدیل ہوئے۔ پنڈلی میں سری روڈ کی کشادگی اور کیمٹی چوک پر انڈر پاس کی تعمیر مری روڈ پر وکان میں جمائے بیٹھے کاروباری طبقے کے معاشی بل عام کا باعث تو بنی ہی بے شمار قدیم عمارات بھی کھن پوری کی پوری اور کھن ان کے اگلے حصے نہایت بے دروی سے ڈھا دیے گئے۔ قدیم طرزِ تعمیر کی جو عمارات سڑک کی کشادگی اور انڈر پاس کے لیے ڈھائی

جاری تھی اس نے اخبار میں ایک خبر پڑھی۔ شہید ملت سیکریٹریٹ انڈر پاس کی تعمیر کے لیے کی جانے والی گہری کھدائی میں رات گئے ایک خاتون کا سوار اپنی کار سمیت کھائی نما گہری کھدائی میں جا گری تھی۔ پولی کلینک نزدیک ہی تھا لیکن خاتون کی کار اتنی بلندی سے گہرائی میں گئی تھی کہ خاتون جانبر نہ ہو سکی تھی۔

اس خبر نے محمود کو کچھ دیر نہیں، ایک دو دن بھی نہیں بلکہ دنوں طویل رکھا۔ گویہ تو اسے اگلے ہی دن کے اخبار سے معلوم ہو گیا تھا کہ متوفیہ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے کی رہائشی تھی۔ شوہر بیرون ملک تھا وہ رات گئے کار میں اکیلی ہی جا رہی تھی۔ مگر محمود کا حساس ذہن دنوں اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ خدا جانے اس خاتون کو ایسی کیا ضرورت درپیش تھی کہ رات گئے تنہا باہر نکل گئی..... خدا جانے اس کے متعلقین پر اس دلخراش سانحے سے کیا ہمتی ہوگی..... اس کے بچے بھی تھے یا نہیں..... تھے تو کتنے بڑے اور ان پر کیا گزری..... کیا چائے وقوعہ پر روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا..... اگر روشنی تھی تو کیا پروجیکٹ کے ذمے داروں نے راہ گیروں اور کار سواروں کے لیے کوئی ایسی علامت نہیں لگا رکھی تھی جس سے انہیں خبردار کیا جاسکتا کہ آگے گہری کھدائی ہے..... کیا وہاں سیکورٹی اور سیٹھی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔

محمود ابھی اس خاتون کی ناگہانی المناک موت کے سانحے کو بھلا نہیں پایا تھا کہ اس نے ایک اور اعداد ہتاک خبر اخبار میں پڑھی۔ چائٹا چوک انڈر پاس کی کھدائی کے دوران چند مزدور ریت کے ایک ٹوٹے تلے دب گئے تھے جن میں سے ایک وہ نوجوان بھی تھا جس کا ہاپ بھی کھدائی کرنے والے مزدوروں میں شامل تھا اور اس نے اپنے جگر گوشے کو اپنی آنکھوں سے زندہ مٹی کے ٹوٹے تلے دپتے دیکھا تھا۔

اس رات محمود اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی بانہوں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر بڑی بے گل ہی نیند سو یا تھا۔ بے گلی کی یہ کیفیت اس پر اکیسویں صدی کے پانچویں برس اکتوبر میں آنے والے قیامت خیز زلزلے کے بعد بھی دنوں نہیں ہفتوں بلکہ مہینوں طاری رہی تھی۔ شائستہ اور بچے جو اس کے لیے زندگی کا دوسرا نام تھے انہیں چوری چوری دیکھتے ہوئے وہ بار بار یہی سوچتا..... خدا نخواستہ..... اور اس سے آگے اس کا دل جیسے بیٹھنے لگتا تھا۔

اکتوبر دو ہزار پانچ کا زلزلہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس قوی آفت کے اثرات یوں تو وطن کے گوشے گوشے میں

گئیں، اگر کسی مغربی ملک میں ہوتیں تو انہیں آثارِ قدیمہ کے طور پر محفوظ رکھا جاتا۔ انہیں منہدم کرنا تو کجا ان کے کسی چوبارے یا بالا خانے کی مرمت کے لیے بھی سرکاری اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہوتا اور کیا عجب کہ عمارت کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کے لیے سرکار مرمت کی اجازت بھی نہ دیتی۔ بوسیدگی کا بھی تو اپنا حسن، اپنی اہمیت، اپنی قدر ہوتی ہے۔

اسلام آباد میں بھی انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے دوپہلے مشینیں جا بجا سڑکیں اکھیڑنے لگیں۔ ٹریفک کا رخ کہیں یہاں کہیں وہاں موڑ دیا گیا۔ بڑی سڑکیں بند، گاڑیاں گلی محلوں سے گزرنے لگیں بعض لوگوں کو مشکل تو بعض کو آسانی میسر آئی۔ گھر سے نکلے اور گاڑی کو ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔

محمود کو راستے بند ہونے یا ٹریفک کا رخ تبدیل ہونے کی چنداں پروا نہ تھی۔ اپنی موٹر سائیکل پر وہ ”باہر ہی باہر“ دفتر آتا جاتا۔ بچے البتہ کچھ دیر سے گھر پہنچتے۔ محمود کے وہ ساتھی جو راستے بند ہونے کے باعث ادھر ادھر سے ہو کر جوں توں دفتر پہنچتے دفتر آتے ہی بڑبڑانے لگتے۔ ”زندگی عذاب کر دی ہے ان انڈر پاسوں نے..... جدھر دیکھو سڑک کھدی پڑی ہے..... جہاں سے گزرنے کی کوشش کرو راستہ بند ملتا ہے۔“

”یہ ساری وقتی تکلیف ہے بھائی میاں..... آرام پانے کے لیے کچھ تکلیف تو جھیلنا ہی پڑتی ہے..... انڈر پاس بن جائیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔“ انڈر پاسز کا کوئی حمایتی پرجوش لہجہ میں کہتا۔

”خاک آسانی ہو جائے گی..... کمیشن چل رہا ہے بھائی صاحب کمیشن..... نیچے سے اوپر تک سب کی پانچوں انگلیاں گھٹی میں سرکڑا ہی میں۔“ کوئی دل جلا اپنے دل کا پھپھولا پھوڑتا۔

”ترقی بھائی میاں ترقی..... ترقی یونہی ہوتی ہے۔“ ”ہونہہ! ایسی ترقی جو عام آدمی کو صبح سے شام کرنا عذاب بنا دے جائے بھاڑ میں۔“

محمود سب کی چپ چاپ سناتا رہتا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتا کہ اس عذاب سے دوچار ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل آیا تھا جہاں راستے بند اور سڑکیں کھدی پڑی تھیں۔

محمود کی عادت تھی دفتر پہنچ کر اخبار ضرور پڑھتا۔ انہی دنوں جب اسلام آباد میں زیادہ ٹریفک والے راستوں پر انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے تہاہت سرگرمی سے کھدائی کی

علاقوں سے غائب ہوئیں اور بہت سوں کا کچھ پتا نہ چلا کہ زمین کھائی یا آسمان نکل گیا۔ زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے خمیر ہم وطنوں اور غیر ممالک سے بھجوا یا جانے والا امدادی سامان کھلے عام بازاروں میں فروخت ہوتا دکھائی دیا۔ زلزلے کے بعد بے شمار نام نہاد رفاہی ادارے جل کمپنیوں کی طرح وجود میں آئے اور چند دن اپنی بہار دکھا کر بیٹھ گئے۔

دار الخلافہ میں انڈر پاسز تمام تر مخالفتوں اور تنقید کے باوجود مکمل ہو کر رہے۔ انہیں آمدورفت کے لیے کھول دیا گیا اور ان کے فوائد و مضمرات بھی سامنے آنے لگے۔ انڈر پاسز کی خمیر سے اسلام آباد میں ٹریفک کے زیادہ دباؤ والے راستوں پر ٹریفک کا دباؤ کم ہو گیا۔ چوراہوں پر گاڑیوں کو دیر تک رکنے اور صبر آزما انتظار کی کوفت سے نجات ملی لیکن قاصد بڑھ گئے۔ پیدل چلنے والوں کو بڑی دقت ہوئی۔ وہ قاصد جو پہلے ایک سڑک پار کرنے سے مسافر کو منزل پر پہنچا دیا کرتا تھا۔ اب یا تو جان بچھلی پر رکھ کر اجل کی طرح آتی لشکارے مارتی گاڑیوں سے بچتے بچاتے گزر کر طے پاتا یا پھر دیوبند کی آہنی زینوں اور جنگلوں پر سے گزرتے ہوئے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کے لیے ان زینوں پر چڑھنا اور آہنی جنگلوں سے گزرنا بجائے خود

محسوس کیے گئے لیکن اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر کے باشندوں نے اس قیامت سے متاثرہ ہم وطنوں کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ دونوں شہروں کے اسپتال زخمیوں سے اور رفاہی ادارے متاثرین سے بھر گئے تھے۔ ایسی قیامت تھی کہ الاماں اور جن پر گزری تھی وہ ایسے ایسے قصبے سناٹے کے سنے والوں کے روٹھے کھڑے ہو جاتے۔

شائستہ نے محمود کو اس کے، بچوں کے اور اپنے بہت سے کپڑے، جوتے اور استعمال کی چیزیں دو بڑے بڑے تھیلوں میں بھر کر زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے ایک رفاہی ادارے کو پہنچانے کے لیے دیں۔ محمود اپنے دفتر کے ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد اور پنڈی کے کئی اسپتالوں میں گیا۔ ایسے ایسے دلدوز مناظر دیکھنے کو ملے کہ وہ لڑکڑہ گیا۔ کئے پھٹے چہرے، گھائل جسم اور دلخراش قصبے..... اپنی نوعیت کے اس غیر معمولی قوی سانچے پر ایک طرف اگر ہم وطنوں کی اکثریت متاثرین کی داسے، ورے، سنے مدد کے لیے متحد اور مجرم نظر آئی تو کچھ کالی بھیڑیں بھی اپنے چہروں پر موقع پرستی کی نقابیں اوڑھے اپنے مذموم مقاصد کے حصول میں سرگرم دکھائی دیں۔ بے شمار ادارت سچے اور جوان لڑکیاں اسپتالوں، رفاہی اداروں اور زلزلے سے متاثرہ

”پہ کہاں بچیں کہ دل ہے“

نت نئے کرداروں کو الفاظ کے قالب میں ڈھالتی پُراثر تحریروں کی خالق اور..... ماہنامہ پاکیزہ کی دیرینہ ساتھی.....

مایہ ناز مصنفہ
دفعہ سراج
 کے قلم کا ایک اور شاہکار

جلد ہی پاکیزہ کے صفحات کی زینت بننے جا رہا ہے

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

ایک دشوار امر تھا۔ ٹیکسی والوں کی بن آئی تھی۔ جس مقام پر پہنچانے کے لیے پہلے چالیس پچاس روپے طلب کرتے تھے اب سو ڈیڑھ سو کی بات کرنے لگے۔ ایف سکس میں محمود کے ایک سابق پڑوسی شہاب احمد ایک روز اتفاقاً سیکرٹریٹ میں محمود سے ملے تو حال چال پوچھے جانے پر نہایت شاک لہجے میں بولے۔

”کیا بتاؤں محمود صاحب انڈر پاس نے زندگی عذاب کر دی ہے۔ پہلے تو ٹیکم دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر گھر سے نکلتے تھیں اور شارٹ کٹ مار کر چائنا چوک اسٹاپ پر جا پہنچتی تھیں۔ ایک نمبر پکڑی اور سیدھے آپ پارہ..... جب سے انڈر پاس بنا ہے چائنا مارکیٹ سے گزر کر یا پھر گھوم گھام کر اسٹاپ پر جانا پڑتا ہے ٹیکم کہتی ہیں مجھ سے اتنا پیدل نہیں چلا جاتا لہذا اب مجھی کو بار برداری کرنی پڑتی ہے۔ گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو اور مصیبت..... پہلے تو گھر سے نکلتے تھے امریکن سینٹر کے پیچھے سڑک پار کی اور پیدل چلتے ہوئے پولی کلینک جا پہنچتے تھے۔ اب نہ ٹیکم پیدل جانے کو تیار ہوتی ہے نہ بچے۔ انڈر پاس نے تو ہم جیسوں کے لیے پولی کلینک جانا بھی مشکل کر دیا ہے۔“

محمود نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ایسی وقت کا سامنا ہونے سے پہلے ہی ایف سکس چھوڑ گیا تھا۔ کبھی پولی کلینک جانے کی ضرورت پڑتی تو شہزادانوں سے نکل کر ”پارہوں پارہ“ پولی کلینک کا راستہ پکڑتا۔

”کسی روز چکر لگائیں نا محمود صاحب..... ہماری ٹیکم اور بچے تو اکثر آپ لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔“ شہاب احمد نے بڑی گرمجوشی سے محمود کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔

”جی ضرور..... آپ لوگ بھی آئیں کسی دن غریب خانے پر۔“ محمود نے جواب دعوت میں کہا۔

”آپ آئیے گا تو پھر ایڈریس وغیرہ دیجیے گا ضرور آئیں گے ہم بھی۔“ شہاب احمد بولے۔

”انشا اللہ۔“

گر مجوش مصافحے کے ساتھ دونوں سابق پڑوسی ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔

☆☆☆

زندگی کی گونا گوں مصروفیات نے محمود کو شہاب احمد سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی فرصت ہی نہ دی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، بھی ایک کا کوئی مسئلہ ہوتا بھی دوسرے کا۔ بھی گاؤں سے کوئی مہمان آیا ہوتا بھی دفتر میں محمود کی مصروفیت بڑھتی ہوتی۔ زندگی انسان کو اپنے کھینچے میں اسی طرح کس

کے رکھتی ہے۔

گزرے برسوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا..... محمود کی اپنی شکل و صورت کی طرح..... اب وہ دبلا پتلا، اسارٹ سا لوجوان نہیں رہا تھا۔ فربہ ہو گیا تھا۔ بالوں میں کچھ کچھ سفیدی بھی جھلکنے لگی تھی۔ روزانہ شیو کی علت سے آگیا کر اس نے ڈاڑھی بھی رکھ لی تھی۔ شاکستہ کا خیال تھا ڈاڑھی سے اس کی شخصیت میں رعب و دبدبہ آ گیا تھا..... اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح!

اسلام آباد کی سڑکیں ہی کیا سارا شہر بدل گیا تھا..... وہ ساوگی، پرکاری اور ظلم جو اس شہر کا خاصہ ہوا کرتے تھے گویا داستانِ گم گشتہ بن گئی تھی۔ اب نہ تو شہر شام کو جلدی سنان ہوتا تھا نہ اہلیان شہر جلدی سوتے تھے۔ شہر کا کچر ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ پاکی، فٹ ہال اور کرکٹ گراؤنڈز میں پہلے سی روٹیں رہی تھیں نہ اہلیان شہر صبح و شام لمبی چہل قدمی کو نکلتے تھے۔ اب تو گھر گھر کیبل اور کمپیوٹر نے لوگوں کو گھروں کے اندر محصور کر کے رکھ دیا تھا۔ گھر کے بڑے بڑے بستروں میں ویک کرکھا لیتے کھٹکھارتے اور جوان موبائلوں پر میکسنگ میں اپنی راتیں بتاتے۔ سر بہ فلک عمارتیں آسمان سے باتیں کرتیں۔ نگاہوں کو خیرہ کرتے شاپنگ مالز زرداروں سے اپنی قیمت وصولتے اور بے زروں کو ان کی اوقات میں رکھتے۔ ہوٹلز، موٹلز، ریسٹوران اور گیسٹ ہاؤسز شب بیداریاں بناتے۔ برانڈڈ مصنوعات کی آرڈر کیش باڈیوں کو اپنی طرف متوجہ رکھتیں۔ موبائل، کمپیوٹر اور لپ ٹاپ کی دکالوں پر مشتمل مارکیٹیں وجود میں آ گئی تھیں۔ موبائل کہنیوں نے اپنے پلازے سجا رکھے تھے۔ لوگ بھوکے پیٹ سونا گوارا کرتے مگر اپنی موبائل سم پر ہیکسج لینا نہ بھولتے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نامالوس اصطلاحات نہ رہیں۔ اونچا طبقہ ہی نہیں درمیانہ طبقے کے لڑکے لڑکیاں بھی موبائل فون پر آزادانہ رابطہ رکھتے اور موقع ملنے پر اکٹھے گھومتے پھرتے بھی تھے۔ بڑے پیمانے پر تہذیبی آئی تھی۔ محمود اور شاکستہ اپنے بچوں کو مناسب آزادی کے ساتھ پرانی اقدار کا پابند بھی رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔

☆☆☆

اسلام آباد ابھی انڈر پاسز کا عادی ہونہ پایا تھا کہ ”میٹروپس“ کا لہلا اٹھا۔ ”میٹروپس پروجیکٹ“ کے لیے خطیر رقوم سے تعمیر کیے گئے انڈر پاسز اوپن کر رکھ دیے گئے۔ شفاخانوں اور اسپتالوں میں دوا کی گولیوں کے لیے دھکے کھاتے غریب غربا کو تصویر حیرت بنے دیکھا..... کیا

میٹرو بس زیادہ اہم اور ضروری تھی یا غریبوں کے زندہ رہنے کے لیے روٹی اور مریضوں کے لیے دوا میں۔ سرکاری علاج گاہوں کا وہ حال تھا کہ الاماں اقدم قدم پر میں اگلا ٹیسٹ کی پرچہ اتنے کی، مگلا ٹیسٹ کی میں اتنی محمود کے دفتر میں جی بحث چھڑ گئی۔ صبح دفتر آتے ہی لوگ میٹرو بس کو کوسنے اور اپنے اپنے دکھڑے رونے لگتے۔ ”کوئی حد ہے بے حسی کی۔ عوام کا پیسا بے دریغ لٹا یا جا رہا ہے۔“ ایک کونے سے آواز آئی۔

”ہالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔“ تائید میں آواز سنائی دیتی۔

”نہ عام آدمی کے لیے کوئی نئی بستی آباد کی جا رہی ہے نہ نئے اسکول، کالج کھولے جا رہے ہیں۔ اسپتالوں میں بیماروں کو دوائیں پوری نہیں ملتیں۔ میٹرو بس کے شوقینوں کو ایک دن کسی سرکاری اسپتال میں دھکے کھانے پڑیں تو میٹرو بس کا سارا شوق برن ہو جائے۔“ کوئی دل جلا کہتا۔

”ارے صاحب سرکاری اسپتالوں میں تو یہ حال ہے کہ آدمی وہاں پہنچ جائے تو قدم قدم پر ڈھیل ہوتا ہے۔“

”جی ہاں..... بیٹے کے سر میں مسلسل درد رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹین کروانے کے لیے پرچہ دی۔ پرچہ لے کر اسٹین کروانے گیا تو پتا چلا میں دینی ہوگی..... چپ چاپ واپس آ گیا..... اتنے پیسے ہی نہیں تھے جیب میں۔“

”صاحب! آپ تو سرکاری ملازم ہیں۔“

”کسی روز جا کر دیکھیے..... اوقات کھل جائے گی.....“

ڈسپنری کی جو کھڑکی سینئر سٹیزن کے لیے مخصوص ہے وہاں مشطروں کی نظار نظر آتی ہے۔ سرکاری ملازمین والی کھڑکی پر اسپتال کے اہلکار دوا میں بھرتے دکھائی دیتے ہیں۔

”خدا پوچھے گا حکمرانوں سے..... عوام کی زندگی۔“

”صاحب! آپ تو مہنگائی!“

”جی ہاں۔“

”لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان میسر نہیں اور یہ میٹرو بس پر پانی کی طرح پیسا بہا رہے ہیں۔“

”ان کی کون سی اپنی جیب سے جاتا ہے..... عوام کا پیسا یا غیر ملکی قرضے ان کی اپنی جیب سے جاتے تو یہ حساب نہیں۔“

”ارے ہاں..... وہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی اسکیم کا کیا پتا؟“

گفت

شوہر کی سالگرہ پر بیوی شوہر سے.....

”ڈارنگ! میں کیا گفت دوں آپ کو۔“

شوہر۔ ”ڈیڑا بس پیار سے دیکھا کرو، عزت کیا کرو، تمیز سے بات کر لیا کرو..... بس یہی کافی ہے۔“

بیوی تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولی۔

”میں میں تو گفت ہی دوں گی۔“

☆☆☆

Google

”یار! میں سوچ رہا تھا کہ Google لڑکی ہے یا لڑکا؟“

”100 فیصد لڑکی ہے کیونکہ کبھی آپ کو بات پورا کرنے کا موقع نہیں دیتی، پہلے ہی اپنے مشورے شروع کر دیتی ہے۔“

☆☆☆

لوڈ شیڈنگ

ایک انگریز پر بھلی کی تار گر گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر مرنے ہی والا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ انگریز اٹھ کر بھاگا اور نعرہ لگا یا۔ ”پاکستان زندہ باد!“

مرسلہ۔ محمد قدرت اللہ نیازی، حکیم ناؤن، خانیوال

چکر

ایک چھوٹا بچہ۔ ”پاپا! آپ کسی لڑکی کو پیار کرتے ہیں؟“

باپ۔ ”ہاں..... تمہاری ماں سے۔“

بچہ۔ ”بڑے چالاک ہو..... گھر میں ہی چکر چلایا ہوا ہے۔“

☆☆☆

کیوں

زندگی ملتی ہے ایک بار۔ موت آتی ہے ایک بار۔ پیار دوتا ہے ایک بار۔ دل ٹوٹتا ہے ایک بار۔ جب سب کچھ ہوتا ہے ایک بار تو پھر بجلی کیوں جاتی ہے بار بار.....؟

مرسلہ۔ محمد جاوید، تحصیل علی پور

”سفید ہاتھی کہیں صاحب سفید ہاتھی
 ٹاؤنڈیشن تو کسی کام کی نہیں۔ اپنے سلیم صاحب مرحوم کو
 دس سال پہلے جس اسکیم میں پلاٹ ملا تھا اس کا آج تک قبضہ
 نہیں ملا..... سلیم صاحب بے چارے پلاٹ کا قبضہ لینے کی
 حسرت میں دنیا سے چلے گئے اور ان کے بچے آج تک
 کرائے کے مکانوں میں رل رہے ہیں۔“

کے آخری اسٹاپ تک۔ محمود کو اپنا پرانا محلہ دیکھنے کا شوق بھی
 چرایا۔ پرانے پڑوسی شہاب احمد سے سیکرٹریٹ میں
 ملاقات اور ان کا اپنے گھر آنے کی دعوت دینا بھی یاد آیا۔
 اس نے شائستہ سے کہا۔ ”واپسی پر شہاب صاحب کے ہاں
 بھی چلیں گے..... بہت اصرار سے دعوت دی تھی انہوں نے
 اپنے ہاں آنے کی۔“

محمود کو خوف آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی سلیم
 صاحب کی طرح دوران ملازمت ہی کسی روز دنیا سے گزر
 جائے اور اس کے بچے کرائے کے مکانوں میں رلتے
 پھریں۔ اب تو شائستہ کو بھی اپنا مکان بنانے کی فکر رہنے لگی
 تھی۔ سرکاری مکان کی الاٹمنٹ کا خواب تو ان دونوں نے
 ہی کب سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔

☆☆☆

انڈر پاسز کی طرح میٹرو بس منصوبہ بھی ہزار
 مخالفت اور تنقید کے باوجود مکمل ہو کر ہی رہا۔ منصوبے کی
 تکمیل کے دوران چند حادثات بھی ہوئے۔ جڑواں شہر
 میں زمین سے اوپر بلندی پر بنائے جانے والے ٹریک پر
 میٹرو بس چلنے سے بعض قدیم رہائشی علاقوں کے گھروں
 کی پردہ داری بھی متاثر ہوئی۔ دارالحکومت میں نباتاتی
 حیات بھی متاثر ہوئی۔ سبزہ بٹنے سے شادابی بھی کم
 ہوئی۔ موکی حالات کا متاثر ہونا بھی لازم ٹھہرا مگر
 میٹرو بس چل پڑی۔ پیدل سڑکیں عبور کرنے والوں کو
 ایک نیا مسئلہ درپیش آ گیا اور میٹرو بس سفر کرنے والوں
 کی مشکل یہ ٹھہری کہ میٹرو بس اسٹیشن پر بس سے اتر کر
 زمین دوز راستہ یا بلند و بالا سیڑھیاں یا خود کار زیتے پر
 چڑھ کر اسٹیشن سے نکل پھر اصل منزل مقصود تک بسی مارچ
 پاسٹ یا سو دو سو روپے کرایہ پر ٹیکسی! میٹرو بس جوانوں
 اور سیرپائے کے شوقینوں کے لیے تو ایک اچھی سہولت
 تھی۔ خود کار زینوں سے خائف بچوں اور سینئر سٹیزنز کے
 لیے میٹرو بس کی کوئی خاص اقاویت نہ تھی۔ اس سے
 بدرجہا اچھی تو یورپ میں عام سڑکوں پر چلنے والی وہ
 مسافر بسیں ہیں جو فٹ پاتھ کے نزدیک رک کر خود کار
 فٹ بورڈ کے ذریعے بوڑھوں اور بچوں کو بہ سہولت بس
 سے اتارتی ہیں۔

”ٹھیک ہے۔“ محمود نے تائید کی۔
 بچے میٹرو بس میں سفر کے پروگرام سے بہت خوش تھے۔

☆☆☆

چھٹی دالے دن محمود، شائستہ اور بچے حسب پروگرام
 میٹرو بس میں سفر کے لیے نکلے۔ ٹیکسی لے کر شہزاد ناؤن
 سے کیس آباد اپنے۔ طویل اور بلند آہنی زینے سے اوپر رسائی
 ہوئی۔ شائستہ نے قطار میں لگ کر ٹکٹ خریدی۔ بس آئی تو
 کھچا کھچا بھری ہوئی۔ کبھی چوک تک ان میں سے کسی کو بیٹھنے
 کو جگہ نہ مل سکی۔ تاہم بچے میٹرو میں سفر کرتے ہوئے نہایت
 ایکسائٹڈ تھے۔ علی اور وقاص جو محمود کے ساتھ مروانہ جسے
 میں تھے گردنیں اچکا اچکا کر ماں اور چھوٹی بہن کو اشارے
 کرتے رہے۔ پنڈی کے بعض حصوں سے بس کے گزرتے
 ہوئے بعض گھروں کے اندرونی حصے تک دکھائی دینے پر
 شائستہ نے سوچا۔ ”ان بے چاروں کی تو بہت بے پروگی
 ہو گئی۔“

آخری اسٹاپ پر بس سے اترنے کے بعد حسب
 پروگرام بینک روڈ پر باجماعت چہل قدمی کی گئی۔ شائستہ
 نے ایک دکان پر سیل دیکھ کر فرشتہ کے لیے سینڈلز خرید لیے۔
 سموسوں کی ایک دکان کے ڈیمو سیکشن میں بیٹھ کر سموسہ چاٹ
 کھائی گئی اور اپنی اپنی پسند کی سافٹ ڈرنک پی گئی۔ باہر
 نکلے تو بچوں کی فرمائش پر ایک آئس کریم شاپ سے آئس
 کونز خریدی گئیں۔ شہاب صاحب کے گھر لے جانے کے
 لیے ایک بیکری سے دو پونڈ وزن کا کیک خریدا۔ دوبارہ ...
 اسلام آباد جانے کے لیے ٹکٹ خریدے گئے۔ بس
 میں سخت دھکم پیل کے بعد بالآخر شائستہ کو سیٹ مل ہی گئی۔
 فرشتہ کو اس نے اپنے زانوؤں پر کالیا۔ ساتھ بیٹھی ہمسفر بار

میٹرو بس چلی تو شائستہ اور بچوں کو بھی میٹرو میں سیر کا
 شوق ہوا۔ پروگرام بنا کہ چھٹی والے دن بذریعہ وین فیض
 آباد جائیں۔ وہاں سے میٹرو بس میں سوار ہو کر پنڈی
 آخری اسٹاپ وہاں کچھ کھانا پینا پھر واپسی اسلام آباد میٹرو

بارنا گواری سے پہلو بدلتی رہی۔ میٹرو اسٹاک ایک ہیج اسٹاپ پر رکھی تو مردانہ جسم سے محمود کی آواز سنائی دی۔ ”فرشتہ بیٹے! ماں سے کہنا پڑے گا ورنہ اتریں گے۔“

”کہہ دو ٹھیک ہے۔“ شائستہ نے فرشتہ سے کہا۔

”ٹھیک ہے پاپا۔“ فرشتہ نے گردن موڑ کر جواب دیا۔ پریڈ گراؤنڈ اسٹیشن پر بس سے اترنے کے بعد سڑھیاں چڑھ کر اسٹیشن سے باہر نکلے اور پیدل چلتے ہوئے اپنے سابقہ رہائشی علاقے کی طرف چلے۔

”پاپا جی دیکھیں یہ نئی فٹ پاتھ بن گئی ہے۔“ علی نے محمود کو بتایا۔

”ہاں جب ہم یہاں تھے تب تو نہیں تھی۔“

”پاپا! وہ دیکھیں وہ بلڈنگ بھی نئی بنی ہے۔“ وقاص نے۔ لب سڑک واقع ایک عمارت کی طرف انگلی اٹھائی۔

”بلڈنگ پرانی ہے بیٹا رنگ روغن دیا ہوا ہے۔“ محمود نے کہا۔

ہاتھیں کرتے وہ اپنے سابقہ محلے میں آ پہنچے۔ اپنے سروٹھ کوارٹر کی طرف نہایت اشتیاق سے دیکھا، محمود نے ایک دو شا سائوں سے علیک سلیک کی۔ بچوں کے ایک دو دوست بھی دکھائی دیے جو انہی کی طرح قد نکال چکے تھے۔ شہاب احمد اور ان کے اہل خانہ پرانے محلہ واروں کی آمد پر نہایت خوش ہوئے۔

جائے پی جا رہی تھی کہ ایک اور سابق پڑوسن شائستہ کی آمد کی خبر سن کر اس سے نلتے کے لیے مع عیال چلی آئیں۔ خواتین باتوں میں لگ گئیں۔ بچے اپنی اپنی دلچسپیوں میں۔ کسی نے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ کوئی کہیوٹر کے سامنے براجمان ہو گیا۔ کوئی بلا لے کر کوئی گیند اچھالتا گھر کے مگن میں۔ شہاب احمد سے ان کے کوئی شام نلتے کے لیے آگئے۔ محمود نے ان کی بات چیت میں حارج ہونا مناسب نہ سمجھا اور شہاب احمد سے بولا۔ ”میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں شہاب صاحب۔“

”پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں۔“ شہاب احمد مسکرائے۔

”جی..... یہی سمجھے۔“

”نی امان اللہ۔“

محمود گھر سے باہر نکل آیا۔ اسٹریٹ کے کھڑے پینچا اور ٹھنک کر پیش منظر کا جائزہ لینے لگا۔ سڑک کے موڑ پر وہ کھوکھا جس سے سارا محلہ ہی روزمرہ ضرورت کی خریداری کرتا کرتا تھا غالباً کسی سرکاری کارروائی کے نتیجے میں حریف

غلط کی طرح مٹ چکا تھا۔ محمود سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ اسٹیٹ لائف بلڈنگ تک پہنچا۔ بائیں ہاتھ پر مڑا اور پختہ فٹ پاتھ پر چلتا موڑ تک جا پہنچا۔ بہت عرصے بعد اس کا اس طرف آنا ہوا تھا۔ اس کی عادت تھی جس راستے پر کام نہ ہوتا اس کا بلاوجہ قصد نہ کرتا۔ آج بھی بچوں نے میٹرو بس میں سفر کی فرمائش نہ کی ہوتی تو شاید آج بھی نہ آتا ہوتا۔ فٹ پاتھ کے موڑ پر ٹھنک کر اس نے دائیں، بائیں اور سامنے دیکھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ انڈر پاس، چوڑی چوڑی سڑکیں، پختہ فصیلیں، میٹرو بس راہداری جس نے گرین بیلٹ کو نگل لیا تھا۔ تاحہ نظر بلند دہالا عمارتیں، سڑکوں پر تیز رفتاری سے دوڑتی گاڑیاں، پولی کلینک جو پہلے کی طرح نزدیک نہیں دور دکھائی دیتا تھا اور وہ بھی پورا نہیں۔ ترقیاتی منصوبوں نے نہایت ضروری مقامات تک رسائی میں بھی رکاوٹیں حائل کر دی تھیں۔ محمود کو بہت سی سوچوں اور فکروں نے آگھیرا۔ ”بڑے لوگوں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں..... آس پاس سرکاری مکانوں اور گوارڈروں میں رہنے والے بچے جو صحیح پیدل ہی اپنے اسکولوں کو جایا کرتے تھے اب کیونکر جاتے ہوں گے..... ارے ہاں وہ تو اب بڑے ہو چکے ہوں گے علی، وقاص اور فرشتہ کی طرح..... مگر ان کے بعد آنے والے؟ بچوں کا یہی تو ہے..... چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں..... بڑوں کی جگہ چھوٹے لے لیتے ہیں..... بوڑھے لوگ اتنی چوڑی اور خطرناک سڑکیں کیونکر پار کرتے ہوں گے..... ادھر سے کار ادھر سے موٹر سائیکل..... یا پیاوہ مریضوں کو تو آس پاس کے علاقوں سے پولی کلینک جانے آنے میں بڑی مشکل ہوتی ہوگی..... بوڑھے مریض، حاملہ خواتین، تیز بخار یا کسی ایمر جنسی سے دوچار بچے..... سب کے پاس گاڑیاں توڑی ہوتی ہیں کہ بیٹھے اور پہنچ گئے.....“ محمود بہت دیر فکروں میں غلطاں کھڑا ہوا اور کچھ ہی دور واقع بلند و بالا ایوانوں کے مگن اس کی فکروں سے بے نیاز وہ بے خبر اپنے مہنا جیوں کے راگ سنتے اور سرو مہنتے رہے۔ بے چارے محمود کی تڑپن کا احساس تو انہیں تب ہوتا جب انہیں زندگی کے مسائل کا اپنی اس رحیت کے ایک عام آدمی کی طرح سامنا ہوتا جس کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ قصر شامی تک پہنچتے تھے۔

ایوان بالا کو جانے والے چوڑے چکے، صاف سترے راستے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے محمود نہایت دکھے دل سے واپس پلٹا۔ اسے ہر روز اپنے دفتر میں کتے جھکتے اور زندگی سے سخت ناراض لوگوں کی باتیں یاد آنے لگیں۔

راہ گزر..... اس راستے کو وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا۔ وہی مکان..... اور ان مکانوں کے باہر ایسا وہ سرد اور پتھار کے ساکت و صامت درخت..... مگر نہ گھروں کے باہر پھولوں کی کیا ریاں تھیں..... نہ کرکٹ کھیلتے، سائیکلنگ کرتے اور ہر آتے جاتے کو گرجوٹی سے سلام دانتے بچے..... یہی سرکس دکھائی دینے والی سڑک خاک آلودہ تھی..... ریت ہی ریت..... شاید کسی انڈر پاس کی تعمیر کے لیے ہونے والی کھدائی کی باقیات جسے انڈر پاس کھل ہونے کے بعد صاف کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی تھی..... اور خاک بس سڑک پر آوارہ گردوں کی طرح بھٹکتے ڈھیروں سوکھے تھے..... اس خاک آلودہ سنان سڑک پر واحد ذی نفس محمود تھا۔

وہ ایک گھرے اور ناقابل بیان صدے کی کیفیت میں اس راہ سے گزرا اور شہاب احمد کے گھر واپس چلا آیا جہاں شائستہ اور بچے اس کے منتظر تھے۔

☆☆☆

اس روز جب وہ دفتر کا وقت ختم ہونے کے بعد اپنی موٹر سائیکل پر روزانہ کے راستے سے گھر جانے کو نکلا تو سرینہ سے آگے راستہ بند ملا۔ پولیس اہلکار جا بجا چوکنے کھڑے تھے اور پیدل چلنے والوں کو اس درجہ حقارت سے ادھر ادھر ہنکال رہے تھے جیسے وہ انسان نہیں بھیڑ بکریاں ہوں اور ہنکالے جانے والے بھی بنا کسی مزاحمت کے ادھر ادھر یوں ذبک رہے تھے جیسے یہی ان کا مقدر ہو۔ راستہ کھلنے کا انتظار کرتی ان گنت گاڑیوں کے جھوم میں محمود بھی اپنی موٹر سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً ٹریفک کے اس جھوم میں پچھلی صفوں میں کہیں ایک ایسبیلنس اپنا ہنگامی سائرن بجاتی آرکی۔ سائرن کی پستابی کہتی تھی اسے راستہ دیا جائے..... شاید کوئی جاں بہ لب مریض..... شاید کوئی زخمی..... شاید فوری طبی امداد کا طلب گار کوئی بیمار..... یا شاید کوئی میت..... جو بھی تھا سائرن کی درد بھری آواز دل کے آر پار ہوئی جاتی تھی۔ محمود نے گردن موڑ کر دیکھا تو انتہائی بے کلمی سے رتھماں ایسبیلنس کی سرخ روشنی والی تھی کے سوا کچھ نہ دیکھ پایا۔ ایسبیلنس شور مچاتی رہی..... روٹ لگا رہا..... وہی آئی پی سواری گزرنے کے بعد راستہ کھلا تو ہر ایک کو پہلے گزرنے کی پڑی تھی۔ ایسبیلنس کسی فریادی کی طرح نالہ کناں پہلے نکلنے کو راہ مانگتی رہی۔ محمود حسب عادت احتیاط سے موٹر سائیکل چلاتا اپنے روزمرہ کے راستے پر آیا تو اس نے ایسبیلنس کو

ٹھیک ہی تو کہتے تھے وہ لوگ..... جس ملک میں عوام کو زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی دستیاب نہ ہوں..... روٹی، کپڑا اور مکان ایک دلکش اور پرخیر نعرہ بن کر رہ جائے..... جہاں نصف سے زائد آبادی علیٰ غریب سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو..... ستر فیصد سے زائد عوام پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہو..... نکاسی آب کا مناسب بندوبست نہ ہو..... انسانوں کے پیٹ سے نکلنے والی غلاعت گھروں کے اندر ہی زیر زمین نائٹس سیکل ٹینکوں میں رہ کر داخلی راستے ہی سے تعفن اور جراثیموں کی افزائش کا باعث بنے..... ملک کے بڑے شہروں میں ہی نہیں واراٹھلا فہ اور اس کے جڑواں شہر میں بھی کچرے کے ڈھیر دکھائی دیں..... قبل از برسات نالوں کی نام نہاد صفائی سے کچھڑ میں نتھڑے پونی ٹھین بیگز کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں..... عوام کو بجلی نہ ملے مگر مل ہو شہا آتے ہوں..... گیس کی عدم فراہمی ٹھنڈے چولہوں کو روٹی خواتین کو سڑکوں پر نکل آنے پر مجبور کر دے..... جہاں آٹھ ہندسوں میں بچوں کی تعداد بنیادی تعلیم سے بھی محروم رہے..... طبی اداروں کی حالت زار دیکھ کر رونا آئے..... بیماروں، ناداروں کو سرکاری اسپتالوں میں بھی قدم قدم پر ادائیگی کی پرچیاں ملیں..... غریب آدمی علاج معالجہ کی استطاعت نہ رکھنے کے باعث بے علاج ہی مر جائے..... جل کمبیبوں کی طرح ادارے تو بہت ہوں مگر کارکردگی صفر..... سرکاری ملازمین کی آباد کاری کا ادارہ دس سال میں بھی ایک سیکٹر کو پورے طور پر آباد نہ کر پائے..... ایک عام سرکاری ملازم اپنا اور بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر مہر شپ لے لے اور پلاٹ حاصل کر کے اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھتے دیکھتے قبر میں جا سوئے..... جہاں عام آدمی کو زندگی نعمت نہیں جبر مسلسل گنگے سزا اور عذاب محسوس ہو..... وہاں میٹروپس جیسے منصوبوں پر خطیر سرمایہ کاری اور اسے انقلاب قرار دینا خود ستانی اور مایا فریبی نہیں تو پھر کیا ہے؟

اپنی سوچوں میں گم، یوٹیل ول کے ساتھ محمود جی ٹائپ مکانوں کے درمیان اس ذیلی سڑک کی طرف جا نکلا جو اس علاقے میں اس کی رہائش کے زمانے میں اس کی آمدورفت کا راستہ ہی تھی۔ کئی سال تک وہ اسی راستے سے اپنے دفتر پیدل آتا جاتا رہا تھا۔

برسوں بعد آج اس راستے پر قدم پڑتے ہی وہ دم بخور رہ گیا۔ اسے لگا وہ راستہ بھول گیا تھا۔ یہ وہ راہ گزرتو نہیں تھی جہاں سے وہ گزرا کرتا تھا..... نہیں..... تھی تو وہی

تیزی سے آگے نکلنے دیکھا لیکن شہزاد ناؤن موڑ سے کچھ ہی آگے جا کر ایسبویٹنس ایک وچکے سے یک لخت رک گئی۔ محمود نے موڑ کاٹنے سے قبل موٹر سائیکل روک لی اور جس سے ایسبویٹنس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسبویٹنس کا اگلا دروازہ کھول کر ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شخص نہایت تیزی سے باہر نکلا اور اس نے ایسبویٹنس کا عقبی سلائیڈ ٹنگ وردرازہ بے تابی سے کھولا۔ ایسبویٹنس ڈرائیور بھی نیچے اتر آیا تھا۔ عقبی حصے سے ایک عورت سینہ کوبی کرتی ایسبویٹنس سے باہر نکلی اور آسمان کی جانب اپنا چہرہ کر کے آہ و بکا کرنے لگی۔ لوگ ایسبویٹنس کے نزدیک رکنے لگے محمود بھی وہاں جا پہنچا۔ زندگی کی صعوبتوں سے آزاد ہو جانے والی میت کا منہ چادر سے ڈھانپا جا چکا تھا۔ محمود کے استفسار پر پتا چلا ایسبویٹنس میں سوار مرد اور عورت کا جوان بیٹا تھا جسے امراض قلب کے اسپتال لے جایا جا رہا تھا مگر اس کا دل ہی ساتھ چھوڑ گیا..... حاکم وقت کے قافلے کو پروٹوکول دیا جانا نہایت ضروری تھا۔

محمود گھر پہنچا تو خلاف معمول بے حد جھکا جھکا تھا سا دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے لاؤنج میں بڑے تخت کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شائستہ جو ایک اچھی بیوی کی طرح شوہر کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے دل کی کیفیت بھانپ لینے کا وصف رکھتی تھی قدرے تشویش سے بولی۔ ”خیریت؟“

محمود نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اطمینان دلایا۔ وہ لپک کر پانی کا گلاس لے آئی۔ ”طبیعت تو ٹھیک ہے؟“ اس نے محمود کو پانی کا گلاس چھما کر اس کی پیشانی کو چھوا۔

محمود نے گلاس سے پانی کا ایک گھونٹ بھرا پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بڑی درماندگی سے بولا۔ ”بھلیے! نوکری کی مجبوری ہے ورنہ اب اس شہر میں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔“

”کیوں؟“ شائستہ چونکی۔ ”کیا ہوا؟“ اس نے تشویش سے محمود کو دیکھا۔

محمود نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پانی کا گلاس ایک طرف رکھا اور شائستہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نہایت دل گرفتہ لہجے میں بولا۔ ”جہاں میٹرو چلے مگر ایسبویٹنس کے گزرنے کے لیے راستہ نہ بنایا جائے..... حکمرانوں کی سواریاں گزرنے پر عوام کو غلام بنا کر کھڑا کر دیا جائے..... جہاں بڑے لوگوں کے بیٹے کا پانی باہر ملکوں سے آئے اور ہم جیسوں کو تلوں سے بھی

صاف پانی نہ ملے..... جہاں عام آدمی کو بجلی اور گیس بھی اس کی ضرورت کے مطابق نہ ملے..... جہاں انصاف بکنا ہو..... ورنہ کاٹ دیے جائیں..... پھول کم ہو جائیں..... اور اندھیری رات میں طالب علموں پر گولیاں برسوانے کا حکم دینے والا سر آکھوں پر جگہ پائے..... وہاں کس کا جی چاہے گارہنے کو“

برسوں کی رفاقت نے شائستہ کو شوہر کا مزاج آشنا بنا دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی آج کوئی خاص بات ہوئی تھی..... کوئی غیر معمولی بات..... جس نے محمود کو اس ورجہ دل گرفتہ کر دیا تھا..... اتنا بھی تو وہ سرکاری مکان کی الائنمنٹ کا کیس ہارنے پر بھی نہیں ہوا تھا..... وہ تو فطرتاً بڑا صابر اور حل مزاج آدمی تھا۔

”کیا ہو گیا ہے جو آپ آج ایسی باتیں کر رہے ہیں؟“ شائستہ نے نہایت فکر مندی سے اسے دیکھا۔

”بھلیے!“ محمود کی آواز میں درد تھا۔ ”برسوں پہلے جب میں گاؤں سے پہلی بار اسلام آباد آ رہا تھا تو یار لوگ سٹخ کرتے تھے کہ نہ جا..... اسلام آباد مردہ شہر ہے..... بیس بائیس سال گزار کر پتا چلا کہ شہر آبادی کم ہونے، سڑکوں پر ٹریفک کارش نہ ہونے یا سرشام لوگوں کے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جانے سے مردہ نہیں ہوتے..... شہر تو اس وقت مردہ ہوتے ہیں جب حکمرانوں کے دل پتھر ہو جائیں..... خوفِ خدا ان کے دل سے نکل جائے..... عوام کی ضرورتوں اور بنیادی مسائل کا انہیں احساس نہ رہے..... جوان ادلاؤ کی موت پر سینہ چٹکی ماں کی آہ و زاری ان کی پروٹوکول گاڑیوں کے شور میں دب کر رہ جائے..... ان کے مصاحب ”سب اچھا ہے“ کا بھنگلا ڈال کر انہیں خوش کرتے رہیں اور غریب عوام اپنے نصیبوں پر نوحہ کناں رہے..... حکمران بھول جائیں کہ ہر شخص کو ایک دن خدا کے سامنے اپنی رعیت کے لیے جوابدہ بھی ہوتا ہے۔ وہ بھول جائیں کہ انہیں بھی مرنا ہے۔“ محمود بولا ہی چلا گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے بیشتر الفاظ اعاوہ تھے ان الفاظ کا جو وہ اپنے دفتر میں ساتھیوں سے سنا رہتا تھا..... الفاظ اس کا پتھرا کرتے اس کے گھر تک آپہنچے تھے۔

محمود کی شریک زندگی شائستہ کی دائیں آنکھ کی بالائی پلک پر ایک قطرہ آب ستارے کے مانند کوند اور شائستہ نے اسے بڑی نزاکت، احتیاط اور رازداری سے اپنی دائیں آنکھت شہادت کی نوک پر لے لیا۔



Downloaded From
Paksociety.com

قسط: 7

شیش محل

اسماء تادری

جہاں پر آسمان کی بے بسی کی انتہا ہو... وہیں سے ربّ جلیل کی رحمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ بات کبھی اس نے بچپن میں سنی تھی مگر حادثات و واقعات اور طبقاتی کشمکش میں گھری مختصر سی فانی زندگی کے پیچ و خم میں الجھ کر اسے کچھ یاد نہ رہا... اسے نہیں معلوم تھا کہ یکسانیت سے بے زار اور تنوع کے معلاشی لوگ معزز اور بلند مقام کے حصول کی خاطر خود کو کتنی ہستی میں گرا لیتے ہیں۔ وہ ذہین و فطین نوجوان بھی آنکھوں میں خوش امید کی خواب لے رہے ہیں پلکیں بچھائے اس کا منتظر رہتا تھا لیکن ناکام آرزوئوں اور ناآسودہ تمنائوں کے انجام نے اس کے مندمل زخموں کو لہو لہو کر دیا... راکھ میں دبی چنگاری نے اس کے تمام ارادوں کو خاکستر کو ڈالا۔ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ساز کے درمیان جو خوش امید کی کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھی اب نہ تو وہ خوش دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کسی کی آنکھ میں اس کے لیے کوئی امید باقی تھی۔ جانے یہ زندگی کا کونسا موڑ تھا... وہ تو شیش محل کے پر متظر میں محبوب کی مسکراتی آنکھوں کے جلتے دیپ میں اپنے عکس کو دیکھنے کا عادی تھا... کھلتے گلابوں اور محبتوں کی برستی پھوار میں خود کو بھیگا محسوس کرتا تھا کہ اچانک اس شیش محل میں پر جانب لپکتے شعلوں کی جھلک دکھائی دی تو احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے پجوم میں کس قدر تنہا ہے... جسے وہ اپنا ہمسفر اور رفیق سمجھتا رہا اس سے بڑا قریب کوئی نہ نکلا۔

اسرار و تحیر کے پردوں میں ملوث نظر سطر رنگ بردی واروات طبی کی عکاس و لپس داستان

مارچ 2016ء

72

سپینس ڈائجسٹ

READING

Section



Downloaded From
Paksocietyty.com



ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے مطابق لگنے والی چوٹ نے وقتی طور پر تو شاک لگایا تھا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو وحیدگی کا سبب بنتی۔

”میری رائے کے مطابق تو ان کی حالت تسلی بخش ہے۔ نیسٹوں کی رپورٹ آجائے تو آپ کا رہا سہا شک بھی دور ہو جائے گا۔ اس سچ آپ انہیں پابندی سے میڈیسن دستی رہیں۔ میں نے بمبئی میں مسٹر فاروق کے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد ہی ان کے لیے دوا میں تجویز کی ہیں۔“ اویٹر عمر ڈاکٹر نے بہت تسلی سے کیتھرائن کے سارے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی پھر فاروق کے بازو پر ہلکی سی دوستانہ ہتھکی دیتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔

”شکنتلا اور اس کے باپ کو ہوٹل فون کر کے بتادے کہ فاروق اب ہوش میں ہے۔ آکر اس سے مل جائیں۔ بے چارے مردت میں اپنا سفر کھوٹا کیے بیٹھے ہیں۔“ ڈاکٹر چلا گیا تو رہین نے کیتھرائن کو حکم دیا۔ اس کے منہ سے شکنتلا کا نام سنتے ہی فاروق کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ وہ شکنتلا کا پرس چھین کر بھاگنے والے اچکے کے پیچھے ہی تو بھاگا تھا جو ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر گیا تھا اور سر پر لگنے والی چوٹ نے بے ہوش کر دیا تھا۔

”شکنتلا کا پرس چھیننے والا اچکا پکڑا گیا یا نہیں؟“ اس نے بے قراری سے رہین سے دریافت کیا۔

”بھاگ کر کدھری جائے گا۔ پکڑا تو جانا ہے اس نے۔“ رہین نے بے پروائی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ فاروق سمجھ گیا کہ فی الحال وہ اسے کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہے، اس نے بھی اصرار نہیں کیا اور نیا سوال داغا۔

”شکنتلا اور اس کے فادر تو بمبئی کے لیے فلائٹ لینے والے تھے پھر ابھی تک ہوٹل میں کیوں ہیں؟“

”تیری وجہ سے رک گئے۔“ رہین نے اسے جواب دیا۔ ”شکنتلا کے پرس میں اچھی خاصی رقم اور زیور تھا۔ انہیں اس کی بھی لگ رہی تھی۔ میں اس اچکے کو ہرگز بھی پرس لے جانے نہیں دیتا لیکن عین وقت پر قسمت دھوکا دے گئی۔“ اس نے افسوس کا اظہار کیا۔

”رقم اور زیور کا مسئلہ نہیں ہے، پر اپنے کو اس اچکے کو چھوڑنے کا بھی نہیں ہے۔ تو ادھری اسپتال میں نہ پڑا ہوتا تو اپنی پہلے اس کا حساب کتاب کرتا۔“ رہین کی کئی اس بات پر اسے ذرا بھی شک نہیں تھا وہ اس کی اپنے لیے محبت سے بھی واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کیسا نڈر اور بائبل آدی ہے جو یونہی کوئی بات نہیں کہتا بلکہ جو کہتا ہے اس کو پورا کر

فاروق کی آنکھ کھلی تو اردگرد کے مخصوص ماحول نے اسے یاد کروا دیا کہ وہ کسی اسپتال کے کمرے میں موجود ہے۔ فوری طور پر اسے یاد نہیں آیا کہ وہ یہاں کیوں موجود ہے، بس سر میں اٹھتی ٹیسس تھیں جو اسے احساس دلار ہی تھیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اسپتال پہنچا ہے۔

”مسٹر فاروق کو ہوش آ گیا ہے، میں ڈاکٹر کو بتاتی ہوں۔“ ابھی وہ خود کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں کچھ سوچ نہیں پایا تھا کہ کمرے میں ابھرنے والی دہی سی آواز نے احساس دلایا کہ اس کمرے میں اس کے سوا کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے ہائیں جانب گردن گھما کر آواز کے ماخذ کی سمت دیکھا۔ یہ جملہ ادا کرنے والی کیتھرائن تھی اور اس کا مخاطب رہین تھا جس نے کیتھرائن کی بات کے جواب میں محض اپنا سر ہلایا اور گندی دارنچ سے اٹھ کر فاروق کی طرف بڑھا۔ وہ بستر کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو فاروق نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سرخی ہے۔

”کیسا ہے رے تو؟ جازئی درد تو نہیں ہو رہا؟“ اس کے مخصوص کھردرے لہجے میں جو محبت تھی اسے فاروق محسوس کر سکتا تھا۔

”میں ٹھیک ہوں پر ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا کہ یہاں کس وجہ سے لایا گیا ہوں۔“ تکلیف کو نظر انداز کر کے اس نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔

”آجائے گا یاد بھی۔ کا ہے کی جلدی ہے۔“ رہین نے اسے ٹالا۔ اسی وقت کیتھرائن ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔

”اب آپ کیسا لیل کر رہے ہیں؟“ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا اور پھر اس کا معائنہ کرنے لگا۔

”سر میں زیادہ درد تو نہیں ہے؟“ اس کی آنکھوں کے پھٹوں کو الٹ کر دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے دریافت کیا۔ ”تموڑی تموڑی دیر میں ٹیسس سی اٹھ رہی ہیں۔“ اس نے بتایا۔

”ایسا چوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی زخم تازہ ہے اس لیے تکلیف دے رہا ہے۔ پر فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ زیادہ گہرا گھاؤ نہیں ہے، جلد بھر جائے گا۔“ اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے تسلی دی پھر طبی اصطلاحات میں کیتھرائن کو ہدایات دینے لگا۔ کیتھرائن کو اس کی ساتھ تکلیف کی وجہ سے تشویش تھی کہ سر پر لگنے والی یہ نئی چوٹ کہیں مسئلہ نہ بن جائے لیکن ڈاکٹر کو اطمینان تھا کہ

”کافے کو اتنی جلدی بچا رہا ہے ہیرو۔ اپنے کو بھی لونٹے کی فکر ہے پر تیرے سے بڑھ کر نہیں۔“ سمجھی میں اپنے پاس ایک اڈے کی گدی ہی ہے تاہم پر تیرے کو دل کی بولیں..... اگر اپنے کو جا کر برطانیہ کے سخت پر بھی بیٹھنا ہوتا تو اپن تیرے آگے اس کی بھی پروا نہیں کرتے۔ پر تو اس بات کو سمجھتا نہیں ہے اور بار بار غیریت دکھا کر اپنے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔“ کیتھرائن کے نرم لہجے کے مقابلے میں ربن کا لہجہ خاصا تلخ تھا لیکن اس گلی میں جو محبت چھپی تھی اسے فاروق ابھی طرح پہچانتا تھا، سوائے طرز عمل پر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ وہ تو بس ربن کو مزید زحمت سے بچانا چاہتا تھا لیکن اسے یہ بات سمجھی چاہیے تھی کہ اس طرز عمل سے ربن کے بے پناہ خلوص کو دوچکا لگے گا۔ اس نے چاہا کہ اپنے رویے پر معافی مانگ لے، پر یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں یہ چیز بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔

”آپ تموڑا سا کچھ کھانی لیں مسٹر فاروق۔ اس کے بعد مجھے آپ کو دوا میں کھلانی ہوں گی۔“ کمرے کی نفاذ بدلنے کے لیے کیتھرائن نے غیر محسوس طور پر دخل اندازی کی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ اس وقت کیا کھانا پسند کرنے گا۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے فی الحال نرم اور رقیق غذا تجویز کی تھی۔ کیتھرائن کی گنواکی ہوئی اشیا میں سے فاروق نے دودھ اور بسکٹ کے لیے ہائی بھری۔ کیتھرائن نے اسے سہارا دے کر ٹیکوں کی مدد سے بٹھا دیا۔ فاروق اس کے سہارے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا لیکن اس کی پیشہ ورانہ ذمے داریوں میں رکاوٹ ڈالنا مناسب نہ سمجھا کہ میاں اسے بھی ربن کی طرح برا لگ جائے۔

دودھ اور بسکٹ پر مشتمل پلکے کھانے کے بعد کیتھرائن نے اسے دوا میں دیں۔ وہ دوا میں کھا کر دوبارہ لیٹا ہی تھا کہ گلنگلا اور الو پیم اگر وال چلے آئے۔ دونوں نے بہت خلوص سے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے انہیں بہتر ہونے کے بارے میں بتایا۔ ربن نے بھی ڈاکٹر کی نسلی آمیز گفتگو سے آگاہ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ فاروق کی طرف سے بے فکر ہو کر سمجھی کے لیے روانہ ہو جائیں کیونکہ وہ لوگ خود بھی نکل شملہ روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے فاروق کے ٹیکوں اور ان کی رپورٹس سے متعلق کوئی بات نہیں چھیڑی تھی جس سے فاروق نے اندازہ لگایا کہ ربن ان لوگوں کے جلد از جلد سمجھی لوٹ جانے کے حق میں ہے۔

تھوڑی دیر میں سمیٹھ نے سمجھی کے لیے ٹکٹ بک

دکھانے کی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے۔“ تیرے پر پیر چوٹ لگ گئی تھی اس لیے اپن ٹیکشن میں آ گیا تھا، پر اب ڈاکٹر نے تیرے سامنے ہی بولا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیرے کو ادھر سے چھٹی مل جائے تو اپن شملہ چلتے ہیں۔ اپنے کو بھی واپس سمجھی لوٹنے کا ہے، ادھر بھی سالا بہت کچھ الٹا پڑا ہے۔“ اس کی آنکھوں کی لالی میں بہت سی فکریں ڈول رہی تھیں۔

”میری ماںو استا تو سمجھی سے واپس پلٹ جاؤ۔ میں کوئی اکیلا تو ہوں نہیں۔ گولوا اور کیتھرائن ہیں میرے ساتھ۔ پھر جانا بھی سیٹھ کی گاڑی میں ہے۔“ فاروق نے اپنے طور پر اس کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔

”تیرے کو معلوم ہے، اپن کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اپن نے تیرے کو خود شملہ پہنچانے کا بولا تھا تو پہنچا کر ہی واپس جائے گا۔“ ربن نے دو ٹوک لہجے میں اسے جواب دیا۔ اس کے اس انداز کے بعد فاروق کے پاس بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی اس لیے اس بات کو چھوڑ کر التجا آمیز لہجے میں بولا۔

”ہوٹل جا کر تھوڑی دیر آرام ہی کر لو۔ پتا نہیں کب سے نیند نہیں لی ہے۔ مانا کہ بہت بہت والے ہو، پر ہو تو گوشت پوست کے آدی ہی اور آدی کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔“

”اچھے کو سب معلوم ہے رے۔ اپن بھی خود کو اپنے کو اپنی برداشت سے بڑھ کر کٹھنائی میں نہیں ڈالتے۔“ ربن نے اسے جواب دیا اور دروازے سے داخل ہوتی کیتھرائن کی طرف متوجہ ہو گیا۔

”فون کرو یا سیٹھ کو؟“

”جی، وہ لوگ ہاسپٹل آرہے ہیں۔ میں فون کرنے کے بعد ڈرا ہا ہسپٹل کی لیبارٹری چلی گئی تھی تاکہ پتا کر سکوں کہ مسٹر فاروق کے ٹیکوں کی رپورٹ آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہیں پر تموڑا ٹائم لگ گیا۔“ اس نے تفصیل سے جواب دیا۔

”پھر کیا بولا لیبارٹری والوں نے؟“ ربن کو تجسس ہوا۔

”کل دوپہر تک کا ٹائم لگے گا۔“ اس نے بتایا۔

”ان سے ریجویٹ کرٹس سسٹر کہ رپورٹ جلدی دے دیں ہمیں شملہ بھی جانا ہے۔“ فاروق نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔

”ایسا ہاسپٹل نہیں ہے مسٹر فاروق۔“ کیتھرائن نے اپنے زری سے جواب دیا۔

کروانے جانے کا عندیہ دیا تو ظاہر ہو گیا کہ رہن اپنی کوشش میں کامیاب رہا ہے۔ فاروق کا اندازہ تھا کہ سیٹھ کو بیٹی کے پرس میں موجود نقدی اور زیورات کا علم نہیں ہوگا اسی لیے اس نے اتنی آسانی سے واپسی کی ہائی بھری ہے۔

”آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فاروق صاحب۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اس لٹکے کے پیچھے جانے کی؟ بھگوان آپ کی رکھشا کرے لیکن آپ کو اس طرح بستر پر لیٹے دیکھ کر مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ آپ میرے پرس کی خاطر ہی تو کشت میں پڑے تھے۔“ انویم اگر وال کی روانگی کے بعد گلگتلا فاروق کے پاس بیٹھ کر نہایت دل سوزی سے بولی۔

”شرمندہ تو میں ہوں گڑیا۔ تم ہمارے ساتھ تھیں۔ تمہاری اور تمہارے سامان کی حفاظت ہماری ذمہ داری بنتی تھی۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتیں کہ اپنی نظروں کے سامنے تمہارے پرس کا چلے جانا میرے لیے کیسی خفت کا باعث ہے لیکن تم فکر نہیں کرو، ہم سب مل کر تمہاری چیزیں حاصل کر کے رہیں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ اگر تمہارے پرس میں موجود نقدی اور زیورات واپس نہیں ملے تو تمہیں اپنے گھر میں بڑی مشکل ہو جائے گی اور تمہاری مشکل ہمیں کوارا نہیں ہے۔“ فاروق نے بھی پورے خلوص سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔

”اوہ تو آپ اس کارن ایسے سرپٹ ووڑ پڑے تھے کہ میرے پرس میں کیش اور جوہری ہے لیکن پرس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ چاچا جی نے پہلے ہی سب چیزیں میرے پرس سے نکلوا کر ڈیڈی کے بیگ میں رکھوا دی تھیں۔“ اس کی بات کے جواب میں گلگتلا نے مزے سے اسے اطلاع دی تو وہ چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے رہن کی طرف دیکھا۔ رہن نے سر کی اٹھاتی جنبش سے گلگتلا کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس موقع پر فاروق ایک بار پھر رہن کا قائل ہو گیا۔ اس کا ذہن رسا ہمیشہ قبل از وقت ہی حالات کے مطابق فیصلے اور عمل کرواتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی ایک احتیاط اور دور اندیشی نے گلگتلا کو بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا البتہ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ اپنے ساتھ موجود خاتون کے پرس کو چھیننا جانا اب بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ یہی سوچ رہن کی بھی ہوگی۔

”مجھے اور ڈیڈی کو تو بس آپ کی چٹا تھی اس لیے ہم نے اپنے گھٹ کینسل کر وا دیے تھے۔ آپ چاچا جی کے کتنے لاڈلے ہیں، اس بات کا ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم انہیں پریشانی میں

اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب بھی آپ کی طرف سے اتنی تسلی دی گئی ہے تو ڈیڈی سببیں بک کروانے گئے ہیں اور انہوں نے بمبئی اپنے فیجر اور می وڈوں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ابھی وہ بمبئی واپس نہیں آسکتے اس لیے وہ دونوں مل کر پرس کے معاملات دیکھ لیں۔“ اس کی سوچوں سے بے خبر گلگتلا اپنی بولتی چلی گئی۔ اس کی باتوں سے فاروق کے ہر خیال اور اندازے کی تردید ہو رہی تھی۔ پہلے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ شاید سیٹھ اگر وال کو گلگتلا کے پرس میں موجود سامان کی خبر ہی نہ ہو، بعد میں وہ سوچ رہا تھا کہ سیٹھ اس سامان کی بازیابی کے لیے وہاں رکا ہوا ہے لیکن اصل صورت حال یہ تھی کہ سیٹھ واقف بھی تھا اور اس کے رکھنے کی وجہ اپنی قیمتی اشیاء کے حصول کے بجائے اس کی ذات تھی۔ اپنے غلط اندازوں پر شرمندہ، وہ گلگتلا سے صرف اتنا کہہ سکا۔

”تھینک یو سوچ گلگتلا۔ تم لوگوں کا یہ خلوص مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔“

”تھینک یو کی کیا بات ہے فاروق صاحب۔ آپ لوگ سب خود اتنے اچھے ہو کہ دوسرا آپ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ خیر جانے دیجیے ان سب باتوں کو اور اب آپ ریٹ کیجئے ورنہ مس کی تھرائن مجھے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں گی۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ سے زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں لیکن بس بات سے بات لگتی چلی گئی۔“ گلگتلا ہلکے پھلکے لہجے میں کہتی ہوئی رہن کے ساتھ جا بیٹھی۔ فاروق نے دیکھا کہ رہن کی آنکھوں میں شوخ سی مسکراہٹ تھی اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کے ہر خیال اور اندازے سے واقف تھا اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سے معنوی تخیلی کا اظہار کیا اور کروٹ بدل کر آنکھیں مود لیں۔ اسے سچ آرام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔

☆☆☆

اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ سالیا تھا اور چاہتے ہوئے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پار ہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے ہی موت کا فرشتہ اسپتال کے اس وارڈ میں داخل ہو چکا ہو۔ اس کا احساس، وہاں موجود فرشتہ اجل کی آہٹیں بہت واضح طور پر سن رہا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی تو اپنی ماں کو اس فرشتے کے حوالے کیا تھا اور اب اتنی جلدی اسے اپنے باپ کے قریب محسوس کر کے کسی ننھی بچی کی طرح سہم گئی تھی۔ اس کے پاس اس دنیا میں زیادہ رشتے نہیں تھے۔ ماں، باپ اور

ہے کہ جوزفین کی جدائی کے غم میں ڈوب کر وہ خود اس کی کیر نہیں کر سکا تھا اور بیوی کی محبت جینی کی محبت پر سبقت لے گئی تھی۔ ایک باپ کی حیثیت سے یقیناً اپنا یہ طرز عمل اس کے لیے باعثِ ہمدامت رہا ہوگا لیکن جوئیٹ کو اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اسے تو اپنی ماں کی قسمت پر رشک آتا تھا جسے اتنا ٹوٹ کر چاہنے والا جیون سا بھی ملا تھا جو اس کی جدائی میں خود ٹوٹ کر رہ گیا تھا جبکہ خود اس کی قسمت اپنی ماں کے بالکل برعکس تھی۔ عارف نے تو محبت کے سارے دعوے اور وعدے لکھوں میں بھلا دیے تھے اور پہلی ہی آزمائش میں ناکام ہو گیا تھا۔

”اپن تم سے بہت لو کرتا ہے، پر اپنے سے اب جوزفین کا جدائی سہا نہیں جاتا۔ تم.....“ دہمی آواز میں یونٹا وہ اچانک ہی خاموش ہو گیا تو اس کی نبض تھامے کھڑے ڈاکٹر نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ لگانے لگا۔ جوزف جو اپنے حواس میں تھا اور بس ذرا تھک جانے کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، اس کے اس طرز عمل پر خفیف سا مسکرایا اور اپنی بات دوبارہ شروع کی۔

”تم اپنی ماں کا ڈاکٹر ہی ضرور پڑھ لیتا۔ آئی ہوپ کہ اپنے بعد تم اس درلڈ میں اکیلا نہیں رہیں گا۔“ جملہ عمل کر کے وہ ایک بار پھر مسکرایا اور اس کی نظر میں جوئیٹ کے چہرے سے ہٹ کر کسی ناویدہ نقطے پر جم گئیں۔ اس پل اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ لگتا تھا وہ دنیا کا سب سے خوش کن اور مسخور کر دینے والا نظارہ دیکھ رہا ہو لیکن نہیں..... وہ اس دنیا کا نظارہ نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی کلائی پر گرفت کیے ڈاکٹر کو اس کی خاموش ہو جانے والی نبض نے چپکے سے بتا دیا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ حیرت زدہ ڈاکٹر نے اس کے دل کی دھڑکن چیک کی اور اپنے طور پر، خاموش ہو جانے والے دل کو دوبارہ جگانے کے لیے چند کوششیں بھی کر ڈالیں لیکن راہی تو جا چکا تھا۔

”آئی ایم سوری مس۔ ہی از نو مور۔“ آخر کار ڈاکٹر کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑا۔ جوئیٹ نے اس انداز میں اس کی طرف دیکھا جیسے اس کا جملہ بچنے کی اہل نہ ہو۔ جانی نے اس کی اس کیفیت کو بھانت لیا اور خود آگے بڑھ کر جوزف کی ساکت مگر اب تک جملگاتی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد اس سے مخاطب ہوا۔ ”تمہارا قاور چلا گیا سسٹر۔ گاڈ تم کو یہ غم سہنے کا حوصلہ دے۔ ابھی تم ہمارے ساتھ گھر چلو۔ ہم سسٹر جوزف کی ڈیڈ باڈی کو گھر پہنچانے کا ارہنڈنٹ کرتا

عارف..... بس ان تینوں کے گرد ہی اس کی زندگی گھومتی تھی۔ ماں اور عارف کو اس نے کھو دیا تھا اور اب باقی رہ جانے والے واحد رشتے کی جدائی کا مرحلہ بالکل قریب محسوس کر کے سن سی ہو گئی تھی۔ اس کی آمد پر اس کی طرف متوجہ ہو جانے والے جانی نے اس کی کیفیت بھانت لی اور اپنی جگہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔

”تھیک گاڈ سسٹر کہ تم یہاں پہنچ گیا۔ تمہارا قاور تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ آؤ اس سے مل لو، وہ تمہارا ویت کر رہا ہے۔“ اس نے بولتے ہوئے جوئیٹ کے شانے کو آہستہ سے دبا دیا تو اس کے ٹخمد ہو جانے والے جسم میں تحرک پیدا ہوا اور وہ جوزف کے زعمہ ہونے کا یقین آ جانے پر تیر کی طرح اس کے بستر کی طرف بڑھی۔ مختصر عرصے میں جھک کر لاغر ہو جانے والا جوزف کا وجود بس اس کا سایہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ایسی زروی کھنڈی تھی کہ جوئیٹ کو اس پر کسی لاش کا گمان ہوا۔ جوزف کے قریب کھڑا ڈاکٹر اگر اس کے بازو میں دوا انجیکٹ کرتا ہوا نظر نہ آتا تو وہ بھی گمان کرتی کہ وہ اپنے باپ کو کھو چکی ہے۔ جوزف کے پاس ہی کھڑی نرس اس کے گلوں کو سہلار ہی گئی اور یہ سارا اہتمام تو زندہ لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ دل میں کچھ تعویذ ہی محسوس کرتے ہوئے اس نے جوزف کو پکارا۔

”ڈیڈ.....“ اس کی یہ لرزیدہ پکار جوزف کی ساتھوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں کے پہلوؤں نے جنبش کی۔

”آنکھیں کھولیں ڈیڈ۔ یہ میں ہوں آپ کی جولی۔“

اس بار اس نے جوزف کا ہاتھ تھام کر اسے آواز دی۔ اس کی یہ پکار رانگاں نہیں گئی اور جوزف نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے سامنے جوئیٹ کا چہرہ نظر آیا تو ویران آنکھوں میں زندگی کی رمت سی جاگی۔

”جولی..... مائی ڈارلنگ ڈائڈ۔“ بہت دہمی آواز میں اس نے جوئیٹ کو کچھ اس طرح سے پکارا کہ اس کی آنکھیں جذبات سے برس پڑیں۔ جوزف نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے برستے آنسوؤں کو صاف کرنا چاہا لیکن ناتوانی کے باعث اس کا ہاتھ درمیان میں ہی گر گیا۔ جوئیٹ نے فوراً ہی اس کا گر جانے والا ہاتھ تھاما اور بے تحاشا چومنے لگی۔ اس بار جوزف کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔

”آئی ایم سوری مائی ڈیر ڈائڈ۔“ بہت ہلکی آواز میں ادا کیا گیا اس کا یہ جملہ جوئیٹ نے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود بہت مشکل سے سنا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گئی۔

باقی تعین تھا کہ جوزف اس سے اس لیے معافی مانگ رہا

ہے۔ وہاں باقی لوگوں سے مشورہ کر کے اس کی تدفین کا بھی ڈیٹا کر لیں گا۔“

جہانی بہت ہمدردی کے ساتھ ایک محتول بات کر رہا تھا لیکن جوزف کے لیے ڈیڈ ہاڈی کا لفظ سن کر اسے جھٹکا سا لگا اور وہ زور سے چپٹی۔ ”شٹ اپ۔“

”پلیز مس۔ خود کو سنبھالیے۔ بے شک آپ غم زدہ ہیں لیکن اپنے ہمدرد کے ساتھ ایسا سلوک ٹھیک نہیں۔ ان صاحب نے آپ کے پیچھے آپ کے فادر کو بہت اچھی طرح لگ آفر کیا ہے۔“ وہ نرس جو اب تک جوزف کے پاؤں کے ٹوے سہلاتی رہی تھی، خاموش نہ رہ سکی اور جولیٹ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے لگی۔

”کوئی بات نہیں سسٹر۔ یہ اپنا سسٹر ہے اور اپن اس کی کسی بات کو ماننا نہیں کرتا۔“ جانی نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے جولیٹ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو اس کا دل پھٹنے لگا اور وہ بے سائتہ ہی جانی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ جانی کسی بڑے بھائی کی سی شفقت کے ساتھ اسے دلاسا دیتا رہا۔ دنیا کی بھیڑ میں رشتوں سے محروم ہو کر تنہا رہ جانے والی جولیٹ کے لیے اس وقت اس کا وجود غنیمت تھا۔

☆☆☆

وہ ایک بار پھر منو پہلوان کے اڈے پر موجود تھے۔ پچھلی بار یہاں آمد پر منو پہلوان کے چچا اور مربی کپل داس نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ کچھ عرصے ان کے اڈے پر قیام کریں لیکن سفر کی غلٹ اور ہوٹل میں موجود خواتین کی وجہ سے ربن نے اس دعوت کو قبول کرنے سے گریز کیا تھا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ فاروق کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور اسے اسپتال میں داخل ہونا پڑا، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا قیام چند گزیر میں بڑھ گیا۔ فاروق کے سر کی چوٹ کچھ ایسی نوعیت کی تھی کہ ذرا سی بھی غفلت نہیں برتی جاسکتی تھی چنانچہ جب تک اس کی ساری رپورٹس نہیں آئیں اور ڈاکٹرز نے یہ رائے نہیں دے دی کہ حالیہ چوٹ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، تب تک اسے اسپتال میں ہی رکھا گیا۔ اس عرصے میں انوپم اگر وال اور شکنتلا واپس بیٹی لوٹ گئے تھے۔ کیئر مائن مسلسل فاروق کے ساتھ اسپتال میں ہی رہی تھی اور پوری جانفشانی سے اس کی دیکھ بھال کرتی رہی تھی۔ گولو اور ربن اسپتال انتظامیہ کی طرف سے جانک کر وہ پابندی کی وجہ سے وہاں مستقل نہیں رہ سکتے تھے لیکن جتنی ویر اجازت ملتی وہیں رہتے تھے۔ گولو سیدھا سا وہ

بندہ تھا اس لیے اسے زیادہ تر ہوٹل تک ہی محدود رہنا پڑتا تھا البتہ ربن کی ہامت اس نے فاروق کو بتایا تھا کہ وہ کم ہی ہوٹل میں ٹکنا ہے اور عموماً بس رات کو ہی موجود رہتا ہے۔ ربن نے چونکہ خود اپنی مصروفیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا اس لیے فاروق نے بھی اس سلسلے میں اس سے استفسار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آج جب اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو کیئر مائن کو آرام کا مشورہ دینے کے بعد ربن نے ان دونوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور پھر اپنے ساتھ لے کر منو پہلوان کے اڈے پر پہنچ گیا۔

یہاں حسب سابق ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور موہن داس عرف منو پہلوان اور اس کے چچا کپل داس نے انہیں بے حد عزت دینے کے ساتھ ساتھ خوب خاطر تواضع کی۔ کھانے پینے کا شوقین گولو یہاں آ کر بہت خوش تھا اور پنجاب کے روایتی کھانوں سے خوب انصاف کیا تھا۔ ربن نے بھی خاصی بے تکلفی دکھائی تھی اور یوں کپل داس کے ساتھ کھل مل گیا تھا جیسے برسوں کا یارا نہ ہو۔ فاروق البتہ کچھ بندھا بندھا سا بیٹھا رہا تھا اور وہاں ہونے والی گفتگو میں بس جواب دینے کی حد تک ہی حصہ لیا تھا۔ وہ اس چیز کے ظہور میں آنے کا منتظر تھا جس کی خاطر اس کے خیال میں ربن انہیں یہاں تک لایا تھا۔ اگر ربن کی بات نہ ہوتی تو وہ یہاں تک بالکل نہیں آتا۔ وہ جس افسردگی اور بے کلی کو اپنے ساتھ بھیجی سے لے کر چلا تھا، آج اس میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا تھا اور وہ رہ کر جولیٹ کی طرف دھیان جاتا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جولیٹ سے اتنی شدید محبت کرتا ہے کہ اس سے دوری پر اس حد تک بے چین ہو جائے گا کہ کہیں کسی صورت قرار ہی نہیں ملے گا حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ بیٹی میں رہ کر بھی وہ کون سا جولیٹ کے قریب تھا۔ صبح شام کی لمحاتی دید کے سوا وہاں اسے حاصل ہی کیا تھا لیکن لگتا تھا کہ وہ لمحاتی دید ہی زندگی کا حاصل تھی جس کے بغیر زندگی نامکمل ہو کر رہ گئی تھی۔

اپنی اس محرومی کے علاوہ بھی اس کے دل میں ایک کھٹک سی تھی۔ کسی انجان واسطے سے اسے سگنل ملا تھا کہ جولیٹ کسی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہے ربن کی زبانی وہ جزیقین کی موت کے بارے میں سن چکا تھا اس لیے خود کو یہ کہہ کر ہی تسلی دیتا رہتا تھا کہ جولیٹ کے بارے میں ابھرنے والے خیالات اس کی ماں کی موت کا ردعمل ہیں۔ ماں کی موت کا صدمہ ایک کھلی حقیقت ہے اسی لیے وہ محسوس کرتا ہے کہ جولیٹ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ بے حد عزیز

پکے لڑکے کو اس کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ لڑکے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی فاروق چونک گیا۔ یہ وہی اچکا تھا جو گلگتلا کا پرس چھین کر بھاگا تھا۔ اس وقت اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔

”کیوں بھرا.....“ یہی ہے نادہ بندہ جینو تھا ڈے سنگ موجود زانی دا، بٹوا چھینیا سی؟“ فاروق کی سمت دیکھتے ہوئے منونے اس سے سوال کیا۔ جواب میں فاروق نے اشارت میں سر ہلا دیا۔ سارا قصہ خود بخود ہی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس شہر میں منو پہلوان اور اس کے چاچا ہل داس کی حکمرانی تھی۔ اڈے کے لوگ اگر کہیں راج کرتے ہیں تو خود کو اس راج پاٹ کا اہل بھی سمجھتے کرتے ہیں۔ ان کی پہنچ قانون کے ہر کاروں سے بھی آگے تک ہوتی ہے اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ وہ گلگتلا کا پرس چھین کر لے جانے والے کو اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ منو اور اس کے چاچا کے لیے تو یہ اپنی ساکھ کا معاملہ بن گیا ہوگا۔ ان کے شہر میں کوئی اچکا ایسے افراد کو ہاتھ دکھا جائے جنہیں وہ اپنا دوست تسلیم کر چکے تھے، بھلا ان کے لیے یہ کیسے قابل برداشت ہو سکتا تھا چنانچہ انہوں نے مجرم کو پکڑ کر ان کے روبرو کر دیا تھا۔

”اساں نو شاکر دو ستاد۔ آسین ہی جاندے تھے کہ تمسی ساڈے پہلوان دے پروہنے ہو۔ آسین لالچ وچ آگئے تھے۔ وہ حرام خود اسان نو دسیا سی تے کڑی دے پرس وچ لبیا مال رکھیا ہے۔“ کالیا کے نام سے وہاں لائے جانے والے اس شخص کے الفاظ جو نکادینے والے تھے۔ فاروق ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا اور اسے بہ خورد دیکھتے ہوئے پوچھا۔

”کس نے تمہیں بتایا تھا کہ لڑکی کے پرس میں لبیا مال ہے؟“

”وہی ماں کا..... جو شکل نال شریف لگدا ہے پر ہے نہیں۔“ کالیا نے ایک بڑی سی گالی اپنے جملے میں شامل کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے جو تفصیلات بتائیں، اس کے مطابق وہ شہر میں موجود بازار حسن میں اپنا دھندا کرتا تھا۔ وہاں آنے والے افراد کی جھینیں عموماً بھری ہوتی تھیں اور ہکے ہکے قدموں سے ترنگ میں چلتے انہیں پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ کب ان کی جیب خالی کر دی گئی ہے۔ کالیا لگے بندھے اصولوں کے تحت وہاں اپنا کام کرتا تھا اس لیے بازار میں کونھوں پر دھندا کرنے والی طوائفوں، ان کے دلالوں اور دکان داروں سمیت بہت سے لوگ اس سے واقف ہونے کے باوجود اس کی وہاں موجودگی پر تعرض نہیں کرتے تھے۔ کچھ دخل منو پہلوان کی

فحش کی جدائی کو سینے کی تکلیف سے بڑھ کر بھلا کیا مشکل ہو سکتی ہے اور اس مشکل سے انسان کو اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ وہی ہے جو آدی کو غم سہہ کر مہر کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اس پاس موجود لوگ تو بس اپنی بساط بھر غم ہانٹنے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں اور اسے اپنی حیثیت کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو لیٹ کی نظروں میں اتنی عزت و وقعت بھی نہیں رکھتا کہ وہ اسے غم گساری کی اجازت دے ڈالے۔ وہ اگر رہن سے خند کر کے کسی طرح یہیں سے بھجی لوٹ بھی جاتا تو حاصل کیا ہوتا۔ وہ تو اسے خود سے مخاطب ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔

”تسی دڈے چپ بیٹھے ہو بھرا۔ کی گل اے؟ اسان دے سنگ جی نہیں لگیا کیا؟“ وہ نہایت غائب و مافی کے ساتھ ہاتھ میں موجود مشروب کے گلاس پر انگلیاں پھیر رہا تھا کہ موہن داس نے عاجزانہ لہجے میں سوال کر کے چونکا دیا۔ وہ اس سوال پر شیٹا سا گیا۔ منو پہلوان نے بالکل درست قیاس آرائی کی تھی لیکن وہ اس کی تصدیق کر کے اپنے میزبان کو دکھ نہیں پہنچا سکتا تھا چنانچہ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولا۔

”ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس ذرا طبیعت سست ہے اس لیے خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔“

”شا کرنا بھرا۔ اس گل کا تو اسان نو خیال ہی نہیں تھا۔ تسی بولو تو تھا ڈے واسطے منی بستر کا انتظام کروا دوں؟“ منو پہلوان نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے اسے پیکش کی۔

”نہیں یار۔ اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے۔“ اس نے موہن کا بازو تھپتھپاتے ہوئے انکار کیا اور خود کو ذرا سنبھال کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ موہن کو بھبھکی جانے کا اشتیاق تھا اور وہ نہایت مصومانہ اشتیاق کے ساتھ وہاں کے متعلق سوالات کر رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک اڈے کا وادا ہے اور سارا شہر اسے منو پہلوان کی حیثیت سے جانتا اور ڈرتا ہے۔ اس کے تجسس کو دیکھتے ہوئے فاروق بھی اسے خاصے نسلی بخش جوابات دے رہا تھا۔ کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہوا تو منونے بھی اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا اور چوکی پر اپنی مخصوص جگہ جا بیٹھا۔

”کالیا کو لے کر آؤ۔“ اپنی جگہ سنبھال لینے کے بعد اس نے بارعب لہجے میں حکم صادر کیا، اب وہ بالکل بدلا ہوا آدی تھا اور ایک دادا کے سے رعب و بدبے کا ہی مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے حکم جاری ہوتے ہی ایک دبلے

دہشت کا بھی تھا اور کسی میں جرات نہیں تھی کہ منو پہلوان کے بندے کو بازار میں داخل ہونے سے روکے۔

ان لوگوں کی چندی گڑھ آمد کے دوسرے دن ہی ایک شتا سا دلال نے کالیا کو ایک نوجوان سے ملوایا تھا۔ نوجوان نے کالیا کو اپنا نام نہیں بتایا لیکن کچھ اس طرح سے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا یا کہ وہ آمادہ ہو گیا کہ وہ اپنے دادا سے بالائی بالا اس کا بتایا ہوا کام کر ڈالے گا۔ نوجوان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے جس لڑکی کا پرس چھیننے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کے پرس میں سے اتنا کچھ مل جائے گا کہ آدھے آدھے کا سودا بھی برائے نہیں رہے گا۔ نوجوان نے نگرانی اور معلومات کی فراہمی کا ذمہ خود لے کر اسے بس اس حد تک پابند کیا کہ وہ شو الٹ ہوٹل سے قریب ایک چھوٹے ہوٹل میں ہر وقت موجود رہے گا۔ یہ زیادہ کڑی شرط نہیں تھی۔ کالیا نے اڈے پر حاضری سے غائب رہنے کے جواز کے طور پر اپنی بیماری کی خبر پہنچا دی۔ یوں وہ واقف ہی نہ ہوسکا کہ رہن اور اس کے ساتھیوں کا اڈے سے کیسا رشتہ جڑ گیا ہے۔ اگر اسے ان کی منو اور کھل داس سے دوستی کی خبر ہو جاتی تو کسی صورت اس کام کے لیے راضی نہیں ہوتا۔

اس نے خود کو شپ دینے والے نوجوان کی ہدایت پر ان لوگوں کی ہوٹل سے روانگی کے وقت کھٹکلا کا پرس چھینا اور بھاگ کھڑا ہوا اور فاروق کے تعاقب کرنے کے باوجود اس مخصوص مقام تک پہنچ گیا جہاں وہ نوجوان اس کا منتظر تھا۔ حسب وعدہ اس نے پرس نوجوان کے حوالے کر دیا۔ نوجوان نے پرس کھول کر اس کا جائزہ لیا تو اس میں سے کچھ نہ نکلا۔ پرس کو خالی پا کر وہ کالیا پر الٹ پڑا کہ اس نے بے ایمانی کی ہے اور پہلے ہی پرس سے سارا مال نکال لیا ہے۔ کالیا نے اسے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ سیدھا اس کے پاس آیا ہے اور راستے میں کہیں پرس کھول کر دیکھا تک نہیں لیکن وہ نوجوان نہ مانا اور غصے میں بے قابو ہو کر کالیا پر ہاتھ اٹھا لیا۔ کالیا کیونکر برداشت کرتا۔ وہ تو خود خواستہ کی خواری پریش میں آیا ہوا تھا۔ بیچتا دونوں کے درمیان خوب جھگڑا ہوا۔ جھگڑا اسی ہوٹل کے کمرے میں ہو رہا تھا جہاں کالیا ٹھہرا ہوا تھا۔ شور شرابے کی آوازیں سن کر ہوٹل کا عملہ اور چند گاہک کمرے میں پہنچ گئے اور بڑی مشکل سے دونوں فریقین کو قابو میں کر کے جھگڑا ختم کروایا۔

اپنے ایک آدمی کے پھڑے کی خبر منو تک کیسے نہیں پہنچی۔ فوراً ہی کالیا کی اس کے سامنے پیشی ہو گئی۔ کالیا میں اتنی جرات نہیں تھی کہ منو کو مزید دھوکے میں رکھ پاتا چنانچہ

اس نے سب اگلا پھپھلا اگل دیا۔ اس اثناء میں فاروق کے حادثے کی خبر بھی اڈے تک پہنچ گئی۔ دو چرخ دو چار دالا سیدھا سادہ حساب کتاب تھا اس لیے منو اور کھل فوراً سمجھ گئے کہ ان کے مہمالوں کے کسی مخالف نے یہ کارروائی کروائی ہے۔ انہوں نے کالیا کو ورغلا نے والے نوجوان کی تلاش کروائی اور دلال کی مدد سے اسے عین اس وقت پکڑنے میں کامیاب ہو گئے جب وہ چندی گڑھ سے فرار ہونے کے لیے ریل میں سوار ہونے والا تھا۔ اس موقع پر منو پہلوان نے پکڑے جانے والے نوجوان کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ نوجوان سامنے لایا گیا تو فاروق کو یہ دیکھ کر قطعاً حیرت نہیں ہوئی کہ وہ ماجد علی ہے، کھٹکلا کا نام نہاد عاشق جو اسے محبت کا جھانسا دے کر گھر سے بھاگ لایا تھا اور اس کا مال و زر لوٹنے کے ساتھ ساتھ اسے بازار حسن میں بیٹھے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ کھٹکلا کی قسمت اچھی تھی کہ اسے ان کی ہمسری نصیب ہو گئی اور رہن کی گھاگ لگا ہوں نے ماجد علی کی اصلیت کو پہچان لیا۔

اپنے طور پر ان لوگوں نے ماجد علی کو راستے میں ہی ریل سے اتار کر کھٹکلا کی اس سے جان چھڑا دی تھی لیکن وہ بھی کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کا بندہ تھا جو ہونے والی بے عزتی کے بعد بھی ان کے پیچھے پیچھے چندی گڑھ پہنچ گیا تھا اور خود سامنے آئے بغیر کالیا کی مدد سے کھٹکلا کا مال لوٹنے کی کوشش کی تھی لیکن یہاں بھی رہن کی دوراندیشی نے کام دکھایا اور ماجد علی کے ہاتھ خالی پرس کے سوا کچھ نہ آسکا۔ ممکن تھا کہ اگر اسے کھٹکلا سے ملاقات کا موقع مل جاتا تو وہ اسے ایک بار پھر ورغلا نے کی کوشش کرتا اور دھوکے سے بازار میں پہنچ کر اپنے پورے منصوبے پر عمل کر ڈالتا لیکن اس جیسے چال باز کو پوری طرح اندازہ نہیں ہوسکا تھا کہ اس کا کن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے ورنہ دوبارہ ان کے آڑے آنے کے بجائے جان بچا کر بھاگ نکلنے کو ہی غیبت سمجھتا۔

کہتے ہیں تعلیم آدمی کو سنوار دیتی ہے لیکن تمہیں تو تمہاری تعلیم نے کاغذ کے چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ تم استاد جیسے رہتے پر فائر ہونے کے باوجود اپنی فطرت کے کہنے پن سے باز نہیں آتے۔ ریل میں جب تم سے تمہاری داستان سنی تھی تو تمہارے چرم کی سگنی کے باوجود صرف اس وجہ سے رعایت دے دی تھی کہ انتقام کے جوش میں تمہارے قدم بہک گئے ہیں لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انتقام کا تو صرف بہانہ تھا ورنہ حقیقتاً تم وہ آدمی ہو جس کے اندر کہینہ پن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔“ ماجد علی کو

جانے کے خیال سے کانپ رہا ہے لیکن یہ سوچ کر تیرا دل نہیں کانپا تھا کہ جوڑ کی تیری محبت میں ہر حد سے گزر جانے کو تیار ہے، اس کے کول بدن کو تیرے لیے اور بد کردار مرد کتوں کی طرح بچھوڑیں گے تو اس پر کیا گزرے گی۔“ ربن بولنے پر آیا تو یوں چلا گیا۔

”مجھے اپنا ہر جرم قبول ہے۔ واقعی میں بڑا بد ذات اور کینہ آوی ہوں لیکن پھر بھی تمہاری اچھائی کو دیکھتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ تم میرے حوالے سے کیا گیا اپنا خطرناک فیصلہ تبدیل کر دو گے اور مجھے دی جانے والی سزا میں نرمی بر تو گے۔“ وہ اپنی خلاصی کے لیے خوشامد اور چال چلوسی پر اتر آیا۔ ”اپن تو تیرے ساتھ کوئی نرمی نہیں کر سکتا، پر اگر بھائی کپل داس تیرے لیے کوئی ہلکی سزا سوچ سکے تو یہ اس کی تجھ پر مہربانی ہوگی۔ کپل داس کی مہربانی سے تیرے جیسا حرام خور پکڑا گیا ہے اس لیے اس کا حق بتانا ہے کہ تیرے لیے کوئی نئی سزا تجویز کرے۔“

ربن نے اکھڑے ہوئے لہجے میں ماجد علی کی التجاؤں کا جواب دیا تو وہ امید بھری نظروں سے بڑھے کپل داس کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ”آپ ہی مجھ پر رحم کر دیں بزرگوار۔ میں آپ کے بچوں جیسا ہوں۔ مجھے اپنا بچہ سمجھ کر ہی۔۔۔ معاف کر دیں۔“

”چپ کر مردود۔ تیرے جیسا مکاہ اسماں دے پورے کنبے وچ نہیں ہے۔ ساڈے بچے شہ زور ہونے ہی ہو رزنانیوں لوں ساڈی لڑائی وچ نہیں لائے۔“ اس کی بات کپل داس کو بچھو کے ڈنک کی طرح لگی اور اس نے فوراً ہی اسے جھڑک کر رکھ دیا۔

”دلگلی ہوگئی پھلوان جی۔ غصے اور لالچ میں میری مت ہی ماری گئی تھی لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔“ وہ جھڑکی سن کر خاموش بیٹھ جانے والا آوی نہیں تھا۔ اس وقت تو ویسے بھی اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اس لیے ڈانٹ پشکار سن کر بھی اس کو شش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح ربن کی تجویز کروہ سزا کو معاف کر والے۔

”پاپ کو غلطی بول کر اکھیاں وچ دھول نہ جھونک۔ ایسی مکاری وچ منصوبہ بنا کر کڑی نوں گھر سے بھگانا غلطی نہیں پاپ ہے پاپ۔۔۔۔۔۔ ہور پاپ کا بھگتان تو ویتا ہی پڑے گا۔“ غصی سے کپل داس نے اسے دوبارہ جھڑک ڈالا۔ ”آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھ سے گناہ ہی ہوا ہے لیکن معافی مانگنے پر تو اوپر والا بھی رحم کر دیتا ہے۔ آپ بھی مجھ پر

روبرو پا کر فاروق اسے سخت ستائے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کی ساری باتیں ماجد علی نے خاموشی سے سنی لیکن فاروق نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہوں میں وہ شرمساری نہیں ہے جو اپنے فعل پر نادم کسی شخص کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ شاید شرمندہ تھا بھی نہیں۔ ہاں اپنے انجام کی طرف سے کچھ فکر مند ضرور نظر آتا تھا۔

”کیوں بھینس کے آگے بین بھار ہا ہے ہیرو۔ کتے کی دم کو سو برس نگی میں رکھو پھر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ ایسے حرام کے جنوں کو زبان سے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسوں کو تو ان کے کیے کا سبق سکھانا پڑتا ہے۔“ ربن نے زہر میں ڈوبے لہجے میں فاروق کو ٹوکا۔ اس کی غضب ناک نگاہیں مسلسل ماجد علی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ان نگاہوں کی تندی پر گھبرار ہا تھا۔

”تسی ٹھیک دس رہے ہو بھرا۔ اس کی سزا دا فیصلہ تم ساڈا تم جو چاہو گے دہی ہوگا۔“ کپل داس نے ربن کی تائید کرتے ہوئے اس سے فرمائش کی۔

”اپن کے دل کی پوچھو تو اپنا دل بولتا ہے ایسے فراڈی کو زمین سے گاڑ کر اس پر کتے چھوڑ دیں تاکہ پھر اس جیسا کوئی دوسرا کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ ڈالتے ہوئے دس بار سوچے۔“ ربن کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔

”تسی بولو تو ایسا بھی ہو سکدا ہے۔ اسماں دے چندی گڑھ میں زمین بھی ہے اور کتوں کی بھی کمی نہیں ہے۔“ کپل داس نے بڑے اطمینان سے ربن کو پیشکش کی۔ اس کی یہ فراخ دلانہ پیشکش سن کر ماجد علی سر تاپا کانپ اٹھا اور بہت تیزی سے اپنی جگہ سے حرکت کر کے ربن کے قدموں میں جاگرا۔

”رحم کر دما کی باپ، مجھ بد نصیب پر رحم کر۔ مجھ پر رحم نہیں آتا تو میری ماں پر رحم کرو۔ وہ بے چاری تو میرے ایسے انجام کا سن کر اپنی جان سے چلی جائے گی۔“ وہ ربن کے ہیر پکڑے بلند آواز میں روتے ہوئے اس سے التجائیں کر رہا تھا۔

”پرے ہٹ۔“ ربن نے اسے نفرت سے دھککا رات تیرے جیسا کینہ رحم کی بھیک مانگتا اچھا نہیں لگتا۔ تو نے ٹھنکنا جیسی نادان لڑکی کو گھر سے بھگا کر بازار میں بیچنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سوچا تھا کہ اس معصوم پر کیسی قیامت گزرنے گی اور اس کی ماں اپنی جوان بیٹی کے غائب ہو جانے پر کس طرح جیسے گی؟ آج تو خود کو کتوں سے نچوائے

رحم کیجئے۔“ ماجد علی نے بڑے استقلال سے اپنی جاں خلاصی کی کوشش جاری رکھی۔
 ”تو دس منو.... تو کیا کہتا ہے؟“ کہل داس نے سوہن داس سے پوچھا۔

”جیسی تہاڑی مرضی چا چاہی۔“ منو پہلوان کی حیثیت سے شہر میں اپنی دہشت جمانے والا وہ تو مند جوان اپنے بوڑھے اور کمزور چچا کا فرما نبردار تھا۔
 ”نہ... تو دس۔“ کہل داس نے جیسے اسے حکم دیا۔

”انہاں تو تھانیدار دے حوالے کر دیتے ہیں فیر تھانیدار نوں دس دیں گے کہ انہاں نو کتنے دن واسطے پروہتا بناتا ہے ہور کتنی خاطر داری کرنی ہے۔ تھانیداری چھترول دو چار ماہ میں انہاں نو بندے دا پتر بنا دے گی۔“ آخر کار منو پہلوان نے اس کے لیے سزا تجویز کر دی جس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ماجد علی نے البتہ کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ اگر اسے منو پہلوان کی تجویز کردہ سزا قبول نہیں تو پھر پہلی سزا پر عمل درآمد ہوگا۔ ظاہر ہے وہ کتوں سے اپنا گوشت چھوٹا کر کسی صورت قبول نہیں کر سکتا تھا چنانچہ چارو تا چار خاموش ہو گیا۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد اسے اور کالیا دونوں کو وہاں سے لے جایا گیا۔ کالیا کو اس کے کیے کی کیا سزا دی جانے والی تھی، اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ ان میں سے کسی نے اس بابت دریافت بھی نہیں کیا کہ یہ منو پہلوان کے اڈے کا اندرونی معاملہ تھا اور وہ اسے اپنے طور پر جس طرح چاہے نمٹاتے۔ ان دونوں کو وہاں سے لے جانے کے بعد زمین نے بھی اجازت طلب کر لی۔ وہ لوگ اڈے سے ہوٹل کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی اپنی جگہ بالکل خاموش تھے۔ یہاں تک کہ بہت بولنے والا نادان سا گولوبھی چپ تھا۔

☆☆☆

جولیت کی آنکھوں میں ویرانی کا راج تھا۔ چہرے کی رنگت میں زردی کھنڈی تھی۔ نیم وا خشک ہونٹوں پر نیچڑیاں سی جم گئی تھیں اور وہ گھر کی ایک دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھی حسرت و یاس کی تصویر نظر آتی تھی۔ محلے والے اپنی سی کوشش کر رہے تھے کہ اس کا غم بانٹ سکیں لیکن غم بانٹنے والے ہمدردوں کو بھی اندازہ تھا کہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ جوزف کی موت نے اسے بالکل تہی داماں کر دیا تھا اور ایسے محروم انسان کا دکھ جس انتہا پر ہوتا ہے، اس کے لیے ہمدردی و غلوں کے سارے لفظ مل کر بھی اثر نہیں دکھا پاتے۔ صبر و ہمت کی تلقین کرنے والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے

کہ دکھ کی اس انتہا پر صبر کرنا آسان نہیں ہوتا.... خاص طور پر ابتدائی مرحلے میں۔ ہاں وقت آگے سرکتا ہے تو قدرتی طور پر غم کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور قدرت کی طرف سے ہی ایسے افکلمات ہونے لگتے ہیں کہ آدمی دنیا کی گہما گہمی میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے لیکن یہ سب بتدریج ہی ہوتا ہے۔ جولیت بھی انہی ابتدائی مراحل کی سطح سے گزر رہی تھی۔

جوزف کو آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد اس کی ابدی آرام گاہ پہنچا دیا گیا تھا اور اس سارے عمل سے گزرتی جولیت جیسے ماں کی موت کے غم سے بھی دوبارہ گزر رہی تھی۔ ولد دار آغا کی قید میں ہونے کی وجہ سے اسے جو زمین کی آخری رسومات میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن جوزف کی آخری رسومات میں شامل جیسے وہ ان سارے مراحل سے بھی گزر رہی تھی جن میں پہلے شریک نہیں ہو سکی تھی۔ دہرے غم کے اس غلاب نے اسے نڈھال کر دیا تھا اور اس کی حالت دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر سکتی ہے۔ خواتین کوشش کرتی رہی تھیں کہ اسے تقویت پہنچانے کے لیے پانی یا کوئی مشروب پلا دیں لیکن وہ اپنے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے اتارنے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی اس کے سامنے کھانے کے برتن رکھے تھے جنہیں اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اطراف سے بے خبر وہ اپنے آپ میں گن گن تھی اور اس بات سے قطعی بے نیاز نظر آتی تھی کہ اس کے گرد کتنے غم بانٹنے والے موجود ہیں۔

”جولی اکھانا کھالے بیٹی۔ تو کب سے ایسے ہی بھوکی پچاسی بیٹھی ہے۔ اس طرح بھوکا رہنے سے کیا ملے گا۔ بھوکا پیاسا رہنے سے پر لوک سدھا جانے والے لوٹ کر تو نہیں آجاتے نا۔ چل میری بیٹی تھوڑا سا کھالے۔“ یہ للیتا موسیٰ تھی جو اس کے قریب بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی۔

”میرا کچھ کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا موسی۔“ اس نے بے بس سے انداز میں موسیٰ کو جواب دیا۔

”تیرے من کے حال کی مجھے خبر ہے بیٹی۔ میں پورے پچاس ورشو کی تھی جب میرا باپ پر لوک سدھا رہا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے سال بھر کھاٹ پر پڑے پیاری کافی تھی پھر بھی اس کے جانے پر میرے من کو چین نہیں آتا تھا تو بھلا تیرے لیے چند دنوں میں چٹ پٹ ہو جانے والے ماں باپ کی موت کا صدمہ سہنا کہاں آسان ہوگا.... لیکن جینا تو ہے نا اور جب تک جیون ہے،

اس پانی پیٹ کو بھی بھرتا ہے۔" لیلیٰ نے رقت آمیز لہجے میں اسے سمجھایا۔

"موسیٰ ٹھیک کہہ رہی ہیں جولیت۔ زندگی ہے تو زندگی کے لوازمات بھی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ ماں باپ اور شوہر سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے لیکن پھر بھی میں جی رہی ہوں نا۔ اللہ نے بیٹے کی صورت جینے کا ایک سبب بنا دیا ہے۔ وہ بہت رحیم و بخور ہے۔ اپنے بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے لیکن ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے کارخانہ قدرت میں کب کیا اور کیوں ہوتا ہے، ہم کم علم انسان اس کا سبب نہیں جانتے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی بے سبب نہیں ہوتا۔ یہ کائنات اس نے بنائی ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کیسے چلانا ہے۔ ہم تو اس کے حکم پر سر جھکانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔"

یہ ٹریا بانو بھی جو ذرا مختلف انداز میں اس کی غم گساری کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ مجھ دادا سے رہن کے ذریعے خلاصی کے بعد وہ خاصی پرسکون ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ محلے میں اس کا میل ملاپ بھی شروع ہو گیا تھا اسی لیے آج وہ جوزف کی موت پر جولیت کے گھر میں بھی موجود تھی۔ ٹریا بانو کے بعد محلے کی دوسری عورتیں بھی اپنے اپنے طور پر اسے سمجھانے اور دلاسا دینے کا فریضہ انجام دینے لگیں۔ ان سب کے عیم اصرار پر اس نے روٹی کا ایک ٹوالہ سالن میں ڈبو کر اپنے منہ میں ڈالا۔ سالن گیا تھا اس پر اس نے پہلے ہی توجہ نہیں دی تھی۔ اب منہ میں ٹوالہ ڈالنے کے بعد بھی اسے کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوا۔ وہ اُٹے ولی سے منہ میں ڈالے ٹوالے کو چبانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ تو گویا زبر کا ٹوالہ تھا جو کسی طور اس سے چبایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ کسی طرح زبردستی اس ٹوالے کو اپنے حلق سے نیچے اتار لے لیکن اس کوشش میں بھی اسے ناکامی ہوئی اور نتیجہ ایک زوردار ابکائی کی صورت میں نکلا۔ ابکائی کے ساتھ ہی اس کے منہ میں موجود ٹوالہ بھی باہر آ گیا اور وہ بے دم سی ہو کر گہری گہری سانس لینے لگی۔

ٹریا بانو نے جلدی سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا، ایک عورت اس کی پشت سہلانے لگی اور یوں بڑی دقت سے اس نے پانی کے دو گھونٹ حلق سے نیچے اتارے۔ پانی پلانے کے بعد ان لوگوں نے اسے وہیں لٹا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے نڈھال سے وجود کو نیند نے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر مدہوشی جیسی اس نیند کی آغوش میں رہی لیکن گھر میں موجود

رش کے چھٹ جانے سے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے اس لیے بیشر خواتین واپس جا چکی ہیں۔ اس وقت وہاں لیلیٰ موسیٰ اور دو تین دوسری عمر رسیدہ خواتین ہی موجود تھیں۔ اس نے موسیٰ کی ہدایت پر غسل خانے کا رخ کیا۔ نہانے سے اس کی پوجھل طبیعت اور ٹوٹے جسم پر اچھا اثر پڑا۔ غسل خانے سے نکل کر وہ واپس کمرے میں آئی تو ٹریا بانو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں جست کا ایک توشے دان بھی رکھا تھا۔ سلام دعا کرنے کے بعد اس نے جولیت سے اس کا حال دریافت کیا۔

"پہلے سے بہتر ہوں۔" اس نے چمکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔

"اللہ تعالیٰ مزید بہتری عطا کرے گا۔ اب ہمت کر کے تھوڑا سا کچھ کھا لو۔ میں خاص طور پر تمہارے لیے دلایا بنا کر لائی ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تمہارے لیے روٹی چبا کر کھانا مشکل ہو رہا ہے، روٹی کی نسبت تم یہ دلایا آسانی سے کھا لو گی۔" نرم لہجے میں کہتے ہوئے ٹریا بانو نے توشے دان کھولا اور ایک پلیٹ میں اس کے لیے دلایا نکالا۔ دلے کی خوشبو اشتہا انگیز تھی اور دیکھنے میں بھی خوش ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔

"لو بیٹا تصور! اپنے ہاتھ سے اپنی باجی جان کو یہ دلایا کھلاؤ۔" دلایا پلیٹ میں نکالنے کے بعد ٹریا بانو نے اپنے چھ سالہ بیٹے کو مخاطب کیا تو بچہ کچھ شرماتا اور جھجکتا ہوا ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماں جیسے ہی نقوش اور رنگت رکھنے والا وہ بچہ خاصا من موہتا تھا۔ جولیت کے دل کو بھی اس نے چھو لیا چنانچہ جب اس نے کچھ بھر کر دلایا اس کی طرف بڑھایا تو وہ انکار نہیں کر سکی اور فوراً ہی منہ کھول دیا۔ تصور اسے ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا چھچھلا تا چلا گیا۔ دلایا بہت ذائقے دار تھا اور سب سے بڑھ کر تصور کے معصومانہ حسن دادا کا کمال تھا کہ جولیت نے کافی حد تک پلیٹ میں نکالا گیا دلایا کھالیا۔

"ارے بچے تو نے تو چھکار دکھا دیا۔" جولیت کھانے کے بعد پانی پی رہی تھی جب لیلیٰ موسیٰ نے تصور کی بلائیں لیتے ہوئے خوشی سے کہا۔

"بچے تو ہوتے ہی جادو گر ہیں۔ تو بھی اب جلدی سے بیاہ کر لینا جولی۔ دو تین بچے گود میں آ جائیں گے تو سارے دکھ بھاگ جائیں گے۔ ویسے بھی اب تو بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ تیرا بیاہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ کسی دن بلا اس دفتر والے لڑکے کو۔ ہم محلے والے اس سے بیاہ کی بات کریں

کے۔ ”وہاں موجود ایک دوسری عورت گفتگو میں شامل ہوئی اور ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا جس نے جولیٹ کے دل کو بڑی زور کاچ کا لگایا۔ تکلیف ایسی تھی کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔

”ابھی ان باتوں کو جانے دے کو شلیا۔ یہ سنبل جائے تو پھر دیکھا جائے گا۔“ لیلیٹا موسیٰ سے اس کی کیفیت چھپی نہیں رہی اور اس نے عورت کو ٹوک دیا۔ عورتوں کی فطرت کے مطابق وہ کھوجی اور باتونی تو ضرور تھی لیکن پرانی محلے داری کے باعث جولیٹ سے محبت بھی کرتی تھی اس لیے اس وقت بھی اس کا تکلیف میں مبتلا ہونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔

”ہاں ہاں۔ یہ سنبل جائے تب ہی بیاہ کی بات کر س کے۔“ کو شلیا نامی عورت نے بھی فوراً ہی اس کی تائید کی۔ اس کے بعد وہ سب بدھرا دھر کی باتیں کرنے لگیں۔ جولیٹ عدم توجہی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ سب سے پہلے ثریا بانو وہاں سے رخصت ہوئی پھر ایک ایک کر کے سب اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ واحد لیلیٹا موسیٰ تھی جو رکی رہی۔ وہ رات اس کے ساتھ ہی رکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جولیٹ کو بھی اس کا دم غیبت معلوم ہوا کیونکہ آج گھر کی تنہائی ایسی تھی جو کاٹ کھانے کو دوڑتی محسوس ہو رہی تھی مالا تکہ اس سے قبل وہ جوزف کے اسپتال میں داخل ہونے کے وقت بھی اکیلی گھر میں رک چکی تھی لیکن اس وقت یہ عالم نہیں تھا۔ شاید اس لیے کہ اس وقت اس گھر کے درو دیوار کو یہ امید تھی کہ ان کا مالک لوٹ کر یہاں واپس آئے گا لیکن اب تو درو دیوار بھی باپوں ہو کر حسرت و پاپوں کی تصویر بن گئے تھے اور جوزف کی موت پر بین کرتے محسوس ہو رہے تھے۔

موسیٰ سب کے جانے کے بعد کچھ دیر تو اس کے پاس بیٹھی تسلی دلا سے کی باتیں کرتی رہی لیکن آہستہ آہستہ اس پر سستی چھانے لگی۔ اس کے کئی گھنٹے بے آرا می میں گزر چکے تھے اور اب جسم آرام مانگ رہا تھا چنانچہ آخر کار وہ ہمت ہار کر سوئی گئی۔ جولیٹ کی آنکھوں سے البتہ نیند دور تھی۔ اس کا ذہن مسلسل اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حادثات میں الجھا ہوا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی تیزی سے اور اتنے ڈھیر سارے حادثات کیوں پیش آ گئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کی تو بات تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک سیدھی سادی اور خوش باش بیڑھتی گزار رہی تھی۔ والدین کی طرف سے اسے تھوڑے

میں بہت سا خوش رہنے کی فطرت ورثے میں ملی تھی چنانچہ وہ اسی میں خوش تھی کہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور برسر روزگار لڑکی ہے۔ عارف کی محبت بھی اس کے لیے ایک خوشی تھی اور وہ اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھا کرتی تھی لیکن مختصر عرصے میں ہی سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا۔ ولد دار آغا کے استردیو کے لیے جانا اس کے لیے حذاب ہو گیا تھا۔ آغانے پہلے اسے اپنی دولت اور نو ازشتات کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور پھر اپنے ان خزیوں کو ناکام جانا دیکھ کر بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اغوا کر دیا اور برباد کر ڈالا۔ اس کے اغوا کے حادثے نے ایک طرف جوزفین کی جان لے لی تو دوسری طرف عارف محبت کی آزمائش میں ناکام ہو کر اس کی زندگی سے نکل گیا۔۔۔ جوزفین کی موت جوزف کے لیے ایک ناقابل برداشت سانحہ بن گئی اور وہ ایسا بستر سے لگا کہ پھر موت کی آغوش میں جا کر ہی سکون پایا۔ اتنے ڈھیر سارے نقصانات سہنے کے بعد وہ ابھی تک اپنے مجرم سے انتقام لینے میں ناکام تھی۔ جانے قدرت کو کیا منظور تھا کہ اس کی تمام تر کوشش کے باوجود آغا اس کے نکلنے پر آنے سے رہ جاتا تھا۔ اس بار بھی اس نے کابل ارادہ کر لیا تھا کہ آغا کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لے گی۔ جلسے میں شرکت اور وہاں آغا کو نشانہ بنانے کی اس نے اپنے ذہن میں کھل منسوب بندی بھی کر لی تھی لیکن اسپتال سے آنے والے فون نے سب درہم برہم کر ڈالا۔ اسپتال پہنچ کر وہ ایسی ابھی کہ اسے آغا سے بدلہ لینے والی بات یاد بھی نہ آ سکی۔ بھلی کا چھالا بنا کر پرورش کرنے والے باپ کی موت کے صدے نے اسے نڈھال کر ڈالا اور بے پناہ شدت رکھنے والا جذبہ انتقام بھی اس صدے کے زیر اثر قلیل عرصے کے لیے ماند پڑ گیا لیکن اب جبکہ وہ ابتدائی صدے کے مراحل سے گزر چکی تھی، ایک بار پھر آغا کے لیے نفرت کا الاد دیکھ گیا تھا اور انتقام کی خواہش اور بھی شدت سے ابھر رہی تھی۔ اس خواہش میں جتنی سلگتی وہ نیند سے کوسوں دور تھی اور پہاڑ جیسی رات گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر بستر پر کر دیش بدلنے کے بعد بالآخر اس نے تھک ہار کر بستر چھوڑ دیا۔ اس کی کیفیت سے بے خبر لیلیٹا موسیٰ گہری نیند سو رہی تھی اور کمرے کی خاموشی میں اس کے ہلکے خراٹوں کی آواز ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔

موسیٰ کو سوتا ہوا چھوڑ کر وہ بے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ وہ دونوں جس کمرے میں سونے کے لیے بیٹھی تھیں، وہ جوزف اور جوزفین کا کمرہ تھا۔ سونے کے لیے اس

کمرے کا انتخاب اس نے خود ہی کیا تھا۔ اس انتخاب کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہاں دو بستر موجود تھے چنانچہ وہ اور موسیٰ آرام سے سو سکتے تھے۔ دوسری وجہ جو اس نے موسیٰ کو نہیں بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں ان کی خوشبوؤں کے حصار میں سونا چاہتی تھی لیکن یہ خواہش اسے مہنگی پڑی اور دیگر عوامل کے علاوہ یا دوں کی یلغار نے بھی اسے اتنا بے چین کیا کہ ایک بل کے لیے بھی آنکھ نہ لگ سکی۔

آدھی سے زیادہ رات آنکھوں میں کاشنے کے بعد وہ اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کا بہت سلیقے اور ترتیب سے رہنے والا کمرہ اس وقت اجڑی کا شکار تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا اس لیے تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں میں سے کئی عورتیں اس کے کمرے میں بھی بیٹھی تھیں۔ چند عورتوں کے ساتھ ان کے بچے بھی موجود تھے اس لیے کمرے کی حالت بگڑ کر رہ گئی تھی۔ اس نے وقت گزارنے کے لیے چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھنا شروع کر دیا۔ سب چیزیں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئیں تو وہ بستر کی چادر کی طرف متوجہ ہوئی۔ چادر مٹی ہو رہی تھی۔ اس نے مٹی چادر بسو سے اتاری اور دھلی ہوئی چادر نکالنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کھول کر اس نے اس میں سے چادر نکالی تو اس تقریبا کس پر بھی نظر پڑ گئی جو جوزف نے اس کے حوالے کیا تھا۔ بے ساختہ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر باکس باہر نکال لیا۔ چاندی کے اس چمکتے ہوئے باکس پر اس کی ماں کے ہاتھوں کا نا دیدہ لمس موجود تھا۔ اس نے دفور شدت سے باکس کو چوما تو ایسا لگا کہ ماں کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ اس نے بڑی محبت اور احتیاط سے باکس کو اپنی گھنٹی کی میز پر رکھ دیا اور پہلے بستر کی چادر تہہ لے کر لے لی۔

چادر تہہ لے کرنے کے بعد وہ باکس ہاتھ میں لے کر بستر پر ہی آ بیٹھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ جوزف نے اس باکس کو اس کی ماں کی امانت قرار دیتے ہوئے اس کے حوالے کیا تھا اور دو بارہ مرنے سے پہلے بھی بطور خاص اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی ماں کی ڈائری ضرور پڑھ لے۔ جوزف نے ہی اسے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈائری اس باکس میں موجود ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد وہ اس دنیا میں تنہا نہیں رہے گی، یعنی کوئی راز تھا جو اس ڈائری میں چھپا ہوا تھا۔ راز کو جاننے کے فطری سے تجسس کے تحت اس نے چاندی کے اس باکس کو کھولا تو اس کی انھیوں میں کچکا پھٹ سی تھی۔ باکس کو کھولتے ہی اس کے ہاتھوں سے

ایک کیف آگئیں سی خوشبو نکلرائی، اس کے بعد اس کی نظروں نے اس لمبی اور چھٹی ڈبیا کو دیکھا جو یقیناً صندوق کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کی جس شاخہ سے نکلنے والی خوشبو صندوق ہی کی تھی۔ اس نے ڈبیا کو باہر نکال کر ذرا قریب سے غور سے دیکھا۔ اس پر بہت خوب صورت نقش و نگار کندہ تھے جو یقیناً کسی بہت ماہر فنکار کے فن کا منہ یوں ثبوت تھے۔ فن کے اس نمونے سے متاثر ہوتے ہوئے اس نے ڈبیا کو کھولا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ڈبیا کے اندرونی حصے میں سرخ مٹیل کی تہ بھی ہوئی تھی اور اس تہ کے اوپر سونے کی مٹیل کھائی ہوئی سی چمکتی ہوئی زنجیر میں ایک ایسا لاکٹ پر دیا ہوا تھا جس کے درمیان میں موجود سبز رنگ کا چوکور جگمگاتا ہوا پتھر تھمے تھمے ست رنگی شعاں منعکس کرتے شفاف پتھروں سے گھرا ہوا تھا۔ جو لیٹ دم بخود ہی اس لاکٹ کو دیکھتی رہی۔ اس کا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا اور اس نے بھی اپنی ماں کو تھی زیورات پہننے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ارد گرد بسنے والی دیگر خواتین کے پاس بھی سونے کا ایک آدھ ہی زیور موجود تھا، ایسے میں ہیرے جو اہرات کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ ہاں یونیورسٹی میں البتہ شاہ اور اس کے طبقے کی چند لڑکیاں خاص مواقع پر ایسے کانوں کے ٹائیس ہلاکت یا لوگ پہن آتی تھیں جن میں ہیرے بڑے ہوتے تھے چنانچہ وہ کسی حد تک ہیرے کی جگمگاہٹ اور شان سے واقف تھی لیکن اس وقت اس کے سامنے جو بڑا ڈالاکت رکھا تھا اس کی شان تو سب سے جدا اور نرالی تھی۔ شاہ اور اس کے طبقے کی لڑکیوں کے پاس دیکھے گئے ہیرے بڑے زیورات سے اس لاکٹ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو زیورات کی اس قسم میں سے معلوم ہوتا تھا جنہیں نوادرات میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے اخبارات میں چھپنے والی ہندوستان کے شاہی خاندان کے نادر زیورات اور ملکہ برطانیہ کے زیورات کی تصاویر دیکھ رکھی تھیں اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود لاکٹ ان زیورات کا ہم پلہ تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی ماں کے پاس اتنے قیمتی زیور کی موجودگی کا کیا سبب تھا۔ زیور تو در کی بات، اس نے جو زمین کو کسی بہت زیادہ قیمتی لباس بھی پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میانہ روی سے زندگی گزارنے والے اس کے ماں باپ دونوں ہی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ جو لیٹ پر خرچ کرے۔ اپنی اس خواہش کے زیر اثر ہی انہوں نے اسے اچھی تعلیم بھی دلوائی تھی۔ جوزف نے جس وقت یہ جیولری باکس اس کے حوالے کیا تھا اس نے یہی سوچا

پائی تھی۔ اس لیے اس بات کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جو زمین کو کسی امیر زادے نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر یہ لاکٹ تحفے میں دیا ہو۔ سارے امکانات کو رد کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ذہریلا امکان کلبلایا کہ ممکن ہے اس کے والدین میں سے کسی نے اس لاکٹ کو کہیں سے چرایا ہو لیکن اس صورت میں انہیں لاکٹ فروخت کر دینا چاہیے تھا نہ کہ ساری زندگی سفید پوشی کا بھرم رکھنے میں گزار دینی چاہیے تھی۔ کیا انہوں نے یہ لاکٹ اس لیے بچا کر رکھا تھا کہ بعد میں جو لیت اس کے سہارے ایک پختہ پیش زندگی گزار سکے؟

جوں جوں دوسو جتنی جا رہی تھی اس کا ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ خود اس کو ابھن سے نکالنے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ اس ڈائری کو پڑھ ڈالتی چنانچہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ڈائری کھول کر اس کا پہلا صفحہ نکالا۔ یہ بہت زیادہ پرانی ڈائری نہیں تھی اور اس پر چند سال قبل کا سن ہی درج تھا۔ ڈائری کے چلنے سے پہلے پر تیار روشنائی میں درج جو زمین کی موتوں جیسی تحریر جھلکا رہی تھی۔ اس نے تحریر پڑھنی شروع کی۔ جو زمین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا۔

”بیاری بیٹی جوئی اتم مجھے کتنی عزیز ہو اس بات کا اندازہ شاید اسی وقت لگا سکو جب خود ماں بنو کیونکہ اولاد ماں کے وجود ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے اور اپنی ذات سے محبت میں نظرت ہے۔ تمہیں اپنے وجود کا سب سے قیمتی حصہ تسلیم کرتے ہوئے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ تم سے وہ سب کچھ شیر کر دوں جو میری زندگی کا حصہ رہا لیکن تم اس سے لاطم رہیں حالانکہ میری زندگی سے تمہاری زندگی اس طرح جڑی ہے کہ تم ہر سچائی جاننے کا پورا پورا حق رکھتی ہو۔ میں تم سے پوشیدہ اپنی زندگی کے ابواب کو تمہاری امانت جان کر اس ڈائری میں تحریر کر رہی ہوں لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ڈائری تمہارے حوالے اس وقت کی جائے گی جب تمہاری زندگی میں میرا اور جوزف کا کردار ختم ہو جائے گا۔ موت اور زندگی کے بارے میں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کب تک چپے گا اور کسے پہلے موت دیوچ لے گی البتہ میں نے جوزف کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو باقی رہ گیا، وہ اپنا آخری وقت قریب دیکھ کر تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دے گا۔ ہماری اچانک یا حادثاتی موت کی صورت میں بھی تمہیں گھر کے سامان میں سے یہ جیولری باکس مل ہی جائے گا اس لیے میں مطمئن ہوں

تھا کہ اس سے بے پناہ محبت کرنے والی ماں نے جوڑ توڑ کر کے شاید اس کے لیے کچھ زیورات بنوائے ہیں اسی لیے اس نے فوری طور پر اس جیولری باکس کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جس میں موجود تھی زنجیر میں پڑیا ہوا یہ بیش قیمت لاکٹ معما بن گیا تھا۔ معصے کے حل کے لیے اسے اس ڈائری کا خیال آیا جسے پڑھنے کی جوزف نے اسے بطور خاص تاکید کی تھی۔

مستطیل شکل کے جیولری باکس کے اوپری حصے میں تو صرف اس لاکٹ اور زنجیر کی ڈبیا ہی رکھی تھی۔ اس نے جیولری باکس کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اس کے اوپری خانے کو کھسکا کر پھللا خانہ کھولا جاسکتا ہے۔ ڈائری کی جھجھو میں اس نے پھلے خانے کو کھولا۔ حسب توقع وہاں ایک ڈائری موجود تھی۔ چھوٹے سائز کی سرخ جھلیں جلد والی اس ڈائری کو باکس سے باہر نکالتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کی واضح لرزش کو محسوس کیا۔ ایک انجان سا احساس تھا جو اس کے دل کو بری طرح دھڑکا رہا تھا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس پر کچھ ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جو براہ راست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ زندگی کچھ عرصے سے یوں بھی اس کے لیے سلسلہ آزمائش بن چکی تھی اس لیے اسے خدشہ تھا کہ اس ڈائری کو پڑھنے سے آزمائشوں کا یہ سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا لیکن اس خدشے کے تحت وہ ڈائری پڑھنے سے باز بھی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ جوزف نے کہا تھا کہ ممکن ہے اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد وہ جہانہ رہے۔ وہ جہانگی کی اذیت سے ٹکنا چاہتی تھی اس لیے بھی یہ ڈائری پڑھنا ضروری تھا اور پھر جیولری باکس میں سے نکلنے والے بیش قیمت لاکٹ کا معما بھی تو حل کرنا تھا کہ یہ لاکٹ اس کی ماں کی تحویل میں آیا تو کیسے؟ کیونکہ جہاں تک جوزف اور جو زمین نے اسے اپنے پس منظر سے آگاہ کیا تھا، وہاں تو غربت والٹاس کے ڈیرے تھے اور جہاں اتنی غربت ہو وہاں ایسی قیمتی چیزیں خریدنا تو درکنار تحفے میں ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ قسمت سے اگر غریب آدمی کے کسی پیسے والے سے روابط قائم بھی ہو جائیں تو دینے والا سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر ہی تھک دیتا ہے اور یہ لاکٹ تو اتنا قیمتی اور نادر لگ رہا تھا کہ دینے والا اپنے کسی ہم پلہ فرد کو بھی اسی صورت دے سکتا تھا کہ کوئی خاص مقصد یا خصوصی جذباتی وابستگی کا معاملہ ہو۔

اسے معلوم تھا کہ اس کے والدین بچپن کے ساتھی اور دوست تھے اور ان کی شادی باہمی رضامندی سے انجام

کہ تمہیں تمہاری امانت پہنچ جائے گی۔ اپنی داستان حیات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تم سے اتنی درخواست ضرور کروں گی کہ اس ڈائری کو جو لیت نہیں جو زمین بن کر پڑھنا تاکہ اصل روح تک اتر سکو اور اپنی ماں کو مجرم نہ سمجھو۔ اگر پھر بھی تمہیں لگے کہ میں قصور وار تھی تو میرے پاس تم سے معذرت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ جو کچھ بیت چکا، اسے بدل نہیں جاسکتا تھا البتہ میں نے اپنی سی پوری کوشش ضرور کی کہ زندگی میں تمہارے لیے جو بہترین کر سکتی ہوں، ضرور کروں اور اس کے لیے میں جوزف کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے زندگی کے ہر امتحان میں میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھ سے محبت کے دعوے کو اس طرح سے نبھایا کہ میرا رداں رداں اس کی محبت سے ڈوب گیا ہے اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر جوزف مجھے اندھی کھائی میں کودنے کا حکم بھی دے تو میں بلا جھجک کود جاؤں گی کہ مجھے اس پر اعتبار ہے کہ وہ کبھی میرے ساتھ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا اور اس کے حکم پر اندھی کھائی میں کود کر بھی مجھے کسی گل گزار سے ہی واسطہ پڑے گا۔“

جوزفین کے الفاظ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں بیگ لگیں۔ کتنی مثالی محبت تھی اس کے ماں باپ میں۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے اور اتنی شدت سے ایک دوسرے کو چاہتا تھا کہ زندگی کا پل پل ساتھ گزارنے کے بعد بھی اس شدت میں کمی نہیں آئی تھی جب ہی تو جوزف اپنی جوزفین کی چند دن کی جدائی بھی نہ سہہ سکا تھا اور اس کے پیچھے ہی اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔

”میں نے تمہیں لمبی تمہید میں الجھا لیا۔ بہتر ہوگا کہ اب میں یہ تمہید بند کر دوں اور وہ لکھوں جسے تم تک پہنچانا ضروری ہے۔ بہت سی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ۔ تمہاری ماں جو زمین جوزف۔“

بھئی آنکھوں کے ساتھ اس نے اس تمہیدی مضمون کی باقی رہ جانے والی آخری چند سطریں پڑھیں اور صفحہ پلٹ کر ڈائری کا وہ حصہ کھولا جس میں جوزفین نے اس کے لیے اپنی داستان حیات رقم کی تھی۔ اس صفحے پر لکھا پہلا لفظ تھا ”جوزف۔“ وہ جوزف کے نام سے آگے لکھے الفاظ کو پڑھ نہیں پائی تھی کہ لیلیا موسیٰ کی آواز پر چوکی۔

”اے جولی..... تو کب آئی؟ میں پہلے تیرے کو رسوئی میں دیکھنے گئی تھی، ادھر نہیں ملی تو یہاں آئی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اتنی صبح کیا لکھنے پڑھنے بیٹھ گئی ہے؟“

موسیٰ کمرے کے دروازے پر کھڑی اس سے سوال جواب کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ڈائری کو دیکھ کر یقیناً وہ یہی سمجھی تھی کہ جو لیت لکھنے پڑھنے کا کوئی کام کر رہی ہے۔ جو لیت نے غیر محسوس طور پر بستر پر پڑی چادر جو لری باکس پر رکھ کر اسے چھپا دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی موسیٰ کی نظر اس جو لری باکس پر نہیں پڑی ہے اور یہ اس کے حساب سے اچھا تھا۔ اگر موسیٰ کی نظر پڑ جاتی تو وہ اپنی کھوجی فطرت کی وجہ سے فوراً اس جو لری باکس کا جائزہ لینے کے لیے نکلتی اور اس صورت میں اس کی نظروں میں وہ ڈبیا بھی آ جاتی جس میں لاکٹ اور ڈبیر موجود تھے۔ اتنی غیر معمولی شے نظر میں آ جانے پر موسیٰ کے لاتنا ہی سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور ابھی تو اسے خود ہی کچھ علم نہیں تھا تو موسیٰ کے سوالوں کا کیا خاک جواب دیتی اور ضروری تو نہیں تھا کہ علم ہونے کی صورت میں بھی وہ موسیٰ کو کچھ بتا پاتی۔ لاکٹ کا غیر معمولی پن اسے کسی غیر معمولی انکشاف کا اشارہ دے رہا تھا۔

”ایسے بیٹھی کیا ٹکر ٹکر میری صورت تک رہی ہے۔ چل چھوڑ یہ سب..... ابھی شارڈانا شتالے کر آتی ہوگی اور تو نے تو لگتا ہے اٹھ کر منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا ہے۔ جانے کب سے اٹھ کر ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے۔“ اسے خاموش پا کر موسیٰ بولتی ہی چلی گئی۔

”تم چلو وہی میں ابھی آتی ہوں۔“ بالآخر اس نے لب کھول کر موسیٰ کی تسلی کے لیے جواب دے ہی دیا۔

”میرے ساتھ ہی چل۔ ابھی آتی ہوں بول کر تو گھنٹا لگا دے گی۔“ موسیٰ کو اس کی بات پر گویا اعتبار نہیں تھا۔

”نہیں لگاؤں گی گھنٹا بس دو منٹ لگیں گے۔“ وہ اتنی اہم چیزوں کو یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے نہیں اٹھنا چاہتی تھی اس لیے موسیٰ کو وہاں سے ٹالنے کی کوشش کی۔ اسی وقت قدرت کی طرف سے مدد کے طور پر بھردنی دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔

”لگتا ہے شارڈانا شتالے کر آ گئی ہے۔“ شارڈا موسیٰ کی بہو کا نام تھا۔ دروازے پر اس کی موجودگی کا قیاس کرتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ جو لیت نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے جو لری باکس بند کر کے اسے الماری میں رکھ دیا۔ ڈائری کو اس نے دوبارہ باکس میں رکھنے سے گریز کیا تھا۔ باکس کو بار بار نکالنا مناسب نہیں تھا اور ڈائری کے مندرجات پڑھنے کے لیے اسے کئی بار نکالے جانے کی ضرورت تھی تاہم اس نے ڈائری بھی

رکھے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کے پُرسکون تاثرات بتا رہے تھے کہ اس چکر دار راستے پر سفر کرتے ہوئے اسے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس کے مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کا ایک اور ثبوت تھا۔

”ڈرائیور بھیا! تم اس گھمن پھیری راستے پر موٹر کیسے چلا رہے ہو۔ تمہارا سر نہیں چکرا رہا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سر چکرائے اور تم موٹر گھمن دے مارو۔“ آنکھیں بند کیے دعاؤں کا ورد کرتے گولو کو ایک نئی فکر دامن گیر ہوئی اور اس نے ڈرائیور کو مخاطب کر کے اس سے دریافت کیا۔ اس سوال کو کرنے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں ڈرا دیں اور اس لیے کھولی تھیں اور یہ اتفاق تھا کہ یہیں اسی وقت گاڑی ایک خطرناک موڑ سے گزر رہی تھی۔ مارے ذہشت کے گولو کے

حفاظت سے الماری کے اندر ہی رکھی اور الماری کے پت بند کر کے اسے تالا لگا دیا۔ جیولری باکس میں موجود پیش بہا شے کی موجودگی کے انکشاف کے بعد اس قسم کے حفاظتی اقدام ضروری تھے۔

☆☆☆

بالآخر وہ چندی گڑھ چھوڑ کر شملہ کے لیے روانہ ہونے میں کامیاب ہوئی گئی تھی۔ بھائیہ سیٹھ کی بڑی سی گاڑی اس وقت چھری گڑھ سے شملہ جانے والے راستے پر گاڑن تھی۔ بل کھاتا یہ پہاڑی راستہ اچھا خاصا دشوار گزار تھا لیکن بڑی گاڑی کی آرام دہ نشستوں پر انہیں نسبتاً کم تکلیف کا سامنا تھا۔

”اوہ گاڑا! کتنا ڈنڈن رہتا ہے۔ ہمارا تو سر چکرانے لگا۔“ کیتھرائن جس نے راستے کی پیچیدگی کے سبب بیٹھنے ہی فاروق کو سکون آور دوا کھلا کر راستے میں سوتے رہنے کی ہدایت کی تھی، خود کھڑکی سے باہر کے نظارے کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ راستہ خوب صورت تھا اور اس خوب صورتی کے سحر میں ہی گرفتار وہ بھول گئی تھی کہ اس طرح کا پیچیدہ چکر دار راستہ عموماً خود پہ سے گزرنے والوں کو بھی چکرا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نزاکت کا خیال اسے اس وقت آیا جب راستے کی خوب صورتی پر اس کی توجیہ کی حاوی ہو کر اس کے اعصاب پر اثر اعماز ہونے لگی۔ اس وقت اس نے ایک جھرمجری سی لے کر اپنا رخ بدلا اور آہستہ سے بڑبڑائی۔

”تمہارا تو یا ہر دیکھنے سے سر چکرا رہا ہے بسٹر۔ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے پھر بھی گول ٹوٹی ٹھیم نہا ہے۔“ آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھتے گولو نے کچھ پھر کے لیے اپنے ورد کا سلسلہ روکا اور بڑے دردناک نتیجے میں اس کی بات پر تہرہ کیا۔ اس کی بات سن کر کیتھرائن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چند دن کے ساتھ میں اسے پتا چل گیا تھا کہ گولو نہایت سادہ مزاج اور مصوم لڑکا ہے اور اپنی اس سادگی و مصومیت کی وجہ سے ہی رہن اور فاروق کا چہیتا بنا ہوا ہے۔ کیتھرائن نے دیکھا تھا کہ گولو کے ہم عمر لڑکے کیسے ہر وقت خود کو کھٹک مند اور بہادر ظاہر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اس نے نہایت مصومیت سے اعتراف کر لیا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ گولو کے برابر میں ناروق موجود تھا۔ اس کا سر سیٹ کی پشت گاہ سے لگا ہوا تھا اور سامانوں کے تلاطم سے واضح تھا کہ وہ گہری نیند میں رہا ہے۔ رہن البتہ نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ راستے کو بھی اچھی طرح نظر میں

کراچی

ماہنامہ

میں، قاری بہنوں کی دلچسپی کے لیے ایک نیا اور منفرد سلسلہ ”باتیں بہار و خزاں کی...“ پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہر قاری بہن دے گئے سوالوں کے جوابات دے کر شمولیت اختیار کر سکتی ہے۔ آپ کے خیالات و احساسات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔

ماہنامہ پاکیزہ
اپنے ہا کر سے یک کر وائیں

توفر شدہ کوچ کر گئے اور اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ بھی چہرے پر اس طرح رکھ لیے جیسے کسی ناویدہ بلا سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی اس کیفیت پر ڈرائیور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تاہم وہ سنجیدگی سے بولا۔

”اچھا تو آئے دن اس راستے پر آنا جانا لگا رہتا ہے اس لیے اپنے لیے یہ راستہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ لوگوں کے لیے بمبئی کی سڑکیں۔“

”بمبئی کی سڑکوں پر سفر کرنا کون سا آسان ہے۔ جگہ جگہ سے اکٹھری سڑکوں پر فٹ فٹ بھر موٹرا چھلتی ہے۔ بس میں بیٹھ جاؤ تو سالہا اور بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ بس کو جیٹ جہاز سمجھ کر سڑک پر چلاتے ہیں کم بخت ڈرائیور۔ این تو ادھر بھی کم ہی باہر نکلتا ہے۔ ابھی بھی اپنے فاروق بھیا کی خاطر اتنی دور آ گیا ہے۔ اپنے کو خبر ہے کہ اپنے جیسا کوئی فاروق بھیا کا دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے۔“ گولو نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی ڈرائیور کی بات کے جواب میں اپنا موقف پیش کیا تو کیتھرائن کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ دوڑ گئی۔

بمبئی کی سڑکوں اور بسوں کے بارے میں گولو کے تجربے سے اسے زیادہ اختلاف نہیں تھا۔ رہی فاروق کی دیکھ بھال والی بات تو اسے یقین تھا کہ وہ یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتی ہے لیکن ساتھ ہی اسے گولو کی فاروق سے بے تحاشا محبت کا بھی اندازہ ہو چکا تھا اس لیے وہ اسے اس کے اس خیال میں بھی حق بجانب سمجھتی تھی کہ اس کی طرح کوئی فاروق کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا کیونکہ اس ور بے محبت کرنے والے بندے کا دل واقعی کسی دوسرے سے منظم نہیں ہو جاتا۔ اس نے دیکھا تھا کہ جب کھٹکھٹا کا برس پھیننے والے اچھے کا تعاقب کرتے ہوئے فاروق ٹھوکر کھا کر گرا تھا تو گولو کی اپنی حالت کتنی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ بالکل نئے پیموں کی طرح وحازیں مار مار کر رونے لگا تھا اور اس کے اسپتال میں قیام کے عرصے میں بھی روزانہ نماز پڑھ کر بڑی باقاعدگی سے اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگا کرتا تھا۔ ایسا شخص اگر اپنے سوا کسی دوسرے کی خدمت پر یقین نہیں رکھتا تھا تو اس سے بحث نہیں کی جاسکتی تھی۔ یوں بھی اس کی چند یوم کی با محاورہ خدمت گولو کی بے لوث محبت کا کسی طور مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، سو وہ کچھ بھی کہے بغیر ایک بار پھر بیرونی مناظر کی طرف متوجہ ہو گئی۔

راستے کی خطرناکی کے ساتھ جو حسن بڑا ہوا تھا وہ زیادہ دیر اس سے نظر نہیں چرا سکتی تھی۔ صنوبر، چچ اور

دیودار کے درختوں کے واسن میں ڈھلوان رخ پر بنے رنگین چھتوں والے مکانات کو چلتی گاڑی سے دیکھنا بہت خوش کن تجربہ تھا۔ سبزے کے بیچ موجود یہ لال، ہرے اور نیلے رنگوں کی چھتیں الگ ہی چھب دکھا رہی تھیں۔ رنگوں کی اس برسات سے آنکھ پھولی کرتے یا آخر راستہ کٹ ہی گیا اور وہ سات پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تعمیر شدہ، ہاٹل پر دیش کے دارالحکومت شملہ پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے ترچھی سرخ چھتوں والی بھائیہ سیٹھ کی رہائش گاہ کے سامنے گاڑی روکی تو ان سب کا دل خوش ہو گیا۔ رہائش گاہ کا بیرونی نظارہ ہی گواہی دے رہا تھا کہ اندر سے بھی عمارت بہت خوب صورت ہوگی۔ دور تک پھیلے سبزے اور درختوں کے جھنڈ میں گھری اس رہائش گاہ کو دیکھ کر بڑی سی ہیر بہوٹی کا خیال آتا تھا۔ فاروق نے بھی اس جگہ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اپنی قلبی کیفیات اور کیتھرائن کی ہدایات کے باعث وہ راستے میں زیادہ تر سوتا رہا تھا اس لیے بہت سے خوب صورت مناظر سے بھی محروم رہ گیا تھا۔ اب جو بھائیہ سیٹھ کی رہائش گاہ سامنے آئی تو اس کی بیزاری طبیعت پر بھی خوش گوار اثر پڑا۔

اندر سے ایک ملازم نے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ اس ملازم اور ڈرائیور نے ہی مل کر ان کا اسباب بھی اندر پہنچا دیا۔ ان کی یہاں آمد کی اطلاع چونکہ پہلے ہی سے تھی اس لیے ان کی رہائش کے لیے کمرے بھی تیار تھے۔ انہیں ان کے کمروں میں پہنچانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ملازم نے اطلاع دی کہ نہانے کے لیے غسل خانوں میں انتظام کر دیا گیا ہے۔ سفر کی طوالت سے زیادہ عجیبگی نے ان کے جسموں کو تھکا دیا تھا چنانچہ سب نے ہی غسل کر کے تازہ دم ہونا مناسب سمجھا۔ غسل نے طبیعت پر اچھا اثر ڈالا اور تھکن زدہ جسم کے جوڑ کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان لوگوں کے تازہ دم ہوتے ہی ملازم نے کھانا لگ جانے کی اطلاع کے ساتھ ڈائننگ روم میں چلنے کی درخواست کی۔ ڈائننگ روم خاصا وسیع تھا۔ کڑی کی طویل ڈائننگ ٹیبل کے گرد بہت سی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ جن برتنوں میں کھانا پیش کیا گیا، وہ بھی تیزی اور ویدہ زیب تھے۔ ٹھکے ہوئے جسم غسل اور اس کے بعد ملنے والے پُر کٹف کھانے سے غنودگی کی طرف مائل ہونے لگے اس لیے کھانے کے بعد کسی نے بھی غسل جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چل پڑے۔

کیتھرائن نے سونے کے لیے جانے سے قبل حسب

دوست اور دشمن

ایک باریوں ہوا کہ ایک خادم نے دوسرے خادم پر جوتا اتار کر پھینکا۔ صلاح الدین ایوبی کمرے سے نکل رہا تھا، جوتا اسے جاگا۔ دونوں خادم ہتھیار کھینچنے لگے لیکن صلاح الدین ایوبی نے دونوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور آگے نکل گیا۔ یہ کردار کی عقلمندی کا مظاہرہ تھا۔ دوست تو دوست، دشمن بھی اس کے سامنے آتے تو اس کے مرید بن جاتے تھے۔

مرسلہ: میان غنم محمود یوتا لوی،
گوجرہ، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ

کر دیا تھا۔ اس نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا اور اب موقع ملتے ہی کیتھرائن سے پڑھوانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔

”جولیت کا باپ جوزف بیماری میں چل بسا۔“ کیتھرائن نے کاغذ پر موجود تحریر پر نظر دوڑانے کے بعد اسے اس کے مفہوم سے آگاہ کیا۔ وہ دیکھ بھلی تھی کہ ٹیلی گرام رام داس عرف رامو کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بمبئی کے اسپتال میں فاروق کے قیام کے عرصے میں رامو کا بھی وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا اس لیے وہ رامو سے واقف تھی۔

”اچھا ابّا اپن نے یہ ٹیلی گرام فاروق سے نہیں پڑھوایا۔“ ملنے والی خبر کو سن کر رین نے بے ساختگی سے تبصرہ کیا۔ ”کون ہے یہ جولیت اور اس کا باپ جوزف؟ کیا مسٹر فاروق سے ان کا کوئی خاص تعلق ہے؟“ رین کے الفاظ اور چہرے پر موجود تاثرات نے کیتھرائن کو سوال کرنے پر اکسایا۔

”ایسا ہی سمجھ۔ دل کے ناتے سے بڑھ کر بھلا کون سا تعلق ہوتا ہے۔ جان چمڑکتا ہے اپنا شہزادہ اس جولیت پر لیکن دو پڑھی لکھی اچھی لڑکری کرنے والی لونڈیا اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں سے بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے۔ ادھر اپنا شہزادہ بیمار ہے اس لیے اپن اس کے ذہن کو بوجھ سے بچانے کے لیے ادھر لے کر آگئے۔ تو اس کے عشق کا عالم دیکھ کہ خوابوں میں جولیت کو پریشان دیکھتا ہے اور ہر طرح کے آرام میں رہ کر بھی اس کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اگر کچ بچ اس پر گزری سے آگاہ ہو گیا تو جانے کیا غضب ہوگا اس لیے اپن اس سے ہر بات چھپا کر رکھے ہیں۔“ رین نے اسے مختصراً جولیت کے پورے

معمول فاروق کا چیک اپ کیا اور اسے اپنی نگرانی میں دوامیں کھلائیں۔ گولو نے اپنے لیے الگ کمرالینے کے بجائے فاروق کے کمرے میں ہی رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی اس لیے اس کے لیے وہیں سونے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ کیتھرائن اس کے ساتھ والے کمرے میں رہتی یوں اس کے لیے بھی فاروق کی طرف سے باخبر رہنا آسان ہو جاتا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد فاروق نے کسی تکلیف کا اظہار تو نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی اس پر توجہ رکھنا ضروری تھا۔ یوں بھی کیتھرائن نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ فاروق ہلکی پھلکی تکلیف کے اظہار سے گریز کرتا تھا اس لیے بھی ضروری تھا کہ خود سے اس پر نظر رکھی جائے۔ اس وقت وہ اپنی معمول کی ڈیوٹی ادا کر کے اپنے لیے مخصوص کمرے میں پہنچی تو اس کا ارادہ بھی جلد سوجانے کا تھا لیکن شب خوابی کا لباس بدلنے سے پہلے ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ دستک بہت دھیمی اور محتاط تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو رین کو سامنے پا کر حیران رہ گئی۔

”اپنے کو تیرے سے ایک کام ہے۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔“ رین نے دھیمی آواز میں اس سے کہا تو اس نے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ کم عمری میں ہی اس نے دنیا کو اس کے کردہ روپ میں دیکھ لیا تھا اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس وقت رین کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک ایسا شخص جو بمبئی کا بانی گرامی دادا تھا، ایک نوجوان لڑکی کے تنہا کمرے میں چپکے سے داخل ہو تو اس کا تشویش میں مبتلا ہونا بتا ہے لیکن کیتھرائن خوف یا شک میں مبتلا نہیں تھی، وہ صرف حیران تھی کہ رین اتنی رازداری سے کس کام کی غرض سے اس کے کمرے میں آیا ہے۔ چند دن کے ساتھ میں اس نے ان لوگوں کے کردار کو پرکھ لیا تھا اور جانتی تھی کہ بے شک وہ دادا گیری کرنے والے ہیں لیکن بد نظر اور بر کردار نہیں ہیں۔

”تجھ سے یہ ٹیلی گرام پڑھوانا تھا۔ اپنے کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی اور فاروق سے پڑھوانا نہیں چاہتے تھے کہ جانے اس میں کیسی خبر ہو۔“ کیتھرائن کی پیشکش پر ایک کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے ٹیلی گرام والا لفظ اس کی طرف بڑھایا۔ ٹیلی گرام اسی کے نام آیا تھا اور یہاں آمد کے تھوڑی دیر بعد ہی ملازم بیٹھے یہ جانتے ہوئے کہ صبح سے آیا رکھا ہے، اس کے حوالے

حالات سے آگاہ کر دیا۔

”ویری سیڈ۔ اس بے چاری پر تو بہت لعنت ٹائم آ گیا ہے۔ اس پر سے پیرش کی ڈچھ.....“ کیتھرائن کو جو لیٹ کے حالات سن کر دلی دکھ ہوا۔

”سارا نصیب کا چکر ہے۔ نصیب کا لکھا آوی کو بھونگنا ہی پڑتا ہے پر تو دھیان رکھتا کہ فاروق کے سامنے کوئی بات نہ نکلے۔ اپن اسے اس سارے تھوڑے سے دور رکھنے کے واسطے ہی ادھر لایا ہے۔ ادھر رہ کر پہلے اس کا طبیعت بالکل فرسٹ کلاس ہونے دو پھر اپن دیکھ بھال کر اسے سب اگلا پچھلا یوں دیں گے۔“ رہن نے اسے ایک بار پھر ہدایت دینا ضروری سمجھا۔

”ڈونٹ وری سر..... میں مسٹر فاروق کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن بعد میں شاید آپ کو بہت پر اہم ہو۔ وہ آپ سے بہت ناراض ہوں گے کہ آپ نے ان سے اتنی اہم باتیں چھپا کر رکھیں۔“ کیتھرائن نے اسے اپنے تعاون کی یقین دہانی کروانے کے ساتھ ساتھ آئندہ حالات کی طرف بھی توجہ دلائی۔

”وہ اپن سنبھال لے گا۔ اصل مسئلہ تو ابھی کا ہے۔ اپنے لیے اپنے ہیرو کی طبیعت ٹھیک ہونا سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو ادھر رہ کر اس کی دیکھ بھال کرنا۔ اپن کل ہی بہت سی لوٹ جائیں گے۔ ادھر جا کر دیکھیں گے کہ کیا کرتا ہے۔ لوٹیا کی عزت خراب کرنے والے کو تو اپن خود بھی نہیں چھوڑنے والے..... بس وہ ایک بار اس حرام کے جسے کا نام اپنی زبان پر لے آئے۔ رب کی قسم دھرتی پر اس کا نام باقی نہیں چھوڑیں گے۔“ رہن نے اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ کیتھرائن کو یقین تھا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ وہ شخص جس نے راستے میں ملنے والی ٹھٹھکا کا اتنا خیال کیا تھا، اپنی نچلے دار اور فاروق کی محبوبہ جو لیٹ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو کس طرح معاف کر سکتا تھا۔

”چل اب سو جا۔ بڑا کٹھن سفر تھا۔ تو بھی تھک گئی ہوگی۔“ خاموشی کے پل بھر کے وقفے کے بعد رہن اس سے کہتا ہوا اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کیتھرائن نے شب خوانی کا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کٹھن واقعی بہت زیادہ تھی۔ جلد ہی نیند اس کے حواس پر غالب آنے لگی۔ نیند کی داوی میں اترنے سے پہلے تک وہ جو لیٹ اور اس کے حالات کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ لڑکی بیک وقت اسے بہت خوش

قسمت اور بد نصیب محسوس ہوئی تھی۔ خوش قسمت اس لیے کہ اسے فاروق جیسا شخص اتنا ٹوٹ کر چاہتا تھا اور بد نصیب اس لیے کہ وہ فاروق کی محبت کی قدر و ان نہیں تھی۔ کیتھرائن کو یقین تھا کہ اگر جو لیٹ نے فاروق کی محبت کو قبول کر لیا ہوتا تو وہ ایسے حالات سے کبھی دوچار نہیں ہوتی۔ وہ بہادر اور غیرت مند شخص تھا جو مشکل حالات میں جو لیٹ کا سا بیان بن کر اسے حالات کی کڑی دھوپ اور تند بارش سے بچا لیتا۔

☆☆☆

”جوزف.....“ جوزفین کی درو بھری پکار تھی جس نے قطار میں کھڑے جوزف کو بے قرار کر دیا اور وہ تیزی سے قطار سے نکل کر اس جانب دوڑا جہاں اس نے جوزفین کو چھوڑا تھا۔ یہ اسکول میں آدھی چھٹی کے اوقات تھے۔ ان اوقات میں بچے کھیلتے کودتے اور کھاتے پیتے تھے۔ اسکول کا چوکیدار ان اوقات میں لکڑی کی ایک میز پر اپنی عارضی وکان سجا لیتا تھا۔ اس وکان پر کھٹی میٹھی گولیاں، جانوروں کی اشکال والے بسکٹ، فائنا، چورن کی پڑیا، نقل اور اسی جیسے چھوٹے موٹے دیگر سٹے آٹم بکا کرتے تھے کیونکہ اسکول میں پڑھنے والے تقریباً سب ہی بچے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے پاس یہ معمولی اشیاء خریدنے کے لیے بھی مشکل ہی سے پائے ہوتے تھے۔ جوزف اور جوزفین کا شمار بھی ان ہی بچوں میں ہوتا تھا جو زیادہ تر لکڑی کی میز پر سبھی رنگ برنگی کھانے کی اشیاء کو لپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھنے پر ہی اکتفا کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ ایسا دن بہت مشکل ہی سے آتا تھا جب اسکول آتے ہوئے ان کی مائیں ان کی ہتھیلی پر کوئی سکہ رکھ دیتی ہوں۔ جوزف کے لیے آج وہی خوش قسمت دن تھا اور وہ آدھی چھٹی کے وقت جوزفین کو کھٹی میٹھی گولیاں لانے کی نوید سنا کر اس قطار میں لگ گیا تھا جو چیز خریدنے کے لیے بحال ہو چکی تھی۔ اسکول کا چوکیدار خاصا سخت گیر تھا اور بغیر قطار کے آنے والے بچے کو چیز نہیں بیچتا تھا۔ اس کی نظریں بھی بہت تیز تھیں اس لیے کسی بچے کی مجال نہیں تھی کہ بیچ میں سے قطار میں گھس پاتا۔

جوزفین کو اس کی من پسند چیز کھلانے کے اشتیاق میں جوزف بہت ایمانداری سے اس قطار میں لگا تھا اور اب درمیان میں بس دو بچے ہی باقی رہ گئے تھے کہ جوزفین کی درو بھری پکار نے اس کے ذہن سے کھٹی میٹھی گولیاں خریدنے کا خیال اڑ چھو کر دیا اور وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں جوزفین کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جوزفین

معمولی بات پر ٹوٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ٹوٹی کے دوستوں کو بھی تنبیہ کی گئی۔ غرض وہ دن کئی بچوں کے لیے برا ثابت ہوا۔ اس روز جوزف اسکول سے واپس آنے کے بعد بھی شام تک اداس ہی رہا۔ جوزفین نے عمر میں چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی یہ اداسی محسوس کر لی اور یہی سمجھی کہ وہ آج اسکول میں بچوں کے ہاتھوں ہونے والی پٹائی اور اساتذہ کی ڈانٹ کی وجہ سے اداس ہے چنانچہ اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے بولی۔

”سوری جوزف! میری خاطر تمہیں آج بہت مار کھائی پڑی اور پھر زنی ڈانٹا بھی۔“

”تمہیں چوٹ میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا جو زنی۔“

جوزف نے اس کی بات پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے اس کے گھٹنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ معمولی سی سوٹی کپڑے کی یہ فراک جو زنی کو اس کی ماں نے پچھلے سے پچھلے کر مس پر بنا کر دی تھی جو اب اسے خاصی چھوٹی ہو جانے کی وجہ سے گھٹنوں سے اوپر تک آ رہی تھی۔ فراک میں دو جگہ دو مختلف رنگ کے کپڑوں کے پھندے بھی لگے ہوئے تھے اور ابھی جو زنی کو نامعلوم مدت تک یہ فراک پہننی تھی کہ اس کی تو لیا ٹیکسٹری میں ملازمت کرنے والی ماں اپنی اگلی سوٹی کو بھی چند نئے جوڑے بنا کر دینے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ اوپنی فراک کی وجہ سے اس کے گھٹنے پر لگی خراش واضح دکھائی دے رہی تھی۔ خراش پر لال رنگ کی کوئی دوا بھی لگائی گئی تھی اس لیے اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔

”اب درد نہیں ہو رہا۔ سسٹرناریا نے دوائی لگائی تھی نا تو درد صبح ہو گیا۔“

”یہ تو اچھا ہوا۔“ جوزف نے سن کر تبصرہ کیا اور دوبارہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔

”تم کچھ بولتے کیوں نہیں جوزف..... اتنے چپ کیوں ہو؟ ان بچوں نے تمہیں بہت زور سے مارا تھا کیا؟ کہیں درد ہو رہا ہے تو بتاؤ؟“ جوزف کی خاموشی اسے بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔

”نہیں درد نہیں ہو رہا۔ اپن بالکل ٹھیک ہے۔“

جوزف نے اسے تسلی دی لیکن اس کا لہجہ اب بھی اداس تھا۔

”ٹھیک ہو تو مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟“

جوزفین نے اس کی بات کا تھین نہیں کیا۔

”کرتورہا ہوں بات۔“ جوزف نے جیسے اپنی جان چھڑائی۔

”تم بات نہیں کر رہے۔ تم تو صرف مجھے جواب دے

نوری طور پر اسے نظر نہیں آئی کیونکہ بچوں کے ایک چھوٹے سے بھوم نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ دو بچوں کو ہاتھ سے دھکیلتا ہوا اس دائرے میں داخل ہوا جس کے بیچ جوزفین فرس پر اپنا گھٹنا تھامے بیٹھی تھی۔ اس کے گھٹنے پر خراش آئی تھی اور اس خراش میں سے بہت معمولی سا خون بھی نکل رہا تھا۔ خون کی ان دو تین ننھی بوندوں سے زیادہ جوزف کے لیے وہ آنسو تکلیف دہ تھے جو جوزفین کی آنکھوں سے نکل کر اس کے پھول سے رخساروں پر شفاف موجوں کی طرح لڑھک رہے تھے۔

”کیا ہوا جو زنی..... تمہیں کیسے چوٹ لگی؟“ وہ وہیں گھٹنوں کے بل جو زنی کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پر لگی خراش کا جائزہ لینے لگا۔

”ٹوٹی نے دھکا دیا تھا۔ میں گر گئی اور مجھے چوٹ لگ گئی۔ دیکھو کتنا بلڈ نکل رہا ہے۔“ جوزفین نے منہ بسور کر بتاتے ہوئے خون کے ان گنتی کے قطروں کی طرف اشارہ کیا جو نکلنے کے بعد بہہ بھی نہیں سکے تھے اور اسی جگہ جمنے لگے تھے۔

”ٹوٹی کو تو میں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔“ جو زنی کا جملہ مکمل ہوتے ہی وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چند ہی لمحوں میں ٹوٹی کو جو دیگر ہم جماعتوں کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہا تھا، جالیا اور اس سے نکل کر ٹوٹی کچھ سمجھ پاتا، اس کی ٹھیک ٹھاک دھتائی کر ڈالی۔ ٹوٹی کے دوستوں نے شور مچا دیا اور دوست کو پہچاننے کے لیے خود جوزف پر پل پڑے۔ ذرا سی دیر میں وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا جسے سن کر دکان سجائے چوکیدار سمیت اندر سے دو تین اساتذہ بھی صورت حال جاننے کے لیے دوڑنے پلٹے آئے۔ ٹوٹی کی دھتائی کرنے والا جوزف اس عرصے میں ٹوٹی کے دوستوں کے ہاتھوں خود بھی ابھی خاصی ٹھکانی کھا چکا تھا اور اس کا حلیہ ابتر ہو رہا تھا۔ ٹوٹی کے دوستوں کی شکایت سن کر اساتذہ نے اس سے باز پرس کی کہ کیوں اس نے بلا وجہ ٹوٹی کو مارا تو اس کی زبانی ان پر یہ عقده کھلا کہ اس نے جو زنی کو دھکا دینے کے جرم میں ٹوٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ ذرا سی مزید گفتیش پر جو حقیقت سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ پکڑم پکڑائی کھیلتے ہوئے کیسے جو زنی کو ٹوٹی کا دھکا لگا اور وہ گر گئی۔ اس بات کا تو کھیل کی دھن میں گن ٹوٹی کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ ایک سراسر نادانستہ غلطی تھی جو ٹوٹی سے سرزد ہوئی تھی چنانچہ اساتذہ نے اسے معمولی سی سرزنش کی البتہ جوزف کو خوب ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی کہ اس نے کیوں

رہے ہو۔“ چھوٹی سی جوزفین نے حاضر جوابی کا مظاہرہ کیا۔ اصل میں دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اس کا جوزف سے پلا پڑا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلق میں مضبوطی آتی جا رہی تھی اس لیے وہ بہت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کے مزاج کے رنگوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔

”ان لڑکوں سے لڑنے میں میرا کوئی گریبا تھا اس لیے اپنی تیرے واسطے کئی میٹھی گولیاں نہیں لے سکا۔ بس اس واسطے سیڑ ہے۔“ آخر کار جوزف نے اس کے سامنے حقیقت اگل ہی دی۔ ننھی جوزفین کو اس کی اداسی کی وجہ جان کر اس پر ڈھیر دل پیارا آیا۔ اتنی بے تحاشا محبت کے جواب میں محبت کے سوا اور کیا بھی کیا جاسکتا تھا۔

☆☆☆

دوسرے دن ناشتے کے فوراً بعد ربین واپسی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ فاروق کو منزل پر پہنچانے کے بعد اب اسے خود واپسی کی جلدی تھی۔

”ابھی تو آپ کی کل کے سفر کی ٹھکن بھی نہیں اتری ہوگی اور آپ پھر دوبارہ سفر کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدھ دن ٹھہر کر واپس چلے جاتے۔“ اس کے ارادے کے بارے میں خبر ہونے پر کیتھرائن نے ہمدردی سے کہا۔

”اپنی بالکل فٹ ہے ری۔ اپنے جیسے لوگ ذری ذری سی باتوں پر نہیں ٹھکتے۔ اگر ٹھکنے لگیں تو سالے اپنے بھائی بند ہی ریٹائرڈ کر دیتے ہیں۔“ ربین نے ہنس کر اس کی بات کا جواب دیا۔

”انہیں جانے دو سسٹر۔ دہاں بہتی میں انہیں بہت کام ہوتے ہیں۔ میں تو ان کے ساتھ آنے کے حق میں بھی نہیں تھا لیکن ان کے خیال میں، میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جسے یہ اکیلے اتنی دور کا سفر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔“ ربین کی حمایت کرتے ہوئے فاروق نے آخر میں ذرا سی ناراضی کا اظہار کیا۔

”انہوں نے ساتھ آکر جھاکا مسٹر فاروق۔ مجھے تو ان کے ساتھ ہونے سے بڑی تسلی رہی۔ راستے میں کتنے پرائیمرز انہوں نے سولو کیے۔ یہ نہیں ہوتے تو بیماری کی حالت میں آپ اکیلے کیا کیا دیکھتے۔“

اس بار کیتھرائن نے ربین کی حمایت کی تو وہ ہنسنے لگا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ”اس کے ساتھ جاؤ تو مغز ماری مت کر۔ یہ اپنے حساب سے سوچنا اور یوں ہے پر اپنی کو معلوم ہے کہ کب اسے کیسے لے کر چلانا ہے۔ تیرے کو بھی پتا لگ جائے۔ اپنی تیرے کو بول دیتے ہیں کہ

ادھر تو اس کی باس ہے۔ جو تجھے اس کے واسطے ٹھیک لگے، وہ کرنا۔ اس کی باتوں پر جاؤ توئی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔“ فاروق کے منہ بنانے کی پردا کیے بغیر وہ کیتھرائن کو اس کے سلسلے میں ہدایات دیتا چلا گیا۔ ”تیرے کو اپنا بہتی کا پتا لکھوادیے ہیں۔ ذرا بھی گڑبڑی کرے تو اپنے کو فوراً تار بھیج دینا، بن خود آکر اس کے کان پہنچائیں گے۔ اپنے کو شامل اتنا بھی ددر نہیں پڑے گا کہ آنے کو گھبرا جائیں۔“ کیتھرائن مسکراتے ہوئے اس کی ہدایات سنتی رہی۔ اسے ربین اور فاروق کے درمیان تعلق خاص کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا اور سمجھتی تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بظاہر سچی، گرمی، ناراضی کسی بھی جذبے کا اظہار ہو رہا ہو، بنیاد میں جذبہ محبت ہی کا رفرما ہوتا تھا۔

”اپنی ٹیلی فون کر کے خبر لیتے رہیں گے۔ تو ادھر اپنے ساتھیوں کے واسطے کھلی خط لکھ کر بھیج دیا کرنا۔ حرام کے جنوں کو تسلی رہے گی ورنہ میرے کان کھاتے رہیں گے۔ کوئی زیادہ ایمر جنسی کی بات ہو تو دیکھ لیا باہر کے نمبر پر فون کر کے بول دینا وہ فوراً اپنے کو بتادے گا۔“ کیتھرائن کے بعد ربین فاروق کی طرف منہ کر کے براہ راست اسے ہدایات دینے لگا۔

”بالکل ہی دودھ پیتا بچہ سمجھ لیا ہے۔ اتنی فکر ہے تو یہاں چھوڑ کر ہی کیوں جا رہے ہو۔ اپنے ساتھ واپس بہتی لے چلو۔“ فاروق نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔

”لوٹ کر تو ادھر ہی جانا ہے۔ ابھی تھوڑے دن یہاں صبر سے رک۔ طبیعت سنبھل جائے تو تجھ کو واپس ادھر ہی بلا لیں گے۔“ ربین نے اسے کسی بچے کی طرح ہچکاکارا جس پر فاروق کا منہ مزید بن گیا لیکن اب ربین اس کے بجائے گولو کی طرف متوجہ ہو چکا تھا جو اس کا چھوٹا ساسنری بیگ اٹھائے دہاں آیا تھا۔

”تو پھر ہم چلتے ہیں شہزادے..... تو اپنے فاروق بھیا کا خیال رکھنا۔“ وہ قریب آکر کھڑا ہوا تو ربین نے اس کے شانے پر ہتھی دی۔ وہ فوراً ہی ربین سے لپٹ گیا۔

”مت جاؤ نا بابا۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا۔“ وہ ربین کے سینے میں منہ چھپا کر بسوا۔

”تو چل میرے ساتھ بہتی واپس چل۔“ ربین نے نہایت سنجیدگی سے اسے ہتھکس کی۔ وہ ایک جھکے سے ربین سے الگ ہو گیا۔

”کیا بولتا ہے؟ چلے گا اپنے ساتھ؟ جا کر اپنا سامان لے آ۔“ ربین کی سنجیدگی دیدنی تھی۔

”ادھر..... فاروق بھیا کو اکیلے چھوڑ کر کیسے؟ نہیں اپنی اپنے فاروق بھیا کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔“ گولونے اپنی حیرت پر قابو پا کر اسے انکار میں جواب دیا۔
 ”اپنے گوا چھی طرح معلوم ہے کہ حیرے کو ادھر اپنے فاروق بھیا کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھنے کا ہے پھر اپنے ساتھ کیوں یہ اداسی کا ٹانگ کرتا ہے سالے۔“ ربن نے اس کی پیٹھ پر ایک دھموکا جڑا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھا اور سب ہی سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔

”اپن ٹانگ نہیں کر رہا۔ اپنے کو چھی میں تمہاری یاد آئے گی پر اپن فاروق بھیا کو اکیلے ادھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تم تو ادھر سب کے بیچ میں رہو گے۔ اپنے کو تمہاری اتنی گھر نہیں ہے۔“ گولونے جھٹ اپنی صفائی پیش کی۔
 ”گاڑی تیار ہے جناب۔ ڈرائیور باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔“ اسی وقت ملازم نے آکر اطلاع دی تو ربن اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔

”ٹھیک ہے۔ اپن ابھی آتے ہیں۔“
 ”تو شے دان بھی گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ پھوریوں، آلو پوری اور سوچی کا حلوا ہے اس میں۔ معلوم نہیں تھا کہ آپ کو واپس جانا ہے ورنہ سڑ میں ساتھ دینے کے لیے دو چار چیزیں تیار کر دیتا۔“ ملازم کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔

”اتنا بھی بہت ہے رے۔ اپن اکیلے سڑ میں اتنی تام جھام ساتھ لے کر چلنے کے قائل نہیں ہیں۔ اکیلے آدی کا کیا ہے، کیسے بھی کھانی کر گزارہ کر لیتا ہے۔ اپن تو بھنے چتے کھا کر بھی پیٹ بھر سکتے ہیں۔“ ربن نے شان بے نیازی سے اسے جواب دیا اور باہر کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ باقی لوگ بھی اس کے پیچھے تھے۔ اس کے سامان کا بیگ ملازم نے اٹھالیا تھا۔ باہر آنے کے بعد ملازم اس کا بیگ گاڑی میں رکھوانے لگا اور باقی لوگ الوداعی ملاقات کرنے لگے۔ کیتھرائن نے خود ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے مصافحہ کیا، جواب میں اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گولو کو اس نے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ سب سے آخر میں فاروق اس کے گلے لگا۔

”جلدی سے ٹھیک ہو جانا۔ ادھر سب خیری راہ سکتے ہوں گے۔“ خود کو باندھ کر رکھنے کے مزاج کے باوجود اس پلہا ربن تھوڑا سا جذبہ ہاتی ہو گیا۔

”میں خود بھی تو ان سب کے بیچ رہنے کے لیے بے قرار ہوں۔ میرا کب یہاں دل لگے گا۔“ فاروق کی آواز

ہلکی سی تھرا گئی۔ ربن نے تسلی دینے والے انداز میں دھیرے سے اس کی پیٹھ چھگی پھر الگ ہو کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی اسے لے کر روانہ ہوئی تو وہ سب اس وقت تک کھڑے ہاتھ ہلاتے رہے جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ واپس اندر آنے کے بعد کیتھرائن نے فاروق کا معمول کا چیک اپ کیا اور ناشتے کے بعد کھانے والی دوائیں کھلائیں۔ آج ربن کی روانگی کے چکر میں یہ دونوں کام قدرے تاخیر سے انجام پائے تھے۔ دوا کھانے کے بعد فاروق اخبارات دیکھنے لگا۔ ملازم انگریزی، اردو اور ہندی تینوں زبانوں کے اخبارات لاؤنج میں رکھ گیا تھا۔ کیتھرائن خود بھی اخبار بینی کے اس مشغلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فاروق کے زیادہ مطالعہ کرنے پر پابندی عائد کی تھی لیکن اس نے فوری طور پر اسے اس لیے نہیں ٹوکا کہ ربن کے جانے سے فضا میں ایک اداسی سی چھا گئی تھی اور فاروق رہنے سے یہ اداسی فاروق کو مزید اپنی لپیٹ میں لے کر متاثر کرتی چنانچہ اس وقت اس کا ایک محدود حد تک مطالعہ کر لینا ہی بہتر تھا۔

کیتھرائن نے مطالعے کے لیے انگریزی اخبار کا انتخاب کیا جبکہ فاروق انگریزی اور ہندی کے اخبارات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اردو اخبار کی طرف متوجہ تھا۔ اردو اس نے کسی درس گاہ سے نہیں سیکھی تھی بلکہ گھر میں ہی بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھائی گئی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی زبان کی حیثیت سے ان کے گھر میں بچوں کو اردو پڑھانے سکھانے کا خصوصی انتظام کیا جاتا تھا۔ بچپن میں کلام پاک مع ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اردو کی بھی ڈھیروں کتابیں پڑھی تھیں۔ تدریس کے لیے گھر پر آنے والے استاد کی محنت اور قابلیت اپنی جگہ لیکن اسے اصل شوق اپنے چھوٹے چچا کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اپنے چچا جان کے بہت قریب تھا اور وہ خود اردو ادب کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ وہ ہی اس کے شوق اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کی عمر اور ذہنی سطح کے حساب سے کتابیں لا کر دیا کرتے تھے۔ سیکنڈری کلاسز میں پڑھنے کے بعد وہ ان کے ذخیرہ کتب سے مستفید ہونے لگا تھا۔ یوں اس کی اردو بہت اچھی ہو گئی تھی اور اسے اردو پڑھنے میں لطف آنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی اس نے مطالعے کے لیے اردو اخبار کو ترجیح دی تھی۔

اس کے زیر مطالعہ اخبار کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ خبریں جو انگریزی اور ہندی اخبارات چھاپنے سے گریز

لوگ ہندوستان میں بہت اچھی طرح سیکھتے تھے۔ دھن، دولت، عزت سب تھا ان کے پاس۔ بڑے بڑے انگریز افسروں کا حویلی میں آنا جانا رہتا تھا۔ ہندوؤں سے بھی بہترین کاروباری تعلقات تھے۔ لیکن اپنے مسلم شخص کو بھی پوری طرح قائم و دائم رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔

”واٹ آر یو حکنگ مسٹر فاروق؟“ کیتھرائن نے اسے پکارا تو وہ اپنے خیالات سے باہر آیا۔

”کچھ نہیں بس ہندوستان کے سیاسی حالات پر غور کر رہا تھا۔“ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کیتھرائن کو جواب دیا۔

”ہاں حالات تو بہت خراب ہیں۔ کئی جگہ ہندو مسلم فسادات سننے میں آ رہے ہیں۔ گاڈنوز۔۔۔ یہاں کیا ہونے والا ہے۔“ وہ بھی حالات سے باخبر اور کچھ کچھ فکر مند تھی۔

”آپ نے کیا سوچا ہے مسٹر فاروق۔ اگر مسلمانوں نے اپنا سپیریٹ کنٹری بنا لیا تو۔۔۔ آپ کہاں رہیں گے؟ یہیں ہندوستان میں یا نیو کنٹری میں؟“ اچانک ہی اس کے ذہن میں سوال ابھرا تو اس نے فاروق سے دریافت کیا۔

”ہاں نہیں۔ میں نے ابھی تک اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں ہے۔ پھر میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں۔ جو سب کا فیصلہ ہوگا، میں بھی وہی کروں گا۔ میرا جینا مرنا تو ان لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔“

”اور آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ تو ان میں سے نہیں نکلتے۔“ اس کے جواب پر کیتھرائن نے بڑی بے ساختگی سے سوال کیا۔ اس سوال کو سن کر وہ غلموش ہو رہا۔ ”آئی ایم سوری۔ میں نے شاید کوئی غلط کوہین کر لیا۔“ کیتھرائن نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔

”اس اوکے۔ آپ نے کوئی غلط سوال نہیں کیا بس میرے لیے ہی جواب کچھ مشکل ہے۔ ویسے بھی میرے متعلق جان کر کیا کیجیے گا۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔“ فاروق نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔

”اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ بڑی عام سی لڑکی ہوں۔“ کیتھرائن کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔

”تو عام سی ہی باتیں بتائیے نا جیسا کہ والدین کیا کرتے تھے؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی وغیرہ وغیرہ۔“ وہ نہیں چاہتا تھا کہ موضوع سخن اس کی ذات سے چنانچہ کیتھرائن کو اس کی اپنی ذات میں الجھا دیا۔

کرتے تھے یا بہت سرسری انداز میں چھاپتے تھے، وہ بھی تفصیل سے مل جاتی تھیں۔ ملک کی سیاسی فضا میں آنے والی تبدیلیوں سے باخبر رہنے کے لیے ان تفصیلات سے باخبر رہنا بھی ضروری تھا۔ انگریزی حکومت یا کانگریس کے حامی اخبارات میں اس انداز سے خبریں شائع کی جاتی تھیں کہ حقائق کا چہرہ ہی مسخ ہو کر رہ جاتا تھا۔ دونوں ہی کی یہ کوشش تھی کہ تحریک پاکستان کو کسی نہ کسی طرح وبا دیا جائے خاص طور پر کانگریسی راہنما ہندوستانی مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ وہی ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہیں اور مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ بھارت میں ہی مل جل کر رہیں۔ مسلم راہنماؤں کو بھی اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے ابلاغ کا سہارا لینا پڑتا تھا اور کتنی کے مسلمان دوست اخبارات میں اس امر کی وضاحت کی جاتی رہتی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام کیوں ضروری ہے۔

فاروق کے زیر مطالعہ اخبار میں کالم نگار نے جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں پیش آنے والے اندوہناک سانحے کا ذکر کیا تھا۔ گاؤں میں مسلمان اقلیت میں تھے اور گنتی کے چند مسلمان گھرانوں میں سے ایک گھر کا بائیس سالہ نوجوان لڑکا جو حصول روزگار کے لیے نکلنے میں متیم تھا، تحریک پاکستان میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا ملاقات کے لیے گھر جاتا تو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے بھی اس سلسلے میں زور و شور سے ولائل و بتا رہتا۔ اس سلسلے میں اس کی گاؤں کے ہندو لڑکوں سے ایک دو بار بحث بھی ہوئی اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ الگ وطن کی حمایت کرنے کے جرم میں ایک رات اس کے پورے گھر کو ہی جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ یہ واقعہ انسانیت کے منہ پر طمانچہ تھا اور ہندوستان کو بھائی قرار دینے والوں کے لیے آئینہ بھی۔ فاروق کو بھی اس واقعے نے بہت متاثر کیا۔ وہ اور اڑیسے کے دیگر افراد ابھی تک سیاسی معاملات سے بالکل الگ تھلک تھے اور اپنے گے بندھے معمول پر ہی چل رہے تھے لیکن اب خود فاروق کے ذہن میں سوچوں کے درکھانے لگے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ کب تک اس اتنے بڑے ہنگامے سے الگ تھلک رہ کر غیر جانبداری کے مظاہرے میں کامیاب رہیں گے۔ ساتھ ہی وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جنہیں آٹھ سال پہلے اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اسے صحیح طرح سے اندازہ نہیں تھا کہ اس سفارشی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں ان لوگوں کا کیا رول ہوگا۔ وہ

”کبھی کبھی عام سی باتیں بھی عام نہیں ہوتیں نہ ہی سہیل کو سچپن کے آئینہ سہل ہوتے ہیں۔“ کیہتھرائن کی اداسی مزید گہری ہو گئی۔

”اگر بتانے میں کوئی حرج ہے تو مت بتائیے۔ میں نے تو بس یونہی.....“ اس بار فاروق اس کا انداز محسوس کر کے ٹھنک گیا اور قدرے ہمدامت سے بولا۔

”آپ کی غلطی نہیں بس میرے ہی کوائف کچھ ایسے ہیں کہ کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرمندگی ہی ہوتی ہے۔“ کیہتھرائن نے اسے نام پا کر وضاحت کی۔

”میں ہرگز بھی آپ کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا اگرچہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کچھ غلط ہے بھی تو اس کی ذمہ دار ہرگز بھی آپ خود نہیں ہوں گی لیکن کیونکہ آپ

بجھتی ہیں کہ آپ کو شرمندگی ہوگی تو اس بات کو جاننے دیجیے۔ آئندہ میں تبھی اپنے سوالات کو نہیں دہراؤں گا۔“

فاروق نے نہایت نرمی سے کہتے ہوئے یکدم ہی موضوع بدلنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا۔ ”چائے کے بارے میں کیا خیال ہے..... چائے پینا پسند کریں گی آپ؟“

کیہتھرائن نے بے دھیانی کے عالم میں سر کو اٹھاتی جتہں دی تو فاروق ملازم کو بلا کر اسے چائے کے سلسلے میں ہدایات دینے لگا۔ کیہتھرائن اپنی جگہ خاموش بیٹھی رہی۔ جب ملازم ہدایات لے کر وہاں سے چلا گیا تو بالکل اچانک ہی اس نے

بولنا شروع کر دیا۔

”میں نہیں جانتی کہ میرے پیرئس کون تھے۔ مجھے پالنے والوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک رات کوئی چنکے سے

مجھے چرچ کے باہر لگے جھولے میں ڈال گیا تھا۔ اس لیے میں نہیں کہہ سکتی کہ میں کسی کے گناہ کی پیداوار ہوں یا میرے باپ نے غربت و افلاس سے گھبرا کر مجھے اس

جھولے میں ڈال دیا تھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں ایک خیراتی ادارے میں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے

ترستی اپنوں کی محبت کے بغیر پروان چڑھی ہوں۔ میری پردر ش کرنے والی مسز اینی چاہتی تھیں کہ میں نم ہوں۔ میں شاید بن بھی جاتی اگر تیرہ سال کی عمر میں فادر اسمتھ کا

پگھانا وانا چہرہ میرے سامنے نہیں آجاتا۔ چہرے پر شفقت اور روحانیت کا نقاب چڑھائے اس شخص نے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس روز اگر مسز اینی وہاں نہیں پہنچ جاتیں تو شاید آج میں آپ کے سامنے نہ ہوتی۔ فادر اسمتھ بہت پاورفل آدمی تھا۔ مسز اینی نے اسے اپنی کی حرکت پر باتیں تو سنائیں لیکن وہ اس کے خلاف کوئی

ایکشن نہیں لے سکتی تھیں۔ بس پھر انہوں نے مجھے ن بتانے کا فیصلہ بدل ڈالا اور یوں میں مشنری اسکول سے پڑھنے کے بعد نرسنگ کی طرف آ گئی۔ جا ب کرتے ہوئے مجھے

احساس ہوا کہ یہاں تو قدم قدم پر فادر اسمتھ جیسے گدھوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ منور بھائی والا واقعہ آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے کا ہے۔ ایسے لوڑ کر یکٹر لوگوں سے بچنے

کے لیے میں نے خود پر سختی اور بد لگائی کا خول چڑھا رکھا ہے۔ بہت کم کسی پر ظاہر ہونے دیتی ہوں کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں کیونکہ اکیلی لڑکی کو آسان شکار سمجھ کر بیٹھے

بچھے پڑ جاتے ہیں۔ عام طور پر میں کسی سے اپنے متعلق بات نہیں کرتی اگر کروں بھی تو سچائی نہیں بیان کرتی کہ لوگ مجھے گناہ کی پیداوار سمجھ کر گناہ پر اکسانا آسان سمجھتے ہیں۔

ہوسکتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو لیکن پوری سچائی سے نہیں بتایا ہوگا۔ میں لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی چھوٹی کہانیاں سنا چکی ہوں

کہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کسے اپنے بارے میں کیا بتایا تھا۔ اب تک ملنے والے لوگوں میں سے آپ لوگ مجھے سب سے ہٹ کر لگے۔ اس لیے یہ سمجھ لینے کے باوجود کہ

آپ لوگوں کا تعلق اڈے پاڈے کی دنیا سے ہے، میں نے آپ کے ساتھ آنا منظور کر لیا اور آپ باہر کی دنیا کے پہلے فرد ہیں جسے میں نے اپنی زبان سے اپنے بارے میں بالکل سچائی سے بتایا ہے۔“

اس نے جھگی نظروں سے اپنی پوری داستان حیات فاروق کے سامنے بیان کر دی۔ فاروق نے مزید ایک پل کے لیے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کم عمری کیہتھرائن کا

خوب صورت چہرہ اندرونی پیش سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ چند منٹوں میں بیان کردہ اس داستان حیات کا ایک ایک پل اس پر بہت بھاری رہا ہوگا۔ اس نے

زندگی کا ہر دن کا تون پر چلتے ہوئے گزارا ہوگا جب ہی تو وہ اتنی کم عمری میں بھی اتنی سمجھ دار تھی کہ اپنے لیے درست راہ کا انتخاب کر سکے۔ وہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں

تھا لیکن اتنی بات تو ذوق سے کہہ سکتا تھا کہ رہن کے اڈے سے وابستہ کسی شخص میں یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ کیہتھرائن نے بھی اس حقیقت کو

سمجھ لیا تھا اس لیے اس کی تیار داری کے لیے بہیٹی سے اتنی دور آنا منظور کر لیا تھا۔

”ہم پر اعتماد کرنے کا شکریہ۔ میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ آپ کا یہ اعتبار ہمیشہ قائم رہے گا۔ عورت کو ہم نے

”میں ابھی تازہ کرم چائے تیار کروا دیتی ہوں۔“

کیتھرائن اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔

”رہنے دیجئے، اب موڈ نہیں رہا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر باہر نکل کر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ارد گرد اتنے خوب صورت مناظر ہیں۔ آپ کی طبیعت بھی بہل جائے گی اور میری صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔“ فاروق نے اسے روک دیا تو اس نے بھی ہنستے ہوئے اس کے ہٹے پروگرام کی توثیق کر دی۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر آئے تو جو حیرت گولو سے ملاقات ہو گئی۔

”یہ دیکھیے فاروق بھائی یہ بادل کتنے نزدیک ہیں۔ میں چاہوں تو انہیں ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں۔“ فاروق پر نظر پڑتے ہی اس نے پُر جوش لہجے میں اسے بتایا اور اپنی بات کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے بچوں کی طرح اچک کر اوپر تیرتے بادلوں کو اپنی منگنی میں لینے کی کوشش کی۔ کیتھرائن بھی اس شغل میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ذرا سی دیر میں شملہ کی فضاؤں میں اس لڑکی کی کھلکھلاہٹیں بکھرنے لگیں جس کے دل پر کئی زخم تھے لیکن آج کسی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر اس کی چارہ گری کی گئی۔

☆☆☆

جوزف کی ماں کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ جوزفین پانی میں بیٹگی پٹیاں اس کے ماتھے اور سر پر رکھنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی زیر لب بڑبڑانے بھی لگتی تھی۔

”بہت کیڑ لیس یو اے ہے جوزف۔ پتا نہیں دن بھر کہاں مارا مارا پھرتا ہے۔ اتنا کبھی خیال نہیں کہ آٹھی کی طبیعت خراب ہے تو کچھ دیر گھر پر ہی ٹنگ جائے۔“ بڑبڑانے کے ساتھ اس نے ایک بار پھر سر ہانے کی ٹوٹے پائے والی میز پر رکھی دوا کی بوتل کو کھول کر دیکھا۔ وہ بلا مبالغہ کوئی پچاس بار اس بوتل کو کھول کر دیکھ چکی تھی۔ بوتل میں دوا ختم ہو گئی تھی لیکن وہ ہر بار اسے یوں کھول کر دیکھتی تھی جیسے کسی جادوئی طاقت کے بل پر بوتل میں خود بخود ہی دوا آگئی ہوگی اور وہ اسے پلا کر آٹھی کا بخارا تار سکے گی۔

”میں نے اٹکل سے کل کہا بھی تھا کہ آٹھی کی دوا ختم ہونے والی ہے پھر بھی یہ بوتل خالی پڑی ہے۔ قادر اور سن دونوں ایک جیسے کیڑ لیس ہیں۔“

خالی بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے اس بار اس نے جوزف کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی نہیں بٹھلا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سے اس کا زیادہ وقت جوزف کے گھر میں ہی گزرتا تھا کہ اس کی اپنی ماں تو تو لیا فیکٹری میں

ہمیشہ قابل احترام جانا ہے اور آج آپ کی داستان سننے کے بعد آپ کی عزت میری نظروں میں اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ کی پیدائش پر میں کوئی بات نہیں کروں گا کہ جس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں تھا اس کی بنیاد پر آپ کو قصور وار یا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ میں انسان کو اس کے ذاتی کردار کی بنیاد پر مقام دینے کا قائل ہوں اور آپ نے اتنے نامساعد حالات میں اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک معزز اور قابل احترام خاتون ہیں بلکہ میری نظر میں تو آپ ان خواتین سے بھی زیادہ قابل احترام ہیں جو گھروں کی چار دیواری میں محفوظ ہیں اور کبھی کسی غیر مرد نے ان کی صورت نہیں دیکھی۔ ان خواتین کو تو ان کی عزت کے رکھوالے میسر ہیں اس لیے ان کی پاک و امنی ایسی قابل ذکر نہیں۔ میرے نزدیک تو عزت و مقام کی اصل حق وار آپ جیسی خواتین ہیں جو زمانے کے سرد کرم میں بھی خود کو بڑی احتیاط سے بچائے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے میں آپ کو صرف روایتی طور پر آپ کے پیشے کے اعتبار سے ہی سبتر کہہ کر نہیں پکاروں گا بلکہ اپنی منگنی بہن کی طرح ہی محسوس کروں گا۔ آج سے آپ کو اختیار ہوگا کہ ایک بہن کی طرح مجھ پر اپنا حق جمائیں اور جو چاہیں فرمائش کریں۔“ جوں جوں فاروق بولتا جا رہا تھا، کیتھرائن کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا۔

”تھینک یو سو مچ۔“ فاروق خاموش ہوا تو وہ اپنے لڑتے ہونٹوں سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔

”کسی شکر بے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آج سے آپ کا مجھ پر حق ہے اور جہاں حق ہو وہاں شکر یہ نہیں ادا کرتے۔ آئی سمجھ میں۔“ فاروق نے اسے ٹوکا تو اس نے یوں مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اٹھاتی جنبش دی کہ اس کی آنکھوں میں شفاف پانی چمک رہا تھا۔

”ارے یہ کیا؟ گنگو کے درمیان جائے بن کر آئی بھی اور ٹھنڈی بھی ہو گئی۔“ موضوع تبدیل کرنے کے لیے فاروق نے میز پر رکھی چائے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ٹرے ملازم رکھ کر اس کے اشارے پر خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ اس نے کیتھرائن کی گنگو میں دغل اندازی کو نامناسب جان کر چائے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یوں بھی وہ کوئی ایسی خوشگوار داستان نہیں مچی جو چائے کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے سنی جاتی۔ کیتھرائن اسے اپنی روح کے زخم دکھا رہی تھی اور اتنے نازک موضوع پر بات کرتے ہوئے کھانے پینے کا سلسلہ کوئی بے حس انسان ہی جاری رکھ سکتا تھا۔

مشقت کی بھٹی میں مجلس کر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایندھن فراہم کرنے میں ہی دن بتا دیتی تھی۔ ایسے میں جوزف کا گھر ہی اسے تنہائی اور خوف سے پناہ دینے کا سبب بنا تھا۔ بچپن کی قربت کی وجہ سے اسے جوزف کی ماں سے محبت ہی بہت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی بیماری پر شدت سے پریشانی محسوس کر رہی تھی حالانکہ وہ اکثر ہی بیمار رہتی تھی۔ بے درپے پیدا ہونے والے تین مردہ بچوں نے اس کے جسم سے ساری توانائی چھوڑ لی تھی اور یہ ناتواں جسم بہت آسانی سے کسی بھی بیماری کو اپنے اندر جگہ دے دیتا تھا۔ آج کل بھی وہ سوکھی بخار کا شکار تھی۔ دو دن پہلے اسے ڈاکٹر سے دوا دلوائی گئی تھی۔ دوا کے اثر سے اس کا بخار کم بھی ہو گیا تھا لیکن اس سے قبل کہ بخار ختم ہوتا، دوا ختم ہو گئی اور نتیجتاً اس کا بخار دوبارہ شدت اختیار کر گیا۔ جوزفین اسکول سے واپس آنے کے بعد زیادہ تر وقت وہیں گزارتی تھی۔ آج کل اسکول میں کرسس کے سلیٹے میں چھٹیاں دے دی گئی تھیں اس لیے اس کا سارا وقت ہی وہیں گزر رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ جوزف کے گھر کا سارا کام بھی نٹا دیتی تھی اور جواب میں خوب دعائیں سنیتی تھی۔ ”آج جوزف گھر تو آئے، چھوڑوں گی نہیں اسے۔“ پانی کی پٹیاں رکھنے کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اس نے اپنے دل میں عزم کیا۔ پٹیاں رکھتے رہنے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور بخار کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آتی چلی گئی۔ بخار کم ہوا تو اس نے آٹھی کو ولایا کھلایا۔ ولایا کھانے کے بعد وہ سو گئی۔ جوزفین کھانے کے برتن دھو کر رکھ رہی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے چھوٹے سے آئینے میں آکر دیکھا۔ حسب توقع جوزف تھا جو کھلے دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا موجود تھا اور وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔

”گڈ گاڈ تو ادر ہی ہے۔ اپن تیرے بارے میں ہی سوچتا ہوا آ رہا تھا۔“ دبلے پتلے سانولے سے جوزف کی مسیں بھیگنے لگی تھیں۔ لڑکپن کی حدوں کو چھوڑتے جوزف کی آنکھوں کے رنگ بھی بدلنے لگے تھے اور جب وہ جوزفین کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو جاتا تھا۔

”کدھر تھے تم۔ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہو۔ کسی کا نہیں تو اپنی ناں کا تو خیال کرو۔ وہ بے چاری بیمار ہے اور تم باپ بیٹے کو اتنی فرصت نہیں کہ اسے دوا ہی لا کر دے دو۔“ جوزف کے پر جوش اور مسرت بھرے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس پر بگڑی۔ اس کے غصیلے انداز

پر جوزف کا چہرہ پیکا پڑ گیا اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھا۔ ”کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔“ جوزفین کڑے تیوروں کے ساتھ اس کے پیچھے لگی۔ جوزف کے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا اور ماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر دوا کی بوتل اور چند گولیاں باہر نکالیں۔

”ماں کی دوا ہے۔ جاگ جائے تو اسے پلا دینا۔“ دونوں چیزوں کو میز پر رکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ جوزفین کو احساس ہوا کہ اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت تھا اور جوزف کو اس سے اتنے سخت رویے کی امید نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اتنا زیادہ ادا اس ہو گیا ہے۔ اپنے رویے کی تلافی کے لیے وہ بھی جوزف کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چھوٹے سے آئینے کے ایک کونے میں بنی چبوترے نما جگہ پر بیٹھ کر ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ جوزفین نے کبلی بارنوٹ کیا کہ اس کا حلیہ بہت میلا ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شہر بھر کی سڑکوں کی خاک چھان کر آیا ہو۔

”یہ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو رہا ہے؟ بتانا کیوں نہیں کہ کدھر گیا تھا؟“ جوزفین اس کے قریب ہی جا کھڑی ہوئی اور اس سے دریافت کیا۔ وہ کوئی جواب دے بغیر منہ پر پانی کے چھیکے مارتا رہا۔ منہ ہاتھ دھونے سے قاریغ ہونے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ دیوار پر لگی کیلن پر ٹنگے اپنے کپڑے کے تھیلے تک گیا۔ کمرے سے نکل کر اس نے تھیلا اس کیلن پر لٹکا دیا تھا۔ لٹکے ہوئے تھیلے کو اتار کر اس نے اس میں سے تھیلے کاغذ میں لپیٹی کوئی شے نکالی اور خاموشی سے جوزفین کی طرف بڑھا دی۔ جوزفین نے عالم حیرت میں اسے تمام لیا۔

”یہ کیا ہے؟“ اس کے مختصر سوال میں بھی حیرت تھی۔ ”اپن تیرے لیے کرسس کا گفٹ لایا ہے۔“ جوزف نے سنجیدگی کے ساتھ اسے بتایا تو وہ حیرت اور شوق کے طے جلے تاثرات کے ساتھ چمکیلے کاغذ میں لپٹے قحفے کو کھولنے لگی۔ کاغذ اتارنے پر اندر سے ایک خوب صورت لانگ اسکرٹ اور بلاؤڈ نمودار ہوا۔

”ویری ہونی فل۔“ جوزفین نے بہت شوق سے اس لباس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھا۔ وہ بہت زیادہ مہنگا لباس نہیں تھا لیکن خوش نما ضرور تھا اور جوزفین کے ساتھ لگ کر تو اور بھی خوب صورت لگ رہا تھا۔

ناراضی اور سنجیدگی کا اظہار کرتے جوزف کی آنکھوں میں بھی چمک سی لہرا گئی لیکن دانستہ اس نے جوزفین کے

آئے؟“
”فکر مت کر۔ اپن نے چوری نہیں کی ہے۔“

جوزف نے اسے جواب دیا۔

”میں نے یہ کب کہا ہے۔ مجھے معلوم ہے میرا جوزف کبھی غلط کام نہیں کرتا ہے لیکن مجھے پتا تو ہونا چاہیے تاکہ تو نے میرے لیے کیسے گفت خریدی ہے؟“ اس کے لیے اپنے سوال کا جواب ضروری تھا۔ وہ دونوں ہی جس طے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں ایسی عیاشی کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ایک دوسرے کو ایسے تحائف دینا تو دور کی بات، انہیں تو تن و حانچنے کے لیے بھی مہینوں کے استعمال کے بعد جسم پر گل پھٹ جانے والے پہنند زدہ لباس کی جگہ بڑی مشکل سے دوسرا لباس میسر آتا تھا۔

”ادھر بیچ کے پاس ایک بہت بڑی بلڈنگ بن رہی ہے۔ ادھر ہر وقت لیبر کی ضرورت رہتی ہے۔ اپن بہت دنوں سے ادھر کام کر رہا تھا۔ آج پے منٹ ملا تو ماں کے لیے دوا اور تیرے لیے یہ گفت خرید لیا۔“ اس بار جوزف نے نہایت سادگی سے اسے بتا دیا۔ اس کا جواب سن کر جوزفین جو کہ اس وقت اس کے نوالہ بناتے ہوئے ہاتھ کو ہی دیکھ رہی تھی جان گئی کہ جوزف کی انگلیوں پر موٹی موٹی کانٹھیں سی کیوں بن گئی ہیں اور وہ شام ڈھلے خاک آلود لباس اور جسم کے ساتھ گھر کیوں لوٹتا ہے۔

”تم نے میرا کس کس کا گفت خریدنے کے لیے اتنی محنت کی؟“ اس کے اچار کا سوچ کر جوزفین کی پلکیں بھیگ گئیں اور اس نے جوزف کے دنوں ہاتھ تھام لیے۔ قریب سے دیکھنے پر اس کے ہاتھوں پر سخت گانٹھوں کے ساتھ چند پھٹ جانے والے چھالے بھی نظر آ رہے تھے۔

”کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی محنت کرنے کی؟ میں وہ کپڑے پہنوں گی تو تمہارے ہاتھوں کے چھالے یاد کر کے رونا آ جائے گا۔“

”تو اچھا لایا ہوا ڈریس پہنے گی تو تجھے اس ڈریس میں دیکھ کر اپنے زخموں کا درد خود ہی ٹائیں ٹائیں فیش ہو جائے گا۔“ جوزف نے ہنس کر اس کی بات کا جواب دیا۔

”تم بہت برے ہو جوزف۔“ جوزفین نے اس انداز میں یہ جملہ کہا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ جوزف نے اس کی بات سن کر قہقہہ لگایا اور بولا۔

”اپن برا ہی ٹھیک ہوں۔ تو ابھی ہے اپن کے لیے

اتنا کافی ہے۔“ جوزفین نے اس کی بات سن کر اس کی ہنسی میں ساتھ دینا چاہا لیکن آنکھوں سے برستے آنسوؤں کو نہ

سامنے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا اور باور چمکا خانے میں جا کر جو ہے پر رگھی پٹی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ وال پکی ہوئی تھی۔ اس نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس کے پیچھے ہی باور چمکا خانے میں آجانے والی جوزفین نے اس سے پہلے ہی پلیٹ اٹھالی اور قدرے رعب سے بولی۔
”پیچھے ہٹو۔ میں کھانا نکال کر دیتی ہوں۔“

جوزف نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ جوزفین نے اس کے لیے پلیٹ میں دال نکالی اور دوسری پلیٹ میں کپڑے میں لپیٹی ہوئی روٹیاں رکھنے کے بعد دونوں پلیٹوں کو سلور کی ایک پرانی سی پلیٹ میں رکھ کر ساتھ ہی ایلومینیم کے گلاس میں پانی بھر کر رکھ دیا۔ اسے کھانا نکالتے دیکھ کر جوزف اندر کمرے میں جا بیٹھا تھا۔ اس کمرے کے فرش پر ایک پھٹی ہوئی درمی پھیٹی تھی۔ درمی نسبت گھر میں موجود ہر شے کی خشکی سے ظاہر تھا کہ یہاں غربت و افلاس کے ڈیرے ہیں اور گھر کے کمین بمشکل زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں۔ جوزفین نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے لاکر رکھ دی پھر خود بھی مقابل بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی۔

”آئی ایم وری سنوری جوزف۔ میں تم سے زیادہ ہی سخت بول گئی۔ اچھی آئی کو بہت تیز بخار تھا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔“

”نال تو نے پکائی ہے نا۔ بہت نیسٹی ہے۔“ جوزف نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے منہ میں جانے والے پہلے لقمے کے ساتھ ہی تعریفی تبصرہ کیا۔

”تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا جوزف؟“ وہ خود موضوع بدلنے کو تیار نہیں تھی۔

”اپن پہلے بھی تجھ سے ناراض ہوا ہے کیا۔ بس تھوڑا سا سید ہو گیا تھا۔“ جوزف نے کھانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بے نیازی سے اس کی بات کا جواب دیا۔

”تمہیں سید کیا، اسی کے لیے تو سوری کر رہی ہوں۔“

اس نے مصومیت سے کہا تو جوزف مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا اور اپنے ہاتھ سے نوالہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ”تجھے اپنا گفت کیسا لگا؟“

”بتایا تو ہے ویری بیوٹی فل۔“ اس نے نوالہ چبا کر حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اسے جواب دیا پھر قدرے جھجکتے ہوئے بولی۔

”اتنا خوب صورت ڈریس تو خاصا کوسٹلی ہوگا نا جوزف۔ تیرے پاس اس کے لیے پیسے کہاں سے

روک سکی۔ آنسو جو لیٹ کے بھی نہیں رک رہے تھے۔ ماں کی ہدایت پر تصور کی آنکھ سے اس ڈائری کو پڑھتی وہ گویا ہر منظر کا حصہ تھی۔ جب ہی تو محسوس کر سکتی تھی کہ دو ازل سے ایک دوسرے کی محبت میں جتلا افراد پر جدائی کی گھڑیاں کتنی بھاری رہتی ہوں گی جب ہی تو اس کے باپ نے جو زمین کے جاتے ہی خود بھی بہت جلد رختہ سفر باندھ لیا تھا۔

☆☆☆

وہ حسب عادت صبح سویرے جاگ گیا۔ معمول کے مطابق ہلکی پھلکی ورزش بھی کر لی اور غسل سے بھی فارغ ہو گیا۔ گولوا گرچہ صبح جلدی جانے کا عادی تھا لیکن آج اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ رات وہ دیر تک کی تھراؤن کے ساتھ لوڈو کھیلتا رہا تھا شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ کی تھراؤن اور اس کے بیچ ابھی دوستی ہوئی تھی۔ کی تھراؤن اس کے ساتھ بالکل چھوٹے بھائی کی طرح پیش آتی تھی۔ وہ خود بھی کی تھراؤن کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کی تھراؤن فاروق کا خیال رکھتی تھی۔ ابتدا میں شاید اس نے کی تھراؤن کو قیہ کے طور پر بھی لیا تھا لیکن اس کی طرف سے کوئی منفی رد عمل نہ آنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سے قبول کرنا جا رہا تھا جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے جان لیا تھا کہ وہ چاہے فاروق کا کتنا بھی خیال رکھے لے کی تھراؤن کی طرح پیشہ ورانہ طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر سکتا اور اس کا وجود فاروق کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ بہر حال اب ان کی ابھی بھر ہی تھی اور دونوں اپنا مشترکہ مشن (فاروق کا خیال رکھنا) انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بھی تحمل مل گئے تھے۔ فاروق غسل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کی تھراؤن کے کمرے کا دروازہ بھی ابھی تک بند تھا۔ صبح ان کی ملاقات ناشتے کی میز پر ہی ہوتی تھی۔ ناشتے کے بعد کی تھراؤن اس کا معائنہ کرنے کے بعد دوائیں کھلانے کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ ابھی ناشتے میں کچھ وقت باقی تھا۔ اس نے تازہ ہوا میں سانس لینے کے ارادے سے ادپری منزل کی طرف جانے والی سیزھیوں کا رخ کیا۔

”کوئی خدمت سر۔“ راستے میں اسے ملازم مل گیا۔

”میں ادپری میز پر جا رہا ہوں۔ وہیں ایک پیالی چائے لے آؤ۔“ اس نے ملازم کو ہدایت دی اور خود سیزھیاں چڑھنے لگا۔ کشادہ میز پر سرخ گملوں میں قسم قسم کے پودے لگے ہوئے تھے۔ بالکل کنارے پر ریٹنگ کے ساتھ رکھے بڑے سے گملے میں کوئی تیل لگی ہوئی تھی۔ یہ تیل اتنی پھیل گئی تھی کہ اسے پوری ریٹنگ پر پھیلا دیا گیا تھا۔

تیل میں ننھے ننھے سرخ و سفید پھول لگے ہوئے تھے جن کی دگر سے ترچھی سرخ چھتوں والا یہ بنگلا دیکھنے والوں کو اور بھی مسحور کن لگتا تھا۔ فاروق آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ریٹنگ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شملہ کی صبح کی تازہ ہوا میں عجیب سی خوشبو رہتی ہوئی تھی۔ آنکھیں دور تک جو بھی منظر دیکھ پاتی تھیں، ان میں سب سے نمایاں شے ہریالی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے خوب صورت منظر بھی نہیں دیکھا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اتنے خوب صورت منظر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس کا ذہن ہمیشگی کی اس نیڑھی میڑھی بدوض مکانوں والی بندگی کے خیال میں ڈوبا ہوا تھا جس کے ایک چھوٹے سے مکان سے جو لیٹ برآمد ہوتی تھی اور وہ اسے اس وقت تک دیکھتا رہتا تھا جب تک وہ اڈے کے سامنے سے گزر کر بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی۔ وہ چند لمحوں کی دید اس کے پورے دن کو خوشگوار بنا دیتی تھی۔ یہاں اس کے ارد گرد اتنی خوب صورتی بکھری ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ اس ایک لمحے کی دید کو یاد کرتا تھا جو اس کے دن کو خوب صورت بنا دیتی تھی اور دل خود بخود ہی یہ خواہش کرنے لگتا تھا کہ کاش اس کے ساتھ جو لیٹ بھی یہاں ہوتی تو شملہ کی خوب صورتی مکمل ہو جاتی۔ اپنی اسی خواہش کے زیر اثر وہ بیٹھنے کی طرف آنے والے راستے پر نظر سے جھانکے ہوئے تھا کہ اس نے ایک سرخ رنگ کی گاڑی کو اس طرف آتے دیکھا۔ گاڑی دور تھی لیکن اس کا رخ بیٹھنے کی طرف ہی تھا۔ فاروق کو حیرت ہوئی کہ اتنی صبح کون آ رہا ہے۔ وہ بے ساختہ ہی سیزھیاں اتر کر نیچے بیٹھ گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ عین اسی وقت بیٹھنے کے سامنے رکنے والی گاڑی کا دروازہ بھی کھلا اور اس میں سے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس خود گاڑی چلا کر آنے والی لڑکی نے فاروق کی طرف دیکھ کر ہنسی اچکائی اور قدم قدم چلتی اس کے سامنے آکھڑی ہوئی۔

”آپ کی تعریف؟“ بے ساختہ ہی فاروق کے لبوں سے سوال پھسلا۔

”یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟“ اس نے بے حد کڑے تیوروں کے ساتھ یہ سوال کر کے فاروق کو حیران کر دیا۔

زندگی کے تلخ و ترش حقائق اور
محبت کی فریب کاریوں کا مزید
احوال اگلے ماہ ملاحظہ فرمائیں

کارنامہ

تنویر ریاض

سراخ رساتی اس کا روزگار تھا اور بال کی کھال نکالنا اس کی فطرت... اور یہی خوبی اس کے کاروبار کو چمکار رہی تھی مگر بعض اوقات ناکامی بھی انسان کو ایک جنوں خیزی عطا کرتی ہے جس کے ذریعے وہ کامیابی کی منزل کو چھو لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا جب کیس اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا تو جاتے جاتے اس نے ایک ایسا وار کھیلا کہ بازی یکدم پلٹ گئی۔

جھوٹا بھرم قائم رکھنے والے ایک سراخ رساں کا کارنامہ

ڈی۔ بیٹری نے فون کر کے ایک تیا کام سوئپ دیا تھا۔ اس نے تفصیل تو نہیں بتائی بس اتنا کہا کہ اس کا ایک گاہک اپنے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم میں ایک مردہ طوائف کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے وہاں پہنچ کر اس بات کو چھٹی بتانا ہے کہ پولیس اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ یہ ایک بہت مشکل اور پیچیدہ صورت حال تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اپارٹمنٹ میں لاش موجود ہو اور پولیس اس پر شک نہ کرے لیکن ڈی۔ بیٹری کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل

Downloaded From
Paksociety.com

READING
SECTION

تعمیل کیسے کی جائے پھر میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔

”پولیس والے اپنی کارروائی تو ضرور کریں گے۔“

”اس کی موت نئے کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ فرینک اس وقت وہاں موجود نہیں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا لیکن فرینک کا گزشتہ ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں۔ اس لیے پولیس اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔“

”اس کا پورا نام کیا ہے؟“

”فرینک لیٹ۔“

”میں نے کبھی یہ نام نہیں سنا۔“

”وہ کوئی بڑی پتھلی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ شاید وہ خود کو ایسا سمجھتا ہو۔ وہ چھوٹے موٹے فراڈ کرتا رہتا ہے لیکن کبھی پکڑا نہیں گیا۔“

”وہ سمجھتا ہے کہ پولیس اسے اس قتل کے الزام میں گرفتار کرے گی۔“

”فرینک کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ ساری پولیس فورس اسے اس قتل کے الزام میں پھانسنے پر تلی ہوئی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے۔“

”اور ہمارے لیے گاہک کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ صحیح کہتا ہے۔ جب اس عورت کی موت واقع ہوئی تو اس وقت وہ وہاں ایسا کیسی تھی؟“

”ہاں لیکن میری اس سے صرف دو منٹ ہی بات ہو سکی اس لیے میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ وہ اور اس کے کچھ دوست گزشتہ شب اس عورت کو سنیڈر تکم والے گھر میں لے کر آئے تھے۔ آج وہ اسے وہیں چھوڑ کر کوچ کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ وہ فرش پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے پاس کوئی نشہ آور شے ہوگی۔“

”فرینک کو کس بات کا ڈر ہے؟“

”وہ صرف یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہے کہ پولیس والے اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کریں۔ اسے اس عورت سے کوئی عداوت نہیں تھی اور نہ ہی اس کی جانب سے کسی بے پروائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ فرینک کے خیال میں یہ محض ایک حادثہ ہے۔“

”گویا میں وہاں جا کر پولیس کو اس سے وہ رر رکھنے کی کوشش کروں۔ یہ کام خاصا مشکل نظر آتا ہے۔“

”تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ تمہارے بچنے سے پہلے

پولیس کو فون نہیں کریں گے۔ اگر فرینک کوئی گڑبڑ کرے تو مجھے فون کر دینا لیکن امید نہیں کہ وہ مسئلہ بنے گا۔ وہ ہیروئن استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی اس نے طوائف کو مارا ہے۔ یہ محض اس کی بد قسمتی ہے کہ یہ واقعہ اس کے گھر میں پیش آیا۔“

”بے چارہ فرینک۔ یہ حادثہ بھی اسی وقت ہوتا تھا جب اس کا کاروبار ترقی کر رہا تھا۔“

”جان! تم اس کی ہاں میں ہاں ملانا۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کرنے کی کوشش مت کرنا۔“

☆☆☆

مکان کے باہر کا منظر بڑا دل آویز تھا۔ بڑی سڑک سے صدر دروازے تک سرخ جبری کار راستہ بنا ہوا تھا جس کے دونوں اطراف سرسبز پودے لہلہا رہے تھے۔ باہر ایک خوب صورت لان موجود تھا جس کے درمیان ایک فوارہ بنا ہوا تھا۔ صدر دروازے پر چلی حروف میں لی ٹیک کے الفاظ کندہ تھے۔ دروازہ کھولنے والا فرینک ہی تھا۔ اس نے ایک زرد گاؤن کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا۔ ”وقت بالکل نہیں ہے۔ ہمیں جلد از جلد کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔“

اس کے بولنے سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لندن کا رہنے والا ہے لیکن اب اس کے لہجے میں خاصی تبدیلی آچکی تھی۔ وہ لیونگ روم کی طرف بڑھا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل گیا۔ اس کی عمر پچاس کے لگ بھگ ہوگی۔ لیونگ روم میں اس کے دو مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے فخریہ انداز میں ان کا تعارف کروانے ہوئے کہا۔ ”ان سے ملو۔ یہ ہیں میرے وکیل مسٹر ویرون۔“

”اگر یہ تمہارا وکیل ہے تو پھر تم نے ڈیمٹری کو فون کیوں کیا تھا؟“

فرینک کھیا نے انداز میں بولا۔ ”ویرون اس قسم کے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔“

میرا اندازہ تھا کہ کمرے میں موجود عورت ویرون کی بیوی ہوگی۔ فرینک نے اس کا نام ریکا بتایا تھا لیکن تعارف کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ ویرون سے کم از کم دس سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس نے بے پروائی سے۔۔۔

میری طرف دیکھا اور دوبارہ اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جمادیں۔ وہ ایک چمکیلی وڈ پیر تھی اور کھڑکی سے ہلکی ہلکی ہوا کمرے میں آرہی تھی پھر میری نظر کاؤچ پر پڑی لڑکی کی لاش پر گئی۔

وہ آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بازو گردن

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کے نیچے اور دوسرا سینے کے آگے پھیلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مری نہیں بلکہ گہری نیند سو رہی ہے۔ فریک بولا۔ ”ڈیپٹی نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ مجھے تمہاری ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟“

”ہاں۔ مجھے پولیس پر نظر رکھنی ہے۔“

”بالکل ٹھیک..... اس لاش کی یہاں موجودگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس والے اس جگہ کو کھیل کا میدان سمجھ کر یہاں دندناتے پھریں۔ وہ ایک وفد پہلے بھی مجھے گھیر چکے ہیں۔ ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ وہ مجھے قابو نہیں کر سکتے کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟“

”میں کوئی جواب دینے کے بجائے اس لڑکی پر جھک گیا۔“

”کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟“ فریک نے اپنی بات دہرائی۔

لڑکی نے مختصر سا لباس پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کئی حصے عریاں نظر آ رہے تھے جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ اپنے پیٹے میں ماہر تھی اور اس کا زرخ عام طوائفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔

”جان! میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔“ فریک نے جھلاتے ہوئے کہا۔

”اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟“ میں نے پوچھا۔

”ہیری۔“ فریک نے منہ بتاتے ہوئے کہا۔

لڑکی کی لاش کے برابر میں ہی کافی کی میز پر ایک استعمال شدہ ایش ٹرے رکھی ہوئی تھی جس میں ایک سرنج پڑی ہوئی تھی جبکہ اس کی سوئی نیچے فرش پر گر گئی تھی۔

”کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے یہ ہیرا کن کہاں سے حاصل کی؟“

”نہیں۔“

”کیا تم اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھے جب اس نے یہ خریدی تھی؟“

”اوه میرے خدا۔“ اس نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ ”ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہے۔“

”فریک کا فیشیات سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا۔ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں۔“ ورون نے میگزین پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔

مجھے اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تاہم میں نے اسے نظر اچھا کرتے ہوئے فریک کو مخاطب کیا۔ ”تم اس وقت

یہاں نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟“

”نہیں۔ جب ہم گھر سے باہر گئے اس وقت وہ ٹی وی... دیکھ رہی تھی۔“

”واپس آنے کے بعد تم نے کسی چیز کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟“

”ہم نے صرف ٹی وی بند کیا تھا۔“

”تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ مر چکی ہے؟“

فریک طنزیہ انداز میں بولا۔ ”لوگ عام طور پر سوتے وقت اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھتے۔“

”میں نے اس کی نبض دیکھنے کی کوشش کی تھی۔“ ورون میگزین کا صفحہ پلٹتے ہوئے بولا۔ ”لیکن وہ مر چکی تھی۔“

”تم اس وقت کہاں تھے جب اس کی موت واقع ہوئی؟“

”ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیچ پر تھے۔“

”کہاں؟“

”سیلو یومس۔“ اس نے ایک مشہور ریستوران کا نام بتایا۔

”تم اس لباس میں سیلو یومس گئے تھے۔“ میں نے اس کے زرد گاؤن پر نظر ڈالتے ہوئے کہا جس کے نیچے اس نے کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔

”نہیں۔ میں دھوپ سینکنے چھت پر چلا گیا تھا۔ مجھے تمہارے انتظار میں وقت تو گزارنا ہی تھا۔ جانتے ہو میں نے ڈیپٹی کو ایک گھنٹا پہلے فون کیا تھا۔“

”تمہاری وہاں کسی سے ملاقات ہوئی تھی؟“

”وہ ایک بزنس میٹنگ تھی۔“ اس نے آنکھیں بند کر کے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ”وہ میرے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔“

”کمال ہے۔ تم اپنے گھر پر ایک طوائف کو چھوڑ کر دوستوں سے ملنے چلے گئے۔“

”وہ کوئی اٹھاتی گیری عورت نہیں تھی جو یہاں سے کچھ لے کر چلی جاتی۔ اس کا معاوضہ بہت زیادہ ہے اور میں اس کے لیے ایک ٹکڑی اسامی تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ابھی اسے ادا کی بھی نہیں کی تھی اور جانتا تھا کہ ہمارے

واپس آنے تک وہ یہیں ہوگی۔“

”کیا یہ پرس اسی کا ہے؟“

”ہاں۔“

”تم نے اسے کھول کر تو دیکھا ہوگا؟“

”میں ایسا کیوں کرتا۔“ فریک نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ ”مجھے اس کا پرس کھول کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی۔“

فریک کے بجائے یہ فریضہ مجھے انجام دینا پڑا۔ پرس میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں تھیں۔ ماسوائے ایک پچاس ڈالر

کے نوٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کے جس پر اس کا نام اجمیلا کرزن لکھا ہوا تھا۔
 "اس کا اصل نام اجمیلا ہے۔" میں نے لائسنس پر نظر سبھاتے ہوئے کہا۔

"یہ میرے لیے ایک اطلاع ہے۔"
 "اب تم پولیس کو فون کر سکتے ہو۔"

فریک نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فون کی طرف بڑھ گیا۔

جب وہ فون پر تفصیل بتانے لگا تو میں ریکا کے برابر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف مڑی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کوٹ کے نیچے نہانے کا لباس پہن رکھا تھا۔
 "گو یا تم بھی سن جاؤ لے رہی تھیں۔" میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔

اس نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے یقین نہ ہو کہ میں نے اس سے کچھ کہا ہے۔ "نہیں....." یہ کہہ کر اس نے اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا۔

فریک ریسوررنگتے ہوئے بولا۔ "وہ لوگ راستے میں ہیں۔" یہ کہہ کر وہ ویرون کے آگے سے گزرا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے وقت گزاری کے لیے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ویرون نے میگزین فرش پر پچا اور بولا۔

"کیا آج کا قبیلہ اسی کارروائی کی نذر ہو جائے گا؟"
 میں نے کہا۔ "شاید..... وہ پورے گھر کی تلاشی لیں گے۔ تم سب لوگوں کا بیان بھی لیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ وہ یہ سب کام اطمینان سے ہی کریں گے۔ انہیں کوئی جلدی تو ہے نہیں۔"

ویرون نے ناک پھلاتے ہوئے اپنا منہ دوسری جانب موڑ لیا پھر اسے کچھ خیال آیا اور وہ بولا۔

"کیا وہ پورے گھر کی تلاشی لیں گے؟"
 "شاید..... صرف تلاشی ہی نہیں بلکہ تصویریں بھی اتاریں گے۔"

"کیا وہ ہماری تلاشی بھی لیں گے؟ میرا مطلب ہے، ہماری ذاتی اشیا بھی....."

فریک نے بے جان سا قہقہہ لگایا اور بولا۔ "ہم پولیس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے ویرون۔ وہ جو چاہیں کریں۔ تم کیا سمجھتے ہو، جان یہاں کیوں آیا ہے۔"

ویرون کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا جس کی جانب فریک نے ابھی تک توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے پچکانا انداز میں کہا۔ "کیا وہ میری چیزوں کی بھی تلاشی لیں گے؟"

میں نے کہا۔ "یقیناً۔"

فریک اب بھی ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا۔ "بہتر ہوگا کہ تمہارے بریف کیس میں سے کوک کی بولنگ برآمد نہ ہو۔"
 "میں فریک۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔"
 فریک اس کی جانب جھکا اور بولا۔ "کیا مسئلہ ہے ویرون؟"

ویرون بڑبڑایا۔ "بریف کیس میں....."
 "تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟" فریک اچھٹے ہوئے بولا۔

ویرون نے کہا۔ "تمہیں معلوم ہے کہ جیسے تمہیں لنگ کے دوران کیا دیا تھا؟"

فریک مذاق اڑانے کے انداز میں بولا۔ "وہ ایک معاہدہ ہی ہے۔ کوئی بم تو نہیں۔"

"اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس کی ٹیکس اسکیم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔"
 "پھر؟"

"اور اگر اس اسکیم میں کوئی گھپلا ہوا تو....."
 فریک اب بھی اس کا مطلب نہیں سمجھا اور سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔

"ایسی صورت میں تم پر بھاری جرمانہ ہوگا اور تم واد لیا ہو جاؤ گے۔"

فریک کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے حلق سے ایک چٹخ نکل گیا۔ "نہیں۔"

ویرون بولا۔ "میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کیا سچ ہے۔"
 "ہمیں اس سے بچنا چھڑا لینا چاہیے۔" فریک بولا۔

"ہم ایسا نہیں کر سکتے۔"
 "پولیس کے آنے سے پہلے ہمیں اسے جلا دینا ہوگا۔"

"ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔"

"ہم جیسے سے اس کی دوسری نقل لے سکتے ہیں۔"

"اس لڑکی کی موت کے بعد تمہاری پوزیشن بہت نازک ہو چکی ہے۔ اگر ہم نے یہ معاہدہ ضائع کر دیا تو جیسے یہ سودا منسوخ بھی کر سکتا ہے۔"

دونوں ہی پریشان نظر آ رہے تھے لیکن میں ان کی پوری گفتگو نہیں سن سکا۔ مجھے لگا کہ وہ ادورا کی تنگ کر رہے ہیں۔ فریک بے چینی سے کمرے میں ٹھپکنے لگا پھر ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

”ہم اسے کسی ایسی جگہ چھپا دیتے ہیں جہاں ان کی نظر اس پر نہ جائے۔“

دیرون اب قدرے چرسکون ہو چکا تھا۔ اس نے فریک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ”میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کاغذ ان کے کسی کام کا نہیں۔ ہاں اگر ٹیکس والے تلاشی لے رہے ہوتے تو یہ کاغذ ضرور قبضے میں لے لیا جاتا۔“

”پولیس کے بارے میں کوئی بات بھی یقین سے نہیں کہی جاسکتی۔“ فریک مضطربانہ انداز میں بولا۔

دیرون نے بریف کیس اٹھایا اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کی فائل نکال کر اپنے زانو پر رکھتے ہوئے بولا۔

”میں اسے لے کر فوراً ہی یہاں سے نکل جاتا ہوں۔“

ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی گاڑی کا انجن بند ہونے کی آواز آئی۔ ریکانے کھڑکی میں سے جھانکا اور بولی۔ ”وہ آگئے۔“

فریک تیزی سے میری جانب بڑھتے ہوئے بولا۔

”جان انہیں اسی لیے بلا یا گیا تھا۔ تم ہی بتا سکتے ہو کہ اسے کہاں رکھا جائے کہ اس پر ان کی نظر نہ پڑ سکے۔“

”میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ کس طرح پولیس کو دھوکا دیا جائے۔“

”یہ شخص ایک معاہدہ ہے کوئی خون آلود چاقو نہیں۔ تم وہی کرو جس کا تمہیں معاوضہ دیا جائے گا۔“

”میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں اور تمہیں صرف یہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ تعاون کرو۔“

فریک نے گہری سانس لی اور دیرون کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ ”میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی پرائیویٹ سرائے رساں ایسی بات کہہ سکتا ہے۔“

یہ کہہ کر اس نے دیرون سے سرخ فائل لے لی۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔

”ٹھیک ہے مسٹر۔“ فریک میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ”تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ پولیس سے نمٹ سکو تو جاؤ اپنا کام کرو۔ میں اسے سنبھال لوں گا۔“

یہ کہہ کر وہ فائل سمیت لیوٹک روم سے چلا گیا۔ میں نے کارنس پر سے چابی اٹھائی اور مرکزی دروازہ کھول دیا۔

☆☆☆

آنے والوں میں ایک ساوہ لباس اور دو یونیفارم میں ملیوس تھے۔ میں نے میزبانی پر قدم رکھتے ہی اپنے حلقے میں دروازہ لاک کر دیا اور سرائے رساں کی طرف

خوشی

ایک خاتون کا شوہر ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ شوہر کی موت کی خبر لے کر اس کا دوست اس کے گھر گیا۔ ”شکر ہے، خدا یا!“ بیوی نے کہا۔

”آپ اپنے شوہر کی موت پر شکر ادا کر رہی ہیں؟“ دوست نے حیرت سے پوچھا۔

”وہ اس لیے کہ کم از کم آج سے مجھے پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔“

برجستہ

مسافر، اسٹیشن ماسٹر سے۔ ”اگر سب گاڑیاں لیٹ ہیں تو اس ٹائم ٹیبل کا کیا فائدہ ہے؟“

اسٹیشن ماسٹر۔ ”ہر چیز کا ایک جواز ہے۔ اگر گاڑیاں وقت پر آنے لگیں تو آپ یہ پوچھیں گے کہ اس ڈیٹنگ روم کا کیا فائدہ۔“

☆☆☆

سنگھار میز

ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر میاں بیوی کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ نئی تھاجس کے سر پر اور ہاتھوں میں سوٹ کیس اور صندوق تھے۔

اچانک میاں نے بیوی سے کہا۔ ”تم اپنی سنگھار میز بھی لے آئیں تو اچھا تھا کیونکہ کلٹ تو اس کے اوپر ہی رہ گئے ہیں۔“

مرسلہ۔ ریاض بیٹ، حسن ابدال

ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔

”کیا تم مجھے اپنا شناختی کارڈ دکھانا پسند کرو گے؟“

اس نے میری طرف کارڈ بڑھایا اور بولا۔ ”کیا تم

فریک کے کوکیل ہو؟“

میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

”سرائے رساں اسٹیون کارنی! ابھی تک کسی نے اس کی

موت کی تصدیق نہیں کی پھر تم یہاں کیوں دوڑے چلے آئے؟“

یونیفارم والوں کی تعداد اب چھ ہو چکی تھی اور وہ سب

مجھے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کارنی نے کہا۔ ”کیا ہم اندر

جاسکتے ہیں؟“

وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میں اس کے

راستے میں آگیا اور بولا۔ ”میرا نام جان آرک ہے اور میں مسٹر ڈیوڈسٹری کی نمائندگی کر رہا ہوں جو مسٹر فریک کے وکیل ہیں۔ مسٹر فریک کو خدشہ ہے کہ گھر کی تلاشی لینے کی صورت میں ان کی پرائیویسی متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ صرف اسی صورت میں تلاشی دینے پر آمادہ ہو سکتے ہیں کہ تمام پولیس والے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تلاشی کے لیے پیش کریں۔“

وہ سب حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کارنی کی بھویں بھی تن گئیں اور وہ تیز لہجے میں بولا۔

”ضرورت پڑنے پر ہم دروازہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔“

”تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذاتی رہائش گاہ ہے اور مسٹر فریک کا کہنا ہے کہ انجیلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا کام ہو شیاری اور مستعدی سے کرو لیکن اگر تم نے گدھے کی پیٹھ پر سوئی چھونے کی کوشش کی تو تمہیں سڑک کے اس پار پھینک دیا جائے گا اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔“

”بہتر ہوگا کہ تم.....“

”جانتا ہوں کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔“ میں نے آواز نیچی کرتے ہوئے کہا۔ ”میں کوئی بڑا مطالبہ نہیں کر رہا۔ کم از کم یہ اس سے تو بہت کم ہے جو تم لوگ پچھلے دنوں کرتے رہے ہو۔“

یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ مجھے وکیل سمجھ رہے تھے کیونکہ وکیلوں نے ہی اس اسکینڈل کا پردہ چاک کیا تھا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ تاہم میں نے جو چال چلی تھی، اس کا انحصار کارنی کے ردعمل پر تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی اتالیہ گوارا نہ کرتی اور اس کے ایک اشارے پر پولیس والے دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو جاتے۔

کارنی نے اپنا سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے چمک ابھری جبکہ دوسرے سپاہی بے چینی سے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے پہلو بدل رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ دروازہ توڑنے کے لیے کارنی کے اشارے کے منتظر ہیں پھر کارنی نے اپنا چہرہ تمہاریا اور کھیانی ہنسی ہستے ہوئے بولا۔ ”مجھے امید ہے کہ کسی وکیل کے تلاشی لینے سے ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔“

میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور ایک ایک سپاہی کی تلاشی لینے لگا۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جن سے فریک کو نقصان پہنچتا۔ ڈیوڈسٹری نے ٹھیک ہی کہا

تھا، وہ فریک کو پھانسنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک میری نظروں میں آگیا جیسے مجھے اسی کی تلاش تھی۔ اس کے سینے پر کانسٹیبل راجندر کا بچ آویزاں تھا اور انگلی میں سونے کی انگلی چمک رہی تھی۔ وہ دوسرے سپاہیوں کے مقابلے میں دو تین سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور میرے پاس سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا۔

☆☆☆

پولیس والوں کو دیکھ کر فریک نے قیاس پیمانی تھی اور اب کارنی کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ فوٹو گرافر کو بھی لائے تھے جو مختلف زاویوں سے انجیلہ کی تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ اس کی دونوں کلاسیوں پر پلاسٹک کی تھیلیاں چڑھا دی گئی تھیں تاکہ اس کے ہاتھوں اور ناکھوں پر اگر کوئی ثبوت ہو تو اسے محفوظ کیا جاسکے۔ میں نے فریک کو کہتے ہوئے سنا۔ ”ایسا لگتا ہے کہ فرش پر پڑی ہوئی سوئی ہی اس کی موت کا سبب بنی۔“

لیونگ روم کے ایک کونے میں ویرون اور ریکا دو پولیس افسروں کے گھیرے میں تھے جو اپنی نوٹ بک کھولے ان سے پوچھ کچھ میں مصروف تھے۔ ریکا نے اپنا دھوپ کا چشمہ اتار دیا تھا اور اب میں اس کی آنکھیں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔

میں نے فریک کو کہتے ہوئے سنا۔ ”کیونکہ لوگ عام طور پر اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر نہیں سوتے۔“ اچانک میری نظر راجندر پر گئی۔ وہ کاؤچ کے قریب کھڑا انجیلہ پر جھکا ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے لڑکی کو غور سے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی لاش دیکھی ہو البتہ اتنی خوب صورت لڑکی کی لاش دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہوگا۔

فریک کہہ رہا تھا۔ ”میرا خیال ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔“

سراغ رساں کارنی کو اس کی یہ صاف گوئی پسند نہیں آئی۔ راجندر ابھی تک لاش پر نظر نہیں جمائے ہوئے تھا۔ کارنی اس کی طرف مڑا اور سپاہیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ ”تم سب لوگ مکان کی تلاشی لو۔“

ان کے جانے کے بعد اسپتال کا عملہ کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے انجیلہ کی لاش کو اسٹریچر پر منتقل کیا اور ایک نیلی چادری سے اس کا چہرہ اور جسم ڈھانپ کر کمرے سے باہر لے گئے۔ فریک نے جھک کر کاؤچ کا معائنہ کیا اور اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہاں کوئی دھبہ یا سلوٹ نہیں

تھی۔ ربیکا کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے پولیس آفیسر کے سوالوں سے آٹا کر ایک جماعتی لی۔ دیروں نے اس کی طرف دیکھا پھر یوں منہ بنایا جیسے وہ بھی اس سوال جواب سے بیزار ہو گیا ہو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پولیس آفیسر نے ایک اور سوال داغ دیا۔ اب میرے وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا اس لیے میں بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔

☆☆☆

اس گھر میں کئی کمرے اور باتھ رومز کے علاوہ ایک عقی گیلری بھی تھی جہاں سے ساحل سمندر کا نظارہ کیا جاسکتا تھا۔ تمام دروازوں کی چوٹیں محراب نما تھیں اور دیواروں پر سفید رنگ کیا گیا تھا اور چھت پر جا بجا جگھے لگے ہوئے تھے۔ مجھے اسٹڈی کے دروازے پر گریس کا دھبہ نظر آیا۔ ابھی میں اس جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ راجندر ہال کے آخری سرے پر واقع باتھ روم سے باہر آیا اور مجھے نظر انداز کرتا ہوا اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔

اس نے میری طرف دیکھے بغیر لکھنے کی میز کی درواز کھولی اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کے عقب میں کھڑکیوں سے باغ کا منظر واضح طور پر نظر آ رہا تھا جبکہ بائیں جانب چھت سے فرش تک دیوار گیر الماری میں مختلف رنگوں کی فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ فرینک کی زندگی ان کاغذات میں بند ہے۔

میں نے ایک نظر ان فائلوں پر ڈالی اور راجندر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ ”گو یا تم ہیری کو جانتے ہو؟“

راجندر نے میری طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ میں نے تیز لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

”کاشمیل! میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔“

”کیا؟“ وہ انجان بنے ہوئے بولا۔

”تم پہلے بھی ہیری سے مل چکے ہو؟“

اس نے اب بھی میری طرف نہیں دیکھا بلکہ درواز میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ”میں اسے نہیں جانتا۔“

”پھر اس پر نظر پڑتے ہی چونک کیوں گئے تھے؟ لگتا ہے جیسے تم نے اسے پہچان لیا ہو۔“

”تم جو چاہو سمجھ لو۔“ اس نے بے پروائی سے کہا۔

اس کی ڈھٹائی مجھ سے برداشت نہ ہو سکی اور میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ ”اس کا اصل نام انجیلا کرزن ہے لیکن تم اس نام سے اسے نہیں جانتے ورنہ اسے دیکھ کر حیران نہ

ہوتے۔ تم اسے ہیری کے نام سے پہچانتے ہو۔“

”ہاں۔“ اس نے اپنی گردن سمجھاتے ہوئے کہا۔

”تم اسے کس طرح جانتے تھے؟“

”میں نہیں جانتا کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں تو صرف تم سے مذاق کر رہا تھا۔“

”میں ایسا نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ تم اسے ہیری کے نام سے اس لیے جانتے ہو کہ وہ اپنے گاؤں میں اسی نام سے پہچانی جاتی تھی۔“

اس نے ایک بار پھر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور بدستور اپنی گردن سمجھاتا رہا۔ میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔

”میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تمہاری پہچان سے باہر تھی۔ تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ کسی لڑکی پر ایک ہزار ڈالرز خرچ کر سکو۔ میرا خیال ہے کہ اس نے تمہاری خدمات کے عوض تم پر خصوصی حمایت کی ہوگی۔ اس قسم کی لڑکیاں اپنے

دھندے میں پولیس کی مداخلت برداشت نہیں کرتیں اور تم اپنی ڈیوٹی کے دوران اس سے تعاون کرتے رہے۔“

”یہ کیا بکواس لگا رہی ہے۔“ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔

”تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، پولیس ریکارڈ سے پتا چل جائے گا کہ تمہاری ڈیوٹی کن اوقات میں اس کے علاقے میں لگتی رہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میری اس ریکارڈ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔“

وہ اپنی گردن سمجھانا بھول گیا اور چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ فکر مندی نظر آنے لگی۔ اس نے ایک دفعہ پورے کمرے کا جائزہ لیا پھر اس کی نظریں مجھ پر جم کر رہ گئیں۔

”تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟“ ذہ فرمایا۔

”تمہیں زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔“

اس نے یوں سر ہلایا جیسے وہ میری بات سے متفق ہو۔ پھر اس نے آخری درواز بھی بند کر دی۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے۔ میں اس الماری کی طرف گھوما

جہاں فائلیں رکھی ہوئی تھیں پھر میری نظریں تیسرے خانے میں رکھی ایک سرخ فائل پر جم گئیں۔ یہ وہی فائل تھی جو

دیروں نے بریف کیس سے نکالی تھی اور اسے بڑی ہوشیاری سے یہاں چھپا دیا تھا۔

میں نے راجندر سے کہا۔ ”کیا تمہیں یہ سرخ فائل نظر آرہی ہے؟“

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں انتظار کرتا رہا لیکن

اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔

جاننا چاہے گی کہ ہیری کے ساتھ تمہارے کس قسم کے تعلقات تھے۔“

راجندر نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی نظر سس سرخ فائل پر جم کر رہ گئیں۔ میں نے غور سے اسے دیکھا اور اسٹڈی سے باہر آ گیا۔

☆☆☆

لیونگ روم کے ایک کونے میں کارنی اور ویرون بائیں کر رہے تھے۔ فریک کا ڈیج پر بیٹھا وہی میگزین پڑھ رہا تھا جو پہلے ویرون کے ہاتھ میں تھا۔ میں دروازے کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ فریک نے مجھے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ لگتا تھا کہ وہ کارنی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ریکا ابھی تک اسی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا تھا۔

راجندر اسٹڈی روم سے باہر آیا اور سیدھا مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں ٹیبل سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ فائل اس کی جیکٹ کے نیچے تھی یا نہیں۔ میرے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے بھی فریک کی طرح سر ہلایا لیکن میں نے جواب میں کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔ راجندر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہی کیا ہوگا جو اس صورت حال میں اسے کرنا چاہیے تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ فریک اور ویرون اس فائل کے غائب ہو جانے پر کیا ردعمل ظاہر کرتے ہیں البتہ مجھے یہ اطمینان ضرور تھا کہ جب فریک کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو تو ڈیویٹی بھی اسی حساب سے زیادہ معاوضہ طلب کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے پہلی بار اپنے کسی کلائنٹ سے دھوکا کرنا پڑا۔ اگر میں یہ حرکت نہ کرتا تو مجھے خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا کیونکہ میں نے یہاں آنے کے فوراً بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ فریک بلا وجہ ہی گھبرارہا تھا۔ اس بار پولیس اسے تنگ نہیں کر سکے گی۔ انجیل کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ اس نے میرے سامنے انکم ٹیکس کی فائل کا ذکر کر کے ایک نئی پریشانی مول لے لی تھی اور اس کے حل کے لیے وہ لازماً ڈیویٹی سے رابطہ کرے گا۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں اس سے پہلے ہی ڈیویٹی کو نئی صورت حال سے آگاہ کر دوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور چپکے سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کارنامے کے عوض ڈیویٹی میرے کمیشن میں معقول اضافہ کر دے گا۔

میں نے کہا۔ ”یہ بہت اہم فائل ہے۔ تم یقیناً اسے دیکھنا چاہو گے۔“

راجندر زبردستی مسکرا دیا جیسے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔

”تم یہ فائل دیکھ رہے ہونا؟“

”ہاں۔“ اس نے ویرے سے جواب دیا۔

”اسے باہر نکالو۔“

”کیوں؟“ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔

”کیونکہ تمہیں یہ فائل اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔“

”تم خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟“

”میں نہیں چاہتا کہ اس پر میری انگلیوں کے نشانات آجائیں۔“

”اس فائل میں ایسی کیا خاص بات ہے؟“

”میں نہیں جانتا۔“

”تم جھوٹ بول رہے ہو۔“ اس نے بے یقینی سے کہا۔

”یہ انکم ٹیکس کی فائل ہے۔ میں اسے کھول کر پڑھ تو سکتا ہوں لیکن اس کی عبارت میری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم فریک کو نہیں جانتے لیکن ٹیکس والے ان ہیکٹروں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فائل تم نے کیس کی تفتیش کے سلسلے میں اٹھائی تھی۔“

میری بات سن کر وہ الجھن میں پڑ گیا اور بولا۔ ”تم خود یہ فائل کیوں نہیں لے جاتے؟“

”اگر میں ایسا کروں گا تو یہ چوری کہلائے گی۔“

”میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تم اپنے ہی کلائنٹ کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہو۔“

میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ”تم اس فائل کو اپنی جیکٹ میں چھپا کر لے جاؤ گے۔ اگر فریک نے دیکھ لیا تو کہہ سکتے ہو کہ تمہیں اس پر کچھ سفید ذرات نظر آئے تھے جو کوکین بھی ہو سکتی ہے۔ تم پولیس والے ہو اور مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ایسی صورت میں تمہیں کیا کہنا ہوگا۔ اس دوران تم فائل کا مطالعہ کرو گے اور اس کے مندرجات دیکھ کر اسے انکم ٹیکس والوں کو بھیج دو گے۔“

”مجھے اس سارے معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں۔“ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔

”کیا مجھے ایک بار پھر پوری گنگو دہرانا پڑے گی؟“

”میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔“

”اگر تم نے یہ کام نہیں کیا یا اس میں کسی طرح سے بھی میرا نام آتا تو مجھے مجبوراً تمہاری بیوی سے ملنا ہوگا۔ وہ ضرور

بدطینت

سرزا امجد بیگ

جب کوئی رشتہ دنیا میں اترتا ہے تو بے شمار رشتوں اور احساسات کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے لیکن... کبھی کبھی ناسمجھی میں انسان بڑی سمجھ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان رشتوں میں ایسے جوڑ توڑ کر لیتا ہے کہ گرہ درگرہ وہ رشتے بدگمانی اور شرانگیزی کے بوجھ تلے دبے چلے جاتے ہیں۔ ان حالات میں کوئی کیسے کسی پر اعتبار کرے جب سایا کرنے والے ہی سر سے چادر کھینچ لیں، لڑتے قدموں کو سہارا دینے والے زمین ہی پیروں تلے سے نکال دیں تو کیوں نہ اپنے سائے سے بھی لوگ ڈرنے لگیں۔ وہ بھی ایسے ہی خوف میں مبتلا اپنوں سے ڈسی ہوئی زندہ تو تھی مگر زندگی کی رونقوں سے دور تھی۔ جب رات زیادہ گہری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اجالا قریب ہی کہیں چھپا ہوتا ہے۔ اسے بھی مرزا امجد بیگ کی صورت میں روشنی کی کرن مل گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز روشنی میں نہا گئی۔

میں نے پوچھا۔ ”کیس کی نوعیت کیا ہے؟“
عابد نوید صاحب ایک سماجی، فلاحی تنظیم چلاتے تھے اور مجھ سے ان کے کافی ویرینہ مراسم تھے۔ وہ گاہے بہ گاہے، کوئی نہ کوئی کیس بھی میرے حوالے کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے، یہ کیسز معاشرے کے پسے اور ستائے ہوئے لوگوں کے ہوتے تھے جن کے سلیبلے میں عابد صاحب مجھ سے فیس میں بھی رعایت کرایا کرتے تھے کیونکہ ان کے کیسز کے تمام تر عدالتی اخراجات عابد صاحب کی تنظیم کو اٹھانا پڑتے تھے اس لیے عابد صاحب جیسے ہی مجھ سے کسی کیس کا ذکر کرتے تو فوراً میرے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ میری فیس میں ڈنڈی ماری جانے والی ہے لہذا میں ہوشیار ہو جاتا تھا۔

”کیس کی نوعیت کچھ خاص نہیں ہے بیگ صاحب!“
عابد صاحب نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا۔ ”یہ مالک مکان اور کرائے دار کے جھگڑے کا کیس ہے۔“

ایک روز میں دفتر جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی کھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ٹائی کی گرہ لگانے کے بعد کال ریسیور کی اور ماؤ تھ فون میں کہا۔ ”ہیلو.....!“
”ہیلو بیگ صاحب! السلام علیکم.....!“ ایک ماٹوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔

عابد نوید صاحب کی آواز کو پہچانتے ہی میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ ”ولیکم السلام عابد صاحب! آپ کیسے ہیں؟“

”میں تو ٹھیک ہی ہوں۔ آپ سنا لیں.....“ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولے۔ ”کیا ہو رہا ہے؟“

”ہونا کیا ہے جناب! دفتر کے لیے نکلنے ہی والا ہوں۔“ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ ”صبح ہی صبح کیسے یاد فرمایا عابد صاحب؟“

”ایک کیس آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں.....“
عابد صاحب نے بتایا۔



Downloaded From
PAKSOCIETY.COM

”مجھے کس کی وکالت کرنا ہے۔“ میں نے محتاط انداز میں استفسار کیا۔ ”مالک مکان کی یا کرائے دار کی؟“

”مظلوم کی۔“

میں عابد صاحب کی بات کی حد میں تو پہنچ گیا تھا تاہم پھر بھی پوچھ لیا۔ ”آپ کی نظر میں ان دونوں میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون؟“

”میں کرائے دار کو مظلوم سمجھتا ہوں بیگ صاحب۔“ انہوں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ ”اور آپ کو اسی کی وکالت کرنا ہے۔“

”تفصیلات کیا ہیں؟“ میں نے پوچھا۔

”میرا خیال ہے، آپ یا سمین سے ایک ملاقات کر لیں۔“ عابد صاحب نے کہا۔ ”وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دے گی۔“

”اور یہ یا سمین کون ہے؟“ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔

”بھئی ابھی وہ مظلوم کرائے دار ہے، میں جس کا کیس آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔“ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولے۔ ”مالک مکان نے اسے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے۔ مالک مکان اس گھر کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔“

یا سمین اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے۔ بس یہ دو افراد کی فیملی ہے۔ یا سمین کسی پرائیویٹ آفس میں جاب کرتی ہے اور اپنے اس مختصر سے تنہے کی واحد کفیل ہے۔۔۔۔۔“

”اور یا سمین کا شوہر کہاں ہے؟“ میں نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔

”جیل میں.....“ انہوں نے بتایا۔

”جیل میں۔“ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پھر پوچھا۔ ”کس جرم میں؟“

”شوکت قتل کے الزام میں جیل گیا تھا۔“

”اوہ..... کیا وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل گیا ہے یا عدالت سے سزا سننے کے بعد؟“ میں نے پوچھا۔ ”آپ کی بات سے تو یہی لگتا ہے کہ کہیں کسی عدالت میں زیر سماعت ہے اور یا سمین کا شوہر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں ہے۔“

”آپ آج کسی وقت جا کر یا سمین سے اس کے گھر پر مل لیں۔“ عابد صاحب نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ”وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دے گی۔“

”آپ یا سمین کو میرے آفس بھیج دیجئے تو زیادہ اچھا تھا۔“ میں نے اس کیس میں عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ”آپ کو پتا ہے کہ میں کس قدر مصروف ہوتا ہوں۔“

”مجھے آپ کی مصروفیت کا بہ خوبی اندازہ ہے بیگ صاحب۔“ وہ جلدی سے بولے۔ ”اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ اس دنگی عورت سے ملاقات کے لیے ضرور وقت نکال لیں گے۔“

میں اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ عابد صاحب نے مجھے یا سمین کے گھر کا ایڈریس نوٹ کرا دیا اور شکر یہ ادا کرنے کے بعد ”خدا حافظ“ کہہ کر ٹیلی فونک سلسلہ موقوف کر دیا۔

”جی بات تو یہ ہے کہ عابد نوید صاحب نے جس انداز میں مجھے یا سمین کے حالات کے بارے میں بتایا تھا، اس کی روشنی میں، میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ یا سمین کو کس حوالے سے میری وکالت کی ضرورت تھی۔ مالک مکان کے نوٹس کے سلسلے میں یا اپنے شوہر کی رہائی کے معاملے میں۔ ٹیلی فون پر تفصیلی بات ہو سکتی تھی اور نہ ہی میرے پاس اتنا نام تھا لہذا میں تیار ہو کر دفتر روانہ ہو گیا۔ سردست میں نے یا سمین کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔

☆☆☆

میرا آفس، سٹی کورٹ سے چند قدموں کی دوری پر ایک کثیر المٹرہ عمارت میں واقع تھا۔ اس بلڈنگ میں زیادہ تر وکلاء حضرات اور مشیران قانون کے دفاتر قائم ہیں۔ میں روزانہ کورٹ جانے سے پہلے اپنے آفس کو ضرور چل کر آتا ہوں۔ بعض کیسز کی فالو آفس ہی میں رکھی ہوتی ہیں جو مجھے لینا ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں جس روز کورٹ میں میرا کوئی کیس نہ ہو، میں اپنے آفس ہی میں جم کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ پینڈنگ کے کام نمٹا سکوں۔

اس دن عدالت میں صرف دو کیسز کی پیشیاں تھیں لہذا میں دوپہر سے پہلے ہی فارغ ہو گیا۔ میں نے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں اپنے چند وکیل دوستوں کے ساتھ چل کیا اور پھر اپنے آفس آ گیا۔

مجھے اپنے چیمبر میں بیٹھے لگ بھگ ایک گھنٹا گزرا تھا کہ عابد صاحب کا فون آ گیا۔ رکی علیک سلیک کے بعد انہوں نے کہا۔

”بیگ صاحب! ماسٹرنس کیجیے گا۔ میں نے وراصل ری ماسٹرنس کرانے کے لیے فون کیا تھا.....“

”میں نے اپنی میموری کوری وائسڈ کر لیا ہے عابد صاحب!“ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ”اور مجھے یاد آ گیا ہے کہ آج آفس سے اٹھنے کے بعد

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

مجھے مسز یاسمین شوکت سے ملاقات کرنا ہے..... ان کے گھر جا کر۔“

”ویری گڈ۔“ وہ سر اپنے والے انداز میں بولے۔
”بس اب میں مطمئن ہو گیا۔ اصل میں بیگم یاسمین بہت ہی معصیت زدہ خاتون ہے۔ میں چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے جلد از جلد اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔“

میں نے اپنے اطمینان کے لیے برسبیل احتیاط پوچھ لیا۔ ”عابد صاحب امیری فیس آپ کی فلاحی تنظیم کے ذمے ہے یا مسز یاسمین کے.....؟“

درحقیقت، کسی بھی پیشہ ور شخص کے لیے اس کی فراہم کردہ سروس کا معاوضہ یعنی اس کی فیس بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں بھی اسی لیے اپنی فیس کے معاملے کو سب سے آگے رکھتا ہوں۔ جب کسی بھی کام کا طے شدہ معاوضہ ایڈوائس میں وصول ہو جائے تو پھر ہی کام کرنے کا حزمہ آتا ہے۔ انسان پورے ارتکاز اور دل جمعی کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دے سکتا ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں مجھے بہت بد لحاظ بھی کہتے ہیں کہ نہ تو میں اپنی فیس میں کمی کرتا ہوں اور نہ ہی فیس بعد میں لینے کی کوئی گنجائش چھوڑتا ہوں۔ جب تک میری فیس ایڈوائس میں ادا نہ کر دی جائے، میں کبھی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔

سچی اور دل کو لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ میں بہت سوچ سمجھ کر کسی کیس میں ہاتھ ڈالتا ہوں۔ فنی اور یوگس کیس میں پکڑتا ہی نہیں۔ مجھے بڑے انیسوں کے ساتھ اپنی دکلاہ برادری کے حوالے سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ”خاندان“ میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو بغیر سوچے سمجھے اور بنا دیکھے بھالے ہر کیس کو نہ صرف پکڑ لیتے ہیں بلکہ اپنے موکل کو تینوں کاسیاتی کا خواب بھی دکھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صرف اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے۔ موکل جائے جہنم میں۔ جب کچھ عرصے کے بعد موکل، اپنے وکیل کی خراب کارکردگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ پہلے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا وکیل پکڑ لیتا ہے۔ اس سلسلے میں، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ..... اللہ ہر موکل کو کسی معقول وکیل تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وکیل کو اپنے موکل کے ساتھ دیانت داری برتنے کی ہدایت دے۔

”پریشان نہ ہوں بیگ صاحب! وہ جلدی سے پڑے۔“ میں جانتا ہوں، آپ اپنی فیس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس میں کٹوتی یا کمی فوراً آپ کو تشویش میں مبتلا کر دیتی ہے۔“

”اپنے حق میں کٹوتی یا کمی کے لیے ہر شخص کو پریشان ہونا چاہیے۔“ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ”جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنے اور اپنی فیس کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔“

”میں آپ کی بات سے عمل اتفاق کرتا ہوں۔“ عابد صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا پھر وضاحت کرتے ہوئے بولے..... ”آپ کی فیس کا آدھا بوجھ میری تنظیم اٹھائے گی اور آدھا بوجھ یا سمین صاحبہ کی جیب پر پڑے گا۔ اگر کوئی انیس بیس کی کسریاتی رہ گئی تو وہ آپ کو برداشت کرنا ہوگی۔“

”تموڑا بہت نرم گرم تو چلتا ہے عابد صاحب.....!“ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔

”تو ٹھیک ہے۔“ اس نے کہا۔ ”آج آپ یا سمین کے گھر جا کر اس سے تفصیلی ملاقات کر لیں۔“

”ویش راءٹ!“ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔
اختتامیہ رکی کلمات کے بعد ہمارے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔

عابد نوید صاحب نے مجھے یا سمین کے گھر کا پتہ ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے مطابق وہ خاتون گارڈن ویسٹ کے علاقے میں، ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ کے تھرڈ فلور پر رہائش پذیر تھی۔ آپ کی آسانی کے لیے اس بلڈنگ کا نام ”قاظمہ اپارٹمنٹس“ تصور کر لیں۔ اتفاق سے یہ علاقہ میرے گھر کے راستے میں پڑتا تھا لہذا اس رات میں آفس سے فارغ ہونے کے بعد مسز یاسمین کی طرف چلا گیا۔

”قاظمہ اپارٹمنٹس“ الیگنڈا اور سبیلہ کے درمیان واقع تھا جس میں دو بلاکس اے اور بی تھے اور کل فلیٹس کی تعداد ساٹھ تھی یعنی تیس فلیٹس بلاک اے میں اور تیس ہی بلاک بی میں۔ یہ بلڈنگ گراؤنڈ پلس فور نی ہوئی تھی جس کے ہر فلور پر چھ فلیٹس آباد تھے۔ مجھے اے تین سو پانچ میں جانا تھا یعنی بلاک اے کے تھرڈ فلور پر واقع فلیٹ نمبر پانچ میں کچھ دیر بعد میں اپنے مطلوبہ فلیٹ کی کھنٹی بجا رہا تھا۔

کھنٹی کے جواب میں تھوڑی دیر کے بعد ایک گول منول لڑکی نے دروازہ کھولا اس کی عمر پندرہ سولہ سال رہی ہوگی۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف دو افراد رہتے تھے یعنی مسز یاسمین اور اس کی جوان بیٹی۔ میرے فوری اندازے کے مطابق وہ لڑکی یا سمین کی بیٹی ہو سکتی تھی۔

”جی.....!“ اس پتہ قامت صحت مند لڑکی نے

سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔

”بیٹا! امی گھر پر ہیں؟“ میں نے پوچھا۔

”جی نہیں۔“ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ”امی تو گھر میں نہیں ہیں۔“

”وہ کہاں گئی ہیں؟“ میں نے پوچھا۔ ”اور کب تک آئیں گی؟“

”وہ مجھی مارکیٹ تک گئی ہیں۔“ اس نے جواب دیا۔ ”اور میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتی کہ وہ کب آئیں گی۔“

”مجھی مارکیٹ“ ٹیل پازا کے ساتھ واقع تھی جو اس بلڈنگ سے زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ کے پیدل کے راستے پر تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یاسمین کی واپسی کا

افتکار کروں یا واپسی کی راہ پکڑوں۔

”آپ کو امی سے کیا کام ہے؟“ اس گول منول لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔

اس دوران میں، میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی اور وہ یہ کہ پست قامت لڑکی نے مجھ سے بات کرتے ہوئے ایک دو بار پلٹ کر گھر کے اندر بھی دیکھا تھا جیسے اس کے عقب میں کوئی موجود ہو۔ اس بات نے

لاشعوری طور پر مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر اس کی امی مجھی مارکیٹ گئی ہوئی تھی تو پھر گھر کے اندر کون موجود تھا؟

ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ کہیں میں نے غلط دروازے کی کھنٹی تو نہیں بجا دی۔

”یہ فلیٹ نمبر اے تین سو پانچ ہی ہے نا؟“ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔

”جی بالکل..... آپ ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں۔“

اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔

میں نے استفسار کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ”اور اس گھر میں مزیا سمین اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہیں؟“

”جی ہاں..... میں..... میرا مطلب ہے، یاسمین میری امی ہیں۔“ وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ”لیکن ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو میری

امی سے کیا کام ہے؟“

”بیٹا! کام تو مجھے مزیا سمین ہی سے تھا اس لیے تمہیں کیا بتاؤں۔“ میں نے اپنا جیب میں سے وزیٹنگ کارڈ نکال کر اس لڑکی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”میرا نام

مرزا امجد بیگ ہے اور میں ایک وکیل ہوں۔ عابد نوید صاحب نے مجھے تمہاری امی سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اس

کارڈ پر میرے آفس کا ایڈریس درج ہے۔ امی آئیں تو تم

انہیں یہ کارڈ دے دینا اور کہنا، کسی وقت دفتر آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں۔“

وہ کارڈ تھامتے ہوئے بولی۔ ”جی..... بہت اچھا۔“

میں واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ میں ابھی زینے تک پہنچا تھا کہ اپنی پشت پر ابھرنے والی ایک آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔

”انکل وکیل..... ایک منٹ!“

میں نے گھوم کر دیکھا تو وہی گول منول لڑکی مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا تو میری سوالیہ نظر کے جواب میں وہ محنت بھرے انداز میں بولی۔

”امی آگئی ہیں.....“

”اتنی جلدی.....؟“ میں نے الجھن بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔

”جی.....“ اس نے لفظ ”جی“ پر رازدارانہ انداز میں ضرورت سے زیادہ زور ڈالا اور بولی۔ ”آپ اندر آ جائیں۔“

میں کسی فرماں بردار بچے کے مانند فلیٹ نمبر اے تین سو پانچ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ دو کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ ایک بیڈروم اور ایک ڈرائنگ روم، کاسن کے نام پر ایک مختصر سی گزرگاہ اور بس..... میرے محتاط اندازے کے مطابق اس فلیٹ کا رقبہ لگ بھگ پانچ سو

اسکوائر فٹ رہا ہوگا۔ لڑکی نے مجھے ”ڈرائنگ روم“ نامی کمرے میں بٹھایا اور بولی۔

”میں امی کو بھیجتی ہوں۔“

”امی کو تو تم ضرور بھیجنا لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتی جاؤ۔“ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

”تمہاری امی تو مجھی مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ وہ کب اور کس راستے سے فلیٹ کے اندر پہنچی ہیں؟ میں نے تو انہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا حالانکہ میں تو زینے ہی پر کھڑا تھا.....؟“

وہ یہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ ”وہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے۔“

اس گول منول لڑکی کے اس بے باک سچ نے پچھلے جھوٹ کو دھو ڈالا تھا، یقیناً وہ جھوٹ اس نے اپنی ماں کی ہدایت پر ہی بولا ہوگا۔ میں اس ماں بیٹی کے خیال کو سروسٹ وماغ کے ایک کونے میں ڈال کر ڈرائنگ روم کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔

”کسی بھی گھر کے مکینوں کی مالی حالت اور ذوق کا

”آپ کی بات سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شاہ جی آپ کے آس پاس ہی کہیں رہتا ہے جیسی تو وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے؟“

”شاہ جی کا اصل نام اجمل شاہ ہے لیکن وہ شاہ جی کے نام ہی سے مشہور ہے۔“ مسز یاسمین نے میرے متعدد سوالات کے جواب میں بتایا: ”آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ یہ شخص ہمارے پڑوس میں یعنی قلیٹ نمبر تین سو چھ میں رہتا ہے۔ ہم اس کے کرائے دار ہیں.....“

”اوہ.....“ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ”عابد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے مالک مکان نے آپ کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دے رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ سخت پریشان ہیں۔“

”پریشانی کی ایک وجہ یہ گھر خالی کرنے کا نوٹس بھی ہے۔“ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ ”عابد نوید صاحب بہت ہی ہمدرد اور خدا ترس انسان ہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے.....“ ”لحاقی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ ”شاہ جی نے ہمارا جینا خرام کر رکھا ہے۔ پہلے تو زبانی نکالی وہ قلیٹ خالی کرنے کی دھمکی دیتے رہے پھر انہوں نے باقاعدہ قانونی نوٹس بھی بھیج دیا ہے حالانکہ پہلے کوئی اور بات ہوئی تھی۔“

اس کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ ”کیا مطلب.....؟“ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ”پہلے کیا بات ہوئی تھی؟“

یاسمین نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی لمحے گول مٹول لڑکی ایک ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یاسمین اپنی بیٹی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ لڑکی نے چائے والی ٹرے میز پر رکھی اور واپس چلی گئی۔

ٹرے میں ایک کپ چائے اور بسکٹ والی ایک پلیٹ کے علاوہ پانی کا بھرا ہوا ایک گلاس بھی رکھا تھا۔ لڑکی ٹرے کو میز پر جانے کے بعد واپس چلی گئی تو یاسمین نے مجھ سے کہا۔

”وکیل صاحب اچانے لیں.....“

میں نے اس گھر کے معاشی حالات کے حوالے سے جو اندازہ قائم کیا تھا وہ اس اگلوٹی چائے کی پیالی کو دیکھ کر درست ثابت ہوا تھا۔

”یاسمین صاحبہ! آپ نے خواہ مخواہ چائے کا یہ تکلف

اندازہ عموماً تین چیزوں سے لگا پا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک..... اس گھر کے ڈرائنگ روم کے فرنیچر اور دیگر آرائش سے۔ نمبر دو..... اس گھر کے کچن کی نفاست سے۔ نمبر تین..... اس گھر کے واش روم کی صفائی سے۔

میں اس وقت گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور وہاں موجود سستے قسم کے فرنیچر اور سونی سونی ویواریوں کو دیکھ کر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ان ماں بیٹی کی حالت خاصی منہ دوش تھی۔ بس، وہ جیسے جیسے گزارہ کر رہی تھیں۔ اس ڈرائنگ روم کی ہر شے سے ویرانی اور بیابانی لگتی تھی۔

تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ویلی پتلی ورازدہ عورت ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور مجھے سلام کر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی۔

”وکیل صاحب! میں یاسمین ہوں۔“

اس گولی مٹول لڑکی کی بات سے یہ تو مکمل کیا تھا کہ اس کی ای یعنی مسز یاسمین گھر کے اندر ہی موجود تھی۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

”مسز یاسمین! جب آپ گھر کے اندر موجود تھیں تو پھر آپ کی بیٹی نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟“

میرے چہرے پر ابھرنے والے ناخوشگوار تاثرات سے اس نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی یہ حرکت مجھے قطعی پسند نہیں آئی تھی جیسی وہ سخت بھڑے لہجے میں بولی۔

”اس قسم کے جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بن گئی ہے وکیل صاحب۔“ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ”میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔“

اس کی عمر چالیس سے تجاوز تھی۔ وہ چہرے سے ایک انسرودہ اور لاچار عورت نظر آتی تھی۔ ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا کہ وہ چہرے مہرے، خدو خال اور قد کاٹھ میں اپنی بیٹی کی ضد تھی۔ یعنی اس کے بالکل برعکس۔ کوئی بھی شخص انہیں ایک ساتھ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ماں بیٹی ہیں۔

”ایسی کیا مجبوری ہے مسز یاسمین؟“ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔

”ہم شاہ جی کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں۔“ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ”یہ شخص ہمارے گھر میں آنے والے ہر آدمی پر گہری نظر رکھتا ہے۔“

”یہ شاہ جی کون ہے اور اسے آپ پر نظر رکھنے کا مرض کیوں لاحق ہے؟“ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔

کر لیا۔“ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔“ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے آفس سے پی کر نکلا تھا۔“

”اب تو کلفت ہو چکا۔“ وہ عجیب سی بے چارگی سے بولی۔“ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب لیلیٰ کا کیا دھرا ہے۔“

”لیلیٰ غالباً آپ کی اکلوتی بیٹی کا نام ہے۔“ میں نے کہا۔“ گول مثل، مصوم اور بھولی بھالی سی؟“

”جی ہاں۔ لیلیٰ میری اکلوتی بیٹی ہے۔“ وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔“ اس کے بعد لڑکے پیدا ہوئے لیکن ان کی زندگی بہت مختصر تھی۔ پیدائش کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیلیٰ اپنے باپ پر گہنی ہے.....“

اتنا کہہ کر اس نے ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور خاموش ہو گئی۔

عابد نوید کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یاسمین کا شوہر شوکت علی کسی ناکردہ جرم کی پاداش میں جیل میں تھا جیسی وہ لیلیٰ کے باپ، اپنے شوہر کے ذکر پر غمگین ہو گئی تھی۔

میں اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔

”آپ کچھ بتانے والی تھیں کہ لیلیٰ چائے لے کر آگئی۔“ میں نے کہا۔“ وہ..... آپ اپنے مالک مکان کے بارے میں کیا کہہ رہی تھیں..... وہ پہلے کیا بات ہوئی تھی؟“

”یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے وکیل صاحب۔“ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔“ پتا نہیں، آپ کو میری بات کا یقین آئے گا یا نہیں.....“

”آپ بولتی جائیں۔“ میں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔“ پوری کہانی سننے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔“

”وراصل، یہ قلیٹ پہلے ہماری ہی ملکیت تھا جس میں ہم اس وقت کرائے دار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔“ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی۔

”ایک منٹ.....“ مجھے مداخلت کرنا پڑی۔“ آپ نے پہلے مجھے یہ بتایا کہ آپ اجمل شاہ کے قلیٹ میں کرائے دار کی حیثیت سے رہ رہی ہیں اور اس شخص نے آپ کو قلیٹ خالی کرنے کا نوٹس بھی دے رکھا ہے اور اب آپ کا بیان یہ ہے کہ پہلے یہ قلیٹ آپ کی ملکیت تھا تو..... اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ قلیٹ شاہ جی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا؟“

”جی ہاں، اس کا یہی مطلب ہے۔“ وہ سر کو اٹھاتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔“ شاہ جی میرے شوہر کے بڑے بھائی ہیں.....“

”کیا؟“ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں

بول پڑا۔“ ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ واقعی، بزرگ سچ کہتے ہیں۔ زمانہ ہی بدل گیا ہے۔ انسان بہت تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔“

”وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ شاہ جی، میرے شوہر کا سوتیلا بھائی ہے۔“ وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی۔“ میرے سر اسحاق حسین نے دو شادیاں کی تھیں۔ اجمل شاہ کی ماں کا نام مسرت جمیں اور میرے شوہر کی ماں کا نام عالیہ بیگم تھا۔ خیر، اب تو یہ تینوں افراد اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کافی عرصہ پہلے میرے سر اور دونوں

سباؤں کا انتقال ہو چکا ہے۔“

”سوتیلا بھائی ہی سہی لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں، شاہ جی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔“ میں نے افسوس ناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔“ خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ کا شوہر بھی اس وقت جیل میں ہے۔“

اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جھرجھرائی ہوئی آواز میں بولی۔“ تو عابد صاحب نے آپ کو لیلیٰ کے باپ کے بارے میں بھی بتا دیا ہے؟“

”بس سرسری سا.....“ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔“ تفصیل تو آپ بتائیں گی۔“

”جی..... ا..... وہ بالکلیں جھپکاتے ہوئے بولی۔“ کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایک مجبوری کے تحت یہ قلیٹ اجمل شاہ کے ہاتھ فروخت کرنا پڑ گیا تھا چونکہ ہمیں پیسوں کی فوری ضرورت تھی اس لیے ہم نے قلیٹ کی مارکیٹ ویلو سے کافی کم قیمت میں یہ قلیٹ بیچ ڈالا تھا۔ اس نازک موقع پر شاہ جی نے قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ کبھی ہمیں اس قلیٹ کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہے گا لیکن وکیل صاحب! آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہمیں مشکل میں دیکھ کر شاہ جی نے آنکھیں پھیر لی ہیں اور اپنے سارے وعدے بھول گیا ہے۔ ابتدا میں تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ ہم سے کرایہ نہیں لے گا اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ ہمیں اس قلیٹ سے بے دخل کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی پر تلا بیٹھا ہے۔“

”اوہ.....“ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا۔“ کیا وہ شروع میں واقعی آپ لوگوں سے کرایہ نہیں لیتا رہا؟“

”جی ہاں۔“ اس نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔“ چند ماہ شاہ جی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت مہربان رہا اور اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ لیکن

2016

مجبوری کے تحت اپنا یہ قلیٹ اجمل شاہ کے ہاتھ کم قیمت پر فروخت کر دیا تھا؟“ میں نے سناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔

”یہ ایک طویل داستان ہے وکیل صاحب۔“ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔

”میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔“ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ”آپ بیان جاری رکھیں۔“

مزیا سمین نے آئندہ آدھے گھنٹے میں اپنے حالات سے مجھے جو آگاہی دی، وہ نہایت ہی سنسنی خیز اور عبرت اثر کھٹا تھی۔ میں اس داستان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں اور دوران عدالتی کارروائی میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔

ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئی تھیں لیکن یہ سوچ کر کہ واقعات کا تسلسل قائم رہے، میں نے انہیں ایک ترتیب میں پرودیا ہے۔

☆☆☆

نہیں بلکہ وہ ہماری ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے انداز میں تبدیلی آتی گئی اور ہم سے کرائے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی مجبوری کے پیش نظر اسے کرایہ دینا شروع کر دیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور ہم سے قلیٹ خالی کرنے کی باتیں کرنے لگا اور اب تو نوبت یہاں تک آچکی ہے کہ.....“ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی۔

”اس کینجٹ نے دکیل کے ذریعے ہمیں یہ قلیٹ خالی کرنے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔“

”جب آپ لوگوں نے اجمل شاہ سے یہ قلیٹ کرائے پر حاصل کیا تھا تو باقاعدہ اسٹیپ پیپر پر کوئی کرایہ نامہ تو تیار ہوا ہوگا۔“ میں نے پوچھا۔ ”اور اس انگریمنٹ کی ایک کاپی آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے۔“

”ایسا کوئی قانونی پیپر تیار نہیں کیا گیا تھا۔“ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ”ہم نے اجمل شاہ کی زبان پر اعتبار کر لیا تھا اور میں سمجھتی ہوں یہ ہماری غلطی تھی جس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔“

”کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس

مزوری کے شمارے
کی شاندار سوار زمان

ڈائجسٹ
ہنامہ سماجی
سوی

● اولین سوغات ● صحرائے شہت میں داستان رقم کر دینے والے جاں بازوں کا حرکت مندا کیل

● انگارے ● شریف لکھی کو بدعاش بننے پر مجبور کرنے والے قانون شکن عمار کی سیکائی
جنم لینے والا ہولناک سلسلہ طاہر جاوید مغل کے قلم سے

● آوارہ گرد ● چلچلاتی دھوپ میں بنے آسرا و جہا مسافر کی آئینہ پائی...

عبدالرب بھٹنی کی طبع آزمائی

سورق کی کہانیاں

● پہلا رنگ ● ان بالوں مینوں کا اٹلے عبرت جنس کی جان حیات جنس کے ہاتھ میں تھی

● دوسرا رنگ ● شامی اور تیمور کی دل بھاتی سنگت میں نت نئے کارنامے



آپ کے عمر سے
مشورے سمجھیں... حکایتیں...
اور نئی نئی دلچسپ باتیں... کہانیاں

یا سمین کا شوہر شوکت علی ایک کارڈیالر کے پاس ملازم تھا۔ اس کارڈیالر کا نام فیصل یزدانی تھا اور اس کا شوروم جمشید روڈ پر واقع تھا۔ شوکت ایک طویل عرصے سے اس کے شوروم پر ملازم تھا اور یزدانی کے بھروسے کا آدمی تھا۔ جب سے شوکت قتل کے مقدمے میں جیل گیا تھا، یا سمین اور اس کی بیٹی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ شوکت اپنی اس مختصر سی جیل کا واحد تفیصل تھا اور زندگی بھر کی جمع پونجی سے اس نے یہ دو کمروں کا قلیٹ خریدا تھا جو اب ان کا نہیں رہا تھا۔ یا سمین اور اس کی بیٹی لٹیٹی کرائے دار کی حیثیت سے اس قلیٹ میں رہ رہی تھیں۔ وہ کیا رہی تھیں اب تو اجمل شاہ نے انہیں قلیٹ خالی کرنے کا لیگل نوٹس بھی بھجو دیا تھا۔ میں نے مذکورہ نوٹس بھی دیکھا تھا جس میں شاہ جی نے یا سمین سے قلیٹ خالی کرانے کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ اسے ایک ذاتی ضرورت کی خاطر مجبوراً وہ قلیٹ بیچنا پڑ رہا ہے۔ یا سمین کی زبانی مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ان کا کوئی قریبی رشتے دار یا خیر خواہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔

یا سمین کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق جب اس کا شوہر شوکت علی قتل کے جرم میں جیل چلا گیا تو ابتدا میں اس نے شوہر کی بریت کے لیے بہت دوڑ دھوپ کی۔ اس موقع پر اجمل شاہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور اپنی جیب سے پیسے بھی خرچ کیے تھے۔ ابتدائی چھ ماہ میں یا سمین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ ماں بیٹی بیٹھے بٹھائے کس مذاب میں جتلا ہو گئی ہیں اور جب کچھ سمجھ میں آیا تو اس کے ہاتھوں کے طوٹے اڑ گئے۔ ایک روز شاہ جی نے اسے یہ کہہ کر حیران بلکہ پریشان کر دیا کہ وہ شوکت علی کے کیس کے سلسلے میں مختلف نوعیت کی قانونی کارروائیوں اور وکیل وغیرہ پر لگ جگ تین لاکھ خرچ کر چکا ہے۔

”تین لاکھ.....“ یا سمین کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔
 ”شاہ جی!“ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ”اتنی بڑی رقم آپ نے کہاں خرچ کر دی؟“

”بھائی! اتنی بڑی رقم کسی ایک جگہ یکمشت خرچ نہیں ہوئی۔“ اجمل شاہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ”پچھلے چھ سات ماہ میں، میں نے شوکت کے کیس کے سلسلے میں پیسا پانی کی طرح بہایا ہے۔ قتل کا کیس کوئی معمولی بات نہیں ہوتی بھائی.....“

”ہاں..... وہ تو میں بھی سمجھ رہی ہوں۔“ یا سمین نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ”لیکن تین لاکھ تو خاصی ٹھکڑی رقم

ہے۔ اس کے.....“

”پچاس ہزار روپے تو صرف وکیل نے اس کیس کو ہاتھ لگانے کے لیے ہیں۔“ شاہ جی اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاطرانہ انداز میں بولا۔ ”مختلف شعبوں میں دی جانے والی رشوت اور دوگواہوں کو تیار کرنے کے اخراجات الگ ہیں۔ آپ کو یہ سن کر یقین نہیں آئے گا کہ.....“ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔

”میں ہزار تو میں نے صرف تھانے والوں کو کھلائے ہیں۔“

”تھانے والوں کو.....!“ یا سمین نے واقعتاً بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ”آپ نے اتنی بڑی رقم پولیس والوں کو کس سلسلے میں دے دی؟“

”تا کہ وہ شوکت پر کسی قسم کا تشدد نہ کر سکیں۔“ شاہ جی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ”آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب کوئی شخص ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہوتا ہے تو یہ کس طرح اس کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ گتیش کے نام پر یہ لوگ ملزم کی کھال ادھیڑنے کے علاوہ اس کی ہڈیوں کا بھی سرمہ بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے مگر مجال ہے کہ کسی بھی اہلکار نے شوکت کو اتنی بھی لگائی ہو۔ پیسا تو ہاتھ کا میل ہے بھائی۔ انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔“

”ہاں..... یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اجمل بھائی۔“ یا سمین اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔

”بھائی! اصل میں آپ کو ان معاملات کا تجربہ نہیں ہے نا اس لیے آپ کا ذہن الجھ رہا ہے۔“ شاہ جی بڑی مکاری سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ ”پولیس کی مٹھی گرم کرنے کا دہرا فائدہ ہوا ہے۔ ایک طرف تو شوکت ان کے ظالمانہ تشدد سے محفوظ رہا ہے اور دوسری جانب ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اسے حوالات کے اندر صاف ستھرا فرشی بستر اور صحت بخش کھانا بھی پیٹ بھر کر ملتا رہا ہے اور..... یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.....“ وہ لگائی توقف کے بعد بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔

”بھائی! اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آرہا تو میں.....“

”نہیں نہیں!“ یا سمین جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ”بات یقین نہ کرنے کی نہیں ہے اجمل بھائی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر مری جا رہی ہوں کہ اتنی بڑی رقم کہاں

وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ "میں نے آپ کے شوہر کے کیس کے سلسلے میں جو یہ عین لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، یہ رقم میری نہیں تھی۔"

"تو.....؟" یا سمین کی الجھن دوچہر ہو گئی۔
"یہ رقم میں نے اپنے ایک جاننے والے سے ادھار لی تھی۔" شاہ جی نے بتایا۔

"اوہ....." یا سمین ایک افسردہ سی سانس خارج کر کے رہ گئی۔

"میں نے تو جو کچھ بھی کیا وہ خلوص نیت سے آپ لوگوں کی ہمدردی میں کیا تھا۔" وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔
"لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمدردی مجھے خاصی مہنگی پڑ رہی ہے۔"

"کیا مطلب ہے آپ کا بھائی صاحب؟" یا سمین نے پوچھا۔

"مطلب بہت ہی سیدھا اور واضح ہے۔" وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وضاحت کرتے ہوئے بولا۔

"میں ایک نیکی سمجھ کر یہ سب کر رہا تھا مگر کسی نے سچ کہا ہے کہ..... بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ ایک طرف آپ کو میرے خلوص پر شک ہے تو دوسری جانب وہ بندہ جس سے میں نے قرض لے رکھا ہے، اس نے میرا جینا عذاب کر دیا ہے۔"

"کگ..... کیا ہوا....." یا سمین متوجس نظر سے اپنے شوہر کے سوتیلے بھائی اور اپنے سوتیلے جینے کو دیکھنے لگی۔ "اس بندے نے آپ کا جینا کیوں عذاب کر رکھا ہے؟"

"بھائی! بڑا بہت بری شے ہے۔" اچمل شاہ نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ "ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے لیکن جب سے میں نے اس بندے سے تین لاکھ روپے قرض اٹھایا ہے، تعلقات میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ خیر..... پچھلے چھ ماہ سے تو جیسے تیسے چل ہی رہا تھا لیکن اب تو اس نے رقم کی واپسی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔"

"کیا.....؟" یا سمین کے سر پر گویا کوئی بم پھٹا ہو۔
"یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟"

"میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔" شاہ جی رکھائی سے بولا۔ "جو اس بندے نے مجھ سے کہا، وہی بیان کر رہا ہوں اور وہ بھی کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا....." لگاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی پھر اپنے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔

"اس نے کسی مشکل پریشانی میں اگر مجھے تین لاکھ رقم ادھار دی ہے تو اس کی واپسی کے مطالبے کا حق رکھتا

سے آئے گی اور کب ہم آپ کا یہ قرض اتار سکیں گے؟"
"یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔" شاہ جی نے ایک پرچہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔

یا سمین نے ڈرتے ڈرتے مذکورہ پرچے کی جانب ہاتھ بڑھایا اور پوچھا۔ "یہ کیا ہے؟"

"ان تین لاکھ کے حساب کی تفصیل ہے جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔" وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "رشوت کی مد میں خرچ کی جانے والی چھوٹی اور بڑی رقموں کی کوئی رسید نہیں البتہ، وکیل کی فیس کی وصولی کی رسید اس حساب کے ساتھ ہی منسلک ہے۔"

یا سمین نے وہ پرچہ لے کر اس پر درج اخراجات کی تفصیل کا جائزہ لیا۔ کل تخمینہ تو تین لاکھ ہی رہا تھا لیکن وہ وثوق کے ساتھ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ شاہ جی نے کہاں کہاں ڈنڈی مارتے ہوئے دگنے دگنے پیسے لکھے ہوں گے۔ اس کی نادائیت اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ وہ روہاسی آواز میں بولی۔

"شاہ جی! میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں مگر یہ پیسے تو کافی زیادہ ہیں۔ اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی کوئی کام تو ہوا نہیں۔ شوکت کی ضمانت ہی ہو جاتی تو میں کچھ کی سانس لیتی۔"

"میں تو اس خوش تھی میں تھا بھائی کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں گی۔" وہ برا سامنے بناتے ہوئے بولا۔ "آپ تو اٹنا میری ہی نیت پر شک کر رہی ہیں کہ میں نے اتنے زیادہ پیسے پتائیں، کہاں لگا دیے ہیں۔"

شاہ جی کو بگڑتا ہوا دیکھ کر یا سمین نے جلدی سے کہا۔
"آپ ناراض نہ ہوں بھائی صاحب۔ میں شاید بہت زیادہ پریشان ہوں اس لیے پتائیں، کیا کیا بولے جا رہی ہوں۔ میں تو آپ کی وجہ سے بہت مطمئن تھی۔"

"میں بھی آپ کو اپنا سمجھ کر یہ ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔" وہ بہ دستور کھلی آمیز لہجے میں بولا۔ "بہر حال..... آئندہ میں پیسے کے معاملے میں احتیاط برتوں گا۔ آپ کی مشکوری کے بغیر ایک پیسا بھی کہیں خرچ نہیں کروں گا۔ بس، آپ مجھ پر ایک مہربانی کریں۔"

"کیسی مہربانی بھائی صاحب؟" یا سمین نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔

"آپ شوکت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھیں اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھی۔"

سپینس ڈائجسٹ

ہے۔ آج میں اسی سلیپے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو جائے، رقم کا بندوبست کرویں تاکہ سیری عزت رہ جائے۔“

”لیکن فوری طور پر رقم کا بندوبست کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب!“ یاسمین کی پریشانی ساتویں آسمان کو چھونے لگی۔ ”آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہمارے گھر کے حالات کس انداز میں چل رہے ہیں۔ مجبوراً مجھے نوکری کے لیے گھر سے نکلتا پڑا ہے۔ آپ اس بندے سے کہیں کہ کچھ دن ٹھہر جائے۔ شوکت رہا ہو کر آجائیں تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔“

”شوکت کا کیس تو صحیح معنوں میں ابھی شروع ہوا ہے بھائی۔“ وہ بدولی سے بولا۔ ”قل کے مقدمات تو سالہا سال چلتے رہتے ہیں پھر استیثنا نے اس کے خلاف خاصا مضبوط کیس بنایا ہوا ہے۔ دو مہینے گواہوں نے بھی شوکت کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کل ہی وکیل سے ملا ہوں۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ شوکت کی سزا کم سے کم کرانے کی کوشش کرے گا لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے.....“

”کیوں کی ہے؟“ یاسمین نے پوچھا۔ ”وکیل کو تو اصولی طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ جلد از جلد شوکت کو باعزت بری کرانے کی کوشش کرے گا۔“

”بھائی! آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں۔“ شاہ جی، یاسمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ”آپ اس حقیقت تک پہنچ گئی ہیں جو میرے ذہن میں ہے۔ یہ سچ ہے کہ شوکت کے وکیل کو یہی کہنا چاہیے تھا جو آپ نے فرمایا ہے مگر کیا کریں کہ اس ملک کے ہر ادارے میں کام کرنے والے لوگ گاڑی کے انجن کی طرح چلتے ہیں۔ پیٹروئل ڈالو تو اسٹارٹ اور پیٹروئل ختم ہوا تو اسٹاپ.....“ تھوڑی دیر کو رک کر اس نے مستحق خیر انداز میں یاسمین کی طرف دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔

”میں سمجھتا ہوں کہ وکیل نامی اس مشین کے انجن کی جیب میں نوٹوں کا تھوڑا پیٹروئل ڈالنا پڑے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پوری دلچسپی سے شوکت کا کیس لڑے گا اور ایک دن انشاء اللہ اسے بری بھی کرالے گا۔“

اجمل شاہ نے ”ایک دن“ کے الفاظ پر اچھا خاصا زور ڈالا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی سوچ کے مطابق شوکت کی بریت مستقبل قریب میں تو ہونے والی نہیں تھی۔ اس صورت حال نے یاسمین کو گہری فکر میں ڈال دیا۔ وہ تباہی خیز پریشان لہجے میں بولی۔

”میں فوری طور پر تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔“

”کرنا تو آپ ہی کو ہے بھائی۔“ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ”فوری طور پر کریں یا چند دن ٹھہر کر۔ ہاں..... میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس بندے سے تھوڑی مہلت لے لوں۔“

”اگر میں فوری طور پر تھوڑی رقم کا بندوبست کروں تو کیسا رہے گا۔“ یاسمین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ”آپ اس بندے سے چند ماہ کی مہلت لے لیں۔ پھر میں اس کی باقی رقم بھی ادا کروں گی۔“

”مہلت کی بات تو میں اس بندے سے ضرور کروں گا۔“ شاہ جی نے کہا۔ ”وہ کتنی مہلت دیتا ہے، اس کا انحصار تو اسی پر ہے یا پھر اس بات پر کہ آپ فوری طور پر کیا بندوبست کرنے والی ہیں۔“

”یہ میں آپ کو ایک دو دن کے بعد بتاؤں گی۔“ یاسمین نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔

شاہ جی ”ٹھیک ہے“ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا۔ ”پھر میں ایک دن کے بعد ہی اس بندے سے بات کروں گا۔“

اگلے روز یاسمین نے اپنے آفس میں قرض لینے کے حوالے سے بات کی۔ اس پر ٹوٹنے والی قیامت سے وہ لوگ واقف تھے۔ یاسمین کے پاس نے ازراہ ہمدردی اسے بیس ہزار روپے ادھار کی مدد میں دے دیے اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب اسے سہولت ہو، وہ آسان قسطوں میں یہ قرض ادا کر دے۔

اسی روز یاسمین نے اپنے تمام تر زیورات بھی فروخت کر دیے جن سے لگ بھگ پچاس ہزار روپے حاصل ہوئے۔ یہ کل ملا کر ستر ہزار روپے ہو گئے۔ عموماً کسی بھی عورت کے لیے سب سے مشکل مرحلہ زیورات کی فروخت کا ہوتا ہے لیکن یاسمین نے اپنے شوہر کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی خوشی خوشی پی لیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو ہر قیمت پر بچانا چاہتی تھی۔

اگلے روز یاسمین نے وہ ستر ہزار روپے شاہ جی کے حوالے کر دیے۔

یاسمین تو یہی سمجھی تھی کہ اب چند ماہ تک قرض خواہ کی طرف سے رقم کی واپسی کا مطالبہ سننے کو نہیں ملے گا۔ ستر ہزار اس نے ادا کر دیے تھے۔ دو لاکھ تیس ہزار باقی تھے۔ اگر شوکت باعزت بری ہو کر گھر آجاتا تو قرض کی باقی ادا کیگی کی بھی کوئی سہیل بن سکتی تھی لیکن اس وقت یاسمین کا سارا

ماہ کا جھکا تو برداشت کر سکتا ہوں مگر سال چھ مہینے کا نہیں۔ رقم کی کمی کے باعث میرا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے زیادہ مجبور ہوں۔ بس آپ آٹھ دس دن میں میری رقم لوٹا دیں تو آپ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔

”آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی صاحب۔“ یاسمین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ”میں اس وقت بہت مجبور ہوں۔“

”آپ کی مجبوری اپنی جگہ لیکن میں اپنی مجبوری کو نہیں دیکھوں گا تو میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ میں نے تعلقات کی بنا پر شاہ جی سے کوئی رسید بھی نہیں لکھوائی تھی۔ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ میں اپنی رقم کی واپسی کا دعویٰ کر سکوں۔ اگر کل کلاں شاہ جی اس رقم سے صاف انکار کر دیں یا خدا نخواستہ انہیں کوئی حادثہ پیش آجائے یا۔۔۔ مجھے ہی کچھ ہو جائے تو میری رقم تو گنی ہاتھ کھاتے۔۔۔!“

”یار فرید خان! آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔“ اجمل شاہ نے برا سامنہ بناتے ہوئے کہا۔ ”اللہ خیر کرے گا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔“

”آپ نے ہمیں بے ایمان کیوں سمجھ لیا بھائی صاحب!“ یاسمین، فرید خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔

”پہلے اگر آپ نے رقم کے سلسلے میں کوئی رسید نہیں لکھوائی تھی تو اب لکھوائیں۔ شاہ جی کو چھوڑیں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دولا کھ تیس ہزار کی رسید لکھ دیتی ہوں۔“

”ٹھیک ہے بھائی! یہ آپ نے بہت عمل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔“ اجمل شاہ جلدی سے بولا۔ ”آگے کے معاملات آپ دونوں آپس میں طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے پیسے دینے ہیں اور خان صاحب نے لینے ہیں۔“

وہ دونوں شاطر آدمی ملی بھگت سے وہاں آئے تھے اور ایک مصیبت زدہ، بے سہارا عورت کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنے اپنے پیترے کھیل رہے تھے۔ شاہ جی کے اعلان لاتعلقی پر یاسمین نے فرید خان سے کہا۔

”میں آپ کو ایک کاغذ پر اپنے دستخط کے ساتھ دو لاکھ تیس ہزار روپے کی وصولی کی ایک رسید لکھ دیتی ہوں لیکن آپ وعدہ کریں کہ کم از کم تین ماہ تک رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس دوران میں، میں کہیں نہ کہیں سے رقم کا بندوبست کر کے آپ کا ادھار چکا دوں گی۔“

”پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی رقم کی واپسی کے لیے تین ماہ تک انتظار نہیں کر سکتا۔“ فرید خان نے ددوگ انداز میں کہا۔ ”دوسری بات یہ کہ میں نے وہ رقم اجمل شاہ

ایمپینان غارت ہو گیا جب ایک ہفتے کے بعد ہی اجمل شاہ دوبارہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔

”بھائی! یہ فرید خان ہے۔“ اجمل شاہ نے اس شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ”میرا وہی دوست جس سے میں نے رقم ادھار لی تھی۔“

”لیکن میں اس رقم میں سے ستر ہزار روپے تو واپس لوٹا چکی ہوں۔“ یاسمین نے باری باری سوالیہ نظر سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ”باقی کے دولا کھ تیس ہزار بھی چند ماہ میں واپس کر دوں گی۔“

”دیکھیں بی بی!“ فرید خان براہ راست یاسمین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ ”میں نے کب انکار کیا ہے کہ آپ نے ستر ہزار روپے مجھے واپس کر دیے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے باقی رقم کی اشد ضرورت ہے۔ آپ مہربانی فرما کر ہفتے دس دن میں رقم کا انتظام کر دیں۔“

”بھائی صاحب!“ یاسمین نے اس شخص سے منت کی۔ ”آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ میرا شوہر مل کے الزام میں جیل میں بند ہے۔ ہمارے گھر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ میں ہفتہ دس دن میں اچھی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے چند ماہ کی مہلت دے دیں۔ میں آپ کی ایک ایک بائی ادا کر دوں گی۔“

”بی بی!“ فرید خان گہری سنجیدگی سے بولا۔ ”شاہ جی سے میرے پرانے مراسم ہیں۔ میں ان تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے ایک ماہ کے وعدے پر مجھ سے وہ رقم لی تھی اور اب چھ ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا مہلت دوں۔“

”میرا اندازہ تھا کہ ایک دو ماہ میں کیس کی کوئی ایسی شکل نکل آئے گی کہ ہمیں کچھ تسلی ہو جائے۔“ اجمل شاہ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ ”لیکن بد قسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا۔ اس دوران میں، میں نے اپنے طور پر بھی ادھر ادھر سے ادھار حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ خان صاحب کی رقم واپس کر سکوں مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ مجبوراً میں خان صاحب کو آپ کے پاس لے آیا ہوں۔“

”میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔“ اجمل شاہ کے خاموش ہونے پر فرید خان نے یاسمین سے کہا۔ ”میں نے اپنے بزنس میں سے تین لاکھ نکال کر شاہ جی کو دیے تھے۔ اس امید کے ساتھ کہ ایک آدھ ماہ میں مجھے یہ رقم واپس مل جائے گی تو دوبارہ کاروبار میں لگا دوں گا۔ میں ایک ڈیڑھ

کو ادھار دی تھی، اس کی وصولی کی رسید آپ کو نہیں بلکہ شاہ
جی کو دینا چاہیے۔“

خان بہادر کی اس ترش روی پر اجمل نے یاسمین کی
مصنوی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ ”خان صاحب! آپ
مجھے برسوں سے جانتے ہیں۔ اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں
ہوں کہ دو تین لاکھ روپے کے لیے اپنا ایمان خراب کروں
گا۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو چکی ہے کہ میں نے
وہ رقم یاسمین بھابی کی مجبوری کی خاطر لی تھی۔ اگر یہ آپ کو
رسید لکھ کر دینے کو تیار ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے۔ ہاں،
میں بطور گواہ اس رسید پر اپنے دستخط کر دیتا ہوں تاکہ سند
رہے اور یہ وقت ضرورت کام آئے۔“

یاسمین جس نوعیت کے حالات میں گھری ہوئی تھی
اس نے یاسمین کی سمجھ بوجھ اور عقل سب کی ایسی کم تھپی
کر رکھی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس کا ذہن ان
عیاروں کی سازش کی بوجھتا سوگھ لیتا مگر اس وقت تو اس کی
مت ماری گئی تھی۔ ان نامساعد حالات سے باہر نکلنے کا کوئی
راستہ اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔

شاہ جی کی تجویز پر فرید خان نے ایک لمحہ غور کیا پھر خاصی
تعلی سے بولا۔ ”شاہ جی! صرف آپ کے بطور گواہ دستخط کرنے
سے کام نہیں چلے گا۔ میں کوئی رسیک لینے کو تیار نہیں۔“
”کیسا رسک؟“ یاسمین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔
شاہ جی نے پوچھا۔ ”خان صاحب! آپ کیا چاہ
رہے ہیں؟“

”خالی رسید سے کام نہیں چلے گا۔“ فرید خان ٹھہرے
ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ”آج کل
شرافت اور بھلائی کا زمانہ نہیں رہا۔“
”رسید کے علاوہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟“ یاسمین
نے استفسار کیا۔

”حنانت.....!“ وہ ٹھوس انداز میں بولا۔
”کیسی حنانت؟“ اجمل شاہ نے پوچھا۔ ”میں ایک
حنانتی کی حیثیت سے رسید پر دستخط کرتا رہا ہوں۔“
”میں نے آپ پر بھروسا کرتے ہوئے تو وہ رقم دی
تھی اور آپ نے مجھے سچ میں لٹکا دیا ہے شاہ جی۔“ فرید خان
نے برا سامنہ بناتے ہوئے کہا۔ ”اس مرتبہ مجھے کوئی ٹھوس
حنانت چاہیے ہوگی۔“

یاسمین، فرید خان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ٹھوس
حنانت سے اس کی مراد کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اجمل
شاہ بول اٹھا۔

”خان صاحب! یہ قلیٹ یا سبین کا اپنا ہے۔ آپ
خواخواہ ناراض نہ ہوں۔ آپ کی تسلی کی خاطر یہ قلیٹ کو
حنانت کے طور پر اس رسید میں لکھ دیتی ہیں لیکن اس کے
بدلے میں آپ کو بھی ایک بات ماننا ہوگی۔“
”کون سی بات؟“ فرید خان نے الجھن زدہ انداز
میں باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔

اجمل شاہ نے کہا۔ ”آپ کو اس رسید کی رو سے یہ
 وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ یاسمین کو رقم کی واپسی کے لیے تین ماہ
کا وقت دیں گے۔“

ایک لمحہ سوچنے کے بعد فرید خان نے فیصلہ کن انداز
میں کہا۔ ”مجھے منظور ہے۔“
”ٹھیک ہے، میں کاغذ قلم لے کر آتی ہوں۔“ یاسمین
جلدی سے بولی۔

”اس کی ضرورت نہیں ہے۔“ فرید خان نے کہا۔
”میں کچے کاغذ پر رسید نہیں لوں گا۔“
”پھر.....؟“ یاسمین نے حیرت بھری نظر سے اس کی
طرف دیکھا۔

”یہ کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔“ فرید خان وضاحت
کرتے ہوئے بولا۔ ”میں اسٹیپ پیپر تیار کروا لیتا ہوں
اس سلسلے میں۔“

فرید خان نے یاسمین کے لیے بحث کا کوئی دروازہ
کھلا نہیں چھوڑا تھا لہذا وہ اس موقع پر کچھ بھی نہ کہہ سکی۔
انسان کی بے بسی اور مجبوری اس کی زبان پر اسی قسم کے
تالے ڈال دیتی ہیں۔

اگلے روز فرید خان اسٹیپ پیپر تیار کر ڈالے آیا۔
یاسمین نے بڑے غور سے اسٹیپ پیپر کی تحریر کو دو تین مرتبہ
پڑھا۔ اس میں فرید خان نے ایسی کوئی حق نہیں ڈالی تھی جس
پر یاسمین کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوتا۔ یہ ساری وہی باتیں
تھیں جو گزشتہ روز ان کے سچے ہو گئی تھیں۔ یعنی مذکورہ
اسٹیپ پیپر کی تحریر کے مطابق یاسمین، فرید خان کی مبلغ دو
لاکھ اور تیس ہزار کی مقرض تھی۔ یہ رقم اس نے تین ماہ کے
انداز فرید خان کو ادا کرنا تھی اور حنانت کے طور پر اس کا قلیٹ
اسٹیپ پیپر میں درج کر دیا گیا تھا، صرف القاط کی صورت
میں۔ قلیٹ کے ڈاکو میٹس وغیرہ یاسمین کے پاس ہی رہے
تھے۔ مذکورہ اسٹیپ پیپر پر فرید خان نے یاسمین کے دستخط
کرائے اور خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔

اس کے جانے کے بعد اجمل شاہ نے یاسمین سے
پوچھا۔ ”بھابی! آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟“

”انشاء اللہ! ضرور۔ میں دعا کروں گا اور کوشش بھی۔“ اجمل شاہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔
”کوشش..... کیسی کوشش بھائی صاحب؟“ یاسمین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔

”کہیں سے یہ رقم ارباب کرنے کی۔“ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ”تا کہ فرید خان کے منہ پر اس کے پیسے مار کر وہ اسٹیپ پیپر واپس لیا جائے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ ایک آدھ ماہ میں شوکت علی کی ضمانت ہو جائے گی۔“
”اگر شوکت گھر آجائے تو میں جی اٹھوں گی۔“ یاسمین نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ”وہ ضمانت پر رہا ہو جائے تو پھر کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بھی انتظام ہو ہی جائے گا۔ ویسے یہ بات آپ نے کس بنا پر کی ہے کہ ایک آدھ ماہ میں شوکت کی ضمانت ہو جائے گی؟“

”یہ بات اس کے وکیل نے دو روز پہلے مجھے بتائی تھی۔“ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو تسلی دینے لگا۔ ”وکیل نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ ایک یا دو ماہ سے زیادہ وڈیشیوں میں وہ شوکت کی ضمانت کرانے میں کامیاب ہو جائے گا مگر.....“

اجمل شاہ نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو یاسمین نے پوچھا۔ ”مگر کیا بھائی صاحب؟“

”مگر یہ بھائی کہ.....“ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ”اس کام کے لیے کچھ خرچہ کرنا پڑے گا۔“

”خرچہ.....“ یاسمین نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ”کتنا خرچہ؟“

”پچاس ہزار روپے۔“ شاہ جی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔

”وہ..... وہ کس لیے؟“

”وکیل نے پیش کار کی مدد سے شوکت کی ضمانت والی بات جج صاحب تک پہنچائی ہے۔“ وہ رازدارانہ انداز میں بتانے لگا۔ ”یہ رقم سیدھی جج تک پہنچائی جائے گی اور ایک آدھ بیسی میں شوکت ضمانت پر رہا ہو کر گھر آجائے گا۔“

یاسمین دل ہی دل میں خوش ہو گئی تاہم زبان سے اس نے پوچھ لیا۔ ”کیا جج صاحب بھی رشوت لیتے ہیں؟“

”بھائی! آوے کا آواہی بگڑا ہوا ہے۔“ اجمل شاہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولا۔ ”آپ کیا سمجھتی ہیں، ہمارے ملک کی عدالتوں میں سچائی اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں.....؟“

”ہاں وہاں..... میں تو یہی سمجھتی ہوں۔“ وہ اثبات

”میں ناراض ہو کر کیا کروں گی۔“ وہ افسردہ لہجے میں بولی۔

”یہ اسٹیپ پیپر والی تحریر میں نے انتہائی مجبوری میں لکھوائی ہے۔“ وہ جالاکے سے بولا۔ ”ورنہ فرید خان بھی بھی اپنی رقم کی واپسی کے لیے تین ماہ کی مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔“

”سب اپنی اپنی جگہ پر مجبور ہیں بھائی صاحب۔“ یاسمین نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔

”آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہی ہے۔ ویسے اس ساری کارروائی سے ایک بات تو ثابت ہو گئی.....“

”کون سی بات بھائی؟“ اجمل شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔

”آپ دونوں کی دوستی میں کوئی دم نہیں۔“ یاسمین نے نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوی بات کہہ ہی ڈالی۔ ”ورنہ اس

تحریر کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ فرید خان آپ کی زبان پر بھروسہ کر کے تین ماہ کی مہلت دے دیتا۔“

”بھائی! میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی تھی۔“ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ”لیکن آپ کے گھر

کے حالات نے اسے بدکا دیا تھا۔“

”مطلب؟“ یاسمین نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔

”اب دیکھیں نا بھائی.....“ وہ حد درجہ اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے بولا۔ ”شوکت قتل کے مقدمے میں پھنسا

ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ اس مقدمے میں جھونکا جا چکا ہے بلکہ دو ڈھائی لاکھ کی مقروض بھی ہو چکی ہیں اور اس گھر کی کوئی مستقل آمدنی بھی نہیں ہے۔ ان تمام تر

حالات کو دیکھتے ہوئے فرید خان کسی بھی طور پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ آپ اس کے قرض کی رقم تین ماہ کے بعد بھی

ادا کر پائیں گی۔ اس نے اپنی سیٹھی کے لیے آپ کے قیث کو ضمانت کے طور پر اسٹیپ پیپر میں لکھوایا ہے۔ سچی بات یہ

ہے بھائی کہ.....“ لگاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔

”آج کل کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ اگر میرے پاس ذاتی پیسے ہوتے تو میں بھی آپ کے قیث کو ضمانت کے طور پر اسٹیپ پیپر پر نہیں لکھنے دیتا۔“

”کوئی بات نہیں بھائی صاحب! آپ فینشن نہ لیں۔“ یاسمین نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ”جو ہونا تھا وہ

ہو چکا۔ اب یہ دعا کریں کہ تین ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے کوئی بھی طرح رقم کا بندوبست ہو جائے۔“

میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔

پر آمدورفت شروع کر دی۔ ان کے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ تین ماہ کے دوران میں یا سمین فرید خان کے دولاکھ تیس ہزار روپے ادا کرنے کے بعد وہ قانونی دستاویز (اسٹیٹ پیپر) اس سے واپس لے لے گی لیکن موجودہ صورت حال میں تو وہ ایک ہزار تک ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔

ایک دن اس نے اجمل شاہ سے کہا۔ ”بھائی صاحب! میں یہ فلیٹ بیچنا چاہتی ہوں۔“

یہ یا سمین کی بے بسی کی انتہا تھی۔ اس کا شوہر جیل میں تھا اور اس کے مقدمے پر باقاعدہ پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ فلیٹ فروخت کر کے سارا قرض ادا کرے گی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کرائے کے کسی گھر میں منتقل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو بھی ہو، اللہ مالک ہے۔

”بھائی! آپ فرید خان کی اجازت..... میرا مطلب ہے، اس کے علم میں لائے بغیر یہ فلیٹ فروخت نہیں کر سکتیں۔“ شاہ جی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ”آپ نے وہ اسٹیٹ پیپر غور سے پڑھا تھا..... اس میں واضح طور پر درج ہے کہ آپ فرید خان کا قرض ادا کرنے کے بعد ہی اس فلیٹ کو بیچ سکتی ہیں۔“

”مجھے اس ایگریمنٹ کی یہ شرط اچھی طرح یاد ہے۔“ یا سمین نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ”اور میں نے اس فلیٹ کو بیچنے کا فیصلہ اسی مقدمے سے کیا ہے کہ فرید خان کا قرض ادا کر سکوں۔ اس کا روز روز دروازے پر آنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔“

”ہوں.....؟“ اجمل شاہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ ”میرا ایک بہت ہی قریبی دوست پراپرٹی کی سٹریٹ پر چیز کا بزنس کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کرتا ہوں؟“

”میں نے یہ ذکر آپ سے اسی لیے تو کیا ہے۔“ وہ سادہ دل عورت امید بھری نظر سے شاہ جی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ”اس نازک موقع پر آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔“

”آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔“ وہ کمال ہوشیاری سے بولا۔ ”میں چند دن میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔“

”اس کے ساتھ ہی آپ مجھ پر ایک اور احسان بھی کریں گے.....“ یا سمین نے کہا۔

وہ سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ”کیسا احسان؟“

”جب تک آپ اس فلیٹ کو فروخت کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے، اپنے اس دوست فرید خان سے کہہ دیں کہ میرے دروازے پر دستک نہ دے۔“

”اگر آپ ایسا سمجھتی ہیں تو سراسر غلط فہمی میں ہیں۔“ اجمل شاہ نے کہا۔ ”ہماری عدالتوں میں انصاف فروخت ہوتا ہے۔ آپ رقم خرچ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے خرید سکتے ہیں۔“

”اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت ہی غلط ہوتا ہے۔“ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔

”آپ جو بھی کہیں مگر جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔“ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ”خیر، آپ فکر نہ کریں۔“ اس نے ہمدردی بھرے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ ”میں دو چار دن میں کہیں سے پچاس ہزار روپے کا بندوبست کرتا ہوں تاکہ وکیل اور پیش کار کے ذریعے جج تک پہنچا کر شوکت کی ضمانت پر رہائی کا انتظام تو کیا جائے۔ آگے اللہ مالک ہے۔“

یا سمین تشکر آمیز انداز میں اپنے ”محسن“ اجمل شاہ عرف شاہ جی کو دیکھنے لگی۔ شاہ جی کی شکل میں اس سادہ دل بہ الفاظ دیگر احمق عورت کو امید کی ایک کرن نظر آنے لگی تھی۔ انسان کے حالات اس کی سوچ کے زاویے کا تعین کرتے ہیں۔ وہ جس نوعیت کے حالات میں گھری ہوئی تھی، ان میں بے بسی اور لا چارگی اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب سے اس کا شوہر قتل کے الزام میں گرفتار ہوا تھا اور جیل گیا تھا، علاقے میں اس کی پوزیشن خاصی خراب ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اسے اور اس کی بیٹی لیلیٰ کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا حالانکہ اصولی طور پر تو انہیں ماں بیٹی سے ہمدردی ہونا چاہیے تھی مگر ہمارے معاشرے کا بھی عجیب چلن ہے۔ یہ ہمیشہ اسی چال ہی چلتا ہے۔ فرید خان کی بات بھی اس نے اسی لیے مان لی تھی کہ وہ بار بار گھر کے دروازے پر نہ آئے۔ قرض خواہ کی آئے دن کی آمد اور شور و غل بھی انسان کو معاشرے میں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتا ہے۔

تین ماہ پر لگا کر اڑ گئے۔ اس دوران میں وہ مٹر ہزار کی مزید مقروض ہو گئی یعنی پچاس ہزار جو جج کو پہنچائے گئے تھے اور لگ بھگ بیس ہزار ادھر ادھر کے اخراجات پر اٹھ گئے۔ یہ مٹر ہزار اسے اجمل شاہ نے مہیا کے تھے لیکن اس معاملے کا افسوس ناک پہلو یہ تھا کہ شوکت علی ہنوز جیل میں بند تھا۔ اس کی ضمانت پر رہائی ممکن نہیں ہو سکی اور شاہ جی اسے تسلی پر تسلی دیے جا رہا تھا کہ شوکت اب باہر آ رہا ہے اور تب باہر آ رہا ہے۔

تین ماہ کے بعد فرید خان نے یا سمین کے دروازے

”یہ میں کروں گا۔“ وہ تسلی بھرے لہجے میں بولا۔
 ”اور مجھے امید ہے کہ میرا وہ پراپرٹی ڈیلر دوست ایک ہفتے
 کے اندر اندر اس فلیٹ کو بکوا بھی دے گا۔“
 ”ٹھیک ہے!“ یہ کہتے ہوئے یاسمین نے گفتگو ختم
 کر دی۔

اگلے روز سے شاہ جی کے دوست نے فلیٹ کے لیے
 پارٹیاں لانا شروع کر دیں۔ ایک عام سروے کے مطابق
 اس فلیٹ کی مارکیٹ ویلیو پانچ لاکھ کے اریب قریب تھی
 لیکن کریم بھائی پراپرٹی ڈیلر جو بھی پارٹی لے کر آتا، وہ
 ساڑھے تین یا پونے چار لاکھ سے زیادہ نہیں لگا رہی تھی۔
 کریم بھائی بھی اسے یہ سمجھانے کی کوشش میں تھا کہ اس
 وقت پونے چار لاکھ سے زیادہ کوئی نہیں دے گا۔ مارکیٹ
 بہت ڈاؤن جا رہی ہے۔

اپ اینڈ ڈاؤن ہر کاروبار کا حصہ ہے لیکن اسٹیٹ
 کے بزنس میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن بعض اوقات بہت ہی
 مشکل خیز ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو کچھ خریدنا ہو تو
 مارکیٹ بہت چڑھی ہوئی بتائی جاتی ہے اور اگر کچھ فروخت
 کرنے کا ارادہ ہو تو مارکیٹ ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے۔
 اللہ غلط بیانی کرنے والے اسٹیٹ ایجنٹس کو ہدایت
 دے۔ آمین۔

تین دن کے بعد شاہ جی ایک خوش خبری لے کر
 یاسمین کے پاس آیا اور مسرت بھرے لہجے میں بولا۔
 ”بھابی! سمجھیں کہ بس آپ کا کام ہو گیا۔“
 ”میں تو کچھ بھی نہیں سمجھی؟“ یاسمین سوالیہ نظر سے
 اسے تنکے لگی۔

”کریم بھائی نے ایک تجویز دی ہے جس کے دو پہلو
 ہیں۔“ شاہ جی نے بتایا۔ ”اور یہ دونوں پہلو آپ کے
 فائدے کے ہیں۔“

”ان پہلوؤں کی تفصیل کیا ہے؟“
 ”اصل میں بھابی..... کریم بھائی کو میں نے آپ کے
 حالات سے تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے۔“ اجمل شاہ وضاحت
 کرتے ہوئے بولا۔ ”وہ آپ سے کافی ہمدردی کا اظہار
 کر رہا تھا اسی لیے اس نے آپ کے فلیٹ کے حوالے سے
 ایک تجویز دی ہے۔“

شاہ جی نے توقع کیا تو یاسمین الجھن زدہ نظر سے اسے
 دیکھتی چلی گئی۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔
 ”کریم بھائی نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ چار لاکھ میں
 خود فلیٹ خریدنے کو تیار ہے، جب بھی پراپرٹی کے دام

بڑھیں گے تو پھر وہ اس فلیٹ کو فروخت کر دے گا اور دوسرا
 پہلو یہ ہے کہ وہ فوری طور پر آپ کو فلیٹ سے بے دخل نہیں
 کرے گا۔ آپ جب تک چاہیں، ایک کرائے وار کی
 حیثیت سے اس فلیٹ میں رہ سکتی ہیں۔“

”اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے ہی گھر میں کرائے
 وار کی حیثیت سے رہنا پڑے گا۔“ وہ ایک ٹھنڈی سانس
 خارج کرتے ہوئے بولی۔ ”واہ ری قسمت.....!“
 ”کریم بھائی نے کہا ہے کہ اگر آپ چند ماہ یہاں
 رہنا چاہتی ہیں تو وہ آپ سے فلیٹ کا کرایہ بھی نہیں لے گا۔“
 شاہ جی تے مزید بتایا۔ ”اگر آپ کریم بھائی کو یہ فلیٹ چار
 لاکھ میں فروخت کرنے کے لیے راضی ہیں تو مجھے بتادیں۔
 میں انہیں کنفرم کر دیتا ہوں.....؟“

یاسمین جس نوعیت کے حالات سے گزر رہی تھی، ان
 میں کریم بھائی کی پیشکش اس کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم
 نہیں تھی۔ وہ فوراً فلیٹ کی فروخت کے لیے تیار ہو گئی۔ اس
 فروخت کے سلسلے میں سب سے بڑا قانونی مسئلہ یہ تھا کہ
 مذکورہ فلیٹ شوکت علی کے نام پر تھا اور وہ خود مل کے ایک
 مقدمے کے سلسلے میں جیل میں بند تھا۔ یاسمین اپنے شوہر کی
 مرضی کے بغیر یہ فلیٹ فروخت کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ جب
 اس نے شاہ جی کی موجودگی میں کریم بھائی سے یہ کہا کہ اب
 تو اسے اپنے شوہر سے کھل کر بات کرنا ہی ہوگی تو وہ لٹی میں
 گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔

”نہیں بھابی! ایسی غلطی کبھی بھول کر بھی نہیں کرنا.....!“
 ”کیا مطلب؟“ یاسمین نے تعجب بھری نظر سے
 اسے دیکھا۔ ”اس میں غلطی والی کون سی بات ہے؟“

”آپ جانتی ہیں نا، شوکت ادھر جیل میں کس قدر
 پریشان ہے۔“ وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ ”آپ نے
 ابھی تک اپنے مسائل اس سے اسی لیے چھپا رکھے ہیں تاکہ
 اس کی پریشانی میں اضافہ نہ ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟“
 ”نہیں..... آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔“ وہ
 گھبرانداز میں بولی۔ ”میری خواہش تو یہی ہے کہ سارے
 دکھ و رنج اکیلے ہی چھیل لوں اور شوکت کے غم میں کسی قسم کا
 اضافہ نہ ہو۔“

”بس..... تو اب بھی آپ اپنی اس پالیسی کو اپنائے
 رہیں بھابی جی۔“ شاہ جی نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ ”اگر
 ادھر جیل میں، شوکت کو یہ خبر ہوئی کہ اس کی بیوی اور بیٹی
 کسمپرسی کے اس درجے پر پہنچ گئی ہیں تو وہ ہل بھر میں دم
 توڑ دے گا۔“

”یا اللہ خیر.....“ یاسمین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔
 ”بلکہ آپ شوکت کو یہ بھی نہیں بتائیں گی کہ آپ نے
 کریم بھائی کے ہاتھ یہ فلیٹ فروخت کر دیا ہے۔“ شاہ جی
 نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔

”پھر میں یہ فلیٹ کیسے فروخت کر سکوں گی؟“ وہ
 پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ”یہ
 فلیٹ شوکت کے نام پر ہے۔ اس کے علم میں لائے بغیر یہ
 کام کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچے گا؟“

”سب ہو جائے گا۔“ پراپرٹی ایجنٹ کریم بھائی کے
 نمائندے اجمل شاہ عرف شاہ جی نے ٹھہرے ہوئے لہجے
 میں کہا۔ ”میں نے یہ فلیٹ بھی کریم بھائی سے ڈسکس کیا ہے۔
 انہوں نے مجھے ایک قیمتی مشورہ دیا ہے۔“

”کیسا مشورہ؟“ یاسمین نے سوالیہ نظر سے شاہ جی کو دیکھا۔

یاسمین بے چاری بیک وقت چاروں طرف سے
 خبیث انسانوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی جن کا سرفہ
 اجمل شاہ تھا۔ اب تک شوکت کی رہائی کے سلسلے میں اس
 کے کیس پر جتنی بھی رقم خرچ ہو چکی تھی، وہ اسی شاہ جی کے
 ذریعے ہوتی تھی۔ یاسمین وثوق سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ آیا
 واقعی اتنے پیسے خرچ بھی ہوئے تھے یا شاہ جی ڈنڈی مار رہا
 تھا۔ پھر فرید خان والا معاملہ بھی مشکوک تھا۔ اس بات کا بھی
 یاسمین کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ شاہ جی نے فرید خان
 سے رقم ادھار لی تھی یا وہ لوگ اسے الونٹا رہے تھے اور اب
 یہ کریم بھائی.....!

یہ تینوں بد معاش مل کر ایک مجبور اور لاچار عورت کی
 بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ان
 کی سازش کو سمجھ نہیں پا رہی تھی یا اگر کسی حد تک سمجھ بھی رہی تھی
 تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یاسمین کے سوال کے
 جواب میں شاہ جی نے کہا۔

”کریم بھائی نے کہا ہے کہ فی الحال وہ آپ کو تین
 لاکھ روپے ادا کر کے اسٹیپ پیپر پر آپ کے دستخط لے لیتے
 ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے چار لاکھ کی
 ادائیگی کی رسید ہوگی۔ اسٹیپ پیپر کی تحریر میں یہ بات
 واضح کر دی جائے گی کہ آپ نے چار لاکھ کے عوض یہ فلیٹ
 فروخت کر دیا ہے اور.....“

”ایک منٹ.....“ یاسمین اس کی بات پوری ہونے
 سے پہلے ہی بول اٹھی۔ ”جب کریم بھائی مجھے تین لاکھ کی
 رسید کریں گے تو میں رسید چار لاکھ کی وصولی کی کیوں
 روکوں گی؟“

”آپ سمجھی نہیں ہیں۔“ وہ جلدی سے وضاحت
 کرتے ہوئے بولا۔ ”الگ سے آپ کو کوئی رسید لکھ کر نہیں
 دینا۔ وہ اسٹیپ پیپر ہی ایک رسید کی طرح ہوگا جس کی تحریر
 کے مطابق آپ یہ فلیٹ چار لاکھ میں فروخت کر رہی ہیں۔“
 ”اور چوتھا لاکھ کریم بھائی مجھے کب دیں گے؟“
 یاسمین نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔

”یہ پوچھی ہے نا آپ نے عقل مندی کی بات۔“
 شاہ جی نے سراہنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔
 ”کریم بھائی کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ ایک لاکھ اس وقت ادا
 کریں گے جب فلیٹ کی رجسٹری ان کے نام ہو جائے گی
 اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب شوکت علی رہا ہو کر جیل
 سے باہر آ جائے کیونکہ رجسٹری کے کاغذات پر چاہے جا اس
 کے دستخط ہوں گے۔ یہ فلیٹ اسی کے نام ہے۔“ لکھائی
 توقف کر کے اس نے گہری سانس لی پھر رازدارانہ انداز
 میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔

”کریم بھائی آپ کے ساتھ ولی ہمدردی کا اظہار کر
 رہے ہیں۔ اس ڈیل کے بدلے وہ آپ سے فلیٹ کے
 کاغذات بھی نہیں مانگ رہے۔ وہ کاغذ کے ایک پزے
 (اسٹیپ پیپر) کے بدلے آپ کو تین لاکھ روپے دے
 رہے ہیں۔ آپ کو بھی ان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔“

اجمل شاہ کی بات یاسمین کی سمجھ میں آگئی اور دل ہی
 دل میں وہ خود کو لعن طعن بھی کرنے لگی کہ وہ شاہ جی اور کریم
 بھائی کی نیت پر شک کیوں کر رہی تھی۔ شاہ جی جاتے ہوئے
 یاسمین کو یقین دلا گیا تھا کہ اگلے روز وہ شام میں ٹھیک چھ
 بجے کریم بھائی کو لے کر آئے گا۔

اگلے روز دوپہر سے پہلے فرید خان آدھکا اور دھمکی
 دینے والے انداز میں اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ یاسمین
 نے اس سے کہا۔

”خان صاحب! آپ شام میں چھ بجے آ جائیں۔
 آپ کی رقم آپ کو مل جائے گی۔“

”چھ بجے کا مطلب چھ بجے ہی ہے بی بی!“ فرید
 خان نے خشکی آمیز انداز میں کہا۔ ”میں ایک منٹ بھی انتظار
 نہیں کروں گا۔“

”اچھا ایسا کریں، آپ ساڑھے چھ بجے آئیں۔“ وہ
 حفظاً ما تقدم کے طور پر بولی۔ ”آپ کی رقم تیار رکھی ہوگی۔“

”ٹھیک ہے.....“ یہ کہتے ہوئے فرید خان وہاں سے
 چلا گیا۔

یہ تینوں شیطان صفت انسان ملی بھگت کے ذریعے

ایک مصیبت زدہ عورت کو مختلف زاویوں سے الوہنا کر لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہجی نے ٹھیک چہرے بچے کریم بھائی کے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ چہرے شاہجی تو آگیا مگر کریم بھائی اس کے ساتھ نہیں تھا۔

”کریم بھائی کہاں ہیں؟“ یاسمین نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔

”وہ ابھی توڑی دیر میں پہنچے ہی والے ہیں۔“ اجمل شاہ نے جواب دیا۔

یاسمین نے مختصر الفاظ میں اسے حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے بعد بتایا۔ ”ٹھیک چہرے فرید خان میرے دروازے پر دستک دے گا۔ اس سے پہلے کریم بھائی کو آجانا چاہیے۔“

”یہ فرید تو کچھ زیادہ ہی کینگی اور بد لحاظی پر اتر آیا ہے۔“ شاہجی نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ ”اس نے سب کو اپنا دین ایمان بنا لیا ہے۔ شاید آپ کو ایک بات کا علم نہیں بھائی.....“ بات روک کر اس نے سوالیہ نظر سے یاسمین کی طرف دیکھا تو وہ پوچھے بتانہ رہ گئی۔

”کون سی بات؟“

وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ”میں نے فرید خان سے دوستی ختم کر دی ہے۔“

”کس بات پر؟“

”اسی..... آپ کے معاملے پر۔“ وہ برا سامنے بتاتے ہوئے بولا۔ ”میں اس سے زیادہ مہلت دینے کو کہہ رہا تھا اور وہ اس بات پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں نے زیادہ ضد کی تو اس نے ایک ایسی بات کی کہ میرے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ جانتی ہیں، اس مردود نے کیا کہا تھا.....؟“

”نہیں جانتی۔“ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی پھر پوچھا۔ ”کیا کہا تھا؟“

”اس نے آپ کو گالی دی تھی.....! وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔

”مجھے گالی دی تھی..... مگر کیوں؟“

”کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی حمایت میں اتنا بڑھ چڑھ کر کیوں بول رہا ہوں۔“ اجمل شاہ نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ ”کہیں..... شوکت کے جنرل ملے جانے کے بعد..... میں نے آپ کے ساتھ..... اور کوئی تعلق تو قائم نہیں کر لیا.....“

”خدا غارت کرے اس شیطان کی اولاد کو۔“ یاسمین

نے پھنکار سے مشابہ انداز میں کہا۔ ”آج میں اس کے دو لاکھ تیس ہزار اس کے منہ پر باروں گی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے.....“

”لعنت بھیجیں اس پر۔“ شاہجی نے معتدل انداز میں کہا۔ ”آپ خواخواہ اپنا دماغ گرم نہ کریں۔ آج اس خبیث سے آپ کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی.....“

ادھر اجمل شاہ کی بات ختم ہوئی، ادھر دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یاسمین نے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ ساڑھے چھ بجتے ہیں پانچ منٹ باقی تھے۔

”اللہ کرے، یہ کریم بھائی ہوں۔“ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ”میں جا کر دیکھتی ہوں.....“

یاسمین نے دروازہ کھولا تو فرید خان کی صورت نظر آئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔

”تم پانچ منٹ پہلے کیوں آگئے؟“

”اس خیال سے کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔“ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا۔ ”کوئی بات نہیں، میں ادھر بیٹھنے میں پانچ منٹ انتظار کر لیتا ہوں.....“

پھر اس نے یاسمین کا جواب سننے بغیر زینے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ یاسمین واپس ڈرائنگ روم میں پہنچی اور اجمل شاہ کو تازہ ترین صورت حال سے آگاہ کیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے کی ڈور بھل بج اٹھی۔

”آپ بیٹھیں بھائی!“ شاہجی نے جلدی سے کہا۔ ”میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے، یہ کریم بھائی ہوں گے.....“

اب کی بار شاہجی یاسمین کا جواب سننے بغیر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا، شاہجی نے اسی اسکرپٹ پر عمل کیا جو جس پر چند سیکنڈ پہلے فرید خان پر فارم کر چکا تھا۔

یاسمین صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ اجمل شاہ، کریم بھائی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ شاہجی نے کہا۔

”کریم بھائی اب باقی باتیں ہم بعد میں بیٹھ کر اطمینان سے کرتے رہیں گے۔ آپ فوری طور پر رقم یا سبین بھابی کے حوالے کریں تاکہ یہ اس شیطان سے نجات حاصل کریں جو باہر بیڑھیوں میں دھرنا دیے بیٹھا ہے.....“

”رہم میں ساتھ لے کر آیا ہوں مگر.....“ کریم

۵۵۔ انسانی معاشرے کا باہمی ربط و ضبط صرف ماں ہی کے طفیل ہے۔
۵۶۔ ماں کی آنکھ سے چمکا ہوا آنسو بحر اوقیانوس سے گہرا ہوتا ہے۔

۵۷۔ ٹوٹتے ہوئے پسماندہ معاشرے پوچھتے ہیں کہ جو حاکم سزا دیتے ہیں، وہ ماں کی دعا کیوں نہیں دے سکتے؟ ماں نے تھپڑ مارا بچہ ماں سے لپٹ گیا۔ ماں نے اٹھایا اور چوم لیا جبکہ حاکم نے سزا دی تو رعایا باغی ہو گئی۔

۵۸۔ باپ کی جانمدا کی وجہ سے آپس میں تنازعہ اور نفرت پیدا نہ کرو اور ماں کے پیار و محبت کے وارث بن جاؤ، انسانیت سکھی ہو جائے گی۔

۵۹۔ ماں بچوں کے لیے توحید کا سہل ہے۔ بہت سے بچوں کی ایک ماں ہو یا پھر ایک ماں کے بہت سے بچے ہوں، ماں تو ایک ہی رہے گی۔

۶۰۔ جو ماں کو نہ سمجھ سکاوہ مقام توحید کو نہ سمجھ سکا۔

۶۱۔ جو ماں کا نافرمان ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہو جاتا ہے۔

۶۲۔ ماں اور اولاد کا رشتہ ایسا ہے کہ تمام مائیں خوب صورت نہیں ہوتیں مگر ہر ایک کو اپنی ماں خوب صورت نظر آتی ہے۔

۶۳۔ ماں بہشت بریں کا مہکتا پھول ہے۔ ماں تجھے سلام۔

مرسلہ۔ رضوان تنوئی کریم ڈوٹی، اورنگی ٹاؤن، کراچی

کریم بھائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ”یا یسین، بہن یہ کلیٹ اب مجھے فروخت کر چکی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کلیٹ کے حوالے سے کوئی قانونی تحریر کسی اور شخص کے پاس بھی ہو۔“

اگلے دس منٹ کے اندر یہ مرحلہ بھی ختم ہی گیا۔ یا یسین نے فرید خان کو کلیٹ کے اندر بلا لیا۔ دو لاکھ تیس ہزار روپے، دو گواہوں کی موجودگی میں اس کے حوالے کیے اور فرید خان نے انہی دو گواہان کے سامنے وہ رقم گن کر اپنی جیب میں ڈالی اور تحریر شدہ یا یسین کے دستخط والا اسٹیپ پیپر اس کی طرف بڑھا دیا پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ فرید خان کے جانے کے بعد کریم بھائی نے ہاتھ

بھائی نے تذبذب بھری نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔

”مگر کیا کریم بھائی؟“ اجمل شاہ نے پوچھا۔

”کاغذات پر دستخط بھی تو ہونا ہی ہوتا۔“

”ہاں، ہاں..... دستخط بھی ہونا ہیں۔“ اجمل شاہ نے سرسری انداز میں کہا۔ ”نکالیں وہ اسٹیپ پیپر۔ پہلے دستخط ہی کر لیتے ہیں۔“

اس کے بعد سب کچھ آن واحد میں ہو گیا۔ کریم بھائی نے مذکورہ تیار ٹائپ شدہ اسٹیپ پیپر نکالا اور جلدی جلدی یا یسین کے دستخط لے لیے۔ یا یسین اس وقت جس قسم کے حالات کا شکار تھی، اس میں اس نے اسٹیپ پیپر کی تحریر پر نظر ڈالنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان لمحات میں اس کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ پہلی فرصت میں تین لاکھ کی رقم اس کے ہاتھ میں آئے اور دوسری فرصت میں وہ فرید خان کے دو لاکھ تیس ہزار اس کے حوالے کر کے سکھ کی ایک طویل سانس لے اور..... اس نے ایسا ہی کیا بھی!

کریم بھائی نے اسٹیپ پیپر پر یا یسین کے دستخط کرانے کے بعد اس دستاویز کو ایک ہاتھ سے اپنے بیگ میں رکھا اور دوسرے ہاتھ سے، اسی بیگ میں سے ہزار ہزار والے نوٹوں کی تین گڈیاں یعنی تین لاکھ روپے نکال کر یا یسین کے حوالے کر دیے۔ وہ نوٹوں کی گڈیاں سب بند تھیں اور ان پر بیگ کی مہر بھی لگی ہوئی تھی لہذا انہیں کھینے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی یا یسین کے پاس اتنا وقت تھا۔

اس نے جلدی میں ایک گڈی کو کھول کر اس میں سے تیس ہزار لگ کیے۔ ان کھلے تیس ہزار روپوں کو دو لاکھ والی مہر بند گڈیوں کے ساتھ رکھا اور اجمل شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

”شاہ جی! میں اس منحوس فرید خان کو اندر بلا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی موجودگی میں اس کی رقم لوٹاؤں گی تاکہ بعد میں کوئی فتنہ یا فساد کھڑا نہ ہو۔“

”ہاں لکل..... آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔“ اجمل شاہ جلدی سے اثبات میں تروٹن ہلاتے ہوئے بولا۔ ”میں تو اس سے بات کروں گا نہیں مگر یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ ہماری موجودگی میں اس کی رقم واپس کریں گی تو ہم اس بات کے گواہ ہوں گے کہ آپ نے قرض لوٹا یا سدا اور..... اس مردود سے وہ اسٹیپ پیپر بھی تو واپس لیتا ہے جس میں اس کلیٹ کو ضمانت کے طور پر لکھا گیا تھا.....“

”شاہ جی! یہ آپ نے سکتے کی بات اٹھائی ہے۔“

آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”یا سمین بہن! فرید خان والا اسٹیپ پیچھا یا تو مجھے دے دیں یا پھر اسے میری آنکھوں کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔“

ہوئے۔ دو ماہ یا سمین بغیر کرایہ ادا کیے اس قلیٹ میں رہی۔ تیسرے ماہ شاہ جی نے کرائے کا مطالبہ کر دیا..... اور وہ بھی کھرے لہجے میں۔

”مگر کریم بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ مجھ سے کرایہ نہیں لیا کریں گے؟“ یا سمین نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔

”کون کریم بھائی؟“ وہ تھوری چڑھا کر بولا۔
 ”اجمل بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے.....“ یا سمین کی حیرت ساتویں آسمان کو چھونے لگی۔ ”میں اس کریم بھائی کی بات کر رہی ہوں جس نے میرا یہ قلیٹ چار لاکھ میں خریدا تھا۔“

”مجھے کچھ نہیں ہوا بلکہ لگتا ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔“ اجمل شاہ بے مروتی سے بولا۔ ”یہ قلیٹ تو آپ نے میرے ہاتھ فروخت کیا ہے اور وہ بھی تین لاکھ میں۔ میں آپ کو تین لاکھ ادا کر چکا ہوں۔ یہ تو میری شرافت ہے کہ میں نے رجسٹری سے پہلے آپ کو قلیٹ کی پوری قیمت ادا کر دی اور آپ اب مجھے کسی کریم بھائی کی کہانی سنارہی ہیں.....“ لہجائی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی پھر اپنی بات کو اسی جارحانہ انداز میں مکمل کرتے ہوئے بولا۔

”اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دستخط والا وہ اسٹیپ پیچیر میرے پاس رکھا ہوا ہے جس کی تحریر کے مطابق آپ نے تین لاکھ کی رقم وصول کر کے یہ قلیٹ میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ رجسٹری کے لیے آپ نے مجھ سے کچھ مہلت مانگی تھی اور میں نے مہلت دے بھی دی۔ اس خیال سے آپ کا شوہر جیل میں ہے لیکن میں اس کی رہائی کے اقتدار میں ساری عمر تو پیشا نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ قلیٹ فروخت کرنا ہے لہذا جتنی جلدی ممکن ہو اسے خالی کر دیں۔“

”نیت سیری نہیں آپ کی خراب ہو گئی ہے۔“ یا سمین نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ”وہ اسٹیپ پیچر دکھائیں مجھے!“
 اجمل شاہ نے مذکورہ اسٹیپ پیچر کی فوٹو کاپی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”اصل میں نے سنبھال کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ آپ اس نقل کو دیکھ کر اپنی تسلی کر لیں۔“

یا سمین نے وہ نقل لے کر بغور اس کے مندرجات کا جائزہ لیا۔ وہ اصل اسٹیپ پیچر ہی کی کاپی تھی اور اس کے مندرجات اجمل شاہ کے دعوے کی تصدیق کرتے تھے۔ اس

”بھائی! کریم بھائی بالکل اصول کی بات کر رہے ہیں۔“ شاہ جی بھی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ”یہ آپ کو تین لاکھ روپے ادا کر چکے ہیں اور ایک لاکھ باقی ہیں۔ یہ ایک لاکھ دے کر کریم بھائی اس قلیٹ کی رجسٹری اپنے نام کروالیں گے۔ اصولی طور پر اب بھی اس قلیٹ کے مالک ہیں۔ ان کی یہی مہربانی کیا کم ہے کہ یہ آپ کو اس قلیٹ میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں.....“

”آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی۔“ یا سمین ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے یونی پھر وہ اسٹیپ پیچر کریم بھائی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”یہ آپ ہی رکھ لیں۔ میں کیا اس کا اچار ڈالوں گی۔“
 تھوڑی دیر کے بعد کریم بھائی رخصت ہو گیا۔ کریم بھائی نے یا سمین کو جو تین لاکھ روپے دیے تھے، ان میں سے دو لاکھ تین سو ہزار تو ہاتھ کے ہاتھ فرید خان لے گیا تھا اور ستر ہزار باقی بچے تھے۔ پچھلے دنوں شاہ جی نے پیش کار کے توسط سے حج کو اور دیکھل صفائی کو بھی کچھ رقم دی تھی جو لگ بھگ ستر ہزار ہی بنتی تھی۔ اگرچہ شاہ جی کی اس ایجنسی سے شوکت علی کی ضمانت ہوئی تھی اور نہ ہی کیس میں کوئی بہتری آئی تھی۔ ہاں..... البتہ یا سمین، اجمل شاہ کی ستر ہزار کی مفروض ضرور ہو گئی تھی۔

”اجمل بھائی! یہ آپ رکھ لیں۔“ یا سمین نے مذکورہ ستر ہزار کی رقم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”آپ کا حساب بھی صاف ہو جائے تو اچھا ہے۔ بس، ایک احسان آپ مجھ پر اور کر دیں۔“

شاہ جی نے ستر ہزار کے نوٹ گنتے بغیر اپنی جیب میں ٹھونسے اور کمری آواز میں پوچھا۔ ”کون سا احسان بھائی؟“
 ”کریم بھائی کی طرف ایک لاکھ بچے ہیں۔“ وہ وضاحت کرتے ہوئے یونی۔ ”میں چاہتی ہوں، اسی رقم کے اندر اندر شوکت باعزت بری ہو کر باہر آجائے۔ آگے جو ہماری قسمت..... اللہ مالک ہے۔“

”جی..... میں پوری کوشش کروں گا انشاء اللہ“ وہ بڑے دثوق سے بولا۔ ”آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔“
 یا سمین ”بے فکر“ ہو گئی اور شاہ جی نے ”پوری کوشش“ شروع کر دی۔ اس کوشش کے خاصے سنسنی خیز نتائج برآمد

ہے تو ایک لاکھ زیادہ کس بات کا دوں..... اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ.....“ وہ پُرسوج انداز میں یاسمین کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ”میں تمہیں کچھ عرصے تک ایک کرائے دار کی حیثیت سے اس فلیٹ میں رہنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔“

یاسمین نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر اس کی بات مان لی۔ اب اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ اجمل شاہ نے کسی ماہر شکاری کی طرح پہلے یاسمین کو اپنے جال میں پھنسا یا تھا پھر رفتہ رفتہ جال کو سمیٹتے ہوئے وہ پوری طرح اسے اپنی جکڑ میں لے چکا تھا۔ اب تک شاہ جی نے اس کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولے تھے اور مختلف حیلوں بہانوں، حربوں اور ضربوں سے اس نے اپنی جیب گرم کی تھی۔ اس نے کبھی شوکت علی کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں تھی بلکہ جو تین لاکھ اس نے مختلف مدتوں میں یاسمین سے بطور ہتھیار بیکشت اسے ادا کرنے نہ صرف یہ کہ اس فلیٹ کا مالک بن بیٹھا تھا بلکہ تین لاکھ کی اس رقم میں سے بھی وہ ستر ہزار سمیٹ کر لے گیا تھا۔ گویا، یہ فلیٹ اسے صرف دو لاکھ تیس ہزار میں پڑا تھا اور یہ دو لاکھ تیس ہزار بھی اسی بد نصیب مجبور عورت کے تھے جس سے اس کا فلیٹ خریدا گیا تھا۔ یہ تو سیدھی سیدھی وہی بات تھی کہ..... جس کا جوتا، اسی کا سرا

خبر..... پہلے تو شاہ جی نے یاسمین سے کرایہ وصول کرنا شروع کیا پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے فلیٹ خالی کرنے کو کہہ دیا اور آخر کار اس نے کسی وکیل کے توسط سے فلیٹ خالی کرنے کا نوٹس بھی بھجوا دیا تھا۔ یاسمین کی قسمت ابھی تھی کہ تباہی کے دہانے تک پہنچنے کے بعد اس نے فلیٹ خالی کرنے کے بجائے کسی طرح عابد نوید سے رابطہ کیا تھا اور اس طرح یہ کیس میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔

میں نے جس تفصیل کے ساتھ یاسمین کی پچا آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس سے آپ شاہ جی کی شیطانی چالوں کو تو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تاہم اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ میں اس ساوہ ول بہ الفاظ دیکر بے وقوف خاتون کو براہ پاؤ ہونے سے بچا سکتا تھا۔ جو تکلیف وہ اٹھا چکی تھی، اس ذہنی اور جسمانی اذیت کا ازالہ اسی صورت میں ممکن تھا جب میں اس اللہ کی بندی کو شاہ جی کے فریب سے باہر نکال لاتا اور اس کے بے گناہ شوہر کی رہائی کے لیے بھی چارہ جوئی کرتا۔ ساری داستان سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ خدشہ بھی جاگا تھا کہ کہیں..... شوکت علی، اجمل شاہ کی

اسٹیپ پیپر کی تحریر کے مطابق یاسمین نے تین لاکھ کی رقم وصول کر کے اپنا فلیٹ اجمل شاہ کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ تحریر میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ دو ماہ کے بعد فلیٹ کی رجسٹری اجمل شاہ کے نام کرا دے گی۔ اجمل شاہ نے یہ مہلت اسے شوکت علی کے چیل میں ہونے کی وجہ سے دی تھی۔

”میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے..... ایک خطرناک دھوکا۔“ وہ حقیقت کی تہ میں اترنے کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ ”یہ تو زیادتی ہے۔“

جب شاہ جی اور کریم بھائی اس کے گھر آئے تھے اور کریم بھائی نے اسے تین لاکھ روپے ادا کیے تھے تو ان لمحات میں یاسمین بہت زیادہ پریشان تھی اور یہ پریشانی فرید خان کی وجہ سے تھی۔ جب کریم بھائی نے اسٹیپ پیپر پر دیکھا کرانے کے بعد تین لاکھ روپے اس کے حوالے کیے تھے تو اس نے سکھ کی سانس لی تھی۔ اسٹیپ پیپر کی تحریر پڑھنے کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا تو گویا..... یہ دھوکا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تھا۔ اجمل شاہ اور کریم بھائی آپس میں ملے ہوئے تھے بلکہ..... فرید خان بھی انہی کا ساتھی تھا اور..... اس فراڈ یا گروپ کا سرغنہ تھا..... اجمل شاہ المعروف شاہ جی.....! ”کسی نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کیا۔“ شاہ جی نے غلی آمیز انداز میں کہا۔ ”کیا تم نے اسٹیپ پیپر میں ورج فلاں تاریخ کو تین لاکھ روپے وصول نہیں کیے تھے؟“ اپنی ناراضی کے اظہار کے ساتھ ہی وہ کہنت ”آپ“ سے ”تم“ پر بھی آ گیا تھا۔ یاسمین چونکہ شاہ جی کی چال بازی کو سمجھ گئی تھی لہذا اس نے صورت حال کے پیش نظر اس سے کہا۔

”شاہ جی! یہ فلیٹ آپ نے خریدا ہے یا کریم بھائی نے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔“ اس کے انداز میں مصلحت پائی جاتی تھی۔ ”بہر حال، میں نے تو یہ فلیٹ فروخت کیا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی درست ہوگا لیکن براہ کرم میرے دو کام کرویں۔“

”کون سے دو کام.....؟“ وہ بڑھی سے بولا۔

”بڑے شوق سے یہ فلیٹ آپ ہی خریدیں مگر ایک لاکھ مجھے اور ادا کرویں۔“ یاسمین نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ”اور جب تک آپ مجھے یہ رقم ادا نہیں کرتے، مجھے اسی فلیٹ میں رہنے دیں اور چاہیں تو مجھ سے کرایہ وصول کر لیں۔“

”جب میں نے تم سے یہ فلیٹ تین لاکھ میں خریدا

کسی گہری چال کے نتیجے میں تو قتل کے مقدمے میں ملوث ہو کر جیل نہیں چلا گیا۔ یہ ناممکن تو نہیں تھا۔

”آپ بہت بھولی ہیں۔“ اس کے خاسوش ہونے پر میں نے کہا۔

میں چونکہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس لیے وہ میرے جملے کے جواب میں جریز ہو کر رہ گئی۔

پہلو بدلتے ہوئے جلدی سے بولی۔ ”میں نے کیا کیا ہے؟“

”یہ سب کچھ آپ ہی نے کیا ہے۔“ میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے کہا۔ ”بلکہ میں یہ کہوں گا

کہ یہ سب آپ کی سادگی کا کیا دھرا ہے۔ وہ مکار شاہ جی شروع سے آخر تک اپنے نت نئے پتیتروں سے آپ کو بے

وقوف بناتا رہا اور آپ کو اس کی شیطانی چالوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا اور اپنی مرضی سے قدم قدم چلتے ہوئے آپ

تباہی اور بربادی کے قریب پہنچ گئی ہیں۔“

”آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب۔“ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ”مجھے بہت بعد میں اس حقیقت کا

احساس ہوا کہ اجمل شاہ میرے ساتھ دھوکا کر رہا تھا مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔“

آخری جملہ ادا کرنے کے بعد اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ناکامیابی اور

مایوسی کے سائے سے لہراتے نظر آئے۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں پوچھا۔

”کیوں بھی..... اب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟“

”میرا مطلب ہے چاہے دھوکے اور فریب کا شکار ہو کر ہی سہی، میں نے اپنا یہ قلیٹ تو فروخت کر دیا ہے۔“ وہ

زخمی لہجے میں بولی۔ ”آپ کسی طرح مہربانی کر کے اجمل شاہ کو اس وقت تک قلیٹ خالی کرانے سے باز رکھنے کا

بندوبست کر دیں جب تک میرا شوہر جیل سے رہا ہو کر واپس نہیں آجاتا۔“

”یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا سبین بیگم!“ میں نے سناتے ہوئے لہجے میں کہا۔

”جی..... یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟“ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔

دراصل اس حیرت بھری الجھن کے اظہار میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میرا جملہ ”یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا سبین بیگم!“ اپنے اندر کئی زاویے سمیٹے ہوئے تھا جیسی وہ متاملانہ

انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بڑی رساں سے اپنی بات کی وضاحت کر دی۔

”آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ آپ کا شوہر جیل سے رہا ہو کر باعزت گھر آئے گا۔ یقین کر لیں کہ اگر وہ گناہ گار

نہیں تو انشاء اللہ! بہت جلد وہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوگا۔ آپ کو یہ غلط فہمی بھی نہیں ہے کہ شاہ جی کو کسی قانونی

چارہ جوئی کے ذریعے آپ کو تنگ کرنے سے روکا جاسکتا ہے۔ میں اس شیطان صفت انسان کے ایسی ٹیکل ڈالوں گا

کہ اس کی آنے والی آٹھ دس سلسیں بھی ٹیکل کے ساتھ ہی جہنم لیں گی۔ ہاں البتہ.....“ میں نے لمبائی توقف کر کے ایک

آسودہ سانس خارج کی پھر اپنی بات کو ڈرامائی انداز میں مکمل کر دیا۔

”ایک سلسلے میں آپ کو شدید نوعیت کی غلط فہمی ضرور ہے۔“ وہ بھونچکا رہ گئی۔ ”کس سلسلے میں؟“

”کہ..... آپ نے..... اپنا یہ قلیٹ..... فروخت کر دیا ہے۔“ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔

”کیا مطلب ہے آپ کا؟“ وہ اچھل پڑی۔ ”میں نے رقم وصول کی ہے اور اسٹیمپ پیپر پر باقاعدہ لکھ کر دیا ہے۔“

”اس طرح اگر پراپرٹی کی خرید و فروخت ممکن ہوتی تو میں یہ پوری بلڈنگ کسی کے بھی ہاتھ فروخت کر ڈالتا جس کے

ایک قلیٹ میں اس وقت آپ رہ رہی ہیں۔“ میں نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کر دیا۔ ”آپ نے اسٹیمپ پیپر پر جو

کچھ بھی لکھ کر دیا ہے یا جس بھی لکھی ہوئی تحریر پر آپ نے دستخط کیے ہیں، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔“

”یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں وکیل صاحب!“ اس کی الجھن میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔

”آپ کی بلڈنگ کے باہر دیوار کے ساتھ میری کار کھڑی ہے۔“ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے

کہا۔ ”کیا آپ اس کار کو کسی کے ہاتھ فروخت کر سکتی ہیں؟“

”مم..... میں آپ کی گاڑی کو کیسے فروخت کر سکتی ہوں۔“ میرے سوال نے اسے گڑبڑا کر رکھ دیا۔ ”وہ کار تو

آپ کی ملکیت ہے۔“

”میں یہی نکتہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔“ میں نے تاکید انداز میں کہا۔ ”جب آپ کسی ایسی گاڑی

کو فروخت نہیں کر سکتیں جو آپ کی ملکیت نہیں ہے تو پھر آپ کسی قلیٹ کو کیسے بیچ سکتی ہیں جو آپ کی ملکیت نہیں۔ یہ قلیٹ

تو آپ کے شوہر کے نام پر ہے نا؟“

”جی ہاں۔ یہ قلیٹ شوکت علی کے نام پر ہے۔“ وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ”لیکن خواخواہ کا جھگڑا پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے قلیٹ کی

ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کو لوہا کر لوٹنے کی کوشش کی ہے؟" میں نے نہایت ہی ٹھہرت ہوئے انداز میں سوال کیا۔ "اس کی اس گھناؤنی سازش میں فرید خان اور کریم بھائی نے بھی حسب ذلالت اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اور یہ دونوں شیطان اب منظر سے اس طرح غائب ہو چکے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ..... کیا میں غلط کہہ رہا ہوں.....؟"

"نہیں....." وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی۔ "آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک منظم و موکا ہوا ہے۔"

"اور یہ بھی درست ہے کہ اب تک آپ کے شوہر کے کیس پر جو رقم خرچ ہو چکی ہے اس کا تخمینہ کم و بیش ساڑھے تین لاکھ تک پہنچتا ہے اور یہ رقم آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی نہیں دی بلکہ شاہ جی کے توسط سے ساری سہولتیں ہوتی رہی ہیں؟"

"جی ہاں..... یہی حقیقت ہے۔" وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔

"مجھے یہ شک..... بلکہ یقین ہے کہ....." میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی غرض سے کہا۔ "کہ..... شاہ جی نے کہیں بھی پراپر ہتھ دیکھ نہیں کی۔ اگر ڈھنگ سے اتنی رقم خرچ کی گئی ہوتی تو کمزور سے کمزور دلیل بھی اب تک آپ کے شوہر کی ضمانت کروا چکا ہوتا....."

وہ مجھے اسی نظر سے دیکھنے لگی جیسے میری بات اس کی سمجھ میں آرہی ہو۔ میں نے اپنی وضاحت کو مکمل کرتے ہوئے کہا۔

"شاہ جی بہت ہی شاطر اور کمینہ خصلت شخص ہے۔ اس نے آپ کو ایک مجبور اور بے بس عورت دیکھ کر ہر زاویے سے لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بظاہر آپ کا ہمدرد بنا رہا اور آپ کے شوہر کے کیس کی مد میں مختلف مراحل پر آپ سے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی رہا۔ آپ اس کی ممنون احسان بھی رہیں اور غیر محسوس طور پر اس کی مقروض بھی ہوتی چلی گئیں۔ پھر یہ قرض چکانے کے لیے آپ نے اپنی دانست میں یہ قلیٹ بھی فروخت کر ڈالا۔ یعنی پیسے بھی گئے..... یہ قلیٹ بھی کیا اور..... آپ کا شوہر بھی ابھی تک جیل میں بند ہے..... آپ کی سادگی قابل صد افسوس ہے یا سہین بیگم....."

"پھر....." میرے خاموش ہونے پر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ "اب مجھے کیا کرنا

قیمت وصول کی ہے۔ آپ بس یہ دعا کریں کہ شوکت جلد از جلد گھر آجائے۔ میں شوکت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ مجبوری میں کیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔"

"لیکن اب بہت سے راستے کھل گئے ہیں۔" میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ "آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس قلیٹ کی ملکیت کے حوالے سے جو بھی لیگل ڈاکیومنٹس ہیں ان کی فائل میرے حوالے کر دیں۔" میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ "اس کے علاوہ اور بھی جو کاغذات ہوں وہ بھی مجھے دے دیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے شوہر کی اگلی پیشی کب ہے؟"

وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ "تو کیا آپ اب قلیٹ کی فروخت والا قصہ شوکت کو بھی سنائیں گے؟"

"ہاں" میں نے دونوں انداز میں کہا۔ "اس میں غرابی کیا ہے؟"

"دیکھیں وکیل صاحب....." وہ متحوش لہجے میں بولی۔ "اگر شوکت کو پتا چلا کہ میں نے اس کے علم میں لائے بغیر قلیٹ فروخت کر دیا ہے تو اسے ولی صدر ہوگا۔ وہ پہلے ہی جیل میں بہت زیادہ پریشان ہے اور میں تو کہتی ہوں....."

"کچھ بھی نہیں ہوگا۔" میں نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ "ایسا کچھ نہیں ہوگا جس کے خدشات نے آپ کے دل و دماغ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ خبر سن کر شوکت کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ قلیٹ بیچا ہی نہیں۔ شوکت علی ابھی تک اس قلیٹ کا اصل مالک ہے۔"

"اور وہ جو میں نے تین لاکھ کی رقم وصول کی ہے.....؟"

"جی الحال آپ ان تین لاکھ کو بھول جائیں۔" میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ "یہ سوچیں کہ آپ نے ایک پیسا بھی وصول نہیں کیا۔"

"مگر....." وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلی ہی بول اٹھی۔ "یہ حقیقت ہے کہ میں نے کریم بھائی سے تین لاکھ وصول کیے تھے۔"

"اس سے بڑی بھی ایک حقیقت آپ کے آس پاس موجود ہے....." میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ "لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آرہی۔"

"کون سی حقیقت؟" وہ جلدی سے اپنے گرد و پیش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔

"کہا یہ سچ نہیں ہے کہ اجمل شاہ عرف شاہ جی نے

چاہیے؟“

”جو میں نے کہا ہے وہی کرنا چاہیے۔“ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر ہونے کہا۔ ”آپ اپنے ذہن میں چند باتیں نقش کر لیں۔“

وہ ہر تن گوش سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا۔ ”نمبر ایک..... آپ نے اس قلیٹ کی فروخت کے سلسلے میں کسی قانونی یا غیر قانونی دستاویز پر دستخط نہیں کیے۔“ ”نمبر دو..... جب آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب ہوا، آپ نے کسی سے کوئی رقم وغیرہ بھی وصول نہیں کی۔“ ”اجمل شاہ کے پاس جو بھی اسٹیپ پیپر وغیرہ ہیں، وہ اس نے خود ہی تیار کر کے آپ کے جعلی دستخط کیے ہیں۔“ ”نمبر تین..... آج سے میں آپ کے شوہر کا وکیل ہوں اور اس کی باعزت بریت کے لیے یہ کیس میں لڑوں گا۔ آپ کو کسی قسم کی لنگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھی رہیں اور دیکھتی رہیں، اللہ کیا کرتا ہے۔“

”اور وہ جو اجمل شاہ نے قلیٹ خانی کرنے کا لوٹس دے رکھا ہے.....“

”اس کو بھی فراموش کر دیں۔“ میں نے متحمل انداز میں کہا۔ ”جب وہ کسی بھی حوالے سے اس قلیٹ کا مالک ہی نہیں تو اسے کسی قسم کا لوٹس بھیجے گا بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔“

”اگر اس مردوونے مجھے ڈرانے دھمکانے یا تنگ کرنے کی کوشش کی تو.....؟“ اس نے سرا سیر انداز میں پوچھا۔ ”وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے۔“ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ ”اور اگر غلطی سے اس نے ایسا کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں اسے بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دوں گا۔ میں سمجھ رہا ہوں، وہ محض آپ کی مجبوری اور بے بسی سے قائمہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اپنے اندر بہت کو بیدار کریں اور ثابت قدمی سے اس محاذ پر ڈٹ جائیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور یقین دلانا ہوں کہ آپ کا شوہر بہت جلد اس گھر میں آپ کی نظر کے سامنے ہوگا۔“

میری بات اس کی سمجھ میں آگئی۔

☆☆☆

آئندہ روز میں نے عابد نوید صاحب کو فون کیا اور انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا پھر اپنے بیان کے اختتام پر کہا۔ ”اجمل شاہ بہت ہی کمینہ اور غا باز شخص ہے۔ اس نے دھوکے سے بعض کاغذات پر یا سمین سے دستخط کرا لیے ہیں اور اس کے قلیٹ کا مالک بن بیٹھا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، یہ

اس کی غلط فہمی ہے۔ قلیٹ کا اصل مالک یا سمین کا شوہر شوکت علی ہی ہے۔“

”اور شوکت علی قتل کے مقدمے میں الجھ کر جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے جا چکا ہے۔“ عابد صاحب نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔

”ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔“ میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ ”اور اس سے بڑی ایک اور بھی تلخ اور سنگین حقیقت ہے جس کو نظر انداز کرنا عقل مندی کے منافی ہوگا۔“ ”کون سی حقیقت؟“ عابد صاحب نے اضطرابی لہجے میں پوچھا۔

”اجمل شاہ، یا سمین کا پڑوسی ہے۔“ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ”اور وہ خاتون اس شیطان سے خاصی ڈری سبھی ہوئی بھی ہے۔ فی الحال تو میں اسے خاصی تسلی بخشی دے آیا ہوں لیکن اگر کسی وقت شاہ جی بد معاشی اور غنڈا گردی کے زور پر انہیں اس قلیٹ سے بے دخل کر کے خود قابض ہو گیا تو پھر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونے میں جتنا وقت لگے گا، اس دوران میں یا سمین اور اس کی بیٹی کا جلوس بلکہ جوس نکل جائے گا۔ وہ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ..... قبضہ سچا، دھوٹی جھوٹا!“

”ہاں، میں نے سن رکھا ہے اور یہ ایک سفاک حقیقت بھی ہے۔“ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولے پھر مجھ سے سوال کیا۔ ”اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟“

”اگر آپ واقعی اس مظلوم عورت کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے شوہر والا کیس بھی میرے حوالے کرنا ہوگا۔“ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ”کیونکہ یہ دونوں معاہدے اندر سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک شخص ہی اس الجھن کو مناسب انداز میں سلجھا سکتا ہے.....“ ”لحائی توقف کر کے میں نے ایک پوچھل سانس خارج کی اور کہا۔“ آپ چاہیں تو یہ دونوں کیس کسی اور کے سپرد بھی کر سکتے ہیں مگر اس وکیل کے سپرد نہیں جو اس وقت یا سمین کے شوہر کا کیس لڑ رہا ہے۔“

”سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیگ صاحب۔“ وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ ”اس کجخت وکیل نے پہلے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جو آئندہ کے لیے اس پر بھروسہ کیا جائے اور کسی دوسرے وکیل کے بھی کیوں حوالے کریں۔ مجھے صرف آپ پر ہی اندھا اعتماد ہے۔ یا سمین کے من جملہ معاملات کو آپ ہی ذمہ لیں گے۔“

”تو ٹھیک ہے۔“ میں نے اپنی رضامندی ظاہر

ایک تودہ خود عجیب سا تھا۔ اس پر وہ بات بھی انتہائی بے تکلیف کر رہا تھا۔ میں نے قدرے بیزارگی سے پوچھا۔
”کیا میں کہیں گم ہو گیا تھا جو مجھے تلاش کرنے میں آپ کو اتنی وقت اٹھانا پڑی اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتادیں کہ اس دن میں جلدی میں کہاں سے نکل گیا تھا جو آپ کو مجھے پکڑنے کا موقع نہیں مل سکا؟“

”جناب! میرا نام اجمل شاہ ہے۔“ وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا۔ ”میں اس قلیٹ کا مالک ہوں جہاں پر آپ دو روز پہلے گئے تھے۔ یاسمین نامی وہ عورت میری کرائے دار ہے۔“ وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا۔
”اگر آپ اس رات مجھے مل جاتے تو میں وہیں آپ سے بات کر لیتا۔ بہر حال، میں نے کسی نہ کسی طرح آپ کا سراغ لگا ہی لیا اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔“

یہ جانے بغیر ہی کہ وہ اجمل شاہ ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں میرا تاثر خاصا خراب ہو چکا تھا۔ اس تعارف کے بعد تو یہ تاثر ناگواریت کی حد میں داخل ہو گیا تھا تاہم میں نے اپنی اندرونی کیفیت کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

”اس کامیابی پر میری طرف سے مبارکباد وصول کریں کہ آپ مجھے تلاش کرنے میں سرخرو ہو چکے۔ اب ذرا یہ بھی فرمادیتے کہ آپ مجھے کس سلسلے میں تلاش کر رہے تھے؟ مطلب یہ کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟“

”خدمت کا موقع تو آپ مجھے دین حضرت! وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولا۔

میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔
”میں کچھ سمجھا نہیں اجمل شاہ؟“

”میں سمجھاتا ہوں۔“ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ”ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی جس کرائے دار عورت کا ذکر کیا ہے نا، اس نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ نیکی اور بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں۔“

”آخر ہوا کیا ہے؟“ میں دھیرے دھیرے اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ”اس عورت نے مجھے ایک قانونی مشورے کے لیے بلا یا تھا۔ میں نے.....“

”وہ اسی قلیٹ کے بارے میں مشورہ کرنا چاہ رہی ہوگی جس میں وہ میری کرائے دار کی حیثیت سے اس وقت رہ رہی ہے۔“ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ”اور مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اصل بات نہیں بتائی ہوگی۔“

کرتے ہوئے کہا۔ ”اس سلسلے میں آپ کو بھی میرا خیال کرنا ہوگا۔ میں پہلے ہی اپنی فیس میں کافی رعایت کر چکا ہوں اور یہ ڈبل کیس بھی ہے۔“

”ٹھیک ہے..... ٹھیک ہے..... آپ کا بھلا کیوں نہیں خیال کریں گے۔“ وہ جلدی سے بولے۔ ”میں آج ہی یاسمین سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔“

”اس دکھوں کی ماری عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔“ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔
”میرا سارا بوجھ آپ ہی کی تنظیم کو برداشت کرنا ہوگا۔“

”آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب۔“ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے۔ ”میں بیچ کر لوں گا۔ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔“

”ٹھیک ہے، میں بے فکر ہو گیا۔“ میں نے کہا۔
”ایک دو اور معاملات میں بھی مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔“

”مثلاً..... کن معاملات میں؟“ انہوں نے پوچھا۔
”یاسمین کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا شوہر جس کارڈیلر کے پاس کام کرتا تھا، وہ شوکت علی پر بے پناہ اعتماد کرتا تھا۔“ میں نے کہا۔ ”اس کارڈیلر کا نام ٹیل یزدانی ہے۔“

ادھر جمشید روڈ پر اس کا کارڈوں کا شوروم ہے۔ اس کیس میں اس کارڈیلر کی بھی مدد لی جاسکتی ہے۔“

”ٹھیک ہے، آپ جو چاہتے ہیں مجھے گاڑ کر دیتے گا۔“ انہوں نے کہا۔ ”میں ٹیل یزدانی سے بھی ملاقات کر لوں گا۔“

رہی اختتامیہ کلمات کے بعد ہمارے بیچ ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ اس سے اگلے روز درمیانے قدر کا ایک شخص میرے دفتر میں مجھ سے ملنے آیا۔ اس کی رنگت گہری سالونی اور عمر پچاس کے قریب رہی ہوگی۔ جسم بھاری بھر کم اور سر کے بال خضاب سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کی شخصیت سے ایک عجیب سا تاثر ابھرتا تھا جسے بہر حال مثبت نہیں کہا جاسکتا تھا۔

میں نے رہی علیک سلیک کے بعد اس کی طرف پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا۔ ”جی فرمائیں۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟“

”جناب! میں نے بڑی مشکل سے آپ کو تلاش کیا ہے۔“ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ ”اس دن آپ جلدی میں نکل گئے ورنہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہو جاتی۔“

”اس بات کا فیصلہ تو میں اسی وقت کر سکتا ہوں جب آپ کا بیان بھی سامنے آجائے۔“ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ”ابھی تک تو میں نے کرائے دار سے ملاقات کی ہے۔ اب ذرا مالک مکان بھی اپنا احوال سناؤ الیس؟“

میں نے بات ختم کر کے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ تو بسنی لہجے میں بولا۔ ”آپ ایک قائل اور سمجھ دار وکیل ہیں۔ آپ جیسے تجربہ کار شخص کے ساتھ میری خوب بنے گی۔“

میں چونکہ غیر محسوس طریقے سے اسے اپنے حال میں پھانسا چاہتا تھا لہذا اسی کی پسند کی باتیں کرنے لگا۔ کسی دغا باز کو مکر اور فریب کے ہتھیار ہی سے چت کیا جاسکتا ہے۔ وہ جہتیں گوش تھا۔

”اجمل صاحب!“ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ”یاسمین نے مجھے بتایا ہے کہ آپ زبردستی اس سے گھر خالی کرانا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے اسے کوئی قانونی نوٹس وغیرہ بھی دے رکھا ہے۔“

”وہ نوٹس تو میں نے انتہائی مجبوری کی حالت میں بھجوا دیا تھا وکیل صاحب۔“ وہ برا سامنے بٹاتے ہوئے بولا۔ ”کئی ماہ کا کرایہ چڑھا ہوا ہے۔ جب بھی تقاضا کروں تو یہی جواب ملتا ہے کہ بس اگلے مہینے حساب صاف کروں گی۔ اگر اس کا گھر والا جیل میں ہے تو اس میں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں جتنی رعایت دے سکتا تھا، وہ دے چکا۔ میں نے ساری عمر کا کوئی ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے۔“

”یہ آپ بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں کہ یاسمین کا شوہر جیل میں ہے۔“ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ”یہ بات اس نے تو مجھے نہیں بتائی.....“

”میں نے کہا ہے نا جناب..... وہ بہت ہی مکار اور عیار عورت ہے۔“ وہ بڑے فخر سے بتانے لگا۔ ”اس نے اپنے شوہر والے معاملے کو چھپا رکھا ہے۔ اس کے شوہر نے پیسوں کے لالچ میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ محلے میں کوئی اسے منہ نہیں لگاتا۔ ایک سفاک قاتل کی بیوی اور بیٹی کو کون منہ لگائے گا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عورت نے سراسر آپ کا وقت برباد کیا ہوگا۔ آپ ماشاء اللہ خاصے اونچے وکیل ہیں۔ آپ کے دفتر کے ٹھانڈے باٹ دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ یاسمین آپ کی فیس کا بوجھ اٹھانے کی کوشش نہیں ہو سکتی۔“

”بین نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔“ یہ تو آپ بالکل

ٹھیک کہہ رہے ہیں۔“

”ایک تو اس عورت نے کئی ماہ سے کرایہ نہیں دیا، اوپر سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ایک قاتل کی بیوی کو میں نے اپنا قلیٹ کرائے پر کیوں دے رکھا ہے۔“ وہ مجھے اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ”انسان پر اپنی اس لیے تو نہیں بناتا کہ اسے دوسروں کے استعمال میں دے دے اور وہ بھی کسی قاتل کے بیوی بچوں کو.....“

لجائی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا۔

”تک آ کر میں نے ایک وکیل سے مشورہ کیا۔ اس نے ساری بات سننے کے بعد مجھ سے کہا کہ پہلی فرصت میں، میں اس عورت سے اپنا قلیٹ خالی کرالوں۔ جب تک وہ قلیٹ کے اندر بیٹھی رہے گی، میری ملکیت مفلوک رہے گی۔“

”ان وکیل صاحب نے آپ کو مشورہ تو بالکل درست دیا ہے اجمل صاحب!“ میں نے تائیدی انداز میں گرون پلاتے ہوئے کہا۔ ”عام طور پر قانون کی زبان میں اسے.....“

”قبضہ سچا، دعوئی جھوٹا“ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔“

”جی بالکل..... بالکل۔“ وہ بڑی شدت سے اثبات میں گرون پلاتے ہوئے بولا۔ ”اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے اسی“ قبضہ سچا“ کے خدشے کے پیش نظر یاسمین کو قلیٹ خالی کرنے کا نوٹس بھجوا دیا ہے تاکہ آگے چل کر میرا“ دعوئی جھوٹا“ نہ پڑ جائے۔“

”یہ آپ نے عقل مندی کا کام کیا ہے اجمل صاحب۔“ میں نے اسے بالسن پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا۔

”مگر..... ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی.....!“

”کون سی بات وکیل صاحب؟“ وہ جلدی سے مستفسر ہوا۔

”یاسمین نے مجھے بتایا ہے کہ.....“ میں نے اجمل شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ”وہ جس قلیٹ میں رہ رہی ہے، وہ اسی کا تھا؟“

”شکر ہے، اس نے لفظ“ تھا“ کا استعمال کیا ہے۔“ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ ”یہ نہیں کہا کہ وہ قلیٹ اس کا ہے۔ وکیل صاحب.....“ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے بتانے لگا۔

”کسی زمانے میں وہ قلیٹ اس کا تھا لیکن پھر میں نے اس سے خرید لیا۔ اب میں ہی اس قلیٹ کا قانونی مالک ہوں۔“

”اچھا..... تو یہ بات ہے۔“ میں نے پرخیاں انداز

معلومات عامہ

جابر بن حیان (ایبوسنی) بابائے کیمیا۔
Master Of Chemistry

722ء۔ علاقہ کوفہ۔ شاگرد امام جعفر صادق
ایجادات: گندھک اور شورے کا تیزاب،
چمڑا رنگنے اور خضاب کی ایجاد۔ میکائیک ڈائی
آکسائیڈ جس سے شیشہ سازی کا عمل ہوا۔ سونا
پگھلانے کا آلہ اور فلٹرائزیشن کا آلہ۔

اسپرٹ، کافور، سکھیا، نوشادر چونکہ دھاتوں
میں گندھک اور پارہ ہوتا ہے، ان کی اجزائے ترکیبی
سے مختلف دھاتیں وجود میں آئیں۔ ایک مسلمان کی
ایجادات جس سے پوری دنیا آج تک فائدہ اٹھا
رہی ہے اور ہزاروں کارخانے قائم و دائم ہیں۔

مرسلہ۔ محمد خواجہ، کورنگی، کراچی

حکایتیں

☆ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے
ہیں، ان میں بیشتر کو نامساعد حالات کا سامنا رہا
ہے۔ لیکن جب انسان کے دل میں سچی لگن ہو۔
خدا داد و ذہانت ہو تو کامیابی کے لیے سہاروں سے
محتاج نہیں ہوتے۔

☆ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری
دعا میں قبول نہ ہوں تو دو چیزوں کا احتساب کرو،
اپنی غذا اور اپنی گفتگو کا۔

☆ انسان اپنی توہین معاف کر سکتا ہے،
بھول نہیں سکتا۔

مرسلہ۔ محمد خواجہ، کورنگی، کراچی

بہترین دوا

حکیم لقمان کہتے ہیں..... "میں نے زندگی
میں مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا ہے مگر اس
طویل تجربے سے میں نے سیکھا ہے انسان کے
لیے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔"

کسی نے پوچھا۔ "اگر یہ اثر نہ کرنے تو....."
حکیم لقمان مسکرا کر گویا ہوئے۔ "تو پھر دوا
کی مقدار بڑھا دو۔"

مرسلہ۔ مرحا گل، درابن کلاں

میں کہا۔ "جب آپ نے یاسمین سے وہ فلیٹ خرید لیا تھا تو
پھر اسی کو کرائے پر دینے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ نے پوری
قیمت دے کر فلیٹ خریدا تھا تو اس کا مکمل قبضہ بھی حاصل کرنا
چاہیے تھا۔"

میں جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس کی
موافقت میں جاتی تھیں تاکہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ میری
تمام تر ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہیں اور اجمل شاہ کے
چہرے پر سب سے بڑے تاثرات سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے اپنے
اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔

"بس جناب! انہیں پر مجھ سے غلطی ہو گئی۔" وہ تیز آواز
میں بولا۔ "میں اس عورت سے ہمدردی کر کے بری طرح پچھتا
رہا ہوں اور آپ کے پاس آنے کا بھی یہی مقصد ہے....."

"کیا مطلب ہے آپ کا؟" میں نے سوالیہ نظر سے
اسے دیکھا۔ "آپ کس مقصد سے میرے پاس آئے ہیں؟"
"جناب! میں چاہتا ہوں کہ صلح صفائی سے کوئی ایسی
راہ نکل آئے کہ یاسمین کو عدالتوں کے دھکے نہ کھانا پڑیں۔"
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ "اور ایسی کوئی ترکیب آپ
ہی کر سکتے ہیں۔"

"ہوں....." میں نے ایک گہری سانس خارج
کرتے ہوئے کہا۔ "مگر میں فیس وصول کیے بغیر کوئی مشورہ
نہیں دے سکتا۔"

"جناب! میں آپ سے یہی بات کرنے والا تھا۔"
وہ جلدی سے بولا۔ "اچھا ہوا، آپ نے خود ہی کہہ دیا۔ میں
آپ کی منہ مانگی نہیں دوں گا مگر میرا کام پکا ہونا چاہیے۔"
"ابھی تک آپ نے اپنے کام کی تفصیل نہیں
بتائی؟" میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔

"آپ ایک ذہین اور کچھ دار وکیل ہیں۔" وہ مجھ پر
کھنکھن کاری کرتے ہوئے بولا۔ "میں چاہتا ہوں، آپ
میرے اور یاسمین کے درمیان ایک ثالث کا کردار ادا
کرتے ہوئے اس مسئلے کو نمٹا دیں۔ آپ کی فیس میں ادا
کر دوں گا اور یاسمین کو عدالت کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ
پہلے ہی شوہر کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔"

"آپ کی بات میں وزن ہے اجمل صاحب۔" میں
نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ "عدالتوں میں
دھکے کھانے سے ویسے بھی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ مصالحت کا
راستہ اختیار کرنا ہی عقل مندی ہے لیکن....."

میں نے دانستہ جملہ ادھر اچھوڑا تو وہ جلدی سے
بولا۔ "لیکن کیا وکیل صاحب؟"

”لیکن یہ کہ.....“ میں نے کہا۔ ”اس سلسلے میں مجھے یاسمین سے بات کرنا ہوگی۔ تاشی کے لیے دونوں فریقوں کا ثالث پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔“

”آپ یاسمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مان جائے گی۔“ وہ ایک آنکھ دبا کر رازدارانہ انداز میں بولا۔ ”میں چاہوں تو اس کا سامان اٹھا کر بلڈنگ سے باہر پھکوا سکتا ہوں مگر میں اس پریشان حال عورت کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔“

”آپ بہت ہی اہم رو اور نیک دل انسان ہیں۔“ میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا پھر سرسری انداز میں سوال کیا۔ ”یہ نل والا معاملہ کیا ہے؟“

”نل..... کون سا نل؟“ وہ بد کے ہوئے لہجے میں بولا۔

”میں اس نل کی بات کر رہا ہوں جس کے الزام میں یاسمین کا شوہر شوکت علی پھنسا ہوا ہے۔“ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

”اچھا وہ.....“ وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ ”یہ سارا معاملہ ہوشیاری اور ہوس کا ہے جناب۔“

”میں سمجھا نہیں۔“ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔

”کیسی ہوشیاری..... کس قسم کی ہوس؟“

”آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ یاسمین کا شوہر کسی کارڈیلر کے پاس کام کرتا تھا۔“ وہ مجھے بتانے لگا۔ ”کسی کارڈیلر کے سودے کے نتیجے میں پارٹی نے ایک ایسے دن ہینٹ کی تاریخ رکھی جس روز عام تعطیل تھی۔ پارٹی کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری لگی ہوئی تھی کہ وہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ہینٹ نہیں کر سکتی تھی لہذا کارڈیلر چھٹی کے روز شوروم کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کارڈیلر یاسمین کے شوہر پر بہت بھروسا کرتا تھا لہذا اس نے شوکت کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ پارٹی کی آمد سے ایک گھنٹا پہلے شوروم کھولے تاکہ پارٹی کے لیے کسی قسم کی وقت نہ ہو۔ مذکورہ پارٹی دو لاکھ کیش کی ہینٹ کرنے والی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ دو لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ بس شوکت کے دل میں بھی لالچ آ گیا۔ اس نے حسب پروگرام شوروم کھولا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے مالک یعنی کفیل یزدانی کو فون کیا کہ پارٹی نے آنے کا پروگرام کیٹسل کر دیا ہے۔ اب وہ کل صبح آئے گی اس لیے یزدانی شوروم نہ آئے۔ یزدانی نے کہا، ٹھیک ہے۔ تم شوروم بند کر کے گھر چلے جاؤ۔ چھٹی کے دن وکان کھول کر بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ یزدانی کو فون پر الو بتانے کے بعد وہ بڑی بے تابی سے پارٹی کا

انتظار کرنے لگا۔ پارٹی وقت مقررہ پر شوروم پہنچی تو یزدانی وہاں موجود نہیں تھا۔ پارٹی نے شوروم کے مالک کے بارے میں شوکت سے پوچھا تو جواب میں اس نے مثل نکال لیا اور گن کے بل پر دو لاکھ کیش والی پارٹی کو لوٹنے کی کوشش کی۔ پارٹی دو لاکھ کے نوٹ ایک بریف کیس میں رکھ کر لائی گئی۔ اس صورت حال نے پارٹی کو ہکا بکا کر کے رکھ دیا اور اسی افراتفری میں اس احمق خریدار نے بریف کیس کو ڈھال بنا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ جرم کھل جانے کے خوف سے شوکت نے پارٹی پر یکے بعد دیگرے دو قاتر کیے۔ دونوں گولیاں پارٹی کی کھوپڑی کے حققی جیسے میں لگیں اور وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ اس صورت حال نے شوکت کو یو کھلا کر رکھ دیا اور وہ جائے وقوعہ سے فرار کی کوشش میں پکڑا گیا۔“

اجمل شاہ نے جتنی تفصیل سے مجھے وہ کہانی سنائی تھی، اس سے تو ایسا تاثر ابھرتا تھا کہ ان لمحات میں وہ جائے واردات پر موجود تھا اور اس نے یہ اندوہناک واقعہ خود اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا تھا۔

بہر حال، میں نے اس کے بیان پر کسی قسم کی جرح نہیں کی اور تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ ”ٹھیک ہے اجمل صاحب! میں یاسمین کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہے تو وہ مان جائے گی۔“

”جناب! آپ سمجھائیں گے تو وہ کیسے نہیں مانے گی۔“ اجمل شاہ نے پرجوش انداز میں کہا پھر پوچھا۔ ”میں کب حاضر ہو جاؤں؟“

”دو روز کے بعد آپ یہیں آفس میں آ کر مجھ سے ملیں۔“ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔

”لیکن اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا!“

”کیسا وعدہ وکیل صاحب؟“ وہ حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔

”میں آپ کے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں لہذا آپ کو کسی قسم کی ایجنسی وکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔“ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ”اس سلسلے میں آپ یاسمین سے کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی غیر محسوس انداز میں اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔“

”مجھے منظور ہے۔“ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں بولا۔

میں نے ضروری ہدایات کے بعد اسے رخصت کر دیا۔

☆☆☆

اگلے روز میں نے اجمل شاہ کے نام ایک دعائے قسم کا نوٹس روانہ کر دیا۔ یہ نوٹس میری وکالت میں یا سمین کی جانب سے تھا جس میں اس امر کی تفصیل درج تھی کہ اجمل شاہ نے کس طرح دھوکا دہی سے یا سمین کا قلیٹ چھپانے کی کوشش کی تھی اور اسے پوری رقم بھی ادا نہیں کی تھی بلکہ ایک یوگس ملکیت کے بل پوتے پر وہ یا سمین سے قلیٹ خالی کرانے کے لیے فنڈا گروڈی اور سٹیج ہیکلڈے آزما رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔!

یہ نوٹس رجسٹرڈ ڈاک سے روانہ کیا گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ دو روز کے اندر اسے مل جائے گا۔ میں نے اجمل شاہ کو دو دن بعد آنے کے لیے کہا تھا یعنی وہ آئندہ روز میرے پاس آنے والا تھا، نوٹس ملنے سے پہلے۔

اسی روز میں نے عابد نوید صاحب سے بھی بات کی۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس کیس کو مرحلہ وار دو حصوں میں نمٹاؤں۔ یعنی اجمل شاہ کا قلیٹ کی خریداری کے سلسلے میں یا سمین سے فراڈ کرنا پہلے مرحلے میں اور شوکت علی کا بے گناہ کسی قتل کے کیس میں پھنس جانا دوسرے مرحلے میں۔ اگرچہ عابد صاحب کا مشورہ میری اپنی سوچ اور ترتیب سے لگانا نہیں کھاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کی بات مانتے ہوئے اجمل شاہ کی دیدہ دلیری اور بد معاشی پر اپنا ذہن فرکس کر لیا اور شوکت علی کی رہائی والے معاملے کو ہمیں پشت ڈال دیا۔ بعض اوقات کلائنٹ کی رائے کو بھی اپنی سوچ پر فوقیت دینا پڑتی ہے۔ ویسے میں اپنے طور پر کئی مطمئن تھا کہ میں نے عابد صاحب کو موجودہ صورت حال سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔

آئندہ روز اجمل شاہ میرے پاس آیا اور میں نے اسے تسلی دے دی کہ یا سمین مصالحت کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا تاہم اس کی یہ خوشی ایک دو روز سے زیادہ نہ چل سکی۔

میری جانب سے جاری کردہ نوٹس کی ترسیل کے فوراً بعد اجمل شاہ میرے آفس آیا اور نوٹس والا لفاظ میرے سامنے پھینکتے ہوئے غصے سے بولا۔ ”یہ حرکت آپ نے کی ہے؟“

میں نے بڑے بیٹھے انداز میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے اضافہ

کیا۔ ”یہ لفاظ میرے ہی دفتر سے بھیجا گیا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟“

”آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس لفاظی کے اندر کس قسم کا نوٹس ہے۔“ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھکی آمیز انداز میں بولا۔ ”مجھے لگتا ہے، آپ یا سمین کے ساتھ مل گئے ہیں حالانکہ میں نے آپ پر واضح کر دیا تھا کہ میں وہ قلیٹ یا سمین سے خرید چکا ہوں۔ پھر اس ڈرامے بازی کی کیا ضرورت تھی.....؟“

”اجمل صاحب!“ میں نے اس کے کان کے کیڑے جھاڑنے کی غرض سے کہا۔ ”نمبر ایک..... میں نے یا سمین کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ نمبر دو..... میں یا سمین کے ساتھ ملا ہوں اور نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ میرے بیٹے کا تقاضا ہے۔ نمبر تین..... آپ نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ آپ نے وہ قلیٹ یا سمین سے خرید لیا ہے۔ لیکن آپ نے اس سلسلے میں مجھے کوئی دستاویز نہیں دکھائی تھی۔ نمبر چار..... مجھے ڈرامے کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی ایسے کاموں کے لیے میرے پاس قائلو وقت ہوتا ہے لہذا آپ کو جو بھی کہنا ہے، جوابی نوٹس کے ذریعے کہہ دیں۔ آپ کا وہ تحریری جواب میں اپنے موکل تک پہنچا دوں گا۔ آ کے جوائنڈ کو منکورا“

میرے اٹل اور ترش انداز کو دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بجھ گیا۔ جرائم پیشہ شخص باہر سے چاہے کتنا بھی مضبوط اور بد معاش نظر آنے کی کوشش کر رہا ہو مگر اس کے اندر ایک ڈرپوک مجرم چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ بس، ذرا طریقے سلیقے سے اس اندرونی مجرم تک رسائی حاصل کر کے اس کی مجبوریوں سے کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور میں اس مقصد میں خاطر خواہ کامیاب رہا تھا۔

”میں سمجھتا ہوں، یا سمین نے میرے نوٹس سے گھبرا کر یہ جوابی نوٹس بھیجا ہے۔“ وہ اضطرابی لہجے میں بولا۔ ”ایسا کرتے ہیں کہ میں وہ نوٹس واپس لے لیتا ہوں۔ آپ یا سمین سے کہہ دیں کہ جب تک اس کے شوہر کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ اطمینان سے اسی قلیٹ میں رہے۔ میں اس سے کرایہ بھی نہیں لوں گا۔“

میرے تیور دیکھ کر وہ اچھا خاصا گھبرا گیا تھا۔ میں نے اس کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ ”میرا خیال ہے، آپ نے نوٹس کو اچھی طرح پڑھا ہی نہیں.....“

”جی..... کیا مطلب؟“ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔

”یہ لوٹس یا سیمین نے نہیں بلکہ اس کے شوہر شوکت علی کی طرف سے ہے۔“ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ”آپ نے لوٹس کے آخری حصے کو غور سے نہیں پڑھا۔“

”شوکت علی.....“ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔

”م..... مگر..... وہ تو جیل میں ہے.....“

”تم اس کے جیل میں ہونے کا ذکر تو اس طرح کر رہے ہو جیسے وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو چکا ہو۔“

میں نے ”آپ“ سے ”تم“ پر آتے ہوئے گھور کر اسے دیکھ لیا۔

”میں جیل میں جا کر اس سے ملاقات کر چکا ہوں۔ وہ اس بات پر سخت خفا ہے کہ سوتیلے بھائی نے اس کے جیل جاتے ہی ہیرا پھیری سے، اس کی مجبوری سے قلیٹ ہتھیالیا ہے۔“

”سوتیلا بھائی۔“ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔

”کون سوتیلا بھائی؟“

”تم..... اور کون؟“ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔

”مجھے تم لوگوں کی رشتے داروں کی ساری تفصیل معلوم ہو چکی ہے۔“

حقیقت تھی کہ میں نے تین چار روز قبل جیل جا کر شوکت علی سے ملاقات کی تھی اور اسے جیل سے باہر کی صورت حال سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ شوکت اور اجمل شاہ کی رشتے داری کے بارے میں تو مجھے یا سیمین کی زبانی بھی بہت کچھ پتا چل چکا تھا۔ شوکت علی جیل کے اندر بہت افسردہ اور ناامید دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ قلیٹ والا معاملہ نٹھانے کے بعد میں اس کا کیس بھی اپنے ہاتھ میں لے لوں گا اور انشاء اللہ بہت جلد اسے باعزت بری کرالوں گا۔ شوکت سے جیل جا کر ملنا اس لیے ضروری تھا کہ وکالت نامے پر اس کے دستخط لے سکوں اور اس کے وکیل کے بارے میں بھی جان سکوں جو ابھی تک ہوا میں لٹھ گھما رہا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ ایک جونیئر اور نا تجربہ کار وکیل تھا۔ مجھ سے ملاقات پر اس نے خاصے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے جو سراسر اجمل شاہ کے خلاف جاتے تھے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اجمل شاہ کو ملزم شوکت علی کی بریت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے بلکہ اسے یقین ہے کہ شوکت کو موت کی سزا ہو جائے گی کیونکہ اجمل شاہ کے خیال میں شوکت علی نے دولت کے لالچ میں واقعی قتل کیا ہے۔ میں نے اس جونیئر وکیل کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ بوقت ضرورت اگر کسی مرحلے پر اس کی سچی گواہی کی ضرورت پیش آئی تو وہ مجھ سے تعاون کرے گا۔

”اوہ.....!“ میرے رشتے داروں والے انکشاف پر اجمل شاہ نے ایک کشمکش بھری سانس خارج کی اور یوں۔ ”جناب! آپ کو شاید شوکت علی کے کیس کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اس کا پتہ بہت مشکل ہے۔ استفسار کی جانب سے یعنی شاہدین نے جو بیانات دیے ہیں ان کی روشنی میں اس کو بہت لمبی سزا ہونے والی ہے۔ اب شاید شوکت کی لاش ہی جیل سے باہر آئے گی.....“

ان لمحات میں اجمل شاہ کے لیے میرے دل میں کراہیت کا احساس جاگا۔ وہ کمیٹی کی آخری حد کو چھونے والا انسان تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے رشتے دار بھی پائے جاتے ہیں جو کردار میں لگدھروں سے بھی چار ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔

”کس کی لاش جیل سے باہر آتی ہے اور کون باہر سے عمر بھر کے لیے جیل چلا جاتا ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔“ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جتاتے ہوئے کہا۔ ”تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس لوٹس کا تحریری جواب دے دو۔ اس کے بعد تمہاری کسی تجویز پر بھی غور کیا جاسکتا ہے.....“ ایک لمحے کو رک کر میں نے گہری سانس لی پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا۔

”میں ابھی تک اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگر دونوں طرف سے معقولیت کا مظاہرہ کیا گیا تو میں آپ لوگوں کے سچے مصالحت کرانے کی پوری کوشش کروں گا۔“

وہ اٹھا اور بتیم ”خدا حافظ“ کہے میرے دفتر سے نکل گیا۔

تین روز بعد اجمل شاہ کا تحریری بیان مجھے موصول ہو گیا جس کے مطابق وہ قلیٹ پر اپنی ملکیت جتانے کے موقف پر ڈٹا ہوا نظر آتا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے احسانات کا بھی ذکر کیا تھا جو شوکت علی کے جیل چلے جانے پر اس نے یا سیمین پر کیے تھے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اس نے مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکانے کے لیے راستہ دے دیا تھا۔ میں نے یا سیمین سے اس موضوع پر ایک تفصیلی ملاقات کی اور دو روز کے بعد مکمل تیاری کے ساتھ اجمل شاہ کے خلاف فراڈ اور کھلم کھلا بد معاشی کا مقدمہ دائر کر دیا تاکہ اسے کاسٹک سوڈا کے ساتھ دھویا جاسکے۔

☆☆☆

ابتدائی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اجمل شاہ کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔

اجمل شاہ نے جواب دعویٰ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ شوکت علی قتل کے ایک سنگین مقدمے میں ملوث تھا۔ اس

”آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وکیل صاحب۔“ وہ مجھ پر ایک گہری چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ ”میں اس شپنگ کمپنی میں ایک کلرک کی حیثیت سے کام کرتا ہوں اور میری ماہانہ تنخواہ صرف تین ہزار روپے ہے۔“

”تین ہزار روپے.....“ میں نے اسی کے الفاظ کو زیر لب دہرایا پھر پوچھا۔ ”ان تین ہزار کے علاوہ آپ کی آمدنی کے اور کون کون سے ذرائع ہیں؟“

”کوئی نہیں۔“ وہ قلمی انداز میں بولا۔ ”انہی تین ہزار میں اللہ گزارہ کر دیتا ہے۔“

یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس وقت تین ہزار روپے اچھی خاصی مقبول تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ آج کل کے حساب سے اسے تیس سے تیس ہزار سمجھ لیں اور جس فلیٹ کی مارکیٹ ویلیو اس زمانے میں پانچ لاکھ تھی۔ وہ اب بیس لاکھ سے اوپر کا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر شے کی قیمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے سوائے..... انسان کے!

”شاہ جی.....!“ میں نے اپنی جرح میں ایک دم تیزی لاتے ہوئے کہا۔

”آپ نے اپنے جواب دعویٰ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے شوکت علی کا فلیٹ تین لاکھ روپے میں خرید لیا ہے لہذا آپ اس فلیٹ کی ملکیت کا حق رکھتے ہیں؟“

”جی ہاں۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے۔“ وہ معتدل انداز میں بولا۔ ”جو حقیقت ہے، وہی بیان کی ہے۔ شوکت علی کی بیوی یا سہیلی تین لاکھ روپے کی وصولی سے انکار نہیں کر سکتی۔“

”تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فلیٹ کے سلسلے میں شوکت علی کی بیوی کو ادائیگی کی تھی؟“ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔

”جی ظاہر ہے۔“ وہ جلدی سے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ”میں نے جس سے فلیٹ خریدا، ادائیگی بھی اسی کو کی تھی۔“

”شاہ جی! مالک مکان یعنی شوکت علی نے عرضی دعویٰ میں، اپنے فلیٹ کی فروخت سے مکمل لاپس کا اظہار کیا ہے اور.....“

”تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔“ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ”اگر یاسمین نے اپنے شوہر کو فلیٹ کی فروخت کے بارے میں نہیں بتایا تو میں کیا کروں۔ میں نے تو تین لاکھ دے کر وہ فلیٹ خریدا ہے نا؟“

”آپ کی تمام تر توجہ تین لاکھ پر مرکوز ہے شاہ جی۔“

برے وقت میں ایک پڑوسی ہونے کے ناطے اس نے شوکت اور اس کی فیملی کی جس حد تک ممکن تھا، عملی مدد بھی کی اور اس کیس کے سلسلے میں اپنی جیب سے رقم بھی خرچ کی مگر کسی نے اس کے خلوص کی قدر نہیں کی۔

جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ”اجمل صاحب! کیا یہ درست ہے کہ آپ ”شاہ جی“ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں؟“

وہ برا سامنہ بناتے ہوئے بولا۔ ”جی ہاں..... یہ درست ہے۔“

”گویا..... اگر میں بھی آپ کو شاہ جی کہوں تو اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں ہوگی؟“ میں نے بہ دستور گہری تنقید کی سے پوچھا۔

”جی..... آپ بھی کہہ لیں۔“ وہ کہا جانے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔

اس کی خفگی اور بیزاری کا سبب مجھے اچھی طرح معلوم تھا لیکن افسوس کہ میں اس کی کردہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی جرح کو دھیمے انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔

”شاہ جی! اگر میں قلمی پر نہیں تو آپ شوکت علی کے پڑوسی ہیں؟“

اس نے اثبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔

”آپ کے فلیٹ کا نمبر تین سو چھ ہے جبکہ شوکت علی اپنی فیملی کے ساتھ فلیٹ نمبر تین سو پانچ میں رہتا تھا اور یہ دونوں فلیٹس ”قاظمہ اپارٹمنٹس“ کے بلاک اے میں تھروڈ فلور پر واقع ہیں۔“ میں نے کہا۔ لیکن افسوس کہ شوکت علی قتل کے ایک مقدمے میں ملوث ہو کر جیل جا چکا ہے۔“

”آپ نے تو ”قاظمہ اپارٹمنٹس“ کے بارے میں اچھی خاصی ریسرچ کر رکھی ہے۔“ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ”لگتا ہے، آپ کا وہاں آنا جانا رہا ہے.....“

”میں اپارٹمنٹس بلڈنگز سے زیادہ انسانوں پر ریسرچ کرتا ہوں شاہ جی۔“ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ”اور میری تازہ ترین ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی شپنگ کمپنی چلاتے ہیں؟“

”آپ کی تازہ ترین ریسرچ ایک دم یوگس ہے۔“ وہ بڑے فخریہ انداز میں بولا۔ ”میں کسی شپنگ کمپنی کا مالک نہیں بلکہ ایسی ایک کمپنی میں کام کرنے والا ادنیٰ سا ملازم ہوں۔“

”ادنیٰ سا ملازم۔“ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا لیں۔

”مگر آپ کی آمدنی تو ملازموں والی نہیں ہے.....؟“

میں نے برہمی سے کہا۔ ”اور ایک نہایت ہی اہم نکتہ آپ فراموش کیے بیٹھے ہیں۔“

”کون سا نکتہ؟“ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔

”آپ جس فلیٹ کو خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا اصل مالک شوکت علی ہے۔“ میں نے بہ آواز بلند کہا۔ ”یاسمین صرف اسی صورت میں اس فلیٹ کو فروخت کرنے کا قانونی اختیار رکھتی ہے جب اس کے پاس شوکت علی کی جانب سے جاری کردہ کوئی اجازت نامہ ہو۔ قانونی زبان میں اس اجازت نامے کو پاور آف اٹارنی یا مختار نامہ کہا جاتا ہے۔ کیا یاسمین کے پاس ایسی کوئی قانونی دستاویز تھی؟“

”میں نے تو اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔“ وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ ”میرا مطلب ہے، مجھے کیا پتا کہ اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے یا نہیں.....“

”آپ ایک شپنگ کمپنی میں کلرک کی حیثیت سے کام کرتے ہیں لہذا مختلف نوعیت کے ڈاکیومنٹس سے آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہوگا۔“ میں نے کہا۔ ”یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کو ایسے معاملات کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو پھر بھی..... پھر بھی آپ نے یہ تصدیق کیے بغیر کہ یاسمین فلیٹ بیچنے کا اختیار رکھتی ہے یا نہیں، اسے تین لاکھ روپے تمہا دیے۔ آپ جیسے پڑھے لکھے انسان سے ایسی حماقت کی توقع تو نہیں کی جاسکتی۔“

”آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔“ وہ ہنسی بھرا لہجے میں بولا۔ ”جناب! اصل بات یہ ہے کہ شوکت علی کل کے ایک کیس میں ملوث ہو کر جیل چلا گیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ رشتے میں میرا سوتیلا بھائی لگتا ہے اسی لیے میں نے اس کی رہائی کے سلسلے میں بھاگ دوڑ بھی کی۔ اس کے سارے قانونی معاملات میں نے ہی سنبھال رکھے تھے اور ان عدالتی کارروائیوں پر جیسا پانی کی طرح بہ رہا تھا جس میں وکیلوں کی بھاری ٹیمیں بھی شامل تھیں.....“

”آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آگیا جسے آپ پانی کی طرح بہا رہے تھے؟“ میں نے قہقہے لگای کرتے ہوئے پوچھا۔ ”آپ تو تین ہزار روپے ماہوار تنخواہ پانے والے ملازم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی آمدنی بھی نہیں ہے۔“

”آپ بھیکشن پور آئے.....!“ شاہ جی کے وکیل نے... یہ آواز بلند کہا۔ ”وکیل استغاثہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اجمل شاہ صاحب کی بات پوری نہیں ہوئی اور یہ بول رہے ہیں، شاہ جی اسی بات کی وضاحت کر رہے

تھے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کی سحت خوشامد کر کے اپنے پڑوسی کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی مگر ان کی نیکی کو کھو کھاتے میں ڈال دیا گیا۔“

گو یا وکیل صفائی نے اپنے موکل کو ایک ”کلیو“ دے دیا تھا جسے ”قالو“ کر کے وہ اپنی جان بچا سکتا تھا۔ شاطر اجمل شاہ بھلا اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتا۔ وہ مسکین کی صورت بنا کر جلدی سے بولا۔

”یہ سچ ہے کہ میں نے شوکت علی کی مدد کرنے کے لیے ادھر ادھر سے ادھار پکڑا تھا لیکن یہاں سے تو واپسی کی کوئی امید ہی نظر نہیں آرہی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے رقم کے تقاضے کرنا شروع کیے تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنی پریشانی کا جب یاسمین سے ذکر کیا تو وہ فلیٹ فروخت کرنے کے لیے تیار ہو گئی.....“

”اور آپ نے تین لاکھ میں وہ فلیٹ خرید لیا جس کی مارکیٹ ویلیو اس وقت پانچ لاکھ تھی.....“ میں نے سرسراہتی ہوئی آواز میں کہا۔

”مارکیٹ ویلیو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جناب۔“ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ ”انسان کی ضرورت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر وہ فلیٹ پانچ لاکھ میں فروخت ہو سکتا تو یاسمین مجھے تین لاکھ میں کیوں دے دیتی۔“

”آپ نے تین لاکھ کیش یا یاسمین کو ادا کیے تھے؟“ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔

”وہ کامیاب شخص فوراً میری بات کی تہ میں پہنچ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگلا سوال میں یہ کروں گا کہ تین ہزار ماہانہ کمانے والے آدمی کے پاس یکمشت تین لاکھ روپے کہاں سے آگئے لہذا اس نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا۔“

”آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب۔ اگر میرے پاس تین لاکھ کیش ہوتے تو میں وہ مختلف قرض خواہوں کو ادا کر کے اس معاملے کو صاف نہ کر دیتا۔ میں نے شوکت کے کیس کے سلسلے میں وکیلوں اور دیگر قانونی اخراجات کی مدد میں جو چھوٹی بڑی رقمیں خرچ کی تھیں، ان کا تخمینہ تین لاکھ بنا تھا۔ میں نے یاسمین کی بات سن کر کہا کہ اگر وہ فلیٹ فروخت کرنے کا فیصلہ کر ہی چکی ہے تو اسے میرے ہاتھ سچ دے۔ اس طرح قرض کی کل رقم بھی ایڈ جسٹ ہو جائے گی اور وہ تیار ہو گئی۔ میں نے اس سلسلے میں اسٹیپ پیپر پر قانونی دستاویز بھی تیار کروالی جس کے مطابق یاسمین نے تین لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد وہ فلیٹ میرے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ اس اسٹیپ پیپر کی فوٹو

بڑی تعداد کو یاد رکھنا ہاشما کے بس کی بات نہیں۔ آپ معزز عدالت کو کسی ایک وکیل کا نام بتادیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔“

”ہاں..... ایک وکیل کا نام ہے..... جاوید صادق.....“ وہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ یہ وہی جو نیر وکیل تھا جن سے میں ایک تفصیلی ملاقات کر چکا تھا۔ جاوید صادق ہی شوکت علی کا کیس لڑ رہا تھا اور اجمل شاہ سے خاصا نالاں بھی دکھائی دیتا تھا۔

میں نے اپنی قائل میں سے ایک رسید نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”جناب عالی! یہ پچاس ہزار روپے کی وصولی کی رسید ہے جو جاوید صادق نامی ایک وکیل کی جانب سے اپنی فیس کی وصولی کی مد میں جاری کی گئی ہے.....“ پھر میں نے روئے سخن اجمل شاہ کی جانب موڑا اور استفسار کیا۔

”شاہ جی..... آپ انہی وکیل صاحب کا ذکر کر رہے ہیں نا.....؟“

”جی ہاں، بالکل.....“ وہ جلدی سے بولا۔ ”اس وقت شوکت علی کا کیس انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسید میں نے ہی یا سمین کو دی تھی۔“

”آپ نے وکیل کی فیس کی اس رسید کے علاوہ بھی یا سمین کو مختلف نوعیت کے حسابات دکھائے تھے جن کا تخمینہ تین لاکھ کے قریب بتا تھا اور اسی رقم میں آپ نے اس کا فلیٹ چھپانے کی کوشش کی ہے۔“

”یہ بات پہلے بھی آپ دو تین مرتبہ دہرا چکے ہیں۔“ وکیل صفائی نے طعنیہ انداز میں کہا۔ ”کچھ نیا ہوتو پیش کریں۔“

”جج نے مجھ سے پوچھا۔“ بیگ صاحب اس رسید کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟“

”جناب عالی! یہ رسید جعلی ہے۔“ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔

”جعلی رسید..... کیا مطلب ہے آپ کا؟“ جج کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔

”جناب عالی!“ میں نے بڑے بھرپور انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ”اجمل شاہ نے انہی جن وکیل صاحب کا ذکر کیا ہے وہ شوکت علی کا کیس لڑ رہے ہیں۔ میری ان سے تفصیلی ملاقات ہو چکی ہے۔ جاوید صادق ایک جو نیر وکیل ہیں اور ان کی فیس پچاس ہزار ہو ہی نہیں سکتی جبکہ یہ رسید پچاس ہزار کی ہے۔ جاوید صادق پچاس ہزار فیس کی

کاپی جواب دعویٰ کے ساتھ منسلک ہے۔“ وہ جس اسٹیپ پیپر کا ذکر کر رہا تھا، اس کی کہانی ہر مرحلے پر تبدیل ہوتی رہی تھی۔ جب پہلی مرتبہ وہ یا سمین کے سامنے آیا تو کریم بھائی اسٹیٹ ایجنٹ نے تین لاکھ فیس ادا کر کے اس اسٹیپ پیپر پر یا سمین سے وصولی کرا لے تھے۔ اس وقت تک یا سمین بھی سمجھ رہی تھی کہ اس نے سٹین چار لاکھ روپے میں اپنا فلیٹ کریم بھائی کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ تین لاکھ ڈاؤن پیمنٹ اور ایک لاکھ رجسٹری کے وقت اسے ملیں گے پھر کچھ عرصے کے بعد یا سمین پر اس اسٹیپ پیپر کی حقیقت کچھ اس طرح کھلی کہ وہ فلیٹ یا سمین سے اجمل شاہ نے خرید لیا تھا اور یہی اجمل شاہ اب ایک نئی بات کر رہا تھا۔ اس جیسے دھوکے باز کو دھوکے اور فریب ہی سے چت کیا جاسکتا تھا۔

”شاہ جی!“ میں نے ظہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ”آپ نے یکمشت تین لاکھ کی رقم یا سمین کے ہاتھ میں رکھی یا مختلف نوعیت کے اخراجات کو اس اماؤنٹ میں ایڈجسٹ کیا، ہم اس بحث میں پڑ کر عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کریں گے۔ آپ بس میرے ایک سوال کا جواب دیں۔“ وہ ٹھوٹی ہوئی نظر سے مجھ کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا۔

”شاہ جی! آپ نے بڑے رقت آمیز انداز میں اپنے بڑی کم سوتیلے بھائی کی مدد کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ شوکت علی کی رہائی کی خاطر ادھر ادھر سے قرض مانگ کر رقمیں لاتے رہے اور خود بھی مارے مارے مختلف وکیلوں اور عدالتوں میں پھرتے رہے۔ آپ کی یہ بھاگ دوڑ قابلِ تحسین ہے۔ آپ نے لگ بھگ نو ماہ کے عرصے میں اپنی کوششوں سے شوکت علی کے کیس میں کم و بیش تین لاکھ چھوٹک دیے، یہ بات الگ ہے کہ بعد ازاں آپ نے اس رقم کو فلیٹ کی قیمت میں ایڈجسٹ کر لیا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اب تک شوکت علی کے کیس کے سلسلے میں کتنے وکیلوں کی خدمات حاصل کی ہیں؟“

”تین چار تو ہوں گے جناب.....“ وہ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے بول گیا۔

”تین چار.....“ میں نے گہری نظر سے اسے گھورا۔ ”ان کے نام بتا سکتے ہیں؟“

”نہیں..... نام تو اب مجھے..... یاد نہیں آرہے.....“ وہ گڑ بڑا گیا۔

”تین چار بہت بڑی تعداد ہوتی ہے شاہ جی.....“ میں نے اسے تیز تیز دیکھ کر ہر لمبے تیز برساتے ہوئے کہا۔ ”اتنی

دشمنوں سے انکاری ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ شاہ جی نے تقویٰ رسید بک چھپوا کر یہ رسید تیار کی ہے اور جاوید صادق کے تقویٰ دستخط بھی کیے ہیں۔ جاوید صادق اس ضمن میں شاہ جی پر کیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔“

رسید کو دیکھ کر اور..... اس کے حوالے سے میری بیان کردہ تفصیل کو سن کر اجمل شاہ کی سٹی کم ہو گئی۔ وہ ہاتھ کی پشت سے پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کو پونچھتے ہوئے جلدی سے بولا۔

”جناب عالی! اگر عدالت کی نظر میں، میں نے یا سمین والے قلیٹ کا سودا قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں کیا تو میں اس قلیٹ کے حصول پر اصرار نہیں کروں گا۔ بس، میرے تین لاکھ مجھے واپس کر دیے جائیں۔“

”تین لاکھ تو اب تمہیں جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچنے کے بعد خواب و خیال ہی میں ملیں گے۔“ میں نے اجمل شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔

”تم نے دو افراد جاوید صادق اور یا سمین کے ساتھ کھلم کھلا فراڈ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تمہیں کم از کم سات سال تک جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔“

وکیل صفائی نے اس موقع پر اپنے مؤکل کی مدد کرنا چاہی۔ ”جناب عالی! یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جاوید صادق نے اگم ٹیکس کے جھیلے کی وجہ سے اس رسید کی صحت سے انکار کیا ہو۔“

”مطلب؟“ میں نے وکیل صفائی کو آڑے ہاتھوں لیا۔

”مطلب یہ کہ.....“ وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ”وکیل صاحب نے پچاس ہزار روپے وصول کر کے رسید تو جاری کر دی ہو اور اب اسی خیال سے انکار کر رہے ہوں کہ کہیں اگم ٹیکس والے ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔“

”آپ بھی الٹی لنگا بھانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے قاضی دوست۔“ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔

”اگم ٹیکس والوں سے اپنی آمدنی چھپانے کے لیے کم رقم کی رسید تو دی جاسکتی ہے لیکن رسید جاری کرنے کے بعد اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کم از کم قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص تو ایسی سنگین غلطی نہیں کر سکتا۔“

”اجمل شاہ! آپ اس رسید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟“ جج نے گھور کر شاہ جی کی طرف دیکھا۔ ”کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ رسید جاوید صادق نامی وکیل ہی نے جاری کی ہے؟“

”جناب! میں تو یہ معاملہ ہی ختم کرنا چاہتا ہوں.....“

”معاملہ ختم کرنے کا اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے۔“ جج نے ناگواری سے کہا پھر مجھ سے پوچھا۔ ”بیگ صاحب! آپ جاوید صادق کو اس معاملے کی تصدیق کے لیے عدالت میں بلا سکتے ہیں؟“

”جناب عالی! وکیل صاحب اس وقت عدالت سے باہر راہداری میں موجود ہیں۔“

آئندہ دس منٹ کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ جاوید صادق لے کٹھڑے میں کھڑے ہو کر اجمل شاہ کا کچا چٹھا کھول دیا۔ بہت سی دیگر باتوں کے علاوہ یہ انکشاف بھی ہوا کہ جاوید صادق کی فیس پچیس ہزار طے ہوئی تھی مگر اجمل شاہ نے اسے محض دس ہزار ادا کیے تھے اور پندرہ ہزار ادھار کر لیے تھے جو ابھی تک ادھار ہی تھے۔ جاوید صادق کا بیان کھل ہوا تو میں نے کراہی آواز میں کہا۔

”جناب عالی! اجمل شاہ کی دھوکا دہی صرف اس جہلی رسید تک ہی محدود نہیں بلکہ اس ضمن نے متعدد مقامات پر دردغ گوئی کا سہارا لے کر یا سمین کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف یہ نہایت چالاک کی کے ساتھ یا سمین سے اس کے شوہر کے کیس کے سلسلے میں چھوٹی بڑی رقمیں وصول کرتا رہا اور دوسری جانب اسی مجبور اور بے بس عورت کو تین لاکھ کا مقروض بھی بنا دیا پھر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کا قلیٹ بھی ہتھیانے کی کوشش کر ڈالی.....“ لگاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔

”میں سب سے عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ سنگین دھوکا دہی کے ضمن میں اجمل شاہ کو قرار واقعی سزا ملنا چاہیے..... دیش آل!“

میرے جاندار اور ٹھوس دلائل نے اجمل شاہ کے مذموم کردار کو بڑی وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وکیل صفائی نے اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے اپنے مؤکل کی حمایت میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ اس کے مؤکل نے صریحاً فراڈ کیا ہے۔

جج نے تمام حالات و واقعات کی روشنی میں یا سمین اور شوکت علی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اس طرح یہ خاندان اجمل شاہ جیسے ہدینت شخص کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔

(تحریر: حسام بٹ)

جیب میں سے چند ٹکٹاں نکال کر اپنے منہ میں رکھے اور انہیں چبانے لگی۔ وہ تماشا بیوں کے درمیان سے اپنی ہاتھ گاڑی دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ حسب معمول کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔
 ”کیا کسی نے دیکھا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟“ ایک پولیس

سخت سردی پڑ رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے کان کٹھوپ سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ کھسکتی ہوئی چال کے ساتھ اس پولیس کار کے پاس سے گزر رہی تھی جو وہاں پارک تھی اور اس کی روشنیاں فلتیش کر رہی تھیں۔
 اس بوڑھی عورت نے اپنے فکرتہ سے ادنیٰ کوٹ کی

چلتے

سلیم انور

بعض اوقات پیاز کے مانند عورت کی شخصیت تہ در تہ اتنی نفاست سے چھپی ہوتی ہے کہ کسی کو اصلیت کا احساس تک نہیں ہوتا... ایسی شخصیت کو اکثر عقلمند چلتے کا نام دیتے ہیں... اس کا کارنامہ دیکھ کر اسے بھی چلتے کا نام دیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔

Downloaded From
 Paksociety.com

فہم ایک دولت کی خاطر ہزاروں روپے مارنے والوں کا قصہ

READING
 Section

مارچ 2016ء

WWW.PAKSOCIETY.COM
 RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
 FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1



PAKSOCIETY

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

افسر نے سوال کیا۔ اس کی توجہ کا مرکز کوئی خاص فرد نہیں تھا۔
 کچھ لوگوں نے لگی میں سر ہلا دیے۔ کچھ ادھر ادھر
 دیکھنے لگے۔ چند ایک نے اپنی اپنی ٹاک سکینٹی۔ پولیس
 افسر کا ساتھی ایک بھکاری سے سوالات کر رہا تھا جو ایک
 دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ پولیس افسر نے اپنے ساتھی کی
 بات کاٹتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ”ذرا
 تصور کرو۔“ اس نے کہا۔ ”کسی نے کچھ نہیں دیکھا..... کسی
 نے کچھ نہیں سنا..... سب کے سب اندھے، گونگے، بہرے
 بنے ہوئے ہیں۔“

”دکان کے مالک نے بھی کچھ نہیں دیکھا!“ پولیس
 افسر کے ساتھی نے کہا۔ ”اس کا کہنا ہے کہ جب وہ دکان کے
 اسٹور روم میں تھا تو اس کے خیال کے مطابق اس نے کوئی
 آواز سنی۔ جب وہ باہر دکان میں آیا تو دیکھا کہ تمام رقم
 غائب تھی۔“

جب وہ بوڑھی عورت مجمع کے کنارے پہنچی تو پولیس افسر
 عین اسی لئے گھوم گیا۔ اس کی نظر نے ساختہ بوڑھی عورت پر
 پڑی تو وہ پکار اٹھا۔ ”ہے، بلڈی اوہیں رک جاؤ۔“

بوڑھی عورت رگ گئی اور آواز کی بہت پلٹتے ہوئے
 بولی۔ ”کیا میں رفتار کی حد سے تیز گزر رہی تھی، آفیسر؟“
 پولیس افسر کا منہ بن گیا۔ ”نہیں، ایسی کوئی بات نہیں
 ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ یہاں کیا ہوا تھا؟“ اس نے نرم لہجے
 میں پوچھا۔

”مجھے اس بارے میں کچھ یقین نہیں، آفیسر.....؟“
 ”راڈ رگز۔“ پولیس افسر نے اپنا نام بتاتے ہوئے
 کہا۔ ”کسی نے اس اسٹور سے رقم لوٹی ہے۔ کیا تم نے کسی کو
 اسٹور سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا کسی کی حرکات
 و سکنات عجیب سی لگی ہوں؟“

”یہاں پر تو سب ہی کی حرکات و سکنات عجیب سی
 ہوتی ہیں، آفیسر۔“ اس بوڑھی خاتون نے مسکراتے ہوئے
 کہا۔ پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنے لگی جو وہاں تھے..... تین
 خانہ بدوش آدمی ایک گھر کے دروازے کی آڑ میں پناہ لیے
 ہوئے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ دکھائی نہ دیں۔ دو
 بدقماش عورتیں خود کو سروی سے بچانے کے لیے اچھل کود
 کر رہی تھیں۔ مختلف قومیت کے پانچ بچے ایک طرف سہے
 ہوئے کھڑے تھے۔ قریب ہی موجود۔۔۔ درخت پر ایک
 تیر بیٹھا ہوا آوازیں نکال رہا تھا۔

”نہیں آفیسر! میں نے کسی کو بھی اسٹور سے نکل کر
 بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔“ بوڑھی عورت نے کہا۔

”اسٹور کے مالک مسٹر الواریز تو خیریت سے ہیں؟ وہ
 نہایت عمدہ شخص ہیں۔ مجھے ہمیشہ اپنا ہاتھ روم استعمال کرنے
 کی اجازت دے دیتے ہیں۔“

پولیس افسر نے سن کر قدرے تعجب سا کیا۔
 ”سرا ہمیں چلنا ہوگا۔“ اس کے ساتھی نے پولیس
 پٹرول کار کی جانب ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ ”ہمارے لیے
 ایک اور کال آگئی ہے۔“

”سوری، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکی، آفیسر
 راڈ رگز!“ بوڑھی عورت نے ان کے پیچھے پیچھے ہوئے کہا۔
 ”اگلی مرتبہ میں زیادہ دھیان دوں گی۔“

بوڑھی عورت تیزی سے فرسٹ فلن کی جانب جاتی ہوئی
 پولیس کار کو دیکھتی رہی۔ پھر جب وہ کار نظروں سے اوجھل
 ہو گئی تو وہ پلٹ گئی۔

مجمع پولیس کار کے جانے کے بعد چھٹ چکا تھا۔
 وہ بوڑھی عورت اپنی ہاتھ گاڑی دھکتے ہوئے آہستہ
 قدموں سے گلی کے کونے تک آگئی۔ اس نے وہاں رک کر
 اطراف کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر وہ اپنی
 ہاتھ گاڑی اندھیرے میں ایک کوڑے دان کی آڑ میں لے آئی۔
 اس نے اپنا ٹکٹہ اونٹی کوٹ اتارتے ہوئے ایک
 اچھتی نگاہ سڑک کی جانب ڈالی۔ پھر وہ کوٹ ہاتھ گاڑی میں
 رکھ دیا۔ ساتھ ہی کتھوپ بھی اتار دیا۔ پھر سر پر سے سفید
 بالوں کی دگ چٹکس ماسک اذر بدرنگ ٹیلا ڈریس بھی اتار
 دیا۔ اس کی جگہ اس نے مصنوعی فرکا کوٹ پہن لیا اور اپنے
 سرخی مائل بھورے بالوں کو درست کرنے لگی۔ اس نے
 اپنے نرم تلے کے جوتوں کی جگہ تین اچھ اوچی ہیل کے سرخ
 رنگ کے سینڈل پہن لیے۔ پھر اپنے چڑے کے منی ڈریس
 کی ٹکٹیں درست کرنے لگی۔

اس نے اپنے چڑے کے پرس میں سے ایک دستی
 آئینہ نکالا اور اس میں اپنے عکس کا جائزہ لیتے ہوئے چہرے
 پر سے ٹیکس کے بقیہ کلڑے نوچنے لگی۔ پھر اس نے اپنا
 میک اپ درست کیا اور آئینہ دوبارہ پرس میں رکھ لیا۔ اب
 وہ ایک عام سی ملازمت پیشہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔

باقی تمام قاتلوں چیزیں اس نے ہاتھ گاڑی میں وہیں
 چھوڑ دیں۔ پھر پرس کھول کر اس میں اسٹور سے لوٹی ہوئی
 رقم کی موجودگی کا اطمینان کرنے کے بعد پرس اپنے شانے
 پر لٹکا لیا اور سیٹی بجاتی ہوئی گلی سے نکل کر سڑک پر چلے۔
 چہرے لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گئی۔



Downloaded From
Paksociety.com

روسیا کی روٹیاں

روٹیاں

منظوم رامانا

بھوکے پیٹ آنکھوں میں خواب نہیں بلکہ... خوابوں کی جگہ
حسرتیں جگہ بناتی ہیں... گیسوں کے دانے نے آدم کو جنت سے نکلوا
دیا اور زمین پر اس روٹی نے انسان کو انسانیت سے گرا دیا۔ اس روٹی
کے آگے ہر احساس، ہر رشتہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے جیسے کہ یہاں...
ان ننھے ننھے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہتے تھے مگر تقدیر نے آٹے دال
کے گھن چکرمیں ایسا جکڑا کہ سانس کا پنچھی ہی ساتھ چھوڑ گیا۔

اپنوں کے ہاتھوں اپنوں کی ناقدری کا عبرت اثر ماجرا

روٹیاں دے دینا۔“

پچاس روٹیاں..... پچاس روٹیاں مانگنے والا ایک کھاتا
پیتا آدی دکھائی دے رہا تھا جس کی گاڑی ہوٹل کے پاس کھڑی
تھی۔ شاید اس کے گھر میں کوئی تقریب ہوگی اس لیے اس نے
پچاس روٹیوں کا آرڈر دیا تھا۔

ایک بچہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ دس گیارہ برس کا
ہوگا جس کے کپڑے بوسیدہ ہو رہے تھے اور جس کی نہ صرف

کوئی بہت ہی باذوق قسم کا فقیر تھا جو نظیر اکبر آبادی
کی نظم کا ایک حصہ بہت ہی خوب صورت ترنم میں گاتا ہوا گزرا
تھا۔ ”دیوانہ آدی کو بناتی ہیں روٹیاں۔ خود ناچتی ہیں سب کو
نچاتی ہیں روٹیاں۔“

اور اس فقیر سے کچھ قاصطے پر ایک ہوٹل تھا جس کے حور
کی روٹیاں بہت مشہور تھیں۔ کئی آدی روٹیوں کے لیے لائن
تھے۔ ”دو روٹیاں۔ چھ روٹیاں۔ مجھے بارہ

2016 مارچ

149

سینس ڈائجسٹ

Section

آنکھوں میں بھوک تھی بلکہ پورے وجود میں بھوک تھی۔ اس نے پچاس روٹیوں والے کا دامن تمام لیا۔

”کیا ہے؟“ اس آدمی نے اسے جھڑک دیا۔ ”ہاتھ ہٹاؤ۔“
”دو روٹیاں دلا دو۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔“ بچہ گڑگڑا کر بولا۔

”ہشو یہاں سے۔ تم لوگوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔“
بچہ جھڑکیاں کھا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ دوسرے لوگ بے نیازی سے کھڑے رہے۔ سب کے لیے یہ روز کا معمول تھا۔ ہر دن اس قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ اس لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔

برابر میں کھڑے ہوئے ایک اور آدمی نے بھی پچاس روٹیوں والے کی تائید کی۔ ”ہاں صاحب! ہر طرف بھکاری ہی بھکاری ہو گئے ہیں۔ نہ جانے کہاں سے چلے آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری قوم بھکاری ہو گئی ہے۔“

روٹیاں مانگنے والا بچہ آہستہ آہستہ ایک طرف چل پڑا۔ اس کے باؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ دور سے فقیر کے گانے کی آواز آرہی تھی۔ ”دیوانہ آدمی کو بتاتی ہیں روٹیاں۔“

”اے چھوٹے۔“ کسی نے اس بچے کو آواز دی۔ آواز دینے والے کے ہاتھ میں چار پانچ روٹیاں تھیں اور ایک شاہ پر میں دال بھری ہوئی تھی۔ وہ بھی زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ بارہ تیرہ برس کا ہوگا۔

یہ بچہ جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی نگاہیں روٹیوں پر جمی ہوئی تھیں۔

”کیا ہوا، کچھ نہیں ملا؟“ آواز دینے والے نے پوچھا۔

”نہیں یار، صبح سے کچھ نہیں ملا۔“

”چل نہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔“ آواز دینے والے نے کہا۔ ”میں روٹیاں اور دال لے آیا ہوں۔“

دونوں ایک طرف چل دیے۔ ان دونوں سے کچھ قاصدے پر ایک بانیک کھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرح واری عورت اس بانیک کے پاس کھڑی ہوئی اس مرد کا انتظار کر رہی تھی جو روٹیاں لینے کے لیے سامنے والے ہوٹل میں گیا ہوا تھا۔

اس عورت نے بہت ہی بے ڈھنگے پن سے میک اپ کر رکھا تھا۔ ہونٹوں پر گہری سرخی لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی بے چینی تھی۔

مرد کچھ دیر میں روٹیوں کا شاہ پر لے کر اس کے پاس آ گیا۔ ”چلو جان کن..... روٹیاں لے آیا ہوں۔“

”کھڑے میں سالن رکھا ہوا ہے۔“ عورت نے بتایا۔

READING
Section

سپینس ڈائجسٹ

”ہاں اسی لیے میں نے سالن نہیں لیا۔“ مرد نے بانیک اشارت کر دی تھی۔

دونوں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ایک سخت حال ہی بلڈنگ کے ایک سخت حال سے فلیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ فلیٹ شاید اسی عورت کا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے جابی نکال کر دروازہ کھولا تھا۔ اس چھوٹے سے کھٹے ہوئے فلیٹ کا فرنیچر بھی بہت سخت تھا۔ یہاں سورج کی روشنی نہیں آتی تھی۔ عورت نے کمرے کا بلب جلا دیا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی سی مسہری کے علاوہ ایک سنگا رومان اور دو کرسیاں تھیں۔ ایک طرف ایک الماری بھی تھی جس کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور بہت بے ترتیبی سے ٹھسے ہوئے کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔

مرد بہت بے تکلفی سے مسہری پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے جوتے اتارنے شروع کر دیے پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے عورت سے پوچھا۔ ”تم نے بتایا تھا کہ تم انٹر کر چکی ہو۔“
”ہاں۔ یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے۔“ عورت نے جواب دیا۔

”میں اپنی فیکٹری میں تمہارے لیے نوکری کی بات کروں؟“ اس نے پوچھا۔

”ارے نہیں۔“ عورت نے انکار میں گردن ہلا دی۔
”کیا قادمہ؟ مہینے بھر محنت کرتے رہو۔ آخر میں چند سو روپے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔“

”اس کام سے تو اچھا ہے نا۔“

”خاک اچھا ہے۔ تم جیسے چار پانچ مہربان مہینے میں آجاتے ہیں۔ میری روٹی روٹی آسانی سے چل جاتی ہے۔“

مرد ہنس پڑا اس کی ہنسی کی آواز اس کمرے سے باہر کو یڑور تک پھیل گئی۔ کوریڈور کے اختتام پر ایک تنگ سا زینہ تھا۔ اس زینے سے اترنے کے بعد ایک چھوٹی سڑک آتی تھی۔ وہ سڑک آگے جا کر ایک بڑی سڑک سے مل جاتی تھی۔

اس وقت اس بڑی سڑک پر ایک قیمتی گاڑی گزر رہی تھی۔ آگے ایک ڈرائیور بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ایک موٹا آدمی تھا۔ اس آدمی کا لباس بہت قیمتی تھا۔ اس کے گلے میں سونے کی چین تھی اور نکلائی پر ایک بہت قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔

گاڑی ستر کرتی ہوئی کسی دفتر کی شاندار سی بلڈنگ کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ آدمی ایک شان کے ساتھ گاڑی سے اترتا اور دفتر کی طرف چل دیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے گاڑی سے مستعدی سے اسے سلامیٹ کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔

اندر ایک ہال تھا۔ بہت سے مرد عورتیں اور لڑکیاں سب اپنی اپنی ڈیک پر کام کر رہے تھے۔ سب اسے دیکھ کر الٹ

”وہ تو ٹھیک ہے آئی لیکن میں نے سنا ہے کہ بہت سے گھروں میں جب بھو جاتی ہے تو اس سے جب پہلی بار کھن کا کام لیا جاتا ہے تو پھر ایک پارٹی ڈیو ہو جاتی ہے۔“

”تمہیں روٹیاں بنانی آتی ہیں؟“ نبیلہ کے شوہر نے حیرت سے پوچھا۔

”کم از کم ٹرائی تو کر سکتی ہوں نا۔“

اور جب نبیلہ کی ٹرائی سامنے آئی تو سب ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے تھے۔ روٹیوں کی شکلیں بہت عجیب سی تھیں۔ نوکیلے کناروں والی، بے ڈھلی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بچے نے روٹیاں بنائی ہوں۔

”کوئی بات نہیں۔“ نبیلہ کے سر نے پانچ ہزار کا ایک نوٹ نبیلہ کی طرف بڑھا دیا۔ ”یہ لو اپنا انعام۔“

”کیسا انعام ابو۔“ نبیلہ نے شرمندہ ہو کر کہا۔ ”روٹیاں تو اتنی بے ڈھلی بنی ہیں۔“

”تو کیا ہوا۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم نے کوشش کی ہے۔“

اور اس گھر سے بہت فاصلے پر ایک بہت معمولی سے گھر میں اس گیارہ برس کی ایک بچی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔

”نہیں بابا! مجھے نہیں مارو۔ مجھ سے گول روٹیاں نہیں بنتیں۔“

”کیوں نہیں بنتیں۔“ بھائی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا اس کی تھمی سی نازک سی کمر پر سید کر دیا۔

”نہیں بھائی، مت مارو۔“ اس نے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ بری طرح رور رہی تھی۔

اسی وقت باپ نے بھی ایک ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا۔

اس بار وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے آواز نکالی۔ ”ہائے بابا۔“

پھر وہ زمین پر گر کر جھکتے لینے لگی۔ اس کا باپ اور اس کا بھائی اس کے پاس کھڑے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔

دو چار جھنگوں کے بعد اس نے تڑپنا بند کر دیا تھا۔ وہ سوچتی تھی۔ اس کی نرم انگلیوں کے درمیان وہ روٹی دبلی ہوئی تھی جو وہ اپنے باپ اور بھائی کے لیے پکا کر لائی تھی۔

(یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ایسا واقعہ جھپٹے ہی دنوں ہمارے ملک میں ہو چکا ہے) جس وقت وہ تھمی سی جان روٹی گول نہ بنا سکتے کے سنگین جرم کی سزا پا کر دم توڑ رہی تھی، اس وقت وہی فقیر نظیر اکبر آبادی کو گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ ”دیوانہ آدمی کو بناتی ہیں روٹیاں۔ خودنا چتی ہیں، سب کو تپاتی ہیں روٹیاں۔“

ہو گئے تھے۔ وہ اشارے سے سلام کے جواب دینا ہوا اپنے شاعر سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک آدمی پہلے سے اس کے انتظار میں تھا۔ وہ آدمی بھی اسی کی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے وہ آنے والے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا تھا بلکہ خود آنے والا اسے اپنے دفتر میں بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ”ارے سیٹھ صاحب! آپ کب آئے؟“

”ابھی آیا ہوں۔ تم نہیں تھے۔ میں نے سوچا پانچ دس منٹ انتظار کر لوں۔“

”بڑی مہربانی سیٹھ۔ مجھے بتایا ہوتا، میں خود آ جاتا۔“

”فہمیں، اتنا وقت نہیں تھا۔ میں تم سے وہی دو لاکھ ٹن گندم کے سووے کی بات کرنے آیا ہوں۔“

”سیٹھ! آپ جو دام لگا رہے ہوتا، اس میں بہت کم فکڑ رہا ہے۔ آخر میرے بھی بچے ہیں سیٹھ۔ ان کو بھی روٹیاں کھانی ہیں۔“

”کتنی روٹیاں کھاؤ گے۔ پورے ساڑھے چھ کروڑ ل رہے ہیں تم کو۔“

آنے والا ڈھبائی اور شرمندگی سے ہنس پڑا۔

اس کمرے سے باہر ہال کے کیمن میں ہر آدمی کیپوڑ پر کسی نہ کسی حساب کتاب میں مصروف تھا۔ ایک کیمن میں ایک لڑکی دوسرے کو بتا رہی تھی۔ ”یارا آج میں جلدی چلی جاؤں گی۔“

”وہ کیوں؟“

”اسی کے دانت بنوانے ہیں۔ بے چاری نے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔“

اسی دفتر کی بلڈنگ کے نیچے سڑک پر ایک طرف ایک کچرا کٹھی تھی۔ اس کچرا کٹھی پر دو کتے ایک روٹی کے لیے ایک دوسرے پر غرارے تھے۔ دونوں کی بھی کوشش تھی کہ وہ سامنے پڑی ہوئی روٹی کو پہلے چھٹ لیں اور اس کچرا کٹھی سے ملحق جو شاندار رہائشی عمارت تھی وہاں کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔

نبیلہ نام تھا اس لڑکی کا جو اس گھر میں بھو بن کر آئی تھی۔ نبیلہ کا تعلق خود بھی ایک امیر گھرانے سے تھا۔ لہذا اس کی شادی بھی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ شادی کو تین چار مہینے ہو چکے تھے۔ ان تین چار مہینوں میں اس گھر کے کسی فرد کو فرصت ہی نہیں مل سکی تھی۔ روزانہ کہیں نہ کہیں دعوت، تقریب، سیر، شاپنگ اور نہ جانے کیا کیا۔ انہیں گھر میں کچھ کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ سوائے بیک فاسٹ کے۔ گھر میں دو دو لگتے تھے۔ وہ بھی ان تین چار مہینوں سے پیش کر رہے تھے۔

آج جب سب گھر والے تھوڑی فراغت سے بیٹھے تو نبیلہ نے ایک آواز کر دی۔ ”آئی! آج روٹیاں میں بناؤں گی۔“

”تو کتوں کو کون بناؤ گی؟ گھر میں دو دو لگتے ہیں۔“

آج جب سب گھر والے تھوڑی فراغت سے بیٹھے تو نبیلہ نے ایک آواز کر دی۔ ”آئی! آج روٹیاں میں بناؤں گی۔“

”تو کتوں کو کون بناؤ گی؟ گھر میں دو دو لگتے ہیں۔“

مکمل شعر و سخن



✽ حبیبہ احمد ملک..... گلستان جوہر، کراچی
کوئی نہ اپنا ساتھی ہو تو سنگت کس سے ہم جوڑیں
چاروں سمت ہو دیرانی تو راہ کو اپنی کیا موڑیں

✽ ظفر اقبال ظفر..... کامرہ شرتی
یہ چاہتیں یہ پذیرائیاں بھی جھوٹی ہیں
یہ عمر بھر کی شناسائیاں بھی جھوٹی ہیں
تمام الفاظ و معانی بھی جھوٹ ہیں اجہ
ہمارے وقت کی سچائیاں بھی جھوٹی ہیں

✽ انم کمال..... کراچی
وہ خوش جمال کتا، رہتا تھا بدگماں سا
باتوں میں کچھ جلن سی، آنکھوں میں کچھ دھواں سا



✽ محمد کمال انور..... اورنگی ٹاؤن، کراچی
فصل گرما میں جو ہوتی ہے مسافت درپیش
سر پہ جب دھوپ کی چادری تھی ہوتی ہے
راہ کے ٹھنڈے عہدِ محبت سے بلائے ہیں مجھے
بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے

✽ ایم عمران قاسم..... سہیل، تحصیل بکر سیداں
میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو
تو میرے دل کے دھڑکنے کا گلہ کرتا ہے؟

✽ محمد خواجہ..... کورنگی، کراچی

تری اس بے وقافی پر قدا ہوتی ہے جاں اپنی
خدا جانے اگر تجھ میں وفا ہوتی تو کیا ہوتا

✽ رانا حبیب الرحمن..... سینٹرل جیل لاہور

میں نے کب دعویٰ کیا تھا سر بسریا ہوں میں
پیش خدمت ہوں تمہارے جس قدر باقی ہوں میں

✽ انور علی..... جبک آباد

شام تک شام ہی سی رہتی ہے
صبح آتی ہے پر نہیں آتی
بڑھ گیا شہر میں دھواں اتنا
کوئی صورت نظر نہیں آتی

✽ ہادیہ ایمان، ماہا ایمان..... ہارون آباد
ٹوٹا طلسم عہدِ محبت کچھ اس طرح
بھر آرزو کی شمع فروزاں نہ کر سکے

✽ رعنا رضوی..... یوسکے

بلند محلوں کو ہوتی ہے آرزوئے چراغ
یہ جھونپڑے ہیں یہاں دل جلانے جاتے ہیں

✽ عاصم خان..... کراچی

تس رہی ہے توازن کو زندگی اپنی
کسی طرح کا میسر ہمیں قرار نہیں
ابھی درخت بہت کم ہیں اپنے گلشن میں
ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں

✽ رمضان پاشا..... گلشن اقبال، کراچی

جاگ اٹھا ہے اگر سارا جہاں تو کیا ہوا
تم مزے سے اے میرے اہل وطن سوتے رہو

سید عباسی..... بہاولپور

جانے کس راہ سے آجائے وہ آنے والا
میں نے ہر سمت سے دیوار گرا رکھی ہے

سید مرثعی..... لاہور

ایک گریہ سنائی دیتا ہے
سارے دریاؤں کی روانی میں
آوی نے وہ زہر گھولا ہے
مچھلیاں سر رہی ہیں پانی میں

سید زوہیب احمد ملک..... گلستان جوہر، کراچی
ہم اپنی بے قرینہ کاوشوں سے
خود اپنی رہ میں حائل ہو گئے ہیں
ہمیں قدرت نے بخشے جو مسائل
مسائل اور مسائل ہو گئے ہیں

سید وحید عباسی..... بہاولپور

مٹتے ہیں غم بھی نصیب والوں کو
ہر اک کے ہاتھ یہ خزانے کہاں لگتے ہیں

سید محمود علی..... حیدرآباد

کتے رنگ مچھے ہیں اس میں
جو منہ سی کونیل ہے
وہ پھوٹا اک سچ کے اندر
سائیس لیتا اک جنگل ہے

سید جبران احمد ملک..... گلشن اقبال، کراچی

پرہول، اضطراب فزاہ پرخطر دھواں
پھیلا ہوا ہے چارٹو وحشت اثر دھواں
وریش نخل جاں کو ہیں کتنی اذیتیں
اتنی کثافت! اتنا غبار! اس قدر دھواں!

سید نوید عباسی..... بہاولپور

آنکھوں کی ضمانت بھی جہاں کام نہ آئی
وہ شخص لفظوں کا یقین کہاں کرے گا

سید آمنہ رشید سیال..... موہڑی ضلع سکھر
ٹوٹ بھی جائے دل تو محبت نہیں ٹٹی
اس راہ میں مٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا

سید عتیق الرحمن..... فیصل آباد، سندھ

وہ جن کو دیکھ کر دل میں خدا کی یاد آئے
ہم ان باتوں کا بڑا احرام کرتے ہیں

سید عبادت کاظمی..... ڈیرہ اسماعیل خان

پتھر بنا دیا مجھے رونے نہیں دیا
دامن بھی تیرے غم نے بھگونے نہیں دیا
دل کو تمہاری یاد کے آئسو عزیز تھے
کوئی بھی اور درد سمونے نہیں دیا

سید امتیاز احمد..... شاہ فیصل کالونی، کراچی

اس وطن کے واسطے وہی جتنی قربانی نہ پوچھ
چشم گردوں کی مگر یہ فتنہ سامانی نہ پوچھ
برسم خواہاں سے چلے آئے لیکن اب تلک
کس قدر ہم نے اٹھائی ہے پریشانی نہ پوچھ

سید ناہید یوسف..... اسلام آباد

رنگ شباب نے تمہیں رنگ بہار کر دیا
شوخی طبع یوں بڑھی ظلم شعار کر دیا
وسل کی شب گزر گئی ناز و ادا ہی دیکھتے
فقد جو جنس تھی اسے اس نے اوجھار کر دیا

سید اورین احمد خان..... ناظم آباد، کراچی

تمام عمر جسے ہم نے زندگی سمجھا
ملاں یہ ہے کہ اس نے اجنبی سمجھا

سید زرین آفریدی..... پٹھان کالونی، حیدرآباد
آج الفاظ نہیں مل رہے صاحب
درد لکھ دیا ہے محسوس کیجیے گا

سید عروہ عالیہ..... حیدرآباد

کوئی آج نہ آئے تیری خوشیوں پر کبھی
تو محفوظ رہے سیپ میں بند سوتی کی طرح

سید اطہر حسین..... کراچی

زلف مہکی ہوئی، رنگت ہے گلعلی کی طرح
ہیں ادائیں بھی وہی شوخ شاہوں کی طرح
ہیں عجب تیری ادائیں بھی، جھانکیں بھی عجب
جانم خوش رنگ مگر تلخ شراہوں کی طرح

سید محمد شہبازا کرم لوئی..... ڈھکی، پاک تپن شریف

وہ سامنے ہوئے تو عجب سانحہ ہوا دلنشین
ہر حرف شکایت نے خودکشی کرنی

سید ماہین فاطمہ..... اوکاڑہ

میں نازک برف کا ایک ٹکڑا، وہ رکھ کر بھول گیا مجھ کو
میں قطرہ قطرہ پھل رہا ہوں، وہ میری اذیت کیا جلنے!

READING

2016 مارچ

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

اشفاق شاہین.....کراچی

سرمقل بھی ترے نام کے چہرے ہوتے
تو نے پوچھی ہی نہیں آخری خواہش میری!

ملائکہ حریم.....اوکاڑہ

اس کا غرور میری لگن کے سبب تو نہیں
وہ خود بھی جانتا ہے کہ بے حد حسین ہے

داؤد اشفاق.....اوکاڑہ

نہ آپ یوسفؑ ہیں، نہ میں مصر کا کوئی تاجر
اپنی اس بے رنجی کے دام، ذرا کم کیجیے!

مصباح کشور.....فیصل آباد، سمندری

کانٹوں پہ گزار دیتا ہے گلاب لڑنی ساری زندگی
کون کہتا ہے کہ پھولوں کو کوئی غم نہیں ہوتا

محمد قدرت اللہ نیازی.....حکیم ٹاؤن، خانیوال

آؤ کچھ دیر تذکرہ کر لیں
ان دنوں کا جب آپ ہمارے تھے

مسٹر اینڈ مسز محمد صفدر معاویہ.....خانیوال

محبت اک ڈھونگ ہے گویا
ہر کوئی رچائے پھرتا ہے

مرحاجل، رمنگل.....درابن کلاں

چاند سا جب کہا تو کہنے لگے
چاند کہیے نا! چاند سا کیا ہے؟

عمران عارف.....فیصل آباد، سمندری

اب وہ مجھ سے میری ہر بات کے معنی پوچھے
جو میری سوچ کی تحریر لکھا کرتا تھا

مہتاب احمد.....حیدرآباد

اپنا کوئی نہیں ہے ابتلاء ہونے کے بعد
عشق کیا ہے جان لوگے جتلا ہونے کے بعد

احمد حسن عرضی خان.....قبولہ شریف

کوئی تعویذ دو رو بلا کا
میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے

محمد علی.....راولپنڈی

کون پانی کو اڑاتا ہے ہوا کے دوش پر
کس نے بخشی پیر کو آتش پذیری سوچے

محمد جعفر.....کوئٹہ

خوشبو کا سونگھنا ہو کہ سبزے کو دیکھنا
کرتا ہے دل سے وور غم و اضطراب کو

طلعت علی.....پشاور

درختوں کی نگہبانی کیے جا
یہ محنت منفعت والی بہت ہے

اوریس خواجہ.....کراچی

ہم سے ہوائے شہر کی بابت نہ پوچھیے
رگ رگ میں ایک زہر ہے اور ہم ہیں دوستو

محمد عظیم.....سرگودھا

اکثر چپ چپ رہ کر میں یہ خود ہی خود سے بولوں
میرے پیار کا ساون تو میں من کے داغ کو دھولوں

مرحمت.....کراچی

اے کاش کہ ایسا ہو جائے دل اس کے پیار میں کھو جائے
اک رات تو ایسی بھی آئے وہ سکھ کی نیند بھی سو جائے

محمد انجم.....میالوالی

تیرا یہ حسین چہرہ، دو دن کی کہانی ہے
جس جسم کی ہے دولت، وہ جسم تو فانی ہے

شازبہ.....کراچی

جواشکوں نے ہی آنکھوں سے وہ ہر بات ادھوری ہے
بجھے کیوں پیاس صحرا کی کہ یہ برسات ادھوری ہے

حبیب علی.....فیصل آباد

یقین کل کا کیا کریں کہ مل سکیں گے یا نہیں
کہو جو آج دل میں ہے، یہ عجبتوں کا دور ہے

محبوب علی.....ملتان

کہیں چہرے، کہیں جلوے کہیں گلغام بھی دیکھے
کہ احساس محبت کے بہت سے نام بھی دیکھے

درختوں کی نگہبانی کیے جا

کوئٹہ
اپریل
2016

نام: _____
پتا: _____

Downloaded From
Paksociety.com

تحفہ

قمر عباس

دنیا میں خوبصورتی جب جب نظر آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارا جائے۔ حسن کے چرچے بھی یوں ہی نہیں ہو جاتے... جانے کتنے دل اس پر قربان ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ قربان ہونے کے بجائے قربانی مانگتے ہیں۔ اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا... اسے ہر سال ایک خوبصورت تحفہ چاہیے تھا جسے پانے کے لیے اس نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔

حسن کی داد پانے والی حسینہ کی دلقریبیاں

ٹاپ اور مختصر سا اسکرٹ پہنا ہوا تھا جس سے اس کی دھوپ میں سنولائی لانی ٹانگیں ککڑی کے پالش سے چمکتے ہوئے فرش تک چلی گئی تھیں۔

”اندر آ جاؤ۔“ اس نے کہا۔ میرے خیال سے کم از کم اس نے یہی کہا تھا۔ میں اس کی لہرائی چال میں کھویا ہوا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے اس نے حال ہی میں شاور لیا تھا اور میں آنکھیں بند کر کے اس کے جسم سے شرارے سی چھوڑنے والی مہک کے

”تم مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں آئے ہو..... ہے نا؟“ شیر ایل نے.... بدگماہریوں داخلی دروازے کو کھلا رکھا جیسے کوئی آرجنٹ پوسٹل سروں کے آدی کو خوش آمدید کہتا ہے۔

اس نے میری گن کو نہیں دیکھا ہوگا جو میں نے اپنی جینز کے پچھلے حصے میں اڑسی ہوئی تھی۔ اس سے قبل کہ میں کوئی جواب دیتا وہ جوبلی میں پلٹ گئی اور اپنے پیچھے دروازہ کھلا دیا۔ اس نے بتائی سے تیار کردہ ایک ٹاسٹ

رج 2016ء

Section

WWW.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY

RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



PAKSOCIETY1



PAKSOCIETY

تعاقد میں اس کے پیچھے جاسکتا تھا۔

میں نے چند گہری سانسیں لیں اور جلدی جلدی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ سیدھی کچن کاؤنٹر تک پہنچ گئی جہاں ایک بڑی سی کھڑکی سے ایک خوب صورت عینی لان کا نظارہ کیا جاسکتا تھا۔ لان کی گھاس نہایت عمدگی سے تراشیدہ تھی۔ وہ گھوم کر میرے مقابل آگئی اور دونوں ہاتھ ہانڈھ لیے۔

”اوکے۔“ اس نے کہا۔ ”تم نے کیا کیا ہے؟“

”ایک سکویزی؟“

”تم نے ونسنٹ کے ساتھ کچھ کیا ہے اور اب تم اس کی خوشنودی کے مقروض ہو۔ درست؟“

میں نے کچھ نہیں کہا۔

اس نے کچن کی میز کی جانب اشارہ کیا۔ ”اگر تم بیٹھ جاؤ تو میں بہتر محسوس کروں گی۔“

اگرچہ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، تاہم میں بیٹھ گیا۔ مجھے اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت تھی۔ میرے ذہن میں سیکڑوں خیالات گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ صرف وقت گزارنا چاہ رہی تھی؟ وہ داخلی دروازے پر ہی فساد کھڑا کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں وہاں کس لیے آیا ہوں؟

وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی۔ میں نے یہ بات اس لیے نوٹ کی کہ میں اس کی ان دلکش ٹانگوں پر بہت ہی خاص توجہ دے رہا تھا۔

اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ اس نے اپنی بڑی غزالی آنکھوں کو چھپکایا اور بولی۔ ”سو کیا تم نے اس سے پہلے بھی کسی کو قتل کیا ہے؟“

میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔

”سو تم اس معاملے میں کنوارے ہو؟“

میں نے شانے اچکا دیے۔

”تم یہ کام کس طرح سرانجام دو گے؟“

”میں..... آں..... میرے پاس ایک گن ہے۔“

”کیا یہ گرجدار قسم کی نہیں ہوگی؟“

”میرا خیال ہے میں نے اس بارے میں غور نہیں کیا۔“

”میں نے اس سے زیادہ وقت نہیں تھا۔“

”تم نے مجھے آج ہی قتل کرنا ہے؟“

میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

”تم اس کے مقروض ہو؟“

میں اثبات میں سر ہلا تارہا۔

”تم کتنی رقم ہے؟“

”آٹھ لاکھ۔“

اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکل گئی۔ ”یہ تو اچھا خاصا قرض ہے جو ناقابل ادا لگتا ہے۔“

”میں ایک جبری جواری ہوں۔“

”سو اس نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تم جتنی بھی چیزوں کے مقروض ہو، وہ تمہیں معاف کر دے گا؟“

”ہاں۔“

اس نے سر تاپا میرا جائزہ لیا اور بولی۔ ”تمہاری عمر کیا ہے؟“

”بتیس سال۔“

”سو تم بتیس برس کے ہو اور تم آٹھ لاکھ ڈالرز کے مقروض ہو؟“

”ہاں۔“

اس نے ایک اچھتی نگاہ پیچھے کی طرف ڈالی تو میں نے اپنی گن کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔

”اطمینان رکھو۔“ اس نے کہا۔ ”مرنے سے پہلے میں بس کافی کا آخری کپ پینا چاہتی ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہوگا کہ عام طور پر لوگ آخری سگریٹ پینے کی خواہش کرتے ہیں لیکن

میں سگریٹ نوش نہیں ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟“

میں اس پر غور کرنے لگا۔

”سنو۔“ اس نے کہا۔ ”مجھے صرف ایک بیٹن کو دینا ہوگا اور مشین بینز کو گرائنڈ کر دے گی اور تین منٹ سے کم وقت میں چند کپ کافی اہل کر تیار ہو جائے گی۔“

”اوکے لیکن صرف ایک کپ!“

”یقیناً۔“ وہ اٹھی اور کافی مشین کا ایک بیٹن دیا دیا۔ پھر کچن کاؤنٹر کا سہارا لے کر کھڑکی ہو گئی۔ ”تمہیں معلوم ہے کہ

آج اس کی سالگرہ ہے۔“

”ونسنٹ کی؟“

اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ”آج وہ چھپن سال کا ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اس تحفے کا منتظر رہتا ہے جو ہر سال میں اسے پیش کرتی ہوں۔“

”تم اسے کیا تحفہ دیتی ہو؟“

”وہی جو ہر سال دیا کرتی ہوں۔ شادی کچھ عرصے

بعد ایک روٹین بن جاتی ہے۔ تمہیں ایک روز خود پتا چل جائے گا۔“

”اچھا۔“

وہ میری بے رغبتی کا جائزہ لینے لگی۔ ”تم حقیقت میں یہ

کام نہیں کرنا چاہتے..... ہے نا؟“

READING Section

”میرے پاس پسند ناپسند کا کوئی اختیار نہیں ہے ہنس
ونسٹ۔“

”پلیز مجھے شیرائل سے مخاطب کرو۔“

”شیرائل! مجھے یہ کام کرنا ہوگا یا پھر میں مرنے کے لیے
تیار ہوں۔ اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔“

”ہم اپنے آپشن کے بارے میں بعد میں بات کریں
گے۔“ اس نے الماری میں سے سراک کے دو کپ نکالتے
ہوئے کہا۔ ”اس وقت تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے بارے
میں بتاؤ۔“

جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے پلٹ کر
میرنی طرف دیکھا۔ ”وہکو، میں چند منٹ بعد مرنے والی
ہوں۔ تم مجھے جو کچھ بتاؤ گے اس سے آخر فرق کیا پڑے گا؟ میں
تو بس اس شخص کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں جو میرنی
زندگی کا خاتمہ کرے گا۔“

میں اپنے ذہن میں ایسے بہت سے مناظر کو دہرا چکا تھا
کہ ایسا کس طرح سے ہوگا۔۔۔ میرنی مراد کل سے ہے۔ مجھے
شیرائل کی جانب سے عاجزی، سرکشی، رونے دھونے سب کچھ
جارجیت کی توقع تھی لیکن میں نے اس حکمت عملی کے بارے
میں کبھی بھی سوچا تھا۔

”میرا نام کس ہے۔“ میں نے کہا۔ ”جب میرنی عمر
سولہ برس تھی تو میں نے ریس کورس جانا شروع کر دیا تھا اور مجھ
میں جوئے کے جرائم سرایت کر گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ
میں پھر کبھی اس سے جان چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اگلی
شرط مجھے ہمیشہ ٹاپ پر لے جاتی تھی اور میں وائس ٹریک پر پہنچ
جاتا تھا۔ پر اہم یہ ہے کہ جینے کے باوجود میں اسے جاری رکھتا
تھا اور آخر کار جیت کی رقم ہوا ہو جاتی تھی۔“

شیرائل نے اپنے کپ میں کچھ کریم اڈیلٹی اور چچے
چلاتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنی کافی کس طرح کی پسند
کرتا ہوں۔

”بلیک۔“ میں نے بتایا۔ ”اور چینی کے دو چمچ۔“

اس نے ہمارے کپ تیار کیے اور انہیں میز پر
لے آئی۔

”شکریہ۔“ میں نے کہا۔

وہ بیٹھ گئی اور ایک بار پھر ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی۔ بالکل
پہلے کی طرح وہ بائیں ٹانگ پر دائیں ٹانگ۔ یہی انداز میرا
پسندیدہ تھا۔

اس نے اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیا اور مسکراتے
ہوئے بولی۔ ”آگے بتاؤ۔“

”تمہارے بارے میں؟“

”یہ بتاؤ کہ میرے شوہر سے تمہاری ملاقات کس طرح
ہوئی تھی؟“

اس کی بھرپور براؤن آنکھیں اس کے گلے سیاہ بالوں
سے حیرت انگیز طریقے سے ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔
”کیا میں تم سے ایک سوال پوچھوں؟“ میں نے کہا۔
”بے شک۔“

”تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟“

”اوہ! مجھے معلوم تھا کہ آخر کار کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔
ونسٹ ہمیشہ مجھے حسیبہ کیا کرتا تھا کہ اگر میں نے کبھی بھی اپنا
وزن بڑھایا تو وہ مجھے مار ڈالنے کے لیے کسی نہ کسی کو بیچ دے
گا۔ گزشتہ روز اس نے مجھے بیگ میں سے پیسے کھاتے ہوئے
پکڑ لیا تھا۔ اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا تو مجھے پیغام
مل گیا تھا کہ مجھے محتاط رہنا ہوگا۔“

میں نے یہ سن کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ”اگر تم نے اپنا
وزن بڑھایا تو تمہارا اپنا شوہر کسی کو تمہیں قتل کرنے کے لیے بیچ
رہا ہے؟ کیا اس کا یہ عمل قدرے جاہلانہ نہیں؟“

”ہر وہ کام جو ونسٹ کرتا ہے، وہ جبر ہوتا ہے۔ یہ تم بھی
جانتے ہو۔ وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے۔ پھر اگر وہ وقت پر
قرض ادا نہیں کرتے تو وہ ان کے بچوں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں
دیتا ہے۔ وہ شخص کوئی بھی کام شائستہ نہیں کرتا۔“ وہ اپنا ہاتھ
سہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ”مجھ پر اعتبار کرو،
مجھے سب معلوم ہے۔“

میں بھی ونسٹ کی غیر معمولی بد مزاجی سے بہ خوبی واقف
تھا۔ میں خود اسے ایک نانا کنسرہ کی آنکھوں میں کاٹا کھجوتے
دیکھ چکا تھا۔ اس کے پاس ہر شے سیاہ و سفید تھی۔ کسی قسم کے
لٹک و شہبے کی گنجائش نہیں تھی۔

اس نے نرم آواز میں پوچھا۔ ”کیا تمہارے خیال میں،
میں موٹی ہوں؟“

ساتھ ہی اس نے اپنے بازو اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے
چست بدن کو نمایاں کر دیا اور مجھے اپنے جسم کا بے شری سے
جائزہ لینے کا لطف فراہم کر دیا۔ اس کے جسم کا ہر چھوٹے سے
چھوٹا حصہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح طو پر فٹ تھا اور بھرپور زرخونی
رنگت اس کے بدن کو تیار ہی تھی۔

مجھے معلوم تھا کہ مجھے اسے قتل کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی کو
واپس حاصل کر سکوں لیکن اس کی یہ کیفیت مجھے دُعا قریب لگ
رہی تھی۔

”نہیں۔“ میں نے کہا۔ ”تم موٹی تو نہیں ہو۔“

اس نے اثبات میں سر ہلا دیا لیکن صاف لگ رہا تھا کہ میرے الفاظ نے اسے دلاسا نہیں دیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی اور اپنا کپ بڑی گود میں رکھ دیا۔ ”تمہیں حیرانی نہیں کہ میں ونسٹ جیسے کسی شخص کے ساتھ کیوں اور کیسے وابستہ ہوئی تھی؟ تم جانتا نہیں چاہتے؟“

کہا۔ ”ہر چھوٹے سے چھوٹے زیور، جیولری کے ہر پیس کی اپنی ایک قیمت ہے۔ لگتا یوں ہے کہ ہر آسٹریٹس کے ساتھ میری روح کا ایک چھوٹا سا حصہ مجھ سے بچھڑ جاتا ہے۔ میں تاریکی سے تھک گئی ہوں۔ میں کچھ عرصے کے لیے باہر جانا چاہتی تھی لیکن.....“ اس نے دزدیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی۔ ”کیا میں تمہیں کچھ دکھا سکتی ہوں؟“

”ہاں۔“
”تم ایک دلکش چاق و چوبند تیس سالہ عورت کو دیکھ رہے ہو اور تم حیران ہو رہے ہو کہ میں اس جال میں کس طرح دام میں آئی ہوں؟“ اس نے بچن میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں اسٹین لیس اسٹیل کے دیوہیکل ریفریجریٹر اور گریناٹ کے جگمگاتے کاؤنٹر ٹاپس کا طواف کر رہی تھیں۔ ”میں اس وقت صرف اکیس برس کی تھی جب یہ سب کچھ ہوا۔ کالج سے فراغت پاتے ہی گیس سے بھر پور طرز زندگی نے مجھے نگل لیا۔ راتوں کو لیوزین کی سیر اور منگے ترین ٹائٹ کلپس۔ پرائیویٹ جیٹ میں کورونیزڈ و آئی لینڈ کی سیر۔ میں اس چکا چونڈ کر دینے والی زندگی میں اس طرح گم ہو چکی تھی کہ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میری حیثیت ایک تند دتیز لہر کے بہاؤ میں ایک پتے کے مانند ہے اور نہ ہی میں نے کبھی سنا تھا کہ آگے آبشار بھی آ رہا ہے۔“

”بے شک۔“
اس نے اپنا کپ نیچے رکھ دیا اور میز پر پاس رکھے ہوئے اپنے پرس کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہا تو میں میرا ہاتھ ایک بار پھر اپنی گن پر چلا گیا۔ وہ ساکت ہو گئی۔

وہ اپنے کافی کے کپ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ واقعی میں افسردہ لگ رہی تھی۔ ”میرا خیال ہے کہ میں تم سے زیادہ مختلف نہیں ہوں۔“

”اسے اٹھا لو“ اس نے اپنے پرس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
جب میں نے کوئی جنیش نہیں کی تو وہ بولی۔ ”آگے بڑھو۔ دیکھو اس کے اندر کیا ہے؟“

ہم ایک منٹ تک خاموش بیٹھے رہے۔ ہم اپنے اپنے طور پر اپنے ذہن میں کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف اس رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کو دیکھا جس نے شیرائل کو محصور کیا ہوا تھا۔

اس نے اپنا پرس میری جانب کھرا دیا۔ میں پرس کھول کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ سب سے اوپر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ اٹھا کر اس کی جانب لہراتے ہوئے پوچھا۔ ”یہ؟“

”کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم اس کے دباؤ میں چور چور ہو؟“ میں نے پوچھا۔
وہ کچھ الجھن میں جٹلا دکھائی دینے لگی۔

وہ ہتھوڑا ٹرپورٹ، لندن کے لیے ہوائی جہاز کا ایک ٹکٹ تھا۔ ٹکٹ ایک طرف تھا اور اس پر شیرائل کا نام لکھا ہوا تھا۔ ”تم جانے والی تھیں؟“ میں نے پوچھا۔

”میرا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم اس کے دباؤ میں چور چور ہو؟“ میں نے پوچھا۔
وہ کچھ الجھن میں جٹلا دکھائی دینے لگی۔
”میرا مراد دولت سے ہے۔“ میں نے کہا۔ ”کیا اس کی اہمیت نہیں؟ میرا مطلب ہے میں ہر روز یہ سوچتے ہوئے گزار دیتا ہوں کہ میں بڑی رقم جیتنے والا ہوں اور اس کا اختتام یہ ہے کہ میں اس مقام پر آ گیا ہوں جہاں پانچ کاروائے گیراج میں لیمنو کمپنیز بھری ہوئی ہیں لیکن اب جب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں..... ویل، تم خوش نہیں لگتی ہو۔ تم اپنی قسمت کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہو اور تم بغیر کسی جدوجہد کے اپنی زندگی کی بازی ہارنے کے لیے رضامند ہو۔“

”تاریخ چیک کر لو۔“
میں نے اپنی دستی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ”یہ فلائٹ تو آج سہ پہر کو روانہ ہو رہی ہے۔“
”تم اوپری منزل پر جا کر میرا ایک شدہ سوٹ کیس دیکھنا چاہتے ہو؟“ شیرائل نے کہا۔
”کیا ونسٹ کو معلوم ہے؟“

”شیرائل نے کہا۔“ وہ اتنا متکبر اور ست رو ہے کہ کبھی حساب کتاب نہیں رکھتا۔ حال ہی میں میری جمع پونجی بیس لاکھ ڈالرز کا ہندسہ کراس کر چکی ہے۔“ اس نے اپنی بڑی غزالی

”میں گزشتہ دس سال سے الگ رقم جمع کرتی چلی آئی ہوں۔“ شیرائل نے کہا۔ ”وہ اتنا متکبر اور ست رو ہے کہ کبھی حساب کتاب نہیں رکھتا۔ حال ہی میں میری جمع پونجی بیس لاکھ ڈالرز کا ہندسہ کراس کر چکی ہے۔“ اس نے اپنی بڑی غزالی

آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ”میرا خیال ہے کہ میری ٹائٹنگ میں صرف ہلکی سی کسر کا فرق پڑ گیا۔“
 ”تم تو جانتی ہو، اب اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔“ میں نے کہا۔

اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ”میں تمہیں دگنی رقم کی پیشکش کر سکتی ہوں اور وہ اسے قبول نہیں کرے گا۔“
 مجھے اس بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم دونوں ہی اس شخص کو خوب بہتر طور پر جانتے تھے۔
 ”جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔“ شیراگل نے کہا۔ ”اس کی شخصیت کے اس پہلو کو میں واقعی داؤ دیتی ہوں۔“

”واقعی؟“

”تقریباً۔“

میں انراٹن کے ٹکٹ کو دیکھنے لگا جبکہ اس دوران میں میری کافی ٹھنڈی ہو گئی۔ میں اس معاملے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی امید میں تھا لیکن اگر اس کی سائیس بحال رہ جاتی تو میں ایک دن بھی رعدہ نہیں رہ سکتا تھا۔

اسے جیسے میرے خیالات کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چھو لیا۔ ”اٹ اراٹل راعت!“ اس نے کہا۔ ”میں سمجھ رہی ہوں۔ میرے مقابلے میں بہر صورت تمہیں زعمہ رہنے کی زیادہ ضرورت ہے۔“

ہم پورے ایک منٹ تک ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ ہمارے مشترکہ ذہنوں میں..... ”کیا اور اگر..... کے جملوں کا ایک طوفان برپا تھا۔

بالآخر اس نے میرا ہاتھ دبا دیا اور مسکراتے ہوئے بولی۔
 ”ہم دونوں ہی اپنی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اتنا کچھ ہے جو ہم دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ میرے ساتھ یورپ چلے چلو۔ وہ ہمیں کبھی تلاش نہیں کر پائے گا۔“

میں اس کی اس دلفریب مسکراہٹ کے سحر میں کھوسا گیا اور اس کی پیشکش کو تصور میں دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میں اسپین کے ساحل پر کاکٹیل کے گھونٹ لے رہا ہوں۔

میرا یہ تصور کرنا جیسے شیراگل کے لیے ایک اشارہ تھا۔ وہ فوراً ہی بول پڑی۔ ”میں اپنی میں بہت زبردست لگتی ہوں۔“

میں قدرے ہچکچایا، پھر اپنا سر تکی میں ہلا دیا۔ ”مجھے اپنی ماں اور بہن کا بھی خیال ہے۔ وہ میرے فرار ہونے پر جھنجھلاہٹ میں ان دونوں کو قتل کر دے گا۔“

شیراگل نے ایک گہرا سانس لیا۔
 ”اور اگر میں چلی جاؤں تو پھر؟ میرا مطلب ہے کہ میں

یہاں سے نکل جاؤں اور کبھی واپس لوٹ کر نہ آؤں؟ اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں حری نہیں ہوں۔ درست؟“
 میرے بس میں ہوتا تو میں یقیناً ہائی بمر لیتا لیکن ولسٹ کوئی احمق نہیں تھا۔ اس نے کسی بھی ممکنہ حیلے پہانے کو ختم کرنے کے اقدامات پہلے سے کر رکھے تھے۔

”اس طرح بھی بات نہیں بنے گی۔“ میں نے کہا۔
 ”کیوں نہیں بنے گی؟“

”اس لیے کہ مجھے اس کے پاس کوئی ایسی چیز لے جانی ہوگی جو اس پر یہ ظاہر کر سکے کہ میں نے حقیقت میں تمہیں قتل کر دیا ہے۔“ میں نے بتایا۔

”جیسے کہ کیا؟“

”تمہاری چھٹکی!“

یہ سن کر شیراگل نے تھوڑیاں جڑھا لیں۔ ”تمہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم نے مجھے قتل کر دیا ہے، اس حرازوے کے پاس میری چھٹکی لے جانی ہوگی؟“

میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

یہ سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک کینٹ کا دروازہ کھول لیا۔ اس مرتبہ میں نے اپنی گن کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شیراگل نے کینٹ میں سے ایک کنگ بورڈ باہر نکالا پھر ایک دروازہ کھولنے لگی۔ جب وہ باہر نکلنے کے ہاتھ میں قصابوں والا ایک بڑا سا چاقو تھا۔

اس نے وہ چاقو مجھے تھما دیا، پھر اپنا ہاتھ کھول کر کنگ بورڈ پر رکھ دیا۔ ”آگے بڑھو، سوچی۔“ اس نے کہا۔ ”اسے کات ڈالو۔ پھر اسے ولسٹ کے پاس لے جاؤ اور بتا دو کہ تم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ تمہیں ایک نئی زندگی مل جائے گی اور میں سویٹزر لینڈ کی اسپیس کی پرائیویٹ میں تمہیں غائب ہو جاؤں گی۔ ہم دونوں کو وہ مل جائے گا جو ہم چاہتے ہیں..... صرف تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔“

”وہ کیا؟“ میں نے پوچھا۔

وہ الفت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائی اور اپنا دوسرا ہاتھ میرے بازو پر رکھ دیا۔ ”تمہیں بھی آنا ہوگا اور مجھ سے ملنا ہوگا۔ میں تمہیں اس ہوٹل کا چاؤ دے دوں گی جہاں میں ٹھہروں گی۔ یہاں سے نکلنے کے لیے کم از کم ایک ہفتہ انتظار کرنا۔ اس لیے کہ احتیاط ضروری ہے۔“

میں اس منظر کو اپنے ذہن کے پردے پر دوڑانے لگا۔ یہ بات بن سکتی تھی۔ حقیقت میں بات بن سکتی تھی۔

میں نے شیراگل کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑکی اور پہاڑ بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو توڑنی

محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب جھکی اور اپنا بازو پوری لمبائی سے آگے پھیلا دیا۔ وہ عضو کاٹنے کے اس عمل سے زیادہ سے زیادہ دور رہنا چاہتی تھی۔

”کاسٹ ڈالو“ اس نے اپنا منہ پھیرتے ہوئے کہا۔
”اور تیزی دکھانا۔“

میں نے اس کے ہاتھ کی بقیہ انگلیوں سے چھنگلی کرا لیا۔ اس کی انگلیاں اتنی ملائم تھیں جیسے مکھن کی نرم انگلیاں ہوں اور اگر میں انہیں دیر تک تھامے رہا تو وہ پھسل جائیں گی۔ عین اس وقت جب میں نے اپنا چاقو والا بازو بلند کیا تو وہ میری جانب گھوم گئی اور بولی۔ ”ایک اور آپشن بھی ہے۔“

☆☆☆

ونسٹ کا ایک دفتر اس اسپورٹس بار کے عقب میں تھا جہاں آف ٹریک شرطیں لگانے کی سہولت مہیا تھی۔ اگر آپ اسمارٹ ہیں تو بیرونی ہاؤس میں گھوڑوں پر شرطیں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کنکال ہو چکے ہیں اور پھر بھی شرط لگانے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ونسٹ سے اس کے عقبی دفتر میں ملاقات کرنا ہوگی۔

بلاشبہ یہ قمار بازوں کے لیے ایک جنت تھی۔ لیکن اس وقت تک آپ ادا نکلی کر سکتے ہیں۔

میں جب وہاں پہنچا تو ونسٹ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ لہرایا اور مسکرا دیا۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنی سیاہ چمڑے کی کرسی سے پشت لگائے ہوئے تھا۔

”سنو۔“ اس نے فون کے ریسیور میں کہا۔ ”میں اب مزید بات نہیں کر سکتا۔ میری سالگرہ کا تحفہ ابھی ابھی پہنچا ہے۔“ ونسٹ نے فون بند کر دیا اور میرے ہاتھ میں موجود لفافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ”میرا خیال ہے میری سالگرہ کا تحفہ اسی میں ہے..... ہے نا؟“

میرا ہاتھ کپکپا رہا تھا، سو میں اسے اپنی گود ہی میں رکھے رہا۔ ”ہاں۔“ میں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔

”تم کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہو؟“
”جو کچھ میں نے کیا ہے اگر وہی کچھ تم نے کیا ہوتا تو تم بھی اسی طرح قدرے پریشان ہوتے۔“

وہ متفکر سا ہو گیا۔ اس نے پہلے لفافے کی جانب اور پھر میری طرف دیکھا۔ ”سو تم نے واقعی یہ کام کروایا؟“

”میں اتنی نہیں ہوں، مسٹر ونسٹ۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے حکم کی تعمیل نہیں کی تو میرا کیا انجام ہوگا۔“

اس کی چمڑے کی کرسی چرچائی، جب وہ پیچھے کی جانب

جھکا اور اس نے اپنے ہاتھ اپنے سر کے پیچھے باندھ لیے۔
”مجھے ایک بات بتاؤ۔“ اس نے کہا۔ ”تم نے لاش کا کیا کیا؟“

”میں نے وہ صحرا میں دفن کر دی ہے۔ اسے کبھی بھی تلاش نہیں کیا جاسکے گا۔“

وہ اس جواب سے مطمئن دکھائی دینے لگا۔
”وہ خاصے دلکش جسم کی مالک تھی..... ہوں؟“ اس نے سازشی لہجے میں کہا۔
”نہیں سر!“

”میرا مطلب ہے وہ ٹانگیں اب ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں..... ہوں؟“

”نہیں سر اوہ واقعی بے حد دلکش ہے۔“
”تمہارا مطلب ہے وہ واقعی بے حد دلکش تھی؟“
”بے شک۔“

ونسٹ آگے کی جانب جھکا اور اپنی کہنیاں میز پر ٹکا دیں۔ ”تم سمجھتے ہو کہ میں حقیقت میں ولد الحرام ہوں۔ یہی بات ہے نا؟“
”نہیں سر!“

وہ زبردستی مسکرا دیا پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی میز کے پیچھے ٹھہرنے لگا۔ ”تم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ میرے لیے کام کرتے ہیں، وہ سب کے سب جسمانی طور پر فٹ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک۔“ اس نے اپنے ہموار پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔
”آج میں چھپن سال کا ہو گیا ہوں اور میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم اوندھا لیٹ کر جتنے ڈنڈ لگاؤ گے، میں اس سے وگنے ڈنڈ لگا سکتا ہوں اور چت لینے کی حالت سے بازوؤں کا سہارا لیے بغیر بیٹھنے کی ورزش تم سے دس گنا زیادہ کر سکتا ہوں۔“
مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔

”میں اپنی ٹیم کے ہر فرد سے بالکل یہی چاہتا ہوں۔“ اس نے اپنی ٹیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ”ایک فٹ باڈی ایک فٹ ذہن ہوتا ہے لہذا اگر میں اپنی بیوی کو توعد کے ساتھ چلنے پھرنے کی اجازت دوں تو تمہارے خیال میں کیا ہوگا؟“

اس نے اپنی بھوویں اس طرح اچکائیں جیسے حقیقت میں مجھ سے اس سوال کا جواب چاہتا ہو۔
”تم اپنی عزت کھودو گے؟“

اس نے اپنا بازو بڑھایا اور اپنی شہادت کی انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ”بالکل درست! میں اپنے آدمیوں میں اپنی عزت کھودوں گا اور میں ایسا ہونے کی

اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ تم نے یہ بات سمجھ لی..... ٹھیک؟“
 ”بالکل ٹھیک“ میں بھلا اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا؟
 وہ اس بات پر مسکرانے لگا لیکن اس کی مسکراہٹ سے
 میرے ہاتھ کی کپکپاہٹ دور نہیں ہوئی۔

اس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی
 ہتھیلی پر چٹکایا اور لگانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
 ”اگر تم برتاؤ مانو تو میں یہ لے رہا ہوں۔“

میرا حلق اتنا تر نہیں تھا کہ میں اسے کوئی جواب دے
 سکتا۔ میں نے اپنی کپکپاہٹ کو چھپانے کے لیے لٹافہ فوراً ہی
 اسے تھما دیا۔ وہ لٹافے کو اپنے ہاتھ میں لیے رہا اور میز کے پیچھے
 بیٹھ کر اعماز میں اپنا ٹھہلنا جاری رکھا۔

”تمہیں معلوم ہے کہ میری بیوی میری نمائندہ ہے۔ وہ
 جب شاپنگ کے لیے جاتی ہے اور میرے کسی شاسا سے اس کا
 سامنا ہوتا ہے تو اس وقت میری بیوی کا اپنی بہترین ٹارم میں
 دکھائی دینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ میری حکمتی کرتی ہے۔ میں یہ
 ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو برا دکھائی دوں۔“

اپنی تمام تر کوشش کے باوجود میں اس لٹافے پر سے
 اپنی نظر نہیں ہٹا سکا۔

”لہذا ہر سال اپنی سالگرہ کے دن میں کسی نہ کسی کو اسے
 قتل کرنے کے لیے اپنے گھر بھیج دیتا ہوں۔“

اس نے ابھی یہ کہا؟
 ”اور گزشتہ دس برسوں سے ہر سال وہ بیچ نکلنے کا راستہ
 ڈھونڈ نکالتی ہے۔“

اب کپکپاہٹ میرے ہاتھوں سے میرے شانوں تک
 آگئی تھی۔

”اوہ، میں کسی پیشہ ور قاتل کو وہاں نہیں بھیجتا۔ اس سے
 کام نہیں بن سکتا۔ وہ اس کی پیشکش قبول کر کے اس کے ساتھ
 بھاگ نکلنے کی ہائی بھر سکتے ہیں لیکن فرار ہونے کے بعد شیر ایل
 کی موت لازمی ہے۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں کسی ایسے
 بد قسمت اور کم ذہانت والے فرد کو وہاں بھیجتا ہوں جو میرا قرض
 وار ہو اور اپنی جان بھی بچانا چاہتا ہو۔“ اس نے میری جانب سر
 ہلاتے ہوئے کہا۔ ”کوئی ایسا جس نے کسی بھی کو..... مارنے
 کے بارے میں بھی کبھی نہ سوچا ہو۔ لیکن حالات نے اسے
 زبردستی ایسی صورت حال سے دوچار کر دیا ہو اور شیر ایل جب
 تک اپنے جسم کو بے نقص، بے عیب اور پرفیکٹ رکھے گی تو
 ہمیشہ اپنے لیے نرم گوشہ ڈھونڈنے میں اور صورت حال سے بچ
 نکلنے کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب رہے گی۔“

مجھ کو کچھ کہ میرے عین مقابل آگیا۔ ”مجھے بتاؤ، اس

نے تم سے بعد میں کہاں ملاقات کرنے کو کہا تھا؟ جزائر کیریبین
 میں؟ کچھ روم کے کسی ساحلی علاقے میں..... ہوں؟“
 میرے ہاتھ پیرن ہو گئے۔ یہاں سے بھاگ نکلنے
 کے خیالات ذہن میں دوڑنے لگے۔ سر کے بل اس کی کھڑکی
 سے چھلانگ مار کر پلٹ کر واپس نہ دیکھنے کے خیالات
 اٹھنے لگے۔

ڈسٹ نے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور اس کی
 تھوڑیاں چڑھ گئیں۔ ”بائی واوے، ہاتھوں میں دستانے کیوں
 پہنے ہوئے ہیں؟“

میں اس جواب کی بار بار زبیر سل کر چکا تھا کیونکہ اس کی
 جانب سے اس سوال کا مجھے یقین تھا۔ ”میں اپنے پیچھے انگلیوں
 کے نشانات نہیں چھوڑنا چاہتا تھا..... تم تو جانتے ہو.....
 ایں..... صرف حفظ بالقدم کے طور پر۔“

ڈسٹ کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ میرے اعصاب زدہ
 رویے اور میری کسمپاسی سے خوش دکھائی دے رہا تھا۔
 ”برامت محسوس کرو، لڑکے۔ تم پہلے فرود نہیں ہو۔“ اس
 نے مجھے اپنی میز کی جانب آنے کا اشارہ کیا اور میز کی سب سے

اوپری دروازہ کھول دی۔ دروازے کے اندر ایک سگار بکس رکھا ہوا تھا
 جس کا ڈھکن کٹا ہوا تھا۔ سگار بکس کے اندر شفاف پلاسٹک میں
 سیل شدہ نو عدد انسانی ہاتھ کی چھنگلیاں موجود تھیں جو گلنے کے
 مختلف مراحل میں تھیں۔

مجھے بے ساختہ متلی سی ہونے لگی۔ ڈسٹ نے بے
 ساختہ ایک زوردار تہہ بلند کیا جبکہ خوف و وحشت سے میرا
 سر پٹکرانے لگا تھا۔

”تم نے دیکھا۔“ ڈسٹ نے کہا۔ ”کوئی بھی اس کے
 دلکش جسم کا ایک معمولی سا عضو بھی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ سو وہ
 اپنے قاتل کو اس بات پر قائل کر لیتی ہے کہ اپنی جان بخشی کے
 لیے وہ اس کی چھنگلی کاٹنے کے بجائے خود اپنی چھنگلی کاٹ لے۔
 یہی میری سالگرہ کا تحفہ ہوتا ہے۔ یہ مجھے ہر سال مل رہا ہے۔“

ڈسٹ کے تہمتوں کی آوازیں دروازے کے باہر تک
 میرا چھچھا کرتی رہیں۔ اس نے میرا قرض بہت جلد بے باقی
 کرنے کے بارے میں کچھ کہا تھا لیکن مجھے کچھ بھی صحیح طور پر
 سنا ہی نہیں دے رہا تھا۔

میری بائیں چھنگلی کی جگہ اب درد کی ٹیسیں اٹھ رہی
 تھیں۔ یہ کوئی واہمہ نہیں تھا بلکہ حقیقت میں تکلیف محسوس ہو رہی
 تھی۔ اس لیے کہ میری بائیں چھنگلی اس لٹافے میں موجودگی جو
 میں نے ڈسٹ کے حوالے کیا تھا۔





اٹھائیسویں قسط

اگر کوئی کائنات کے رمز کو سمجھنے کی سعی کرے تو سب سے پہلے اسے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاموش صحرا کی ویرانی ہو یا پرجوش لہروں کی روانی... سمندر کی گہرائی ہو یا آسمان کی بلندی... چاند ستاروں کا حسن ہو یا قوس قزح کے رنگ... تہ در تہ زمین کی پرتیں ہوں یا بلند آسمان کے سات پردے... ٹھنڈی ہوائوں کے جھونکے ہوں یا باد و باران کی طوفانی گرج۔ کبھی ہلکی ہلکی ہوندوں کی پھوار کا ترنم اور کبھی بجلی کی چمک، کہیں پھولوں کی مہک، کہیں کانٹوں کی کسک... اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اس کائنات میں جگہ جگہ بکھیر دیں اور... ہر شے کو ایک مقام بھی عطا کیا، مگر... جب انسان کو بنا یا تو اس پوری کائنات کو جیسے اس کے اندر کہیں چپکے سے بسا دیا اور یہ بھی عجب کھیل ہے کہیں نام یکساں ہیں مگر تقدیریں الگ اور کہیں چہرے حیران کن حد تک ایک جیسے ہیں مگر ان کی تقدیر کا لکھا کہیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا۔ اس داستان کی ماروی وہ نہیں جو سندھ کی دھرتی پر عزت و احترام کی ایک علامت کے طور پر جانی جاتی ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا نام ماروی کس نے اور کیوں رکھا... شاید اس کے بڑوں نے سوچا ہو کہ نام کی یکسانیت سے مقدر کی دیوی اس پر بھی مہربان ہو جائے... جدید ماروی بہت عقیدت کے ساتھ اپنی ہم نام پر رشک کوٹی ہے... یہ جانتے ہوئے کہ وہ کبھی اس مقام کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گی... ورنہ ورنہ، سطر سطر دلچسپی، تحیر اور لطیف جذبوں میں سموئی ہوئی ایک کہانی جس کے ہر موڑ پر کہیں حسن و عشق کا ملن ہے تو کہیں رقابت کی جلن... آج کے زمانے کے ایسی جلن میں رنگین و سبکین المحات کی لمحہ لمحہ روداد کو سمیٹتے، نئے رنگ و آہنگ کا تحیر خیز سنگم۔

ایک چہرہ کی روت، گنا چھاؤں کی بھوپ، محبت کی مٹا ہونے، راتوں اور راتوں کا ایک دل رہا سلسلہ



Downloaded From
Paksociety.com



نوحہ بے ثباتی

محی الدین لواب

ڈائجسٹ کی دنیا کا
ایک ناقابل فراموش
نام ماہنامہ سپنس
کے مستتر اور باذوق قارئین

انہیں کبھی نہیں بھلا سکتے۔ بلاشبہ وہ پورا ایک عہد تھے۔ اردو زبان میں 33 سال تک ذہن و دل پر راج کرنے والا پراسرار اور دیومالائی سلسلہ ”دیوتا“ اپنی مقبولیت کی اس معراج تک چلا گیا تھا جس کا ریکارڈ آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ اسی طرح جب معاشرتی مسائل پر نشر زنی کی تو ان کے قلم نے ”کچرا گھر“ تخلیق کر لیا۔ بلاشبہ کمال کا تخیل اور حقائق کا پردہ چاک کرتی تحریر۔ معاشرتی تلخیوں کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں۔

”جب ایک ماں کی پہلی چیخ تکلیف کے کرب سے نکلتی ہے اور دوسری چیخ بچے کو تیزے کی اہلی پر دیکھ کر تھراتی ہے۔ جب انسان، انسان کو مارتا ہے اور تقدیر کو موردا لزام ٹھہرا دیتا ہے۔ جب انصاف نہیں ملتا، جب ایک روٹی چرانے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور قوی دولت کو لوٹنے والے کو فراخ ولی سے معاف کر دیا جاتا ہے اور جب ماں باپ مہنگائی اور فاقوں سے مجبور ہو کر اولاد کو فروخت کر ڈالتے ہیں تبھی میرے آنسو قلم کی نوک پر ستارے بنتے ہیں۔“

6 فروری 2016ء کو ایسی حساس فکر رکھنے والا ایک اور قلم کار، معاشرے کا جابض ہم سے رخصت ہو گیا مگر..... ان کی لکھی گئی کہانیاں اور کردار ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مقدر وہ تو خاک سے پوچھوں کہ اے نسیم تو نے وہ گنج ہائے گرا نما یہ کیا کیے

ماروی کی اقساط پیش کی گئی تھیں جو تسلسل کے ساتھ پیش کی جاتی رہیں گی۔ اختتام بہر حال تھوڑے تکمیل ہے۔



گزشتہ اقساط کا خلاصہ

یہ داستان ہے دور جدید کی ماروی اور اس کے عاشق مراد علی مگلی کی۔ مراد ایک گدھا گاڑی والا ہے جو اپنے والد اور ماروی، چاچا جیمرو اور چاچی بنتی کے ساتھ اندرون سندھ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں کا ڈیر اشمت جلائی ایک بدنیت انسان تھا جس نے ماروی کا رشتہ دس ہزار نقد کے عوض مانگا تھا، چونکہ ماروی مراد کی تنگ تنگی اور دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لہذا وہ اس پر راضی نہیں تھا۔ نتیجتاً انہیں کوٹھ پھوڑا بنا پڑا۔ مراد جو کہ ثانوی تعلیم یافتہ تھا ڈیر اشمت کی شہنی گیری کرتا تھا۔ ڈیر اشمت جلائی اور اس کے بیٹے روایتی ذہنیت کے مالک تھے اور انہوں نے چاند بچانے کی خاطر اپنی بیٹی زلیخا کی شادی قرآن سے کر دی۔ ماں نے مخالفت کی مگر اس کی ایک نہ چلی۔ زلیخا نے بغاوت کا راستہ اپنا لیا اور مراد کو مجبور کیا کہ وہ اس کی تنہائیوں کا ساتھی بن جائے۔ مراد تیار نہ ہوا اور ایک رات گزارنے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ گاؤں سے غائب ہو گیا۔ گاؤں سے فرار ہو کر یہ دونوں کراچی کے ایک مضائقہ علاقے سین گوٹھ آ گئے جہاں ماروی اپنے چاچا، چاچی کے ساتھ پہلے ہی آ چکی تھی۔ یہیں مراد کی ملاقات اتفاقاً محبوب علی چانڈیو سے ہو گئی جو کہ ممبر اسمبلی اور بزنس ٹائیکون، لیکن ہو پورا کا ہم نسل تھا۔ بس دونوں کے درمیان صرف قسمت کا فرق تھا۔ محبوب چانڈیو اپنے ہم نسل کو دیکھ کر حیران ہوا مگر اسے یاد آیا کہ شمت جلائی جو کہ خود بھی ممبر اسمبلی تھا اس کا ذکر اپنی بیٹی کے قاتل کی حیثیت سے کر چکا تھا۔ اس کے استفسار پر مراد نے اپنی بے گناہی کا اعلان کیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مراد کے فرار کے بعد زلیخا نے اپنی ماں کے تعاون سے گاؤں کے ایک اور نوجوان جمال سے شادی کر لی اور خاموشی سے فرار ہو گئی۔ ڈیرے اور اس کے بیٹوں کو پتا چلا تو انہوں نے تلاش شروع کر لی۔ ناکامی پر انہوں نے بے عزتی سے بچنے کے لیے ایک نوکرانی جو کہ زلیخا کے ہی قد کاٹھ کی تھی برہا کر کے نقل کر دیا اور اس کا چہرہ تیزاب سے سخ کر کے اسے اپنی بیٹی ظاہر کر کے الزام مراد پر لگا دیا۔ یہاں شہر میں محبوب جب مراد سے ملا تو اس نے مراد کو اپنے پاس رکھ کر بہترین تربیت دینے کا فیصلہ کیا، ارادہ اسے اپنی جگہ رکھ کر خود گوشہ نشین ہونا تھا۔ محبوب کے سر پرست اس کے والد کے زمانے کے معروف مگلی تھے جو اس کے کاروباری معاملات کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ انہی کے شور سے پر ایک ماڈل سیرا کو سیکرٹری کے طور پر رکھا گیا۔ مراد سے ملاقات کے دوران ماروی کی جھلک دیکھ کر محبوب اس پر دل و جان سے مرعہ لیکن یہ ایک پاکیزہ جذبہ تھا جس میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ اس نے اپنی معنویت کے لیے یہ طور باؤل ماروی کو چتا اور مراد کے ذریعے اسے راضی کیا۔ مراد بھی زلیخا کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار ہو گیا۔ زلیخا مراد کے بچے کو جنم دے کر دوسرے بچے کی پیدائش کے دوران پھل بسی لیکن ڈیر باپ اور بیٹیوں کو خبر نہیں تھی کہ زلیخا کہاں اور کس حال میں ہے۔ ماں راجد جاتی تھی لیکن مراد سے نالاں تھی۔ وہ شوہر اور بیٹیوں سے بھی ناراض تھی لہذا انہیں خبر نہیں کی۔ مراد اس گل کے مقدمے میں ملوث تھا اور محبوب چانڈیو ماروی کی خاطر اس کے مقدمے کی پیروی کر رہا تھا۔ اسی باعث اس کی ڈیر اشمت سے دشمنی ہو گئی۔ یوں ماروی کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسے انہوں نے ماروی کی شادی میں شرکت کے لیے کوٹھ گئی، تاہم محبوب چانڈیو اسے بچا لایا۔ دوسری جانب جاسوس سیکرٹ ایجنٹ برنارڈ کوہرہ کرانے کے لیے اسکاٹ لینڈ سے سین ایجنٹ مرینہ بہرام اور وازا اکبر آئے۔ مرینہ مراد کو ایک گھر دیکھ کر دل ہار گئی۔ مراد کو مرینہ جیلر باپ کی۔ وہ سے جیل سے باہر نکال لائی اور محبوب اس کی جگہ بند ہو گیا۔ باہر نکل کر مراد مرینہ کی نیت بھانپ کر اسے جھانسا دیتے ہوئے اس کے پیچھے سے فرار ہو گیا۔ جبکہ دوسری جانب سیرا اور مگلی صاحب محبوب کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ مرینہ اپنے باپ کے نکل پر بہت شاطرانہ چالیں چل رہی تھی۔ ماروی چاچی اور چاچا مرینہ کے ہاتھ لگ گئے لیکن کسی نہ کسی طرح مراد کو مظلوم ہو گیا کہ مرینہ ماروی کو پیام تھا کہ وہ چوری کے چور تھی۔ اس نے جاری ہے لہذا مشکلات سے خبردار بنا ہوتے ہوئے اس نے ماروی کو اس کے چنگل سے آزاد کرالیا۔ لیکن بد قسمتی سے ماروی کے سر میں چوٹ لگی جس کے باعث اس کی یادداشت جلی گئی۔ مراد شہر پہنچ کر جیل میں محبوب سے ملاقات کر کے اسے رازداری کے ساتھ جیل سے واپس جانے پر آمادہ کر کے خود سلاخوں کے پیچھے بند ہو گیا۔ مرینہ اور مراد میں فساد بڑھتا جا رہا تھا۔ مرینہ کے پالو غنڈے مراد کو کسی نہ کسی طرح جیل سے نکال کر لے گئے۔ باہر نکل کر ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوا جس میں قانون کا خطرناک مجرم برنارڈ مراد کے ہاتھوں مارا گیا۔... ماروی کا علاج ہو اگر ماروی نے محبوب اور مراد دونوں کو نکال پھینکا۔ مرینہ مراد کو ہندوستان لے آئی تھی۔ مراد مرینہ کی قید سے نکل گیا اور ماسٹر کو یو کے ساتھ مل گیا۔ مرینہ کو پتا چل گیا کہ مراد ماسٹر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ادھر ماروی کے دوبارہ سر میں چوٹ لگنے سے اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ مراد مرینہ کے ذریعہ آ چکا تھا۔ ماروی کو پتا چل گیا اور اس نے مراد کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ ادھر مرینہ دوبارہ TINET فیسر بن گئی تھی مراد نے سرجری کے ماہر ڈاکٹر ٹینیسن سے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے چہرے پر ہونے والے بیٹے ایمان علی کی شکل دے دی۔ وہ ڈاکٹر کے گھر پر ہی رہنے لگا۔ وہاں اس کے ساتھ ایمان کا دوست عبداللہ کبڈی بھی آ گیا۔ ماروی کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ ادھر مرینہ انڈیا پہنچ گئی تھی۔ مراد نے اسے قایم کر کے اس کی سرجری کروائی اور ایک آنکھیں لگوا دیا جس سے اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ تاہم اس نے ڈائریکٹر جنرل کو اپنے مرینہ ہونے کا شہادت دے دیا تھا۔ مراد اسرائیل پہنچ گیا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر ٹینیسن کے بیٹے ایمان سے ہو گئی۔ مراد نے ایمان کو اپنی تمام باتیں بتا دیں۔ مرینہ بھی اسرائیل پہنچ گئی اور ایمان، مراد بن کر اسے اپنے پیچھے بٹکانے لگا۔ مراد کو لندن والی لائٹ میں سکی براؤن مل گیا۔ مراد کے پیچھے سکی براؤن کی بیٹی لگ گئی۔ ادھر مرینہ نے ایمان کو مراد سمجھ کے اس سے ملنا چاہا تاہم ایمان دشمنوں کی فائرنگ سے زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا اور مرینہ جان گئی کہ یہ مراد نہیں ہے۔ مراد پاکستان گیا اور ماروی کو لے کر لندن آ گیا مگر مرینہ سے مراد کے تعلقات کے بارے میں جان کر ماروی اس سے دور ہو گئی اور پاکستان آ گئی۔ ادھر مراد دوبارہ اپنا چہرہ تبدیل کر کے انڈیا پہنچ گیا اور سکی براؤن کی بیٹی کے پیچھے لگ گیا اور اسے انہوں نے شہید کر دیا۔ تاہم بعد میں اسے چھوڑ دیا مگر میڈونا کو مرینہ سے بچانے کے لیے مراد اسے لے کر پہنچ گیا اور سکی براؤن کی بیٹی کے پیچھے لگ گیا اور اسے انہوں نے شہید کر دیا۔ مراد اور مرینہ شہید نہ ہوئے۔ دونوں علاج کے باعث چلنے پھرنے

کے قابل ہو گئے۔ مرید اور مراد میں بھروسہ ہو گئی۔ مراد مرید سے نکاح پڑھانا چاہتا تھا مگر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آرہی تھی۔ ادھر ڈاکٹر نے سننے سے مراد کی نئی شکل جو بنائی تھی وہ اس کے لیے وہاں بن گئی۔ وہ مرید سے نکاح پڑھانے کے معاملات طے کرنے گیا تاہم وہاں اسے موجودہ شکل میں دیکھ کر کچھ لوگ اسے اپنا رشتہ دار سمجھنے لگے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مراد کی شادی کرنا چاہتے تھے تاہم وہ شادی نہ ہو سکی۔ ادھر ماروی سب کچھ چھوڑ چھا ڈکھن بکچھ گئی اور محبوب اور ماروی نے اپنے چہرے سر جری کے ذریعے تہہ ملی کر لیے۔ مراد نے ماروی کو طلاق نامہ بھجوا دیا مگر وہ اس کا دلچسپ تھا اور اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے غباروں کے ذریعے ماروی تک اپنا پیغام پہنچانا چاہا اور کئی غباروں میں دو لفظانے باعہد کرنا نہیں اڑا دیا۔ انٹرنیٹ آری نے غباروں کو چپک کر کے انہیں آگے بڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اس کے ذریعے مراد اور ماروی تک پہنچنا چاہتے تھے اب وہ غبارے مشرب کی سمت جا رہے تھے۔ ادھر ماسٹر مراد کو ڈھونڈنے انٹرنیٹ پہنچ گیا۔ تمام تنظیموں کے سربراہ ماسٹر کی موجودگی پر الرٹ ہو گئے اور وہاں خون کی ہولی کھلی جانے لگی۔ درگاہ مراد کو وہاں سے بھگت نکال لیا تاہم بشری اور مرید کی لڑائی میں مرید سخت گھائل ہو گئی اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مراد دلچسپ جانے کے لیے جس جہاز میں سوار ہوا اسے ہائی جیک کر لیا گیا۔ وہ طیارہ... ریاست بابت النساء میں اترتا تاہم مراد نے... جان پر کھیل کے ہائی جیکر کو زبرد کر لیا۔ مراد ملکہ نگارا کا مہمان بن گیا۔ ملکہ نے مراد کی باتوں سے اعزازہ لگا لیا کہ وہ مراد ہی ہے۔ مراد نے بھی قبول کر لیا۔ ادھر مرید مراد کے ٹم میں چل بیسی۔ مراد نے ملکہ نگارا سے نکاح پڑھو لیا اور بشری اور بے کو اپنی سیکرٹ فوریس میں شامل کر لیا۔ ماروی کا بھی محبوب سے نکاح ہو گیا۔ مراد اور نگارا میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف طلاق پر پہنچ ہوا۔ مراد برسرِ اقدار آ گیا۔ بابا اجیری کی دعاؤں سے مراد کو روحانی طاقت حاصل ہوئی اور وہ ایک سے دو ہو گئے یعنی ایک مراد اور دوسرا اس کا ہم زادہ دونوں جب جاسپتے ناویدہ ہو جاتے مراد نے ناویدہ رہ کر دشمنوں کو ناکوں چھ چوڑے ادھر دشمن مراد کو پکڑنے کے لیے محبوب، ماروی کے پیچھے پڑ گئے اور محبوب کو پھرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے۔

اب آپ مزید واقعات ملاحظہ فرمائے

ماروی محبوب کو الوداع کہنے کے لیے اتر پورٹ نہیں آئی تھی۔ یہ اندیشہ تھا کہ مراد کے ایک ہم شکل کے ساتھ دیکھ کر دشمن اسے پہچان لیں گے۔

وہ انیس عالم کی کھلی کے ساتھ گھر میں رہی۔ جب تک وہ جہاز میں جا کر نہیں بیٹھا، تب تک اس سے فون پر باتیں کرنی رہی۔ محبوب پہلے دن کی طرح اب بھی اس کا دیوانہ تھا۔ مراد نے شادی کے بعد اس کی قدر نہیں کی تھی۔ محبوب آخری سانسوں تک اس کا قدر دان بن کر رہنے والا تھا۔ وہ اس کی اور اپنی بہتری کے لیے ایک نئی پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے اس سے عارضی طور پر پھینک گیا تھا۔ سفر کے دوران اس کی باتیں اس کی ادا میں یاد کر کے مسکراتا رہا۔ آگے دوسری شہر گئی۔ سمیرا معروف جلی کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے آئی تھی۔ وہ دونوں کچھ ہال کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے مسافر اپنے سامان کے ساتھ باہر آ رہے تھے۔ سمیرا نے کہا۔ ”انہوں نے ماروی کے ساتھ رہنے کی خاطر اپنا چہرہ بدل دیا ہے۔ ابھی وہ آئیں گے تو مجھے اپنے محبوب کی صورت نظر نہیں آئے گی۔ وہ مجھے ایک اجنبی لگیں گے۔“

پھر وہ دروازے کی طرف دیکھ کر چونک گئی۔ اسے اپنے ہی محبوب کی صورت نظر آرہی تھی۔ وہ خوشی سے کھل گئی۔ ”اوگا ڈا! یہ تو اپنی اصلی صورت کے ساتھ آئے ہیں۔“ محبوب آ کر معروف کے گلے لگ گیا۔ اس نے کہا۔ ”میرا اپنا آخر لوٹ آیا۔ دیکھ لو ہوم سویٹ ہوم۔“

محبوب نے کہا۔ ”میں آپ کو سب پریشان کرتا ہوں۔“
”لیکن صبح کا بھولا شام سے پہلے واپس آ جاتا ہے۔“
میری پریشانیوں کا اتنا ہی خیال ہے تو اپنے بزنس کو سنبھالو۔
اس بوڑھے کے سر سے بوجھ اتارو۔“

”انشاء اللہ..... اب کاروبار پر توجہ دوں گا۔“
سمیرا کا دل کھل رہا تھا۔ وہ بھی پھنڑے ہوئے محبوب کے گلے لگنا چاہتی تھی لیکن وہاں ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے بازو سے آ کر لگ گئی پھر بولی۔ ”آپ نے تو حیران کر دیا۔ چہرہ دہش ہے، تبدیل نہیں کیا۔ فون پر تو کہہ رہے تھے کہ.....“
وہ بات کاٹ کر بولا۔ ”وہ پرانی بات ہو گئی۔ مجھے اپنا بزنس سنبھالنے کے لیے اصلی چہرے کے ساتھ رہنا ہوگا۔“
وہ عمارت سے باہر آ کر کار کی پچھلی سیٹ پر سمیرا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معروف نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔
”تم دونوں میں رہ کر بزنس پر کیسے توجہ دے سکو گے؟“
وہ بولا۔ ”میں فی الحال ایک ماہ کے لیے آیا ہوں۔ آئندہ ہر ماہ یہاں پندرہ دنوں تک رہا کروں گا اور وہاں پندرہ دنوں کے لیے جایا کروں گا۔“
سمیرا خوشی سے تھج پڑی۔ ”کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی میرے ساتھ اتنے دن رہا کریں گے؟“
وہ اس کے بازو سے لگ گئی۔ دل کھل رہا تھا۔ تنہائی ہوتی تو قربان ہونے لگتی۔
اس نے کہا۔ ”ہاں، یہ فیصلہ ماروی نے کیا ہے۔ اس نے مجھے یہاں زیادہ سے زیادہ رہنے پر مجبور کر دیا“

ہے۔ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو کہتی ہے، میں وہی کرتا ہوں۔“

سمیرا ایک ذرا سی بچھ گئی۔ معروف نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ ”ماروی بہت سمجھ دار ہے۔ اس نے تمہارے کاروبار کی بہتری اور بچا کے لیے یہ دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔“

”محبوب نے کہا۔“ اور یہ فیصلہ سمیرا کے حق میں بھی ہے۔“ پھر اس نے سمیرا سے کہا۔ ”تمہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ تم پر احسانات کرتی چلی آ رہی ہے۔“

اس نے کہا۔ ”میں مانتی ہوں۔ اس نے احسان کیا اور آپ کو حکم دیا تو آپ نے مجھے شریک حیات بنا لیا۔ آپ مجھے طلاق دینے والے تھے۔ اس نے حکم دیا تو آپ نے طلاق نہیں دی۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے حکم دیا ہے تو آپ واپس آئے ہیں۔ میری اپنی کوئی ویلیو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ابھی وہ حکم دے گی کہ میرے پاس ایک دن بھی نہیں رہتا ہے تو آپ ابھی واپس چلے جائیں گے۔ پھر جب تک وہ حکم نہیں دے گی، آپ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔“

وہ جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک ہی جھٹکا کھا کر آگے والی سیٹ سے ٹکرا گیا۔ سمیرا کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی، وہ دو سیٹوں کے درمیان گر پڑی۔

معروف نے اچانک ہی بڑیک لگائے تھے۔ اچانک ہی ایک گاڑی نے سامنے آ کر راستہ روک دیا تھا۔ دائیں بائیں بھی دو گاڑیاں آئیں، ایک گاڑی پیچھے بھی تھی۔ ان تمام گاڑیوں سے مسلح افراد نکل کر دوڑتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف آئے۔ پھر ادھر کا دروازہ کھول کر محبوب کا نشانہ لے کر کہا۔ ”کم داس۔ کم آن۔“

اس نے فوراً کہا۔ ”تم لوگوں کو مغالطہ ہو رہا ہے۔ میں مراد نہیں ہوں، محبوب علی چانڈیو ہوں۔“

ایک گن مین نے کہا۔ ”ہم جانتے ہیں۔ ہمیں مراد کی نہیں، محبوب کی ضرورت ہے۔ فوراً نکلو ورنہ گولی چل جائے گی۔“

دوسرے تین گن مینوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ وہ فوراً ہی کار سے باہر آ گیا۔ دو شخص اس کے دو بازوؤں کو پکڑ کر تیزی سے چلتے ہوئے سامنے والی کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ تمام مسلح افراد بڑی پھرتی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام گاڑیاں اسے لے کر آگے دوڑتی چلی گئیں۔ سمیرا اور معروف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان پر

معروف بے بسی سے ان گاڑیوں کو دیکھتا رہا جو دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ سمیرا رو رہی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد محبوب بیٹھے ہی پھڑک گیا تھا۔ فائرنگ کے باعث لوگ دور بھاگ گئے تھے۔ معروف اپنی کار آگے بڑھاتے ہوئے پولیس اور اسپیشل برانچ کے اعلیٰ افسروں کو فون کے ذریعے اس واروات کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ یقین دلانے لگے کہ مجرموں کو پکڑنے کی پوری کوشش کریں گے۔

افسوس صد افسوس پاک وطن کے اعلیٰ حکام سپر پاور کے غلام تھے۔ انہیں پہلے ہی ڈکٹیشن دے دی گئی تھی۔ اس ڈکٹیشن کے مطابق حکام نے پولیس اور اعلیٰ جنس والوں کو حکم دیا تھا کہ محبوب علی چانڈیو کے معاملے میں وہ کوئی کارکردگی نہ دکھائیں۔ محبوب کے لواحقین کو لارالہا دیتے رہیں۔

معروف بجلی اپنے تمام وسیع ذرائع استعمال کر رہا تھا۔ سمیرا مراد کو کوس رہی تھی کہ وہ کیوں اس کے محبوب کا ہم شکل ہو گیا ہے؟ ماروی اور مراد دونوں ہی اس کی از و اجی زندگی کے لیے اس کے محبوب کے لیے عذاب بنتے رہتے تھے۔ یوں نفرت اور غصے میں عقل نہیں آ رہی تھی کہ مراد سے بہر حال دوستی ہو گئی ہے۔ اسے محبوب کے اغوا ہونے کی اطلاع دینی چاہیے۔ معروف بھی سوچ رہا تھا کہ مراد ہزاروں سٹیل دور ریاست کا حکمران بن گیا ہے، وہ اتنی دور سے کچھ نہیں کر پائے گا۔

ادھر مراد سیاسی اور عسکری معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ اسے ماروی اور محبوب کی طرف سے اطمینان تھا کہ وہ ہمیشہ آرام سے ہوں گے۔ جب اسے سکون اور سہولتیں نصیب ہوتیں تب وہ محبوب سے فون پر سلام دعا کرتا۔

ایک محبوب ہی اسے فوراً مدد کے لیے پکار سکتا تھا لیکن اغوا کرنے والوں نے اس سے فون چھین لیا تھا۔ وہ ساحل سمندر پر آ کر اسے لے کر ایک اسپید بوٹ میں بیٹھ گئے تھے۔ پھر وہاں سے میلوں دور ایک بحری جہاز میں اسے لے آئے تھے۔ وہ جہاز کراچی کی بندرگاہ میں مال اتارنے کے بعد گہرے پانی میں کھڑا ہوا تھا۔ سپر پاور نے اس پورے جہاز کو کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔

اس جہاز میں کوئی مسافر نہیں تھا۔ اسے عارضی طور پر محبوب کے لیے جیل بنا دیا گیا۔ مختلف اسپید بوٹ اور جہاز کا پٹر کے ذریعے آرمی کے افسران اور سپاہی وہاں پہنچ رہے تھے۔ یہ اندیشہ نہیں تھا کہ مراد کہیں سے اچانک آپہنچے گا۔ چاروں طرف گہرا سمندر تھا۔ وہ ہزار کمالات دکھانے کے

اپنی نمبرہ کی حیثیت بھول گئی۔ وہ تڑپ کر بولی۔ ”یا میرے اللہ! یہ کب ہوا؟ دشمن انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ میں کراہتی جاؤں گی۔“

وہ بولا۔ ”عقل سے کام لو۔ تمہارے کراہتی جانے سے دشمن اسے تمہاری جھولی میں لا کر نہیں ڈالیں گے۔ تم اپنی فکر کرو۔ وہ تمہیں ٹریپ کرنے والے ہیں۔ محبوب کا فون انہوں نے چھین لیا ہے۔ اس کے فون سے انہیں تمہارا فون نمبر معلوم ہو گیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محبوب کو ٹارچہ کر کے تمہارا رہائشی پتہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تم فوراً وہاں سے نکلو۔ میں لندن میں ہوں۔ تمہیں دوسری پناہ گاہ میں پہنچاؤں گا۔“

وہ پریشان ہو کر بولی۔ ”یا اللہ...! یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں؟“

”فوراً پرنسٹن اسٹریٹ میں ہب کے سامنے آؤ۔ میں یہاں انتظار کر رہا ہوں۔“

”میں اللہ کا نام لے کر ابھی آرہی ہوں۔“

اس نے فون بند کر دیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی۔ پھر دروازے پر رگ گئی۔ پرنسٹن اسٹریٹ میں دو ہب تھے۔ اسے پوچھنا تھا کہ مراد کس ہب کے سامنے ہوگا؟

اس نے اپنا فون نکالا۔ اس کے نمبر بیچ کرنا چاہتی تھی۔ ایسے وقت دماغ میں بات آئی۔ یہ مراد کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے اپنے فون سے رابطہ کیوں نہیں کیا ہے؟ فون تو اس کے پاس ہی رہتا ہوگا۔ مجھے اس کے نمبر پر کال کرنا چاہیے۔

اس نے ریاست کے کوڈ نمبر کے مطابق مراد کے نمبر بیچ کیے، اسے کال سے لگایا۔ ادھر مراد نے بھی سی اسکرین پر اٹھانے نمبر دیکھے کیونکہ نمبر نے پہلے بھی اسے کال نہیں کی تھی۔

اس نے ٹن دبا کر فون کو کال سے لگا کر پوچھا۔ ”ہیلو کون؟“

جواب میں جو آواز سنائی دی، اسے سنتے ہی دل کی دھڑکنیں باگل ہو گئیں۔ وہ کہہ رہی تھی۔ ”تم نے بتایا نہیں، پرنسٹن کے کس ہب کے سامنے ملو گے؟ میں ابھی یہ جگہ چھوڑ دوں گی۔“

وہ شدید حیرانی سے بولا۔ ”یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم پرنسٹن کے کس ہب کے سامنے کیوں جاؤ گی؟ محبوب کہاں ہے؟“

ساری باتیں سمجھ میں آگئیں۔ وہ بولی۔ ”یا خدا! کسی نے تمہاری آواز میں ابھی کہا ہے کہ محبوب کو اغوا کیا گیا ہے۔“

اس اپارٹمنٹ میں میرے لیے خطرہ ہے۔ تم پرنسٹن اسٹریٹ میں میرا انتظار کر رہے ہو مجھے وہاں جانا چاہیے۔“

”تم کہیں نہ جانا۔ یہ صدمہ پہنچانے والی اطلاع ہے کہ

باوجود نظروں میں آئے بغیر بحری جہاز تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محبوب کے ساتھ کسی طرح کا خالص سلوک نہیں کیا جا رہا تھا۔ اسے وہاں آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کا فون چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ کسی نمبر کو بہت زیادہ استعمال کرتا رہا ہے۔ اب سے بارہ گھنٹے پہلے جب وہ لندن کے ایئر پورٹ میں تھا تو اس نے ایک گھنٹے تک کسی سے لمبی باتیں کی تھیں۔

آری کے ایک افسر نے اس سے پوچھا۔ ”یہ نمبرہ کون ہے؟“

محبوب نے پوچھا۔ ”میرے پرسنل معاملات کی کھوج کیوں لگا رہے ہو؟ میں کب سے پوچھتا آ رہا ہوں کہ مجھے کیوں اغوا کیا جا رہا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔“

وہ افسر سخت لہجے میں بولا۔ ”جو سوال کیا جا رہا ہے، اس کا جواب دو۔ یہ نمبرہ کون ہے؟“

”میری ایک گرل فرینڈ ہے۔“

”اس کا رہائشی ایڈریس بتاؤ۔“

”میں نہیں جانتا۔ اس سے نئی دوستی ہوئی تھی۔“

”جھوٹ بولتے ہو۔ یہ ماروی ہے۔ اس نے نام بدل لیا ہے اور شاید چہرہ بھی بدل چکی ہے۔“

”ماروی سے کبھی میری دوستی تھی۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔“

”تم جھوٹ بولتے رہو، ہمارے پاس ماروی کا سیل نمبر آ گیا ہے۔ اس نے لندن میں فون کی سم جہاں سے خریدی ہوگی، وہاں سے اس کے ضروری کوائف معلوم ہو جائیں گے۔“

اس افسر نے محبوب سے دور جا کر اسکاٹ لینڈ کے ایک سراغ رساں سے رابطہ کیا۔ وہ سراغ رساں اس ٹیم میں شامل تھا جو لندن میں ماروی کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے نمبرہ کا فون نمبر دیا گیا۔ سراغ رساں نے کہا۔ ”اب تو میں اسے لکھن کے بال کی طرح نکال لاؤں گا۔“

ان کی ایک ٹیم میں ایک ہندوستانی بھی تھا۔ اس نے ریکارڈ روم کی آڈیو کیسٹ سے مراد کی باتیں سنیں۔ اس کی آواز اور لب و لہجہ کو گرفت میں لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے سامنے مراد کی طرح بولنے لگا۔ سب نے اسے اد کے کیا۔ وہ زبردست تقال تھا۔ بالکل اس کی طرح بول رہا تھا۔

تب اس نے نمبرہ کے فون پر اسے کال کی۔ رابطہ ہوتے ہی کہا۔ ”ماروی! میں مراد بول رہا ہوں۔ ایک بری خبر سن رہا ہوں۔ کراہتی میں محبوب کو مراد سمجھ کر اغوا کیا گیا ہے۔“

یہ سنی گئی۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔

یہ سنی گئی۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔

یہ سنی گئی۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔

یہ سنی گئی۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔

یہ سنی گئی۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔ اس نے مراد کو بتا دیا۔

محبوب کو انوا کیا گیا ہے۔ میں ابھی حقیقت معلوم کرتا ہوں۔
جس شخص نے تمہیں فون کیا ہے، اس کا نمبر send کرو۔“
اس نے نمبر send کر دیے۔ وہ دوسرے ہی لمحے
میں پرنسٹن اسٹریٹ کے ایک کپ کے سامنے پہنچ گیا۔
وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی گاڑی کے پاس تین مسلح شخص
کھڑے ہوئے تھے۔

مراد نے اس نامعلوم شخص کے نمبر شیخ کیے تو معلوم
ہو گیا۔ اس کے فون سے رنگ ٹون ابھر رہی تھی۔ اس نے
اسکرین پر نمبر پڑھے۔ پھر بٹن دبا کر اسے کان سے لگا یا۔
مراد نے فون بند کر دیا۔ اس نے ساتھیوں سے کہا۔
”پتا نہیں کون تھا، لائن کٹ گئی۔“

ایک نے اپنے فون پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ ”یہ
ماروی کہاں رہ گئی ہے؟ اسے پھر کال کرو۔“
وہ اس کے نمبر شیخ کرنا چاہتا تھا، مراد نے فون چھین کر
اسے زمین پر پھینک دیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے
حیرانی سے فون کو زمین پر پڑے دیکھا۔ ایک نے پوچھا۔
”تم نے اسے مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا؟“

اس نے کہا۔ ”جیسے پکڑتا ہوں ویسے ہی پکڑا تھا۔ مجھے
کچھ ایسا ہی لگا کہ کسی نے ہاتھ سے چھین کر اسے پھینکا ہے۔“
وہ دونوں ہنسنے لگے۔ وہ فون کو اٹھانے کے لیے زمین
کی طرف جھکا تو مراد نے اس کے منہ پر ایک لگ ماری۔
وہ تکلیف سے کراہتا ہوا سیدھا ہوا۔ دونوں ساتھیوں نے
حیرانی سے دیکھا۔ اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔
ایک نے چیخ کر پوچھا۔ ”او مائی گاڈ... یہ تمہاری
ناک سے خون کیوں بہ رہا ہے؟“

وہ سہم گیا تھا۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا۔ ”کسی
نے مجھے ہٹ کیا ہے۔ یہاں کوئی ہے۔ جو نظر نہیں آ رہا ہے۔“
وہ بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک ساتھی
رومال سے اس کا لہو پونچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ ”یہ کیسے
ہو گیا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فون زمین پر پڑا
ہوا تھا۔“

دوسرے ساتھی نے کہا۔ ”اسے تو فون کرو۔ وہ کہاں
مرگئی ہے؟“
وہ اسے اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکا تو اس
کے منہ پر بھی ٹھوک پڑی۔ وہ جھکتے جھکتے سیدھا ہوا۔ مراد نے
گھوم کر دوسری لگ ماری۔ اس کی صرف ناک سے ہی نہیں
باچھوٹی سے بھی لہو رسنے لگا۔ اس کا سر گھوم گیا تھا۔

پانچویں شخص بھی لہو رسنے لگا۔ مراد نے اس کے منہ پر گھونسا

مارا۔ وہ بوکھلا گیا۔ پھر تار بڑ توڑ کئی گھونٹے منہ اور پیٹ پر
پڑتے رہے۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ وہ دونوں سہم کر گاڑی سے
لگ گئے۔ تیسرا زمین پر گھسٹا ہوا ان کے قریب آ گیا۔
انہیں آواز سنائی دی۔ ”میں ہوں مراد علی منگلی۔ تم
لوگ ماروی کو ٹریپ کرنے کی جرات کر رہے ہو۔ چلو ہت
ہے تو اس فون کو زمین سے اٹھاؤ۔“

ایک نے خوف سے لرزتے ہوئے پوچھا۔
”تت..... تم..... تم نظر نہیں آ رہے ہو؟“

مراد نے کہا۔ ”ہاں مگر افسوس..... میرا نا دیدہ
ہونے کا راز کھولنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔“

اس نے دو قاتر کیے۔ دو جاسوس گولیاں کھا کر گر
پڑے۔ تیسرا بھاگنے کے لیے فوراً ہی دروازہ کھول کر
ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ مراد نے گاڑی کی چابی نکال لی پھر
کہا۔ ”اپنے اعلیٰ افسر کو کال کرو..... اور خبردار! میرے
نا دیدہ ہونے والی بات یوں لانا چاہو گے تو اس سے پہلے ہی
گولی چل جائے گی۔“

اس نے اعلیٰ افسر کے نمبر شیخ کے پھر رابطہ ہونے پر
بوللا۔ ”سراہم ماروی کو ٹریپ نہیں کر سکیں گے۔ مراد آ گیا
ہے۔ اس نے جیکب اور وائسن کو گولی مار دی ہے۔ اب میں
نشانے پر ہوں۔“

مراد نے اس سے فون لے کر اپنے کان سے لگا یا۔ وہ
بول رہا تھا۔ ”وہ یہاں کیسے آسکتا ہے؟ وہ تو اپنی ریاست
میں ہے۔“

وہ سرد لہجے میں بولا۔ ”تم لوگوں کی موت بن کر آ گیا
ہوں۔ تم سب شرافت سے امن و امان سے رہنا نہیں
چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہنے والی ماروی کا گھر برباد
کرنا چاہتے ہو۔ ابھی پندرہ منٹ کے بعد تمہارا گھر برباد
ہوگا۔ فوراً اپنے بھوی بچوں کو گھر سے دور جانے کے لیے
بولو۔ وہاں آگ لگنے والی ہے۔“

اس اعلیٰ افسر نے کہا۔ ”کیا بکو اس کر رہے ہو؟ کیا
میرے گھر میں گھسٹا بچوں کا کھیل ہے؟ ایسی سخت سیکورٹی
ہوتی ہے کہ باہر گیٹ کے سامنے بھی قدم نہیں رکھ سکو گے۔“
”ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد دیکھ لو گے۔ ابھی گھڑی دیکھو۔“

اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تیسرے شخص کو گولی
مار کر کہا۔ ”تمہارے تین جونیئر افسر اور جاسوس اس جرم کی
سزا پانچکے ہیں کہ انہوں نے ماروی کو ٹریپ کرنے کی کوشش
کی تھی۔ میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا لیکن تمہاری
زندگی کو عذاب بنا دوں گا۔ تمہیں پانچ بنا دوں گا۔ تمہارا

ہوئی جتنی ہوئی باہر آئی۔ وہاں چھ سلیخ گاڑتے تھے۔ وہ بھی جلتے ہوئے مکان کے اندر جانے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔

کمرے کے دروازے پر شعلے بھڑک رہے تھے۔ اندر بچہ رورہا تھا۔ مراد نے وہاں پہنچ کر اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس نے مراد سے لپٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے ہی لمحے میں اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو باغیچے میں پایا۔ کوئی شخص اسے وہاں پھوڑ کر دوڑاتا ہوا مین گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تمام گاڑیاں اپنی مالکن کے پاس آگئے تھے لیکن ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔

اعلیٰ افسر تیزی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا آیا۔ مین گیٹ کھولنے کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے جلتے ہوئے مکان کو دیکھتا ہوا کار سے باہر آیا۔ اسے ہی وقت مراد نے سامنے آ کر کہا۔ ”جلتے ہوئے مکان کو دیکھو اور سمجھو اگر میں اسے نہ جلاتا تو تم لوگ ماروی کا ہسپتال گھر برباد کر دیتے اور کر رہے ہو۔ ماروی کو اس کے شوہر سے جدا کر رہے ہو۔“

یہ کہہ کر اس نے افسر کے ایک گھٹنے پر گولی ماری۔ وہ اپنا اگلے نہ نکال سکا۔ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ مراد نے کہا۔ ”آج سے تم اپنا بیٹا بن کر زندگی گزارو گے۔“

ان نے دوسرے گھٹنے پر گولی ماری۔ گاڑی فائرنگ کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ مراد بھاگتا ہوا احاطے کی دیوار کے موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دو گاڑیاں اس افسر کو اٹھا کر اسپتال لے جانے کے لیے ایک گاڑی میں لے آئے۔ باقی دو گاڑیاں دور تک دوڑتے ہوئے مراد کو تلاش کرنے لگے۔ اس وقت تک فائر بریگیڈ والے آگئے تھے۔

پورے اسکات لینڈ یارڈ میں اور لندن کے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ہچکچائی۔ تمام سرکاری اداروں کے جاسوس اور جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے دشمن اسے تلاش کرنے لگے۔ یہ ان سب کے لیے سنہری موقع تھا۔ ان کے خیال میں مراد ایک مدت کے بعد ریاست سے باہر آیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح گھیر کر مارا جاسکتا تھا اور وہ جی جان سے اسے تلاش کر رہے تھے۔

تلاش کرنے کے لیے ماروی کے فون نمبر کا سہارا تھا۔ یہ معلوم کیا جا رہا تھا کہ ماروی نے فون کی وہ سیم کہاں سے خریدی ہے۔ دشمنوں کو دوسری بات یہ معلوم ہوتی تھی کہ ماروی کا موجودہ نام نمبر ہے۔ مراد اسے محبوب کے ذاتی اپارٹمنٹ

انجام دیکھ کر دوسرے افسران ماروی کی طرف جانے سے توجہ کریں گے۔“

اس نے فون بند کر کے اسے پھینک دیا۔ پھر اس اعلیٰ افسر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے فون پر اپنے بھٹکے کے سیکورٹی افسر کے نمبر پر کال کر رہا تھا۔ رابطہ ہونے پر اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ پوری طرح چمکتے رہیں۔ وہاں مراد علی منگی آنے والا ہے۔ آگے پیچھے کی احاطے کی دیواروں پر نظر رکھی جائے۔ وہ دیوار پھلانگ کر آسکتا ہے۔ کسی کتے کو بھی مین گیٹ کے سامنے آنے اور وہاں رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔

وہ اچھی طرح تاکید کرنے کے بعد اپنے دفتری کمرے سے باہر آیا۔ عمارت کے باہر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ ایسے وقت اس کے فون سے رنگ فون ابھر رہی تھی۔ مراد نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر مخاطب کیا۔ ”ہیلو۔ دس منٹ گزار چکے ہیں۔“

وہ اعلیٰ افسر فون کو کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اسے یوں لگا جیسے مراد فون سے نہیں بول رہا ہے، قریب ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے لپٹ کر دیکھا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر کوئی نہیں تھا۔

مراد نے کہا۔ ”میں جانتا ہوں۔ تمہارا ملک سپر پاور کا اتحادی ہے اور تم اس کی خاطر مجھ سے دشمنی کر رہے ہو۔ میری ماروی کی طرف کیا جاؤ گے، تم تو اپنی گھر والی کو بھی بچانے کے لیے وقت پر پہنچ نہیں سکو گے۔“

وہ حیرانی سے کبھی پچھلی سیٹ کی طرف تک رہا تھا اور کبھی اپنے فون کو تک رہا تھا۔ آواز فون سے آ رہی تھی اور بولنے والا بالکل قریب لگ رہا تھا۔

مراد فون بند کر کے بیٹھنے کے اندر پہنچ گیا۔ اس افسر کی بیوی اور دو بچے بیڈروم میں تھے۔ اس نے کچن میں آ کر چولہوں سے گیس پائپ کو علیحدہ کیا۔ وہاں گیس کی بو پھیلنے لگی۔ اس نے کچن سے ذرا دور ہو کر چولہا جلانے کے فائر شوٹر کے ٹریگر کو دبایا تو یکبارگی آگ بھڑک گئی۔

پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ بیٹھنے کے اندر دوسرے حصوں میں پھیلنے لگی۔ وہ خاتون چینیں مارتی ہوئی گود کے بچے کو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ دوسرا بیٹا چھ برس کا تھا۔ وہ کسی دوسرے کمرے میں تھا۔ آگ کے شعلے وہاں تک آگئے تھے۔

وہاں ایک بچے کو گود میں لے کر دوسرے بیٹے کو پھانسی کے نیچے لٹا کر کے شعلوں میں نہیں جاسکتی تھی۔ روتی

میں لے آیا۔ انیس عالم کو سمجھا دیا کہ نمبرہ کے بارے میں انکو اٹری کی گئی تو انہیں مظلوم بن کر کیا جواب دینا ہے۔

جو گورنس ماروی کو تعلیم دینے آتی تھی اس نے سراغ رسالوں سے کہہ دیا کہ وہ ایک اپارٹمنٹ میں نمبرہ نامی ایک حسین عورت کو تعلیم دیتی ہے۔ اس کا بیان سنتے ہی وہ تمام جاسوس انیس عالم پر چڑھ دوڑے۔

انیس عالم نے ان کے سوالات کے جواب میں کہا۔ ”مراد نے ہمارے پوتے سرفراز کے لیے تین لاکھ ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ہم ان کے احسان مند ہو گئے ہیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ مراد علی منگلی ہیں اور جس لڑکی کو ہم نے اپنی پوتی نمبرہ بنایا ہے اس کا نام ماروی ہے۔“

افسر نے کہا۔ ”تم نے کسی کو بھی اپنی پوتی نمبرہ بنا کر اس کے برتھ سرٹیفکیٹ اور اسکول کے سرٹیفکیٹ کے ذریعے بجرمانہ حرکت کی ہے۔ تم میاں بیوی کو حراست میں لیا جاتا ہے۔“

مراد نے فون پر کہا۔ ”وہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنے حالات سے مجبور ہو کر میرا ساتھ دیا تھا۔ انہیں جیل میں ڈالنے کے لیے اس اپارٹمنٹ سے باہر نہ لے جانا۔ تمہارا ایک اگلی افسر دونوں بیوروں سے اپنا بیج بن گیا ہے۔ عبرت حاصل کرو۔ ان بزرگوں کو چھوڑو باہر جاؤ اور ماروی کو تلاش کرو۔“

ایک افسر نے پوچھا۔ ”تم نے اس افسر کے بیٹکے میں آگ کیسے لگائی تھی جبکہ باہر تختہ پھرا تھا۔“

اس نے کہا۔ ”موت اور شامت کو کوئی پہرے دار نہیں روک سکتا۔ لیکن نہ ہو تو آزما لو۔ ان بزرگوں کو حراست میں لو گے تو اپارٹمنٹ کے باہر نہیں آسکو گے۔“

وہاں ایک افسر اور تین سپاہی تھے۔ وہ چاروں سوچ میں پڑ گئے۔ اسپتال میں زخمی افسر نے بیان دیا تھا کہ مراد کا چیلنج کبھی قبول نہ کرو۔ وہ کوئی ایسی واردات کر جاتا ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہوتی ہے۔

افسر نے اپنے فون کو دیکھا پھر اسے کان سے لگا کر بولا۔ ”مسٹر مراد! اگر ہم انہیں گرفتار کر کے یہاں سے لے جائیں گے تو تم ہمارے خلاف کیا کرو گے؟“

ایک سپاہی کے فون سے رنگ ٹون ابھرنے لگی۔ اس نے ننھی سی اسکرین کو دیکھ کر افسر کی طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”سرا! آپ کی وائف کال کر رہی ہیں۔“

افسر نے کہا۔ ”تم دیکھ رہے ہو۔ میں کتنی اہم باتیں کر رہا ہوں۔ روزی سے یولو میں مصروف ہوں۔ بعد میں کال کرو۔“

کی وائف روزی سے یہی کہنے لگا۔ ادھر

افسر نے پوچھا۔ ”مسٹر مراد! ہمیں بتاؤ کہ ابھی ہمارے خلاف کیا کر سکتے ہو جبکہ اندر اور باہر ہمارے سبھی سپاہی موجود ہیں۔“

مراد نے کہا۔ ”تمہاری وائف بتا رہی ہے۔ اسے سنو۔“

اسی وقت سپاہی نے کہا۔ ”سرا! میڈم کہہ رہی ہیں کہ مراد آپ کے گھر میں ہے۔ میڈم اور بچے اس کے نشانے پر ہیں۔“

افسر نے لیک کر اس فون کو لیتے ہوئے پوچھا۔

”روزی! تم بچوں کے ساتھ خیریت سے ہو؟“

دوسری طرف سے روزی توتہہ لگانے لگی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ”کیوں نہیں رہی ہو؟“

وہ یولی۔ ”اگر میں یہ نہ کہتی کہ گن پوائنٹ پر ہوں تو تم فون اٹینڈ نہ کرتے۔ ادائیگی ڈیپارٹمنٹ میں کیا بتاؤں کہ مراد کتنے اچھے انسان ہیں۔ وہ جو مہنگا میٹکس تم خرید نہیں سکتے تھے، وہ میرے لیے لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہن کہہ کر میری پیشانی کو کس کیا ہے۔ بچوں کے لیے بہت شاعرانہ تحفے لے کر آئے ہیں اور۔۔۔“

افسر نے پوچھا۔ ”اور۔۔۔؟“

”اور ان کے ہاتھ میں ریو لوور بھی ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ بھائی بہن کے پیار کا رشتہ اچھا ہے یا بددوق کی گولی اچھی ہے۔ تم کسی غلطی یا جرم کے بغیر ماروی کو گرفتار کرنا چاہتے ہو۔ سوچو کہ یہ دشمنی مجھ کو اور معصوم بچوں کو کتنی مہنگی پڑے گی؟“

وہ افسر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مراد نے اس کی بیوی اور بچوں کو پھولوں کی منڈ پر بٹھایا تھا اور اس منڈ کے نیچے بارود بچھا دی تھی۔ اس کا عمل پوچھ رہا تھا۔۔۔ تعمیر چاہتے ہو یا تخریب؟ سلامتی چاہتے ہو یا موت؟ وہ فی الحال اس کی بیوی اور بچوں کے پاس محبت سے بیٹھا ہوا تھا اور انہیں سرکش دے رہا تھا۔

اس نے ایک گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا۔ اپنے فون پر ایک اعلیٰ افسر سے کہا۔ ”سرا! میں نے اپنی سردی کے دوران بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ماروی کو گرفتار کرنے کا کارنامہ انجام نہیں دے سکوں گا۔ پلیز آپ میری ڈیوٹی بدل دیں۔“

اعلیٰ افسر نے پوچھا۔ ”ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ کیا مراد علی منگلی کی دھوکس میں آ گئے ہو؟“

وہ بولا۔ ”سرا! یہ جراثیم سے پاک محبتوں اور رشتوں کی باتیں ہیں۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جس دن مراد سمجھائے گا تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ سوری

سرا میں ڈیوٹی چھوڑ رہا ہوں۔“

اس نے فون بند کیا پھر صوفے سے اٹھ کر انیس عالم سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ ”سوری۔ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ آپ مراد کے بہت مضبوط قلعے میں ہیں۔ کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔“

وہ سپاہیوں کے ساتھ پارٹنٹ سے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو روزی نے فون پر کہا۔ ”بھائی مراد جا چکے ہیں۔ انہوں نے جاتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔“

”میں آ رہا ہوں۔“ اس نے فون بند کر کے زیر لب کہا۔ ”یہ درست ہے مراد کوئی ایسی واردات کر جاتا ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہوتی ہے۔ ہائی گاڈ...! ایسی پیار بھری واردات کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔“

وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے جانے لگا۔ اس کے آگے پیچھے کئی مسلح سپاہیوں کی گاڑیاں تھیں۔ انہیں تو قلعہ تھی کہ وہاں مراد سے مقابلہ ہوگا لیکن ایک بھی گولی نہیں چلی گی۔

ایک افسر کے توبہ کرنے سے دوسرے تمام دشمن نہ کان پکڑنے والے تھے، نہ دشمنی سے باز آنے والے تھے۔ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ طاقت کی ہی زبان سمجھتے ہیں۔ ڈنڈے پڑتے رہیں، تب ہی وہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے، ابد تک ہوتا رہے گا۔

دوہرا مراد بحری جہاز میں پہنچا ہوا تھا۔ چاروں طرف پانی تھا۔ وہ جہاز گہرے پانی میں ایک جزیرے کی طرح ابھرا ہوا تھا۔ کوئی وسیع و عریض و آسین سمندر سے گزر کر اس جزیرے تک نہیں آسکتا تھا۔ کوئی بھی کشتی یا موٹر بوٹ یا کوئی اسٹیرا دھرتا تو تمام بند قوتوں کا رخ اسی سمت میں ہو جاتا۔ آنے والوں کو وہاں جانے پر مجبور کر دیا جاتا۔

محبوب وہاں آزاد تھا۔ وہ عرشے پر آ کر چاروں طرف ٹھہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کے لیے حد نظر تک پانی ہی پانی تھا اور چاروں طرف ان پانیوں میں جھلکا ہوا آسمان تھا۔ یہ دیکھ کر وحشت ہوتی تھی کہ رنگ برنگے بلبوسات میں بٹتے بولتے بچے، بوڑھے، حسین عورتیں اور محنت کش جوان نہیں تھے۔ چلتی پھرتی گاڑیاں اور نت نئے تماشے نہیں تھے۔ وہ انسانی آبادی سے محروم ہو گیا تھا۔

جہاز میں خدایات انجام دینے کے لیے حسین عورتیں تھیں۔ وہاں موسیقی تھی۔ پاپ میوزک گونجتا رہتا تھا اور حسین عورتیں فوجی انسران کے ساتھ ناچنے لگی اور شراب کی آہنی میں مست ہوتی رہتی تھیں۔ محبوب کو کبھی کسی عورت سے دلچسپی نہیں رہی۔ اس نے خانہ کعبہ میں توبہ کی تھی کہ نشے

کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور وہ کبھی توبہ توڑنے والا نہیں تھا۔

وہ ڈائننگ ہال میں ان سب سے دور ایک میز پر کھاتا پیتا تھا۔ دوسری میزوں پر انسران حسیناؤں کے ساتھ بی رہے تھے اور کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے بھی مستیاں فرما رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کا دوسرا حصہ سپاہیوں کے لیے وقف تھا۔

ایسے وقت مراد ایک ایک میز کے قریب آ رہا تھا اور کھانے کی ڈشوں میں ایک سفوف چھڑکا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان سب کے پیٹ میں گڑ بڑ ہونے لگی۔ وہ ٹوائٹ کی طرف جانے لگے۔

اس جہاز کے اوپر نیچے کے فلور میں بیس ٹوائٹ تھے۔ ان تمام ٹوائٹ کے سامنے قطاریں لگ گئیں۔ جو کھا رہا تھا، وہ قطار میں لگنے آ رہا تھا اور دروازے پیٹ رہا تھا کہ جلدی باہر آؤ۔

جہاز کا کپتان اور آری کے انسران کچن کے امپارچ کو باتیں بنا رہے تھے۔ وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ اس نے کچوان میں غلطی نہیں کی ہے لیکن کوئی نائن کو تیار نہیں تھا۔ وہاں کوئی لیبارٹری نہیں تھی۔ کچوان کی خرابی معلوم نہیں کی جاسکتی تھی۔

وہاں ایک ڈاکٹر، دو نرسیں اور دو کمپاؤنڈر تھے۔ وہ بھی دوسروں کی طرح بار بار ٹوائٹ یا ترا کر رہے تھے۔ موشن روکنے کے لیے جو دوا لگی رکھی ہوئی تھی، انہیں کھا رہے تھے اور دوسروں کو کھلا رہے تھے۔

اس روز کچن میں جتنا کچوان ہانڈیوں میں تھا، ان سب کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ رات کو کسی نے ڈنڈ نہیں کیا، سب کی حالت تھکی تھی۔ پیٹ میں درد رک کر ہو رہا تھا۔ ڈائننگ ہال کے ایچ پرائے گانے والیاں دوسروں کی طرح بیڈ پر پڑی ہوئی تھیں۔ ایسے وقت کہیں سے دشمن فوج حملہ کرتی تو جہاز کی پوری آری اپنے بیڈ پر یا ٹوائٹ میں ماری جاتی۔

محبوب حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ جہاز کے تمام لوگ دوپہر سے رات تک ٹوائٹ کی طرف جا رہے تھے آ رہے تھے۔ صرف وہی ایک محفوظ تھا۔

وہاں کے تمام متاثرین یہ سمجھ رہے تھے کہ محبوب بھی متاثر ہو رہا ہے۔ رات کو ڈنڈ کے وقت کوئی ڈائننگ ہال میں نہیں آیا۔ تمام سپاہی نڈ ہال ہو کر گراؤنڈ فلور میں پڑے ہوئے تھے۔ انسران میں اتنی سخت نہیں رہی تھی کہ اپنے اپنے کیمین سے باہر آتے۔ انہیں آرام آ گیا تھا۔ موشن رک

گئے تھے لیکن ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے بڑے شوق سے بڑے جذبے سے محبوب کی پسندیدہ ڈشیں تیار کیں۔ پھر اس کے نام لکھا۔ ”محبوب! آپ کہاں ہیں؟ کیا میرے نصیب میں بھی لکھا ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں سے بچھڑتی رہوں؟ ایسے برے وقت میں مراد رحمت کا فرشتہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج آپ سے فون پر باتیں کرائیں گے اور آپ کو جلد ہی قید سے رہائی دلائیں گے۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ پلیز اپنی آواز سنا لیں۔“

محبوب ابھی بے خبر تھا کہ مراد کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ جہاز سے فرار ہونے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ یہ سوچ اچھا تھا۔ پوری آری ٹوائٹ یا ترا کر لے کرتے نڈھال ہو گئی تھی۔ اگر وہ قاتر کرتا ہو تو وہاں سے موٹر بوٹ لے کر فرار ہوتا تو بہت زیادہ رکاوٹیں پیش نہ آتیں۔ اس کے پیچھے دوڑنے کی سکت کسی میں نہیں رہی تھی۔ پھر بھی حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی کسی ایک دشمن کے مقابلے میں بھی گن نہیں چلائی تھی جبکہ وہاں آری تھی۔ وہ مراد کی طرح بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جنگ لڑنے کی تکنیک نہیں جانتا تھا۔ پھر یہ کہ وہ رات کی تاریکی میں ایسے سمندر کی لہروں پر سفر نہیں کر سکتا تھا جس کا کنارہ نہیں تھا۔ وہ موٹر بوٹ میں بھٹک کر کسی کنارے سے دور بھٹکا رہتا تو بیٹروں ختم ہو جاتا، وہ سچ سمندر میں بیٹھا رہتا۔

وہ اپنے کین میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا۔ ایسے ہی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بیڈ کے سرے سے اٹھ کر دروازے پر آیا۔ پھر اسے کھولتے ہی چونک گیا۔ اس کے سامنے وہ خود کھڑا تھا۔ یعنی اس کا ہم شکل تھا۔ یعنی مراد کھڑا اس کا ہم شکل تھا۔

اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ”کیا اندر آ جاؤں؟“
محبوب اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے بولا۔ ”جلدی آؤ۔ کوئی دیکھ لے گا۔ یا خدا تم اس جہاز میں کیسے آ گئے؟“
مراد کے ہاتھ میں ایک بڑا سا فن کیریئر تھا۔ وہ اسے ایک طرف رکھتے ہوئے بولا۔ ”آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ ماروی نے اپنے ہاتھوں سے پکا پایا ہے۔“
محبوب دروازے کو اندر سے بند کر کے بولا۔

”یا خدا...! تم آئے کیسے؟“
وہ ایک رقعہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ”یہ ماروی کا خط ہے۔ آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں۔“
اس نے فوراً ہی اس سے کیے ہوئے کاغذ کو لپک لیا پھر اسے کھول کر پڑھا۔ اس کے بعد مراد سے پوچھا۔ ”دشمن

محبوب کین سے باہر آیا تو پورے جہاز میں ویرانی اور سناٹا تھا۔ اگر وہ فرار ہونا چاہتا تو ایک بھی سپاہی اٹھ کر اسے روکنے نہ آتا۔ ایمر جنسی کے لیے دستور کے مطابق دو موٹر بوٹس جہاز کے نچلے حصے میں تھیں۔ اس کے ذہن میں وہاں سے فرار ہونے کی بات آئی لیکن سپاہی اگرچہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے تاہم کسی حد تک اٹھنے بیٹھنے کے قابل تو تھے۔ وہ دور سے قاتر کرتے ہوئے رکاوٹ بن سکتے تھے۔ پھر یہ کہ حد نظر تک پانی ہی پانی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کراچی کے ساحل تک جانے کے لیے کس سمت موٹر بوٹ کو ڈرائیو کرنا ہوگا۔

ادھر ماروی محبوب کے اس اپارٹمنٹ میں دشمنوں سے چھپی ہوئی تھی جہاں اس نے کراچی سے آنے کے بعد پہلی بار قیام کیا تھا۔ مراد اس کا محافظ تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے ناجحرم تھے۔ اس لیے وہ اس سے پردہ کر رہی تھی۔ مراد اگرچہ نادیدہ ہو کر اس کے بالکل قریب آ سکتا تھا۔ اسے جی بھر کے دیکھ سکتا تھا لیکن دل میں خوفِ خدا تھا۔ اس نے بابا اجیری کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوئے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ماروی کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔

نی الحال حالات نے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب رہنے پر مجبور کیا تھا۔ دونوں ہی پردے کے پابند تھے۔ مراد کو اس کی حفاظت کرنے اور اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے کبھی بہت ہی قریب ہونا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی ماروی نقاب میں رہتی تھی۔ وہ محبوب کے لیے پریشان تھی۔

مراد نے کہا۔ ”اس کی فکر نہ کرو۔ میں محبوب صاحب کو جلد ہی کراچی پہنچا دوں گا۔“
وہ بولی۔ ”تم کہتے ہو، انہیں کسی بحری جہاز میں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ وہاں گہرے سمندر میں تم کیسے جاسکو گے؟“
”مہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہاں تک کیسے جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے ہیں۔ آج تم کسی وقت فون پر ان سے باتیں کر سکو گی۔“

وہ خوش ہو کر بولی۔ ”خدا کا شکر ہے۔ تم بہت اچھے ہو مراد! اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کا صلہ دے گا۔“
”آج اس جہاز میں کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ تم محبوب کے لیے ایک وقت کا کھانا پیک کر دو۔ آج وہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھائے گا۔“

ماروی کو پریشان نہیں کر رہے نا؟ وہ خیریت سے ہے نا؟
 ”جو شیطان صفت ہوتے ہیں، ان کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ وہ اسے بھی ٹریپ کر کے اغوا کر کے کہیں قیدی بنا تا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی ناپاک کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے، اسے تمہارے ذاتی ایئرٹنٹ میں پہنچا دیا ہے۔ وہ وہاں روپوش رہتی ہے۔ وہاں محفوظ ہے اور آرام سے ہے۔“

”مجھے اعزاز ہے کہ تم نے کس طرح دشمنوں سے مقابلہ کیا ہوگا۔ میں نے یہاں سے فرار ہونے کی تدبیر سوچنا ہے لیکن مجھے دشمنوں سے مقابلہ کرنا نہیں آتا۔“
 مراد نے کہا۔ ”آپ شریف آدمی ہیں۔ بد معاشوں کے ساتھ بد معاش نہیں بن سکتیں گے۔ میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ پہلے آرام سے کھانا کھائیں۔“
 ”کھانوں گا۔ میری حیرانی دور کرو۔ یہاں سچ سمندر میں جہاز کے اندر کیے آگئے؟“

وہ ذرا چپ رہا پھر بولا۔ ”اللہ تعالیٰ قوی ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ وہ مجھ کو ضرور کی بھڑکائی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ موسیٰ کے عصا کو اڑوا بنا کر فرعون کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ میرا محبوب میرا پاک پروردگار میری عبادت گزار رہی کا صلہ مجھے دے رہا ہے۔ اس معبود نے مجھے ایک غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہے۔“

اس نے چپ ہو کر مسکرا کر محبوب کو دیکھا۔ محبوب کی نظروں میں سوال تھا۔ وہ بولا۔ ”آپ آنکھیں بند کریں۔“
 محبوب نے پوچھا۔ ”کیوں؟ کوئی تماشہ دکھاؤ گے کیا؟“
 ”یہی سمجھیں۔ پلیز ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور تماشہ دیکھیں۔“

اس نے آنکھیں بند کیں پھر دوسرے ہی لمحے میں کھولیں تو حیران رہ گیا۔ مراد نہیں تھا۔ اس نے سرگھما کر دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے شدید حیرانی سے پوچھا۔ ”مراد! یہ کیا جاوے؟ تم کہاں ہو؟“

اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ سامنے چھوٹی سی میز پر رکھا ہوا ٹفن کیریئر کھل رہا تھا۔ ایک ایک ڈش سامنے رکھی جا رہی تھی۔ محبوب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا۔ ”مراد! تم یہاں ہو۔ میرے سامنے کھانا رکھ رہے ہو؟“

اس کی آواز سنائی دی۔ ”جی ہاں۔ گرم کھانے کا مزہ آئیے۔ آج آپ کی ماروی نے اپنے ہاتھوں سے پکایا ہے۔ میں ہاتھ دھوئے جا رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ

کھاؤں گا۔“

محبوب نے چند لمحوں بعد واش روم کے دروازے کو دیکھا۔ وہ خود بخود کھل کر پھر بند ہو گیا تھا۔ جو بات ناقابل یقین تھی، وہ اس کے سامنے ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں یوں پھیل گئی تھیں جیسے وہ گم ہو جانے والے کو دیکھ لینے کی کوشش کر رہا ہو۔

پھر واش روم کا دروازہ کھلا تو وہ نظر آ گیا۔ اس کے پاس آکر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ”یہ جاو نہیں ہے۔ ایک روحانی صلاحیت ہے۔ میرے رب نے مجھے اعلا م دیا ہے۔ چلیں، انھیں فوراً ہاتھ دھو کر آئیں..... کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔“
 وہ حیرت میں ڈوبا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ جلد ہی واپس آکر بولا۔ ”ماروی نے لکھا ہے، تم فون پر ہماری باتیں کراؤ گے۔“

”ہاں، کھانے کے بعد۔“
 ”نہیں مراد! مجھ سے کھانا نہیں جائے گا۔“
 ”کھانا تو پڑے گا۔ ابھی میرے پاس فون نہیں ہے۔ کھانے کے بعد آئے گا۔ پلیز بسم اللہ کریں۔“
 ”فون تمہارے پاس ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔“
 ”آپ سمجھ دار ہیں۔ کھانا ٹھنڈا نہ کریں۔“

وہ کھانے لگا۔ مراد نے لقمہ چباتے ہوئے پوچھا۔ ”آپ کے پاس پانی کی کتنی بوتلیں ہیں؟“
 ”فون میں دو رکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہمارے سامنے ہے۔“
 ”کھانے کے بعد جہاز میں پینے کا جتنا پانی ہے، وہ ناکارہ ہو جائے گا۔ میں ان میں اعصابی کمزوریوں کی دوا ملانے والا ہوں۔“

محبوب نے چونک کر پوچھا۔ ”کیا تم نے یہاں کے کھانے میں دوائیں ملائی تھیں؟“
 وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ”ہاں سب ہی کو موٹن لگ گئے تھے۔ میں یہاں تھا، تماشے دیکھ رہا تھا۔“

محبوب نے کہا۔ ”میں حیران ہو کر بیسی سوچ رہا تھا کہ صرف میرا ہی پیٹ کیوں ٹھیک ہے۔ پورے جہاز میں صرف میں ہی ایک تماشائی تھا۔ باقی سب تماشے بنے ہوئے تھے۔ اب سب ہی نڈھال ہو گئے ہیں۔ اگر ہم فرار ہونا چاہیں تو...“

وہ ہات کاٹ کر بولا۔ ”ابھی نہیں۔ یہ لوگ کل تک اعصابی کمزوریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا راستہ روکنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی گن کو بھی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکیں گے۔ ہم انشاء اللہ کل یہاں سے

نکل جائیں گے۔“

”تم ہمارے معاملات میں الجھے ہوئے ہو۔ ریاست کے معاملات کون سنبھال رہا ہے؟“

”وہاں میرا ہم زاد ہے۔“

محبوب نے کہا۔ ”ہم زاد کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ دراصل ہماری زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پازٹیو دوسرا نگیٹیو۔ ایک خیر دوسرا شر۔ ایسا ازل سے ہے۔ تمام انسان دہرے کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم سب کے اندر کج اور غلط، ہاں اور نہ کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے۔“

مراد نے کہا۔ ”بے شک، ہم زاد ایک منگی یا مثبت سوچ ہے، وجود نہیں ہے لیکن خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ میرے اس ہم زاد کو جو مل گیا ہے۔“

محبوب نے بے یقینی سے پوچھا۔ ”کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ تمہیں اپنے سامنے نظر آتا ہے؟“

”وہ صرف مجھے ہی نہیں ساری دنیا کو نظر آتا ہے۔ ابھی ریاست میں ہے۔ وہاں کے تمام انتظامات سنبھال رہا ہے اور میں یہاں روپوش رہ کر آپ کے اور ماروی کے معاملات سے نمٹ رہا ہوں۔“

”اگر وہ ہم زاد ہے تو منگی سوچ کا حامل ہوگا۔ تم ہمارے ساتھ نیکیاں کر رہے ہو۔ وہ ادھر بیدی کا مرکب ہو رہا ہوگا۔ وہ ریاست میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوگا۔“

مراد نے کہا۔ ”نیکی ہونا چاہیے۔ ہم زاد کی سوچ ہم سے مختلف ہوتی ہے۔ ہم مشرق کی طرف جاتے ہیں تو وہ مغرب کی سمت لے جانا چاہتا ہے لیکن حضرت صلاح الدین اجیری کے طفیل ہم زاد ابھی پازٹیو ہے۔“

وہ بابا اجیری کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا پھر بولا۔ ”وہ میرے مرشد ہیں میں ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ میری طرح میرا ہم زاد بھی ان کا مرید ہے۔ اس لیے ان کے ذریعہ کج راہ پر چل رہا ہے لیکن...“

وہ کہتے کہتے ذرا رک گیا پھر بولا۔ ”جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ بابا صاحب میرے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ مجھ پر مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے مجھ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں۔ وہ میرے پاس آتے تھے۔ خاموش رہتے تھے۔ میں نے کئی بار ان سے کچھ کہنا چاہا۔ مگر نہ کہہ سکا۔ کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، میں سرگھما کر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کئی دنوں تک ہم نماز کے دوران میں خاموش ہم سفر رہے۔ کل عشا کی نماز کے بعد انہوں نے پہلی بار مجھ سے کہا۔ میں جا رہا ہوں۔ اب نہیں

آؤں گا۔ مجھے کہیں تلاش نہ کرنا۔ نماز بھی نہ چھوڑنا۔ مثبت اور تعمیری اعمال کے حامل رہنا۔ میری عدم موجودگی میں تمہارا ہم زاد مسئلہ بنے گا۔ جب تم کج رہو گے تو وہ غلط رہے گا۔ کبھی تم سے غلطی ہوگی تو وہ کج ہوگا اور تمہاری اصلاح کرے گا۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانے والی دشمنی بھی نہیں کرے گا۔ تم دونوں کے درمیان نیکی اور بیدی کی جنگ جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہے۔ تمہیں نصرت دینے والا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے سرگھما کر دیکھا۔ وہ نہیں تھے، جا چکے تھے۔ یہ کہہ دیا تھا کہ اب نہیں آئیں گے۔ میں انہیں کہیں تلاش نہ کروں۔ مجھے ان کی جدائی کا صدمہ ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کبھی ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟“

وہ دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے تھے۔ مراد نے اس کی طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”لو اپنی شریک حیات سے باتیں کرو۔ میں پانی میں اعضا کی کمزوری کی دوا کھولنے جا رہا ہوں۔“

اس نے اپنی پشت پر سفری بیگ کو رکھا پھر دروازہ کھول کر کیمین سے باہر چلا گیا۔ محبوب نے ماروی کے نمبر شیخ کیے۔ رابطہ ہوتے ہی اس کی آواز سنائی دی۔ ”مراد! تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا، محبوب سے بات کراؤ گے۔“

اس نے کہا۔ ”میں محبوب بول رہا ہوں۔“

وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ ”آپ بول رہے ہیں؟ میں ابھی دعا میں ناگ رہی تھی۔ سجدے میں گڑگڑا رہی تھی کہ آپ کو رہائی ملے۔ آپ آج ہی واپس آ جائیں۔ آپ مجھے بتائیں وہاں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟“

”کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مراد نے کہا ہے، کل تک مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔“

”میں اس کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ وہ طاقتور دشمنوں کو پسپا کر رہا ہے۔ مجھے یہاں تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ وہاں آپ کے لیے دشمنوں سے لڑ رہا ہے۔“

محبوب نے کہا۔ ”اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اسے ایسی ناقابل یقین صلاحیتیں حاصل ہوئی ہیں کہ تم سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ کیا تم یقین کرو گی کہ وہ نادیدہ ہو جاتا ہے۔ سامنے ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔“

وہ بے یقینی سے بولی۔ ”یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“

”یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ نادیدہ ہو کر میرے سامنے نقیض کیریئر کھول رہا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔“

”یہ سن کر یقین نہیں آ رہا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں
توجیح مان رہی ہوں۔“

”وہ اسی صلاحیت کے ذریعے تمہارا اپکا یا ہوا کھانا لے
کر ہزاروں میل دور چشم زون میں یہاں آجاتا ہے۔ گہرا
سمندر بھی رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ تم حساب کرو۔ وہ وہاں سے
کھانا لے کر یہاں آیا۔ تم سے باتیں کرنے کے لیے اس
نے اپنا فون مجھے ریاست سے اب تک کتنا وقت لگا ہے؟“
وہ بولی۔ ”واقعی ابھی ایک یا ڈیڑھ گھنٹا گزرا ہوگا۔“
”اس نے یہ ڈیڑھ گھنٹا میرے ساتھ گزارے ہیں۔
پہلے اس نے مجھے کھلایا ہے۔ ضروری باتیں کی ہیں۔ وہ چشم
زون میں آیا ہے۔“

”ہاں محبوب! سے تو بہت بڑی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔“
”دوسری ناقابل یقین بات یہ ہے کہ اس کا ہم زاد ایک
ٹھوس وجود کی صورت میں جسم ہو گیا ہے۔ یعنی اب ایک
نہیں، دو مراد ہیں۔ ایک مراد ہمارے معاملات میں
مصروف ہے۔ دوسرا مراد اس وقت ریاستی معاملات کو
سنجھال رہا ہے۔“

وہ حیرانی سے سن رہی تھی۔ پھر اس نے بڑی عقیدت
سے کہا۔ ”یا اللہ! یہ مراد کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ صحیح معنوں میں
اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن گیا ہے۔“
”یہ دیکھو کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک
اس کے بے شمار دشمن ہیں۔ وہ سب طاقتور ہیں۔ وسیع ذرائع
اور لامحدود اختیارات رکھتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ
نے اسے کرامات سے نوازا ہے۔“

دروازے پر دستک سنائی دی۔ محبوب نے کہا۔
”مراد آ گیا ہے۔ انشاء اللہ کل یہاں سے رہائی پانے کے
بعد تم سے باتیں کروں گا۔ اللہ حافظ۔“

اس نے فون بند کر کے اسے نیچے چھپایا۔ یہ
نیپال تھا کہ شاید مراد نہ ہو، آرمی کا کوئی سپاہی ہو۔ فون کو کسی
کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ
مراد ہی تھا۔ اس نے اندر آ کر کہا۔ ”اس جہاز میں پینے کا جتنا
پانی ذخیرہ کیا گیا تھا، اس میں دو گھول دی ہے۔ ہر ایک دو
گھنٹے کے بعد آ کر یہاں کے حالات دیکھوں گا۔ آپ سے
بھی ملتا رہوں گا۔ اب مجھے یہاں سے لندن جا کر دیکھنا ہے
کہ ماروی کو تلاش کرنے والے وہاں کیا کر رہے ہیں؟“
وہ اپنا فون اور لفٹن کیریئر لے کر وہاں سے نکلا اور
ماروی کے اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ فون کے ذریعے اس
کے کہنے پر دروازے پر ہوں۔ یہاں سے

لفٹن کیریئر اٹھا کر لے جاؤ اور یہ بتاؤ کسی نے پریشان تو
نہیں کیا تھا؟“

”اللہ کا شکر ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ابھی کسی
دشمن کو کچھ نہیں ہوا ہے کہ میں اس اپارٹمنٹ میں ہوں۔“
”تجسس میں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کسی طرح کا اندیشہ
ہو تو فوراً مجھے کال کرنا۔ میں جا رہا ہوں۔ دروازے پر
آ جاؤ۔“

ماروی فون بند کر کے دروازے کے پاس آئی پھر
اسے کھول کر دیکھا۔ مراد نہیں تھا۔ فرش پر لفٹن کیریئر رکھا ہوا
تھا۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ موجود ہوگا۔ ابھی نادیدہ
ہو کر نظروں سے گم ہو کر اسے دیکھ رہا ہے۔
پھر اس نے اس شے کو دل سے نکال دیا۔ دل نے
کہا۔ ”مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔“
اس نے اعتماد کرتے ہوئے لفٹن کیریئر کو اٹھا کر
دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔

☆☆☆

وہ ریاست میں آ کر پہلے بشری اور پلے کے پاس
پہنچا۔ رات کے دس بج رہے تھے۔ اس نے فون پر کہا۔
”میں آیا ہوں۔ دروازہ کھولو۔“
بشری دوڑتی ہوئی آئی پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔
مراد کے اندر آنے کے بعد اسے بند کرتے ہوئے کہا۔
”بھائی! ہمیں کوئی پیمان بتائیں۔ ہم بڑی دیر تک آپ
کے ہم زاد سے کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ تب اندازہ
ہوتا ہے کہ وہ آپ نہیں ہیں۔“

مراد نے پوچھا۔ ”اس سے کس مسئلے پر بات ہوئی تھی؟“
پلے نے کہا۔ ”اس نے خواتین کے پردے کے
متعلق بحث چھیڑ دی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ قانون بدلنا چاہیے۔
جو خواتین پردہ کرنا چاہتی ہیں بے شک کریں۔ جو نہیں کرنا
چاہتیں! انہیں عبا اور نقاب کے بغیر گھومنے پھرنے کی
اجازت دینا چاہیے۔“

بشری نے کہا۔ ”تب میں نے کہا کہ آپ میرے
مراد بھائی نہیں ہیں۔ میرے بھائی دینی احکامات کے خلاف
کبھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔“

مراد نے پریشان ہو کر کہا۔ ”بابا اجیری کہیں چلے
گئے ہیں۔ ہم زاد اب اپنی فطرت کے مطابق کبھی کبھی
ہو جایا کرے گا۔ تم دونوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ وہ میرے
مزاج کے خلاف کبھی بولے گا، کبھی کچھ کر بیٹھے گا لیکن مجھے
نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میرے دشمنوں کا دشمن رہے

انمول موتی

☆ ہمدردی وہ عالمگیر زبان ہے جسے جانور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ (تیسرا ایمن)

☆ کسی راجہ نے پرمیزگار سے پوچھا۔ کیا میں تمہیں کبھی یاد آتا ہوں۔ جواب ملا، ہاں۔ جب میں خدا کو بھول جاتا ہوں۔ (شیخ سعدی)

☆ اس دنیا میں سب سے سہمی اور سب سے قیمتی چیز آزادی ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے ہر موڑ پر اس کی پوری قیمت ادا کی ہے۔ (کرشن چندر)

☆ اے عورت تو نے اپنے اتھاہ آنسوؤں سے دنیا کے دل کو اس طرح گھیر رکھا ہے جس طرح سمندر زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ (ٹیگور)

☆ آنسوؤں سے جھلملاتی محبت نہایت دلکش ہوتی ہے۔ (والٹر اسکاٹ)

انتخاب۔ ریاض بٹ، حسن ابدال

مراد نے کہا۔ ”ابھی نہیں۔ ذرا صبر کرو۔ بارہ گھنٹے کے بعد کہیں بھی جا سکو گے۔“

”بارہ گھنٹے تک یہاں کیوں روک رہے ہو؟“

”میں انشاء اللہ چار چھ گھنٹے کے بعد ہی محبوب کو اس جہاز سے نکال لاؤں گا۔ پھر تمہیں نہیں روکوں گا اور ایک بات سمجھاتا ہوں۔ دینی احکامات کے خلاف نہ کبھی سوچو، نہ کبھی بولو۔ ہمارے مذہب میں حیا اور پردہ داری کے سلسلے میں جو احکامات ہیں، ان پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔“

”تم ڈکٹیٹر نہ بنو۔ میری کوئی تو بات مانو۔“

”تمہاری ہر جائز بات مان لوں گا لیکن میرا دین ماتر کی لکیر ہے اور میں لکیر کا فقیر رہوں گا۔“

انسان کے اندر سچ اور غلط سوچ کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے۔ جب سچ سوچ غالب آجاتی ہے تو غلط سوچ منہ چھپا کر چلی جاتی ہے۔ ہم زاو چپ چاپ سر جھکا کر چلا گیا۔ رات کے گیارہ بجتے والے تھے۔ مراد خواب گاہ کے دروازے کو اندر سے بند کرنے سو گیا۔ ٹھیک دو بجے عادت کے مطابق اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کی پھر بحری جہاز میں پہنچ گیا۔

محبوب اپنے سین میں گہری نیند سو رہا تھا۔ آری کے افسران اور سپاہی کچھ کھانے سے ڈر رہے تھے کہ پھر موش

گا۔ اب یہ پردے کی بات پھینٹ کر مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے لیکن میرے لیے مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ میں ابھی اس سے نمٹ لوں گا۔“

پھر اس نے کہا۔ ”اپنی پہچان کے لیے کہہ دوں کہ بی بی سے بھرتی اور بی بی سے بلا بھی ہوتا ہے۔ آئندہ تم دونوں کے پاس آتے ہی کہوں گا۔ بی بی امیں ہوں مراد۔“

وہ دونوں چپنے لگے۔ وہ بولی۔ ”واہ! کیا پہچان پیش کی ہے۔ کیا میں موجود نہیں رہوں گی تو بچے کو کہیں گے بی بی میں ہوں مراد...؟“

اس بات پر مراد بھی چپنے لگا پھر بولا۔ ”بہر حال میں جا رہا ہوں۔ کسی بھی تنازع مسئلے پر اس سے بھرپور مخالفت کیا کرو۔ اس کے دباؤ میں بھی نہ آؤ۔“

وہ محل میں آ گیا۔ اس نے تمام کنیزوں کو اور لیڈی سیکورٹی گارڈز کو محل سے نکال دیا تھا۔ ان کی ملازمتوں کو خواتین کے دوسرے اداروں میں بحال رکھا تھا۔ کسی کو بے روزگار نہ بننے نہیں دیا تھا۔ اب واپس آ کر دیکھا تو وہاں دو چار حسین عورتیں نظر آئیں۔ مراد نے اس سے پوچھا۔ ”کیا ہو رہا ہے؟ یہاں خواتین کیا کر رہی ہیں؟“

ہم زاو نے کہا۔ ”کھانا عورتوں کو بھی پکانا چاہیے اس لیے مین بنے دو عورتیں کچن میں رکھی ہیں اور چار عورتیں پورے محل کی صفائی سہرائی کے لیے ہیں۔“

مراد نے کہا۔ ”ہم دوسروں یہاں بیویوں سے محروم ہیں۔ اس محل میں ہماری شریک حیات آسکتی ہیں۔ یہاں نامحرم عورتوں کی موجودگی دینی احکامات کے خلاف ہے۔“

اس نے کہا۔ ”تو پھر بیویوں کو آنا چاہیے۔ ہمیں شادی کرنا چاہیے۔ دینی احکامات کے مطابق ہمیں شریک حیات کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔“

”درست کہتے ہو۔ تم جب چاہو اپنی پسند کے مطابق کسی سے نکاح پڑھو لو۔ میں موجودہ مصروفیات میں الجھا ہوا ہوں۔ شادی کی طرف دھیان نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی دیندار خاتون پسند آئے گی تو میں اسے شریک حیات ضرور بناؤں گا۔“

اس نے منتظم اعلیٰ کو بلوا کر کہا۔ ”محل میں جتنی خواتین ہیں انہیں یہاں سے رخصت کر دو اور دوسرے اداروں میں ان کی ملازمتیں بحال کرو۔ انہیں بے روزگار نہیں رہنا چاہیے۔“

وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ ہم زاو نے کہا۔ ”تم ریاست میں رہو گے۔ میں دوسرے ملکوں میں جاؤں گا۔ اپنے لیے ایک شریک حیات کو تلاش کروں گا۔“

نے سراٹھا کر دیکھا۔ وہ چاروں ہیلی کاپٹر ایک دوسرے کے پیچھے قاصد رکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔

مراو کے پاس ہسپتالی سے بلندی پر وار کرنے والا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ آنے والے اوپر سے فائر کرتے ہوئے دونوں موٹر بوٹس کو ڈیوڈیتے یا انہیں بحری جہاز میں واپس جانے پر مجبور کرتے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس نمازی کے لیے تھیں۔ اسے کوئی پسا نہیں کر سکتا تھا۔

وہ پلک جھپکتے ہی اپنی اسپینڈ بوٹ سے کم ہو کر ایک ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں پائلٹ کے پیچھے ایک افسر اور بارہ مسلح سپاہی تھے۔ اس نے ہیلی سے ایک وینڈ گرینیڈ نکال کر اس کی پن کو دانتوں سے کھینچ کر باہر کیا۔ پھر اسے ایک سیٹ کے نیچے رکھ کر وہاں سے کم ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں دوسرے ہیلی کاپٹر میں پہنچ گیا۔ اسی وقت آگے جانے والا ہیلی کاپٹر ایک دھماکے سے پرزہ پرزہ ہو کر فضا میں بکھر رہا تھا۔

اس نے دوسرے ہیلی کاپٹر میں بھی یہی کیا۔ وہاں وینڈ گرینیڈ چھوڑ کر تیسرے ہیلی کاپٹر میں آیا تو زوردار دھماکے سے دوسرے کے بھی پر نیچے اڑ گئے۔ تیسرے اور چوتھے ہیلی کاپٹر والے بھی ایک موت کا وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پرواز کی سمت بدل رہے تھے۔ فون کے ذریعے پہنچ چھچھ کر اطلاع دے رہے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے دو ہیلی کاپٹر یوں دھماکوں سے تباہ ہو گئے جیسے سمندر کی سطح سے کسی نے حملہ کر کے انہیں مار گرایا ہو۔

وہ کہہ رہے تھے۔ ”نیچے کوئی حملہ آور نہیں ہے۔ ہمیں دور بہت دور ایک موٹر بوٹ خالی دکھائی دے رہی ہے۔ ہم یہاں سے واپس جہاز میں جا رہے ہیں۔“

دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ”یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے حملہ نہیں کیا اور ہمارے دو ہیلی کاپٹر فوجیوں سمیت تباہ ہو گئے۔ واپس نہ جاؤ۔ راستہ بدل کر دیکھو۔ محبوب دوسری بوٹ میں جا رہا ہوگا۔“

افسر نے کہا۔ ”ہم راستہ بدل کر جا رہے ہیں۔“

وہ فون بند کر کے پائلٹ سے کہنے لگا کہ کسی طرح راستہ بدل کر آگے جاتے ہوئے محبوب کو ٹریس کرنا چاہیے۔

مرادین رہا تھا۔ وہ وینڈ گرینیڈ کو فون کرنے والے کی گود میں رکھ کر جو تھے ہیلی کاپٹر میں پہنچ گیا۔ ان سب نے وہشت زدہ ہو کر تباہ ہونے والے تیسرے ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ پھر ایک سپاہی فون پر اس تیسرے کی تباہی کی اطلاع دیتے

ان کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ رات تھی تاریکی تھی۔ صرف ہیڈ لائٹ کی ایک روشنی میں سامنے کچھ دور تک نظر آ رہا تھا۔

وہ فرار ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود کنارے سے محروم سمندر کہہ رہا تھا فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پوری دنیا پوری کائنات اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسی بھیانک تاریکی میں آنکھوں والے بھی عارضی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے صرف قلب نما کا سہارا تھا۔ اس کے ذریعے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ شمال کی سمت جا رہے ہیں جہاں پاکستان کا کوئی ساحلی علاقہ ہے۔

دشمن آری زیادہ دور نہیں تھی۔ عدن کے ساحل پر ان کا فوجی اڈا تھا۔ انہیں بحری جہاز کے بیمار افسر سے ادھوری معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ اس نے فون پر انک انک کر کہا تھا کہ محبوب بھاگنے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ڈاکٹر اور دو اڈوں کی مدد مانگ رہا تھا۔

وہاں کی آری الرٹ تھی۔ فوراً ہی ڈاکٹروں، نرسوں اور دو اڈوں سے مدد سے ہوئے دو ہیلی کاپٹر نے وہاں سے پرواز کی۔ مزید چار ہیلی کاپٹر میں مسلح آری تھی۔

پہلے ایک ہیلی کاپٹر ڈاکٹروں کو لے کر جہاز کے عرشے پر اترتا ڈاکٹروں، نرسوں اور ان کے معاون نے فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور میں آ کر پوری آری کو تباہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں بیک وقت سب ہی بے دست و پا دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں بولنے کی بجلی سکت نہیں رہی تھی۔ ایک سپاہی نے بڑی کوششیں کرتے ہوئے بتایا کہ محبوب آدھا گھٹے پہنے فرار ہوا ہے۔

یہ اطلاع ان فوجیوں کو وی گئی جو چار ہیلی کاپٹروں میں آ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی پرواز کا رخ شمال کی سمت کر دیا، اپنی پرواز نیچی کر دی۔ سرچ لائٹ کے ذریعے خاموش اور ویران سمندر کو دیکھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔

دونوں موٹر بوٹس شور مچاتی ہوئی اپنی منزل کی سمت رواں دواں تھیں۔ تب انہوں نے بہت دور سے ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنیں۔ وہ سرچ لائٹ کی روشنی پیچھتے ہوئے قریب آتے جا رہے تھے۔

مراد نے محبوب سے کہا۔ ”آپ آگے جاتے رہیں۔ میں پیچھے آنے والوں کو روک رہا ہوں۔“

اس نے اپنی بوٹ کے انجن کو بند کر دیا۔ محبوب آگے جا رہا تھا۔ وہ سمندر کے گہرے پانی پر رک گئی۔ مراہ

ہوئے یولا۔ ”ہم واپس آرہے ہیں۔ محبوب کا تھک کرنے والے تباہ ہو رہے ہیں۔ صرف ہم رہ گئے ہیں۔“

مراد وہاں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ واپس جا رہے ہیں تو وہ دوسرے ہی لمحے میں محبوب کے پاس آ گیا۔ اس نے مراد کو دیکھ کر کہا۔ ”تم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتے دیکھا تھا۔ باقی بہت دور سے ہونے والے دو دھماکے سنے ہیں۔ دو بار کہیں روشنی کے جھماکے ہوئے تھے۔“

مراد نے کہا۔ ”میں نے تین ہیلی کاپٹرز اور درجنوں سپاہیوں کو نابود کر دیا ہے۔ چوتھا ہیلی کاپٹر واپس جا رہا تھا۔ اس لیے اسے چھوڑ دیا ہے۔“

ہیڈ لائٹ کی روشنی میں دو ایک ویران ساحل نظر آ رہا تھا۔ محبوب نے رفتار دھیمی کر دی۔ وہ بوٹ آگے جا کر ساحل کی ریت میں دھنس گئی۔ اس نے لائٹ آف کر دی، تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔

پتا نہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ ایک اندازے کے مطابق وہ پاکستان کا ہی ساحلی علاقہ ہوگا۔ یہ سوچا نہیں جاسکتا تھا کہ جان کے ذمین ان سے پہلے وہاں راستہ روکنے کے لیے پہنچ گئے ہوں گے لیکن تاریکی میں چور ڈاکو یا اسمگلرز ہو سکتے تھے۔ وہ سمندر سے آنے والی موٹر بوٹ کے متعلق یہ قیاس آرائی کر سکتے تھے کہ اسمگلنگ کا مال آ رہا ہے اور وہ مال لوٹنے کے لیے گولیاں چلا سکتے تھے۔ جہاں تاریکی ہی تاریکی ہو اور پُر نور آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہی ہوں وہاں موت یا شامت کہیں سے بھی آ سکتی تھی۔

مراد نے کہا۔ ”آب یہاں بیٹھے رہیں۔ تاریکی میں دیکھنے اور آہٹیں سننے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں ساحل پر دور تک جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کدھر جانا ہوگا؟“

یہ کہتے ہی وہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ دیر تک اندھیرے میں رہو تو اس پاس کچھ دکھائی دینے لگتا ہے پھر سنائی بھی دیا۔ کوئی دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ ”خان جی! بہت دیر سے بوٹ کی ہیڈ لائٹ بھی ہوئی ہے۔ پتا نہیں اس بوٹ میں کتنے بندے ہیں اور کیا مال لے کر آئے ہیں۔ ہماری کشتیاں تو رات کے تین بجے آنے والی ہیں۔“

پھر وہ ٹھہر ٹھہر کر جی، جی کہنے لگا۔ وہ فون پر کسی کی باتیں سن رہا تھا۔ مراد اس کے بالکل قریب آیا تو معلوم ہوا وہ دو بج چکے ہیں۔ ان میں سے ایک نے فون بند کر کے اپنے

کریں۔ معلوم کریں، وہ کون ہیں اور کیا مال لائے ہیں؟“ مراد نے گلا صاف کرنے کے انداز میں کھٹکھٹا کر اُدھر دونوں خوف سے اچھل پڑے۔ اپنی رائفلیں تان کر ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ دن کی روشنی میں دشمنوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ بجلا اس تاریکی میں کیسے دکھائی دیتا؟

ایک نے سہم کر پوچھا۔ ”کون ہو تم؟“ مراد نے پوچھا۔ ”پہلے تم بتاؤ۔ تم لوگ کون ہو؟“ دوسرے نے کہا۔ ”میں، پہلے تم بتاؤ؟“

مراد نے کہا۔ ”ہم ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کرتے ہیں۔ تم اپنا دھندا بولو؟“

ایک نے کہا۔ ”ہمارا بھی یہی دھندا ہے۔ ہم یہاں سے مال باہر بھیجتے ہیں۔“

وہ یولا۔ ”ہم بوٹ میں سونا لے کر آئے ہیں۔ تمہارے پاس کیا مال ہے اور کتنا مال ہے؟“

اس نے کہا۔ ”ہمارے پاس چار کتن لڑکیاں اور چھ کسمن بچے ہیں۔“

مراد نے کہا۔ ”ہم سے سودا کرو۔ سونا لو اور لڑکیاں اور بچے ہمارے حوالے کر دو۔“

”ارے واہ! اس سے اچھا سودا کیا ہوگا۔ خان جی خوش ہو جائے گا۔ اس کے پاس چل کے بات کر دو۔“

”یہ خان جی کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟“

”وہ ہمارا باپس ہے۔ اس کا نام شاداب خان ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور تک چلنا ہوگا۔“

پھر اس نے پشیل نارنج کوروشن کرتے ہوئے پوچھا۔ ”تم کہاں ہو؟ سامنے آؤ۔“

مراد نے کہا۔ ”نارنج کی روشنی صرف سامنے رکھو اور راستہ دیکھتے ہوئے چلو۔ اپنے جان کے پاس بچنے کے بعد میری صورت دیکھ سکو گے۔“

مراد اب اندھیرے میں جھلک رہا تھا۔ وہ آگے آگے چلنے لگے۔ اس نے پوچھا۔ ”کراچی یہاں سے کتنی دور ہے؟“

”ہم نہیں جانتے کتنی دور ہے۔ ہم بحیرہ میں اور ایک ٹرک میں وہاں جاتے ہیں تو آٹھ یا نو گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔“

مراد اور محبوب کو کراچی جانا تھا۔ اس نے پوچھا۔ ”تم لوگوں کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟“

”ایک بحیرہ اور ایک ٹرک ہے۔“

”کیا عورتوں اور بچوں کو اسی ٹرک میں لاتے ہو؟“

”ہاں، کچے راستے میں بڑے جھنگلے لگتے ہیں مگر کیا کیا جائے۔ دھندا ہی ایسا ہے۔ کچے راستے میں صرف ایک

مراد نے مکان سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ”ہم دو
ہیں۔ باقی ہمارے دوست بھی وہی ہیں۔“
”کل سونا کتنا ہے؟“
”پچاس کلو ہے۔“

خان جی کی اوپر کی سانس اور پرعی رہ گئی پھر وہ ایک
بسی سانس لے کر بولا۔ ”چلو، ابھی بوٹ کے پاس چل کر
مال دکھاؤ۔ اپنے ساتھی سے ملاؤ۔“

مراد نے کہا۔ ”تورا ٹھہرو۔ پہلے کچھ باتیں سن لو۔“
خان نے کہا۔ ”ہاں جلدی بولو۔“

اس نے پوچھا۔ ”خان جی! کیا یہ سچ ہے کہ گناہ
کاروں کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا؟“

وہ ناگواری سے بولا۔ ”مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟“
”تم ہی جواب دے سکتے ہو۔ تم مسلمان ہو۔ کیا ان
لحاث میں تمہیں اپنے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے؟“

”دیکھو مسٹر! دین ایمان اپنی جگہ ہے۔ یہاں صرف
دھندلنے کی بات کرو۔ چلو سونا دکھاؤ۔“

”اللہ تعالیٰ سونے چاندی سے بھی زیادہ انعام سے
دیتا ہے جو غلط دھندے سے توبہ کرتا ہے۔“

”ٹھیک ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ عورتیں اور بچے
تمہارے حوالے ہیں۔ آئندہ میں یہ دھندا بھی نہیں کروں گا۔“

”تم سونا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔“
”میں کیسے یقین دلاؤں کہ سچ بول رہا ہوں؟“

”اگر سچے ہو تو اس انعام کا اہتمام کرو جو اللہ کی طرف
سے ملنے والا ہے۔ مجھے جیسے حقیر بندے سے سونا طلب نہ کرو۔“

”تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں سونا تم سے نہ لوں۔ عورتوں
اور بچوں کو تمہارے حوالے کر دوں اور نکال بن کر اللہ اللہ
کرتا رہوں۔ کیا میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں؟“

”دیکھو خان جی! سچے دل سے توبہ کر لو تو اچھا ہے۔
ورنہ میرے پاس سونا نہیں ہے صرف موت ہی موت ہے۔“

ابھی یہاں سے سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔“
خان نے اس کی طرف گن اٹھائی تو تینوں کارندوں
نے بھی اسے نشانے پر رکھ لیا۔ خان نے کہا۔ ”ابھی گولیاں
چلیں گی تو ہم بھی مارے جائیں گے تم بھی نہیں بچے گے۔ عقل
سے کام لو۔ زندہ رہو اور بوٹ کی طرف چلو۔ سونا دکھاؤ۔“

وہ کلا شکوف کو زمین پر پھینک کر بولا۔ ”آخری بار کہتا
ہوں۔ تم سب اپنا اسلحہ پھینک کر توبہ کرو۔ حلال کی روزی
کناؤ۔ عورتوں اور بچوں کی دلا لی نہ کرو۔“

خان نے اس کا نشانہ لیتے ہوئے کہا۔ ”میں بھی

پولیس چوکی پڑتی ہے۔ وہاں تھوڑی سی رشوت دے
کر آجاتے ہیں۔“

”کی سڑک کتنی دور ہے؟“
”ادھر سے ہنگی سڑک پر پورب کی طرف جانے سے
ہنگی سڑک آجاتی ہے مگر یہاں سے کراچی تک چھ چوکیاں
ہیں۔ تم لوگ سونا نہیں لے جا سکو گے۔“

آگے کھنی جھاڑیوں کے پیچھے مٹی کارے سے بنا ہوا
ایک بڑا سا مکان تھا۔ مکان کے باہر کھلی جگہ تھی۔ چار پائیاں
چھپی ہوئی تھیں۔ وہاں ان کا پاس خان جی تین سلع کارندوں
کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔

اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مراد کو کلا شکوف کے
ساتھ دیکھا۔ ایک کارندے نے کہا۔ ”خان جی! یہ بوٹ
میں سونا لایا ہے۔ سونے کے بدلے ہماری عورتوں اور بچوں
کو نکلتا ہے۔“

خان نے گھور کر مراد سے پوچھا۔ ”تم ان عورتوں
اور بچوں کو لے کر کیا کرو گے؟“

اس نے کہا۔ ”نیکی کماؤں گا۔ تم ان عورتوں اور
بچوں کو آبرو و فروشی کے بازار میں پہنچا رہے ہو۔
میں ان کے گھروں میں انہیں واپس پہنچاؤں گا۔“

وہ غصے سے بولا۔ ”کیا بکواس کر رہے ہو؟“
مراد نے کہا۔ ”میں اس بکواس کے عوض پانچ کلو سونا
ابھی اسی وقت دوں گا۔“

خان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی
سے بڑبڑایا۔ ”پانچ کلو سونا۔۔۔“

”ہاں۔ پہلے میں عورتوں اور بچوں کو دیکھوں گا۔“
خان خوش ہو گیا تھا۔ مکان کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے بولا۔ ”ادھر آؤ۔ وہ سب اندر ہیں۔“

اس نے خان اور دو کارندوں کے ساتھ مکان کے
اندر آ کر دیکھا۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں چار
لوکیاں سر جھکائے پیشی تھیں۔ وہ چاروں حسین بھی تھیں اور
پرکشش بھی۔ عورتوں کی منڈی میں ان کی ہنڈی قیمت ملنے
والی تھی۔ تھمہ مصوم پیارے سے کم سن بچے گہری نیند میں
تھے۔ ہوس کے بازار میں ان سے بھی اچھی رقم مل سکتی تھی۔

پانچ کلو سونا خان کی سوچ سے بہت زیادہ تھا۔ اس
کے دل میں بے ایمانی تھی۔ اس نے سوچا۔ اس اسمگلر کے
پاس پانچ کلو سے بھی زیادہ سونا ہوگا۔ فوراً معلوم کرنا چاہیے
کہ اس کے ساتھ کتنے بندے ہیں؟

اس نے پوچھا۔ ”تم کتنے آدی ہو؟“

اس نے پوچھا۔ ”تم کتنے آدی ہو؟“

اس نے پوچھا۔ ”تم کتنے آدی ہو؟“

اس نے پوچھا۔ ”تم کتنے آدی ہو؟“

اس نے پوچھا۔ ”تم کتنے آدی ہو؟“

اس نے پوچھا۔ ”تم کتنے آدی ہو؟“

اس نے پوچھا۔ ”تم کتنے آدی ہو؟“

اس نے پوچھا۔ ”تم کتنے آدی ہو؟“

آخری بار پوچھتا ہوں۔ سونا دے رہے ہو یا نہیں؟“
وہ اپنی بات ختم کرتے ہی لکھتے چونک گیا۔ اس
کے کارندے بھی حیرانی سے باہر آدھر دیکھنے لگے۔ وہ
اچانک ناویدہ ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گم ہونے
والی جگہ کو دیکھ رہے تھے۔

مراد نے خان کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ وہ لڑکھڑا کر
پہچھے چلا گیا۔ اس نے ایک ٹھوکر ہاتھ پر ماری تو ریوا اور اس
کی گرفت سے نکل کر فضا میں اڑتا ہوا ذرا سی بلندی پر گیا۔
پھر نیچے آتے آتے غائب ہو گیا کیونکہ مراد نے اسے کچھ
کر لیا تھا۔

وہ سب شدید حیرانی سے منہ کھولے ایک دوسرے کو
دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں؟ کس
سے مقابلہ کریں؟ کوئی رو برو ہوتا تو گولیاں چلائی جاتیں۔

اچانک فائر کی دو آوازیں رات کے ستارے میں
گوںجیں۔ دو کا زبردے زمین پر گر کر ڈھیر ہو گئے۔ مراد نے
گھوم کر باس کے منہ پر ٹک ماری۔ وہ تکلیف اور گھبراہٹ
سے کچھ پڑا۔ مراد نے پیچھے آ کر اس کی بغل میں ہاتھ ڈال
کر گردن میں نیچی ڈالی تو اس کے دونوں ہاتھ اور پراٹھ گئے۔
وہ کچھ کر بولا۔ ”یہ میرے پیچھے ہے۔ پیچھے آ کر گولی
مارو۔ جلدی کرو۔“

وہ سب دوڑتے ہوئے پیچھے آئے۔ ایک نے کہا۔ ”خان
جی اوہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ کے پیچھے نہیں ہے۔“
وہ غصے سے بولا۔ ”گدھے کے بچو اور دیکھتے نہیں ہو۔“
اس نے مجھے کیسے جکڑ رکھا ہے۔ یہ میری پشت سے لگا ہوا
ہے۔ اسے زندہ نہ چھوڑو۔“

اس کا حکم سنتے ہی ان سب نے بیک وقت گولیاں
چلائیں۔ مراد ایک پل میں فائر کرنے والوں کے پیچھے
آ گیا۔ گولیاں ان کے باس کو لگ رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا
چھلکی ہو کر زمین پر گر پڑا، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔

مراد نے زمین پر پڑی ہوئی کلا شگوف کو اٹھا کر ایک
برسٹ مارا تو تڑا تڑکی مسلسل آوازوں کے ساتھ تین
کارندے گرے۔ باقی ایک ہی بچا تھا۔ وہ روشنی سے دور
تاریکی کی طرف بھاگنے لگا۔ مراد نے اسے بھی موت کی
تاریکی میں پہنچا دیا۔ خس کم جہاں پاک۔

ناپاک دھندل کرنے والوں سے وہ ساحلی علاقہ پاک
ہو گیا۔ مراد نے محبوب کے پاس آ کر کہا۔ ”آئیں۔ تمام
رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔“

وہ سوچا۔ اس سے اتر کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے

بولا۔ ”میں فائرنگ کی آوازیں سن رہا تھا۔ تم کیسی جی داری
سے بھانت بھانت کے دشمنوں سے لڑتے رہتے ہو۔ میں
سوچ سوچ کر حیران ہوتا رہتا ہوں۔“

وہ اس مکان کا دروازہ کھول کر اندر آئے۔ چاروں
لڑکیاں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ مراد نے کہا۔ ”تم سب آزاد
ہو۔ دشمن مارے گئے ہیں۔ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔“

وہ لڑکیاں باری باری اپنے بارے میں بتانے لگیں۔
ان میں سے دو لڑکیاں پنجاب کے علاقوں سے تعلق رکھتی
تھیں۔ اپنے عاشقوں کے ساتھ گھر سے بھاگ کر آئی
تھیں۔ تیسری کراچی میں رہنے والی لڑکی بھی ایک عاشق
کے چکر میں پھنس کر اسمگلروں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ چوتھی
لڑکی کا تعلق سکھر سے تھا۔ وہ کالج سے گھر جا رہی تھی۔ اس
وقت اسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کا نام ماہ نور منگلی تھا۔

اس کا نام سنتے ہی مراد نے کشش محسوس کی۔ وہ اس
کی طرح منگلی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے چہرے کی
سادگی اور مصدومیت میں بلا کی کشش تھی۔

ایک نامحرم کو دنی لگاوٹ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مراد
نے دوسری لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ”ان بچوں
کو سنبھالو۔ انہیں لے کر ہمارے ساتھ آؤ۔“

محبوب نے کہا۔ ”مٹھرو، پہلے یہ طے کر دو کہ یہ لڑکیاں
اور بچے کہاں جائیں گے؟ کیا بچوں کو ان کے گھر کا پتا ٹھکانا
معلوم ہے؟“

وہ نوڈس یا گیارہ برس کے تھے۔ اپنے محلے کا نام
جانتے تھے۔ وہاں پہنچ کر اپنا گھر پہچان سکتے تھے۔ تین
لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ کر آئی تھیں انہوں نے کہا۔
”ہم فون پر اپنے والدین سے باتیں کریں گے۔ وہ ہمیں
قبول کریں گے تو ہم خدا کا شکر ادا کریں گے ورنہ آپ ہمیں
خواتین کے کسی فلاحی ادارے میں پہنچا دیں۔“

چوتھی لڑکی ماہ نور رونے لگی۔ محبوب نے پوچھا۔ ”کیا
بات ہے؟ کیوں رورہی ہو؟“

مراد نے کہا۔ ”تم گھر سے بھاگ کر نہیں آئی تھیں۔
تمہارے گھر والوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ تمہیں اغوا کیا گیا
ہے۔ وہ تمہیں دل سے قبول کریں گے۔“

وہ انکار میں سر ہلا کر بولی۔ ”میرے والد نہیں
ہیں۔ صرف والدہ ہیں۔ وہ قبول کر لیں گی لیکن میرے دو
بھائی بہت ہی غیرت مند ہیں۔ میری بڑی بہن کسی کے ساتھ
بدنام ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے کسی بہانے سے کہیں لے
جا کر قتل کر دیا تھا تو وہ میرے بارے میں بھی یہی سوچیں

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

ایک سپاہی نے کہا۔ ”سرا! آپ کا فون بند ہے۔“
 افسر نے چونک کر پوری طرح آنکھیں کھول کر اپنے
 فون کو دیکھا پھر اپنے سر ہانے سراٹھا کر دیکھا۔ دوسرے سپاہی
 نے کہا۔ ”سرا! آواز آپ کے سر کے پاس سے آرہی ہے۔“
 اس نے سر گھما کر پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا
 تھا۔ مراد نے اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا پھر بٹن کو دبا دیا۔
 رنگ ٹون بند ہو گئی۔ اس افسر نے سپاہیوں سے کہا۔ ”ابھی
 آواز آرہی تھی۔ تم لوگوں نے سنا ہے نا؟“

وہ سب اشہات میں سر بلانے لگے۔ ادھر مراد فون پر
 سپر پاور کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے انگریزی زبان میں کہہ
 رہا تھا۔ ”ہیلو۔۔۔ کیا نینڈ اڑ گئی ہے؟“

وہ افسر اور چاروں سپاہی اپنی چار پائیوں سے اچھل
 کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی کے بولنے کی آواز سنائی دے
 رہی تھی لیکن بولنے والا نہیں تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا
 بول رہا ہے۔ کیونکہ وہ انگریزی زبان نہیں سمجھ رہے تھے۔

وہ اعلیٰ عہدیدار بول رہا تھا۔ ”میں ڈینٹس فیسٹر بول
 رہا ہوں۔ آج تک کوئی فوج اس طرح تباہ نہیں ہوئی ہوگی
 جس طرح تم کر چکے ہو۔ ہماری عقل دنگ رہ گئی ہے۔ ہم
 سمجھنے سے قاصر ہیں کہ تم کس طرح حملے کرتے ہو؟ کہاں سے
 چھپ کر کرتے ہو؟ ایک روز پہلے تم نے ہمارے جنگی
 طیاروں کو پرواز کے دوران تباہ کر دیا تھا۔ ابھی دو گھنٹے پہلے
 ہمارے تین ہیلی کاپٹرز کو درجنوں سپاہیوں سمیت دھماکوں
 سے اڑا دیا ہے۔ ہائی گاڈ...! کیسے...؟ یہ کیسے کیا ہے؟ تم
 کس طرح حملے کرتے ہو؟“

مراد جو اباً دھیرے دھیرے ہنسنے لگا۔ وہ افسر اور
 سپاہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے کی آوازیں سن رہے تھے۔
 ڈینٹس فیسٹر کہہ رہا تھا۔ ”بحری جہاز سمندر میں
 گہرے پانیوں میں کھڑا ہے۔ تم وہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟
 ہم یہ نہیں مانیں گے کہ تمہارے پاس آبدوز کشتی ہے اور تم
 پانی کے اندر ہی اندر جہاز تک پہنچ جاتے ہو۔“

مراد نے کہا۔ ”تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں
 بدلے گی۔ میں سمندر میں اتنی دور تیر کر نہیں جاسکتا تھا۔ مانویا
 نہ مانو، میرے ذرائع بہت وسیع ہیں۔ میں نے بڑی
 رازداری سے ایک آبدوز کشتی تیار کرائی ہے۔ اسی کے
 ذریعے بحری جہاز تک پہنچا تھا۔ اسی آبدوز کشتی نے گہرائی
 سے ابھر کر سطح پر آ کر تین ہیلی کاپٹرز کو تباہ کیا تھا۔“

وہ فون پر بولتا ہوا آہستہ آہستہ کچی سڑک کی طرف
 جا رہا تھا۔ وہ افسر اور سپاہی آواز کے پیچھے غہر غہر کر سوچ

گے کہ میں پاک وامن نہیں ہوں۔ مجھے قتل کرنے اور
 میرے جتنے کی زمینیں حاصل کرنے کا انہیں بہانہ مل جائے
 گا۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔“

محبوب نے کہا۔ ”تم میری چھوٹی بہن ہو۔ میرے
 ساتھ چلو۔ میں تمہارے بھائیوں کو بلا کر سمجھاؤں گا۔ وہ
 تمہیں پاک وامن تسلیم کر کے گھر لے جائیں گے۔“

اس مکان کے باہر ایک پتھر اور ایک ٹرک کھڑا ہوا
 تھا۔ لڑکیوں کو اور بچوں کو ٹرک میں لے جانا مناسب نہیں
 تھا۔ ٹرک کا پیچھلا حصہ کھلا تھا اور آرام وہ نہیں تھا۔ پتھر وامن
 بارہ افراد کی گنجائش نہیں تھی لیکن گنجائش اس طرح ہو گئی کہ
 مراد دوسری کسی گاڑی میں آنے والا تھا۔ محبوب سمجھ گیا کہ وہ
 کسی سواری کے پتھر وامن کے ایک سرے سے دوسرے
 سرے تک پہنچ جاتا تھا۔

محبوب ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ماہ نور ایک بچے
 کے ساتھ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ باقی تین
 لڑکیاں اور پانچ بچے پچھلی دو قطاروں میں بیٹھ گئے۔ پھر وہ
 قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ خان جی کا موبائل فون لایا گیا
 تھا۔ وہ لڑکیاں اسی فون کے ذریعے باری باری اپنے
 والدین سے رابطہ کر کے باتیں کرنے لگیں۔

مراد چشم زون میں پہلے آنے والی پولیس چوکی کے
 پاس آ گیا۔ وہاں ایک افسر اور چار سپاہی تھے۔ وہ سب
 کھلے آسمان کے نیچے چار پائیوں پر سو رہے تھے۔ مراد نے
 کہین کے اندر آ کر دیکھا۔ وہاں ایک میز، کرسیاں اور ٹینک
 الماری تھی۔ الماری مقفل تھی۔ اس نے افسر کے سر ہانے
 آ کر اس کے کچلے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو چابیاں مل گئیں۔

وہ پھر کہین میں آ گیا۔ اس نے الماری کو کھولا۔ اس کے
 اندر سیف میں ہزار کے اور سو کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ اس
 نے دو گڈیاں جیب میں رکھیں پھر سیف کو اور الماری کو بند
 کر کے چابیاں لا کر اس کے کچلے کے نیچے رکھ دیں۔

ایسے ہی وقت کا ٹنگ ٹون ابھرنے لگی۔ فون مراد کی
 جیب میں تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں وہ آواز گونج رہی
 تھی۔ افسر نے نیند میں کسماتے ہوئے کچلے کے نیچے ہاتھ
 ڈالا تو چابیاں ہاتھ میں آئیں۔ اس نے چابیوں کو ایک
 طرف پھینک کر پھر ٹولا تو فون ہاتھ میں آ گیا۔

رنگ ٹون ایسے گونج رہی تھی کہ آس پاس سونے
 والے سپاہیوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ افسر نیند کے خمار
 میں تھا۔ اس نے بٹن کو دبا کر فون کو کان سے لگا کر کہا۔ ”ہیلو
 کون؟“

سوچ کر چل رہے تھے۔ ایک سپاہی نے کہا۔ ”کوئی انگریزی بول رہا ہے۔ انگریزوں میں بھی بھوت ہوتے ہیں۔“
 افسر نے کہا۔ ”یہ کوئی بھوتوں والی زبان بول رہا ہے۔ انگریزی تو میں جانتا ہوں۔ بڑے بڑے انگریزوں سے باتیں کر چکا ہوں۔ بس، نو، آل رائٹ، وہاٹ آر پوائنٹ۔“
 وہ سپاہی اس کی انگریزی سے مرعوب ہو رہے تھے۔ ایک سپاہی نے ذرا سہم کر کہا۔ ”وہ چپ ہو گیا ہے۔ ہماری طرف دیکھ رہا ہوگا۔“

وہ ڈیفنس فیسٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ فیسٹر کہہ رہا تھا۔
 ”مسٹر مراد! ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔“
 ”مجھے صرف مسٹر کھوسے تو فون بند کروں گا۔ میں ایک ریاست کا حکمران ہوں۔ اپنی غلطی درست کرو۔“
 ”سوری ہز ہائی نس! ہم خیال رکھیں گے۔ ہم آپ کو ریاست ارض اسلام کا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔“
 ”شکریہ۔ میں ماروی اور محبوب علی چانڈیو کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کروں گا۔“
 ”ہم ماروی اور محبوب علی چانڈیو کے مکمل تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ وہ آئندہ روپوش نہیں رہیں گے۔ آزادی سے ذمہ داری گزرتے رہیں گے۔“

مراد نے کہا۔ ”اگر مجھ سے سمجھوتا نہیں ہوگا اور سپر پاور سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں ہوں گے تو ماروی اور محبوب کی سیکورٹی اور سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھ سے نادانی کی توقع نہ کرو۔ ماروی اور محبوب میری دو آنکھیں ہیں۔ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت خود کروں گا۔ میں ابھی کئی معاملات میں الجھا ہوا ہوں، کال ختم کر رہا ہوں۔ پھر کسی دن باتیں ہوں گی۔“

اس نے فون بند کر دیا۔ وہ افسر اور سپاہی کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہے تھے پھر افسر نے کہا۔ ”وہ چپ ہو گیا ہے۔ شاید چلا گیا ہے۔“

مراد نے دیکھا بہت دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آرہی تھیں۔ محبوب بیچر میں لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ آرہا تھا۔ وہ افسر اور سپاہی سڑک سے اتر کر اپنی چار پائیوں کی طرف آئے پھر ٹھنک گئے۔ افسر کا جو ریلو اور بجلی کے فیچے تھا، وہ آپ ہی آپ باہر آ گیا۔ ریلو اور کارخ ان کی طرف تھا۔ کسی نے انہیں نشانے پر رکھا ہوا تھا۔

پھر ٹھائیں سے گولی چل گئی۔ افسر کے پیروں کے قریب تھوڑی سی مٹی اڑی۔ وہ چاروں خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ وہ جان بچانے کے لیے سڑک

سے دوڑ جا رہے تھے۔

محبوب نے فائرنگ کی آواز سن کر گاڑی روک دی تھی۔ مراد نے آکر کہا۔ ”کوئی خطرہ نہیں ہے۔ راستہ صاف ہے۔ آپ بے خوف و خطر چلتے رہیں۔“

محبوب تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا پولیس چوکی سے گزرتا ہوا آگے جانے لگا۔ مراد اس سے بھی آگے دو سو میل دور دوسری پولیس چوکی میں پہنچ گیا۔

وہاں پہنچتے ہی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی نے لٹکارنے کے انداز میں گرجتے ہوئے کہا۔ ”اگر کسی نے میری عورت کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔“

چوکی کے افسر نے کہا۔ ”اے کتے! تیرے ڈرانے سے ہم ڈر گئے ہیں۔ چل یہاں آ اور اپنی عورت کو لے جا۔“
 دوسری طرف سے کہا گیا۔ ”اے آزاد کرو۔ وہ

یہاں میرے پاس آ جائے گی۔“
 ”اے تو ہم تیرے سردار کے پاس پہنچائیں گے۔ تو نے اپنے قبیلے کے سردار سے پتلا لیا ہے۔ اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا۔“

اچانک اس عاشق کے پیچھے سے کئی گولیاں چلنے لگیں۔ افسر نے کہا۔ ”دیکھ، سردار کے آوی آگئے ہیں۔ آگے ہم ہیں۔ پیچھے وہ ہیں۔ سچ کے کہاں جائے گا؟“

وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ کیا کرنے؟
 اس کی محبوبہ ایک مکان کے کمرے میں رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ زہرہ کرپور لگاتے ہوئے رسیاں توڑنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ مراد ان رسیوں کی

گرہیں کھولنے لگا۔
 وہ کھل گئی۔ آزاد ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئی ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے دبے قدموں چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی۔ اس کمرے کی کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی۔ وہاں افسر گن لیے کھڑا تھا۔ وہ کھڑکی کے کنارے چھپا ہوا باہر تارکی میں دیکھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ بہت محتاط تھا۔ باہر سے کوئی گولی اسے آ کر ٹک سکتی تھی۔

باقی سپاہی مکان کے باہر مورچا بنائے ہوئے تھے۔ وہ سوچتے لگی وہاں سے کیسے نکلے؟ باہر سپاہی ہوں گے اور یہ کمینہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ پھر رسیوں سے باندھ دے گا۔ اچانک ہی افسر کے ہاتھ سے گن نکل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے ایک جھٹکے سے چھین لیا ہو۔ وہ گن اڑتی ہوئی دوسرے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر گری۔ وہاں

سنہری کر نیں

☆ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ دل میں برائی اور بغض رکھ کر ملنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر کے رشتہ توڑ دو۔

☆ حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔ ”جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنا بھی بڑا امتحان ہو۔ گھر سے نکلنے وقت روٹی کے ایک لوالے میں تھوڑا سا نمک ڈال کر کھا لو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ گھر مایوس ہو کر لوٹے۔“

☆ اگرچہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو پھر ان کے زخم زندگی بھر نہیں بھرتے۔

☆ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ ”اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو۔ اسے تو مٹی میں جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو۔ اسے رب کے پاس جانا ہے۔“

بچے ہمارے عہد کے

☆ نئی نسل کا ایک لوجوان جوڑا درمینک گفتگو کر رہا تھا۔ بوی نے بڑے محبت بھرے انداز میں شوہر سے اٹھلا کر پوچھا۔ ”ڈارلنگ! کبھی تم نے سوچا کہ اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو کیا ہوتا؟“ شوہر نے بڑی مصحوبیت سے جواب دیا۔

”جہنم میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔“

عقل مند

ایک سکھ اپنی بھابی کو خوب مار رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنی بھابی کو کیوں مار رہے ہو۔ سکھ نے جواب دیا۔ ”میری بھابی ٹھیک عورت نہیں ہے۔“

لوگوں نے پوچھا۔ ”تمہیں کیسے پتا؟“ سکھ تھملا کر بولا۔ ”آپاں جس دوست کو لوں پشیمدے آں۔ توں کس نال گل کر رہا ایں۔ ادہ ایوی جواب دیندالے۔ تیری بھابی نال۔۔۔“

مرسلہ۔ اختر شاہ عارف، ڈھوک جھہ، جہلم

وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہی جھک کر اسے اٹھالیا۔ پھر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے بولی۔ ”تو کا لون کار کھولا ہے۔ کیا اسی طرح رکھوالی کرتے ہیں؟ میری شادی لواز سے ہونے والی ہے اور تو مجھے سردار کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔“ وہ دور ہی سے گن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ”اے کیا کرتی ہے۔ اسے پھینک دے۔ گولی چل جائے گی۔“

”گولی چلنے کے لیے ہوتی ہے۔ مجھ پر نہ چلی، تجھ پر چلے گی۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دے۔ وہ ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر کمرے میں آ جائیں۔“ وہ بولا۔ ”پھر بھی تو نہیں جاسکے گی۔ سردار کے آدمی آگئے ہیں۔ وہ ادھر سے گولیاں چلا رہے ہیں۔“

وہ حقارت سے تھوک کر بولی۔ ”تو ان کو آواز دے۔ ان سے بول کہ میرے نشانے پر ہے۔ وہ ایک بھی گولی چلا میں گے تو ادھر تو مارا جائے گا۔“

وہ سمجھنے کے انداز میں انگلی دکھاتے ہوئے بولا۔ ”تو پچھتائے گی۔ ابھی یہاں سے جائے گی تو سردار سچ تک تیرے مرد کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ گن مجھے دے۔“

اس نے ٹریگر کو دبا دیا۔ ایک گولی اس کے پیروں کے پاس فرش کو آگ ڈرا سا دیٹھرتی ہوئی چلی گئی۔ پھر وہ بولی۔ ”جو بول رہی ہوں، وہ اپنے سپاہیوں سے بول۔ نہیں تو دوسری گولی تیرے سینے میں اتار دوں گی۔“

وہ محتاط انداز میں چلتی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ وہ چیخ کر سپاہیوں سے کہنے لگا۔ ”اپنی بندو قیں پھینک کر یہاں آ جاؤ۔ نہیں تو یہ مجھے مار ڈالے گی۔“

تمام سپاہی دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بندو قیں نہیں پھینکی تھیں۔ پہلے اپنے انسر کی سچ سچویشن معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ جیسے ہی بندو قیں لے کر دروازے پر آئے، اس نے تڑا تڑا دو گولیاں چلا دیں۔ ایک گولی کھا کر مرا، دوسرا زخمی ہوا۔ باقی سب دروازے سے دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

وہ چیخ کر بولی۔ ”میں نے کہا تھا، بندو قیں پھینک کر آؤ۔ اب اگر نہیں پھینکو گے تو یہ مارا جائے گا۔“ انسر نے سہم کر کہا۔ ”کیا تم لوگ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ حماقت نہ کرو۔ بندو قیں پھینک کر آؤ۔“

وہاں تین سپاہی رہ گئے تھے۔ چوتھا زخمی پڑا تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک نے کہا۔ ”وہ نہیں جانتی ہے کہ ہم یہاں تین ہیں۔ ابھی تم ہتھیار پھینک کر جاؤ۔ میں

یہاں چھپ کر رہوں گا۔ جیسے ہی وہ غافل ہوگی یا جگہ بدلے گی، میں اسے گولی مار دوں گا۔“

اس پلاننگ کے مطابق دو سپاہی ہتھیار سپیک کر دروازے پر آئے۔ محبوب نے پوچھا۔ ”اور سپاہی کہاں ہیں؟“ ایک سپاہی نے کہا۔ ”ہم اتنے ہی رہ گئے ہیں۔ ایک کو تم نے مار ڈالا ہے۔ دوسرا یہاں زخمی پڑا ہے۔“

اسی وقت تیسرے سپاہی کے حلق سے گراہ نکلے۔ اس کے پیٹ میں ایک گھونسا لگا تھا۔ پھر دوسرا اس کے منہ پر لگا۔ اس کے منہ سے آواز نکلے۔ ”ارے باپ رے۔“

محبوب نے غصے سے پوچھا۔ ”یہ باہر کون بول رہا ہے؟“ ایک سپاہی نے کہا۔ ”ہمارا ایک ساگی کھیت میں گیا تھا۔ فارغ ہو کر ابھی آیا ہے۔“

دونوں سپاہی اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا۔ ”کوئی مجھے مار رہا ہے۔ سچ بول رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔“

وہ بھی ہبتا ہو کر دروازے پر آ گیا۔ محبوب نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ”اس کمرے کے اندر جاؤ اور اس زخمی کو بھی لے جاؤ۔“

انہوں نے ختم کی ٹیم کی۔ ان سب کے اندر جاتے ہی وہ افسر سے بولی۔ ”دروازے کو باہر سے بند کر دو۔“

اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو بند کیا۔ اس کی ایک اوپر والی چٹنی لگائی۔ دوسری درمیانی چٹنی کو یونہی ہاتھ لگا کر چھوڑ دیا۔ اگر وہ اندر سے دروازے کو دھکا دیتے تو اوپر والی چٹنی نیچے ہو جاتی۔ دروازہ کھل جاتا۔

مراد نے درمیانی چٹنی لگا دی۔ افسر نے حیرانی سے دیکھا اور اس چٹنی کو پھر کھول دیا۔ مراد نے اسے پھر لگا دیا۔ وہ ڈانٹ کر بولی۔ ”یہ کیا کر رہے ہو؟ ہٹو وہاں سے۔“

کھڑکی کے پاس جاؤ اور سردار کے آدمیوں سے بولو، وہ نواز کو نقصان پہنچائیں گے تو تم یہاں مارے جاؤ گے۔“ وہ کھڑکی کے پاس آ کر حلق پھاڑ کر چیخنے لگا۔ ”رحمی دادا! نواز پر گولی نہ چلاؤ۔ یہاں میں لٹا ہوں۔ نواز کو نقصان پہنچے گا تو میں مارا جاؤں گا۔“

رحمی دادا نے ادھر سے چل کر پوچھا۔ ”وہاں کون تمہارا دشمن ہے؟ تمہارے سپاہی کہاں مر گئے ہیں؟ لگرنہ کرو۔ ہم اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔“

”ایسا نہ کرنا۔ تم ادھر آؤ گے تو یہ مجھے مار ڈالے گی۔“

وہاں نے حیرانی سے پوچھا۔ ”مار ڈالے گی؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟“

”ہاتھ میں بندوق ہو تو عورت مرد بن جاتی ہے اور مرد عورت کی طرح سہم جاتا ہے۔ میں اس طاقت سے ڈر رہا ہوں جو اس کے ہاتھ میں آگئی ہے۔“

”آخر وہ ہے کون؟“ وہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ”یہ نور جمال ہے جسے تم سردار کے پاس لے جانا چاہتے ہو۔“

وہ حیرانی سے بولا۔ ”ارے کیا بول رہے ہو؟ اس کے ہاتھ میں بندوق کیسے آگئی؟“

”میں کیا بتاؤں کہ میرا رپوالور اس کے ہاتھ کیسے لگ گیا ہے۔ جب شامت آتی ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ میری جان بچاؤ۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔“

”اگر نور جمال کو یہاں سے نہ لے گیا تو سردار جوتے مارے گا۔ اس سے بولو، رپوالور تمہیں واپس کرے۔ ورنہ تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی نہیں بھاگ کر نہیں جاسکے گی۔ ہم اس کی آنکھوں کے سامنے نواز کو گولی ماریں گے اور اسے لے جا کر سردار کے قدموں میں گرائیں گے۔“

بات ختم ہوتے ہی اس کے منہ پر ایک گھونسا پڑا۔ پھر ایک کرائے کا ہاتھ اس کی ناک پر پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا مراد نے اس کی گن چھین لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے۔ آسمان ستاروں سے روشن تھا۔ اس نے ستاروں کی مدد سے روشنی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ”یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ مگر..... نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟“

پھر وہ خشک گیا۔ اس کی اپنی بندوق فصا میں معلق تھی۔ اس کا رخ اسی کی طرف تھا۔ بندوق کا سیٹھی کچھ آپ ہی آپ ہٹ گیا۔ صاف پتا چل رہا تھا کہ کوئی اس کی گولیوں سے اسے ہی چھلنی کرنے والا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو گولی چل گئی۔ اس کے شانے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی گزر گئی۔ وہ زخمی شانے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے پلٹ کر بھاگتے ہوئے چیخنے لگا۔ اپنے آدمیوں سے کہنے لگا۔ ”بھاگو یہاں سے۔ یہاں کوئی جن یا بھوت ہے۔ یہ ہمیں مار ڈالے گا۔“

نیم تاریکی میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ مراد نے نواز کے پاس آ کر کہا۔ ”اے... اے...“

اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ مراد نے کہا۔ ”مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ سردار کے آدمی میدان چھوڑ گئے ہیں۔ نور جمال اس مکان میں اکیلی ہے۔ نور ادھر جاؤ۔“

وہ دوڑتا ہوا اس مکان میں آیا۔ نور جمال نے لکارا۔

وہ دوڑتا ہوا اس مکان میں آیا۔ نور جمال نے لکارا۔

وہ دوڑتا ہوا اس مکان میں آیا۔ نور جمال نے لکارا۔

وہ دوڑتا ہوا اس مکان میں آیا۔ نور جمال نے لکارا۔

گاڑی روک دی۔ نور جمالہ اور ماہ نور منگلی نے کہا۔ ”ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے۔“

مراو کا دل بے اختیار ماہ نور کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ وہ اب تک اس سے دور رہا تھا لیکن دل اس کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کی نماز کے لیے جگہ مقرر کی۔ اس چھوٹی سی بستی میں کل چھ نمازی تھے۔ پیش امام نے نماز کے بعد کہا۔ ”ہم چھ نمازیوں نے دن رات محنت کرتے ہوئے مسجد کی یہ چار دیواری کھڑی کی ہے۔ بعض اوقات پیش امام کو تین وقت کی روٹیاں بھی نصیب نہیں ہوتیں۔ کبھی کبھی ایک دو وقت کے فاقے ہوتے ہیں۔ اس علاقے کا سردار بھی کچھ خیرات کر دیتا ہے، کبھی انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔“

محبوب نے کہا۔ ”آپ اور کچھ نہ بولیں۔ ہمیں سن کر تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کراچی پہنچنے ہی اپنے دو چار آدمی یہاں بھیجوں گا۔ وہ اس مسجد کو طے کریں گے اور ہر ماہ بینک کے ذریعے پیش امام صاحب کی تنخواہ اور مسجد کے اخراجات آپ حضرات تک پہنچتے رہیں گے۔“

مراو کے پاس دونوں کی گڈیاں تھیں۔ وہ تمام گڈیاں پیش امام کو بیٹھے ہوئے بولا۔ ”یہ آپ چھ نمازیوں کے لیے ہے۔ باقی امداد محبوب صاحب یہاں پہنچاتے رہیں گے۔“ وہ تمام نمازی مراد کو اور محبوب کو دعا میں دینے لگے۔ وہ مسجد سے باہر آگئے۔ ماہ نور منگلی پھیر وکی اگلی سیٹ پر ایک بیچے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مراو نے پوچھا۔ ”محبوب صاحب! آپ پچھلے چار گھنٹوں سے اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یہ دل کی دماغ کی اور مزاج کی کیسی ہے؟“

محبوب نے کہا۔ ”میں نے اس کی روداد سنی ہے۔ یہ بہت ذہین ہے۔ اس نے کمپیوٹر سائنس میں ڈپلوما حاصل کیا ہے۔ یہ بھائیوں سے خوفزدہ ہے۔ چونکہ یہ ابھی گھر سے لے کر گھر ہو گئی ہے، غیروں کے ساتھ ہے اس لیے وہ بھائی غیرت کے نام پر اسے گل کریں گے۔ بھائیوں نے اس کی بڑی بہن کو بھی رازداری سے گل کیا تھا۔“

پھر وہ بولا۔ ”مراو ایک بات کہوں؟ یہ بہت سخی ہوئی ہے۔ اسے بھائیوں کے پاس نہ جانے دو۔ اپنی منگوحہ بنا لو۔“ مراو کے دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئیں۔ محبوب نے اچانک اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس نے وور بیٹھی ہوئی ماہ نور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ”کیا یہ راضی ہو جائے گی؟“ محبوب نے کہا۔ ”اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ تم بہت بڑا سہارا بن جاؤ گے۔“

”خبردار اجوا دھر آئے گا، اسے گولی مار دوں گی۔“

وہ بولا۔ ”نوراں! میں ہوں نواز۔ گولی نہ چلاتا۔“ وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے پر آیا۔ پولیس افسر اس کی محبوبہ کے نشانے پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خوش ہو کر بولا۔ ”جیو میری نوراں! تو نے تو میرا سینہ چوڑا کر دیا ہے۔“

وہ بولی۔ ”سپاہی اس کمرے میں ہیں۔ اسے بھی وہاں بند کر دے۔ کیا مرزی داوا چلا گیا ہے؟“ ”ہاں، کوئی جن ہے نوراں! ہماری مدد کر رہا ہے۔“ اس نے افسر کو لات ماری پھر اسے دھکے دیتا ہوا اس کمرے میں دھکیل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ نور جمالہ آ کر اس سے لپٹ گئی۔ موت سے لڑ کر یار کو پھر سے پا کر خوشی کے مارے رونے لگی۔

مراو نے ڈانٹ کر کہا۔ ”انگ ہو جاؤ۔“ وہ نور ابھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ ادھر ادھر بولنے والے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔

مراو نے پوچھا۔ ”کیا تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے؟“ دونوں نے انکار میں سر ہلایا پھر نواز نے کہا۔ ”ہم شادی کرنے والے تھے لیکن سردار کا دل میری نوراں پر آ گیا ہے۔ آج تو ہم آپ کی مہربانی سے بچ گئے ہیں۔“ وہ بولی۔ ”لیکن اب اس بستی میں اس علاقے میں نہیں رہ سکیں گے۔ سردار ہمیں جینے نہیں دے گا۔“

مراو نے کہا۔ ”باہر جاؤ۔ ایک پھیر وار رہی ہے۔ اس میں کراچی جاؤ۔ وہاں تم دونوں کی رہائش اور روزگار کا انتظام ہو جائے گا لیکن خبردار! نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو، تب تک اپنے درمیان فاصلہ رکھو۔“ وہ دونوں مکان سے باہر سڑک پر آگئے۔ پھیر و وہاں آ کر رک گئی۔ مراو نے محبوب سے کہا۔ ”کچھ اور ٹیکیاں کرنی ہیں۔ دو محبت کرنے والوں کے لیے یہاں کی زمین تنگ ہو رہی ہے۔ انہیں کراچی لے چلیں۔“

پھیر و میں مزید کسی کے لیے جگہ نہیں تھی لیکن دل میں جگہ تھی۔ محبوب نے نواز سے کہا۔ ”تم صحت پر دو بچوں کو لے کر بیٹھو۔ نور جمالہ گاڑی کے اندر بیٹھے گی۔“ اس طرح گنجائش کھل گئی۔ وہ قافلہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مراو راستے کی رکاوٹیں دور کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک بستی کی چھوٹی سی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔

پھر کچھ دیر کا وقت ہو گیا تھا۔ محبوب نے مسجد کے پاس

”آپ کراچی پہنچنے تک رشتے کی بات چھیڑیں۔ ہمیں اس کی رضامندی معلوم ہونی چاہیے۔“
 ”کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پیچھے وڈرائیو کرو۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر جاؤ؟“
 ”پیچھے وڈرائیو میں آپ کہاں بیٹھیں گے؟ اگر آپ تنگ ہو کر بیٹھیں گے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔“

محبوب نے پیش امام کے پاس جا کر پوچھا۔ ”یہاں سے آگے کسی شہر تک جانے کے لیے کوئی سواری ملے گی؟“
 اس نے کہا۔ ”اس بستی کا ایک آدمی شہر جا کر ٹیکسی چلاتا ہے۔ ہفتے دو ہفتے میں ادھر آتا ہے۔ اس کی ٹیکسی یہاں ہے۔ ہم ابھی اس سے بات کرتے ہیں۔“
 ٹھوڑی دیر بعد ہی وہ ٹیکسی لے کر وہاں آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے کراچی تک کسی سواری مل رہی تھی۔ ٹھوڑی دیر میں اسے وہی ٹیکسی اور وہ کچھ روز کراچی شہر میں ٹیکسی چلا کر کمانی کرنا چاہتا تھا۔

محبوب چار بچوں کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ مراد پیچھے وڈرائیو تک سیٹ پر ماہ نور مٹی کے پاس آ گیا۔ سب ہی کو آرام سے سفر کرنے کی سہولتیں حاصل ہو گئی تھیں۔ وہ گاڑیاں وہاں سے آگے چل پڑیں۔

مراد کو یوں لگ رہا تھا جیسے پہلی بار ایک حسینہ سے دل لگا رہا تھا۔ رومانس کی ابتدا اور اس کی قربت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا گفتگو کی ابتدا کیسے کرے؟ ماہ نور نے ہی ابتدا کی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ”کیا آپ دونوں بڑاواں بھائی ہیں؟“

”نہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہم ایک ہی سانچے میں ڈھل کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ ایک ارب بٹی بڑنس میں ہیں، میرے محسن ہیں۔ ایسے نیک انسان ہیں کہ انہیں صرف فرشتے ہی کہا جا سکتا ہے۔“

”اور آپ کیا کرتے ہیں؟“

اس نے جواب دینے سے پہلے سر گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہاں کچھ لڑکیاں جاگ رہی تھیں، کچھ بیٹھے بیٹھے سو رہی تھیں۔ ان میں نور بھالہ اور نواز بھی تھے۔ ان کے متعلق اس حد تک معلوم ہوا تھا کہ وہ سب تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا اس حد تک ہیں کہ روانی سے بولنے والی انگریزی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔

اس نے ماہ نور سے انگریزی میں پوچھا۔ ”کیا ہم اس لینگویج میں باتیں کر سکتے ہیں؟“
 ”میں کوشش کروں گی۔“

”اگر میں کہوں کہ میں ایک ریاست کا حکمران ہوں

تو کیا یقین کرو گی؟“
 ”میں نے آپ کو یا محبوب صاحب کوئی وی چینلز کے ذریعے دیکھا ہے۔ محبوب صاحب سے بھی کہا ہے آپ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ کے اور کتنے ہم شکل ہیں۔“
 ”چینلز کے ذریعے محبوب صاحب کا ہم شکل نظر آنے والا حکمران میں ہی ہوں۔“

”آپ اتنے بڑے حکمران ہو کر ہمارے ساتھ یہاں وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟“
 وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ”تم خود ہی سوچو وقت ضائع کر رہا ہوں یا نیکیاں کما رہا ہوں؟“

”بے شک ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں لیکن اپنی ریاست کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟“
 ”میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شریک حیات کی تلاش میں بیٹھ رہا تھا۔“

وہ بولی۔ ”تھا کا مطلب ہے، تلاش ختم ہو گئی ہے۔ وہ آپ کو مل گئی ہے؟“

”ہاں، میں اس لمحے میں اسے پروپوز کر رہا ہوں۔“
 وہ ڈراٹھک گئی۔ ڈراٹھک گئی۔ مراد نے کہا۔

”سے آئی ہے۔ آئی پروپوز یونار مانی لائف پارٹنر...“
 اس نے سر کو جھکا لیا۔ اپنے آپ میں سننے لگی۔ یہ عورت کی فطرت ہے۔ وہ بدن چرانے لگی۔

مراد نے کہا۔ ”تم شادی سے پہلے جس طرح کا تحفظ اور ضمانت چاہو گی، وہ دوں گا۔“

وہ اپنے سر پر آٹھل رکھتے ہوئے بولی۔ ”آپ ہم لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ جو نیکیاں کر رہے ہیں، یہی آپ کے حق میں بہت بڑی ضمانت ہیں۔“

”شکر یہ۔ تو پھر میں خوش ہو جاؤں کہ تمہیں اعتراض نہیں ہے؟ تم نے مجھے قبول کر لیا ہے؟“

وہ سر کے آٹھل کو سنبھالنے لگی۔ اس کی یہ ادا کہہ رہی تھی کہ قبول ہے۔ وہ بولا۔ ”ہم کراچی پہنچ کر نکاح پڑھوا دیں گے۔“

وہ بولی۔ ”آپ میزے بھائیوں کو نہیں جانتے۔ وہ بہت ظالم ہیں۔“

”ہم نے عورتوں اور بچوں کو اغوا کرنے والے ایک بھی ظالم اسمگلر کو زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ منکر تم دیکھ چکی ہو۔ وہ میرا اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ فکر نہ کرو۔“

ماہ نور پھر کچھ نہ بولی۔ وہ دن کے دس بجے کراچی پہنچ گئے۔ محبوب نے فون کے ذریعے معروف جلی کو اطلاع دی۔

”میں ابھی اپنی کوشی میں پہنچنے والا ہوں۔ آپ وہاں آجائیں۔“

معروف نے کوشی میں آکر سمیرا سے کہا۔ ”وہ ابھی آ رہا ہے۔ کیا اس نے بتایا ہے کہ دشمنوں سے کیسے نجات ملی ہے؟“

وہ یولی۔ ”صرف اتنا کہا ہے کہ مراد نے ناقابل یقین ویلیری کا مظاہرہ کیا۔ بے شمار فوجیوں کو ہلکی کاپٹرز سمیت تباہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ مراد بھی آ رہا ہے۔“

معروف نے کہا۔ ”اس نے مجھ سے کہا ہے کہ چار لڑکیاں اور چھ کم سن لڑکے ملک سے باہر اسمگل ہونے والے تھے۔ انہیں اسمگلروں سے نجات دلا کر یہاں لا رہے ہیں۔ میں ان سب کو ان کے گھروں میں یا کسی فلاحی ادارے میں پہنچانے کے انتظامات کروں گا۔“

ان کی باتوں کے دوران ہی وہ ایک پھیر و اور ایک فیکسی میں آگئے۔ معروف جلی نے فلاحی مقاصد کے لیے اور دینی معاملات میں مالی امداد دینے کے لیے چند کارکنوں کی ایک ٹیم بنائی تھی۔ اس نے ان کارکنوں کو بلا کر ہدایت کی کہ جن لڑکیوں کے والدین یہاں آکر انہیں لے جائیں تو انہیں جانے دو۔ ورنہ انہیں فلاحی ادارے میں پہنچا دو۔ چھ لڑکوں کو ان کے بتائے ہوئے پتے پر ان کے والدین کے پاس لے جاؤ۔ فور بحالہ اور نواز کے لیے حکم دیا کہ ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے۔ بغداد میں نواز کوئل میں ملازمت دی جائے گی۔

محبوب نے سمیرا سے کہا۔ ”یہ ماہ فور ہے۔ اس کا خاص خیال رکھو۔ آج شام کو مراد سے اس کا نکاح پڑھایا جائے گا۔“

اس نے کراچی پہنچنے سے پہلے ہی ماروی کو اطلاع دی تھی کہ وہ خیریت سے ہے اور مراد کے ساتھ کراچی پہنچ گیا ہے۔ نیند پوری کرنے کے بعد رات کو کسی وقت اسے کال کرے گا۔

اس نے بیڈروم میں آکر سمیرا سے کہا۔ ”مجھے نیند پوری کرنے اور ٹھکن اتارنے دو۔ پھر تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا۔“

کوشی کے باہر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کسی طرح کا اندیشہ نہیں تھا۔ سپر پاور جیسے دشمن پر دہشت طاری کر دی گئی تھی۔ مراد سے سیاسی سمجھوتا ہونے تک وہ کسی طرح کی عداوت کرنے والے نہیں تھے۔ مراد آرام اور سکون سے سونے کے لیے ریاست کے محل میں آ گیا۔ دوسرے مراد یعنی اس کے ہم زاو نے کہا۔ ”آرام سے سونے سے زیادہ اہم معاملات سے

مستشار ہوں گا۔“

پھر اس نے کہا۔ ”میں کل صبح ریاست سے چلا جاؤں گا۔ باہر کسی ملک میں اپنے لیے شریک حیات کو تلاش کروں گا۔“

مراد نے کہا۔ ”بے شک تمہیں بھی جلد سے جلد رشید ازدواج میں منسلک ہو جانا چاہیے۔ میں آج شام کو ایک شریف زادی سے نکاح پڑھوانے والا ہوں۔“

”تم تو تھیلی پر سروسو جھاتے ہو۔ تمہارے مزاج کے مطابق اتنی جلدی کہاں سے مل گئی؟“

”اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔“

وہ بیڈروم میں آکر سو گیا۔ بڑی گہری غافل کروینے والی نیند آئی۔ وہ بڑی ہی تنہکا دینے والی اعصاب شکن جدوجہد سے گزر کر آیا تھا۔ ہم زاو نے آکر اسے محبت سے دیکھا پھر اس کے سر ہانے سے فون اٹھا کر لے گیا تاکہ نیند میں مداخلت نہ ہو۔

وہ دوسرے بیڈروم میں آیا تو فون سے رنگ ٹون ابھرنے لگی۔ بلا اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے فون دبا کر کہا۔ ”درد ازہ کھولو۔ آ گیا ہوں۔“

یہ کہتے ہی وہ پلے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بشری نے دروازہ کھول کر کہا۔ ”بھائی! السلام علیکم۔“

وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ ”وعلیکم السلام۔ میں تمہارا بھائی تو ہوں لیکن بھائی کا ہم زاو ہوں۔“

پلے نے پوچھا۔ ”وہ کہاں ہے؟“

وہ ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے بولا۔ ”کچھ نہ پوچھو۔ سپر پاور کے بارہ بج کر آیا ہے۔ گہری نیند میں ہے۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے بتاؤ کیوں کال کی ہے؟ کوئی نئی پرابلم پیدا ہو رہی ہے؟“

اس نے کہا۔ ”پرابلم ہے بھی اور نہیں بھی۔ سپر پاور کے ایک اتھادی ملک کے وزیر خارجہ نے ہم سے ڈائریکٹ فون پر باتیں کی ہیں۔“

بشری نے کہا۔ ”جبکہ ہماری کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہے۔ اسے آپ سے یا بھائی سے باتیں کرنی چاہئیں۔“

ہم زاو نے پوچھا۔ ”وہ کیا کہہ رہا تھا؟“

”وہ کہہ رہا تھا کہ موجودہ حکمران مراد علی منگی نے تمام سفارت خانوں کو اپنی ریاست سے نکال کر بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہے۔ اس نے مجھ سے اور بشری سے کہا ہے کہ ہم مراد کو سمجھائیں اور جلد سے جلد ان تمام سفارت خانوں کو یہاں بحال کرائیں۔“

ہم زاو نے کہا۔ ”یہ نظام حکومت کو چلانے کی باتیں تم

سے کیوں کر رہے ہیں؟“

بشری نے کہا۔ ”انہوں نے ہمارے بارے میں بڑی معلومات حاصل کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی مراد کے دو اہم بازو ہیں اور بھائی سے ہمارے ویرینہ تعلقات ہیں بلکہ رشتے داری ہے۔ ہم بھائی کو ان کی حمایت میں سمجھا سکیں گے۔“

تپے نے کہا۔ ”قارن مسٹر کہہ رہا تھا کہ نگارا خانم نے عالمی عدالت میں مراد کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ مراد پر الزام لگایا ہے کہ وہ سابقہ ملکہ کو جبراً ریاست سے نکال کر وہاں کا خود ساختہ حکمران بن گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کرے اور اس کی ریاست اسے واپس دلانے۔ نگارا نے سپر پاور سے اور تمام بڑے ممالک سے اہل کی ہے کہ مراد عدالتی فیصلے سے انکار کرے تو تمام ممالک متحد ہو کر اس ریاست کا بائیکاٹ کریں اور اس پر فوج کشی کریں۔ تمام دشمن نگارا خانم کو مدعی بنا کر ہمارے خلاف زبردست تیاریاں کر رہے ہیں۔“

”کرنے دو۔ مراد نے پچھلے دو دنوں میں سپر پاور کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ جب تک وہ عداوت سے باز نہیں آئیں گے ہم ان سے دوستی اور سمجھوتہ نہیں کریں گے۔“ ایسے ہی وقت رنگ ٹون ابھرنے لگی۔ ہم زاو نے فحشی سی اسکرین کو دیکھ کر کہا۔ ”سپر پاور کا کوئی عہد بیدار ہے۔“ اس نے ہن کو دبا کر اسے کان سے لگا کر کہا۔ ”ہیلو۔ میں مراد علی منگلی بول رہا ہوں۔“

اس نے کہا۔ ”ہز ہائی نس! پچھلی رات میری آپ سے بات ہوئی تھی۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ آپ مسٹر محبوب کے ساتھ کراچی پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہم کس قدر باخبر رہتے ہیں۔ کراچی میں یا دنیا کے کسی حصے میں آپ یا مسٹر محبوب جاتے آتے، چھپتے اور ظاہر ہوتے رہیں گے۔ وہاں ہماری سیکرٹ سروس کے چھپے ہوئے جاسوس موجود ہیں گے۔ پلیز ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ آپ تو روپوش رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ماروی اور محبوب کو کب تک کہاں کہاں چھپاتے پھریں گے؟“

ہم زاو نے کہا۔ ”درست کہتے ہو۔ میں سوچوں گا، سمجھوں گا پھر جواب دوں گا۔“

وہ بولا۔ ”ہم جانتے ہیں کہ ماروی لندن میں ہے۔ چیلسی کے وسیع علاقے میں کہیں ہے۔ ہم جلد ہی اس کی خفیہ پتہ گاہ تک پہنچ جائیں گے۔ نہ پہنچ پائے تو اسے اس علاقے سے نکال دیا جائے گا۔“ وہاں کی تمام پولیس

فوری اور سراخ رسالوں کے پاس اینٹی میک اپ اور اینٹی کاسٹیوم کیمرے ہیں۔ ماروی میک اپ میں اور نقاب میں چھپ کر باہر آئے گی تو ہمارے کیمروں کی آنکھیں اسے کچھ کر لیں گی۔ ہم ماروی کو اور مسٹر محبوب کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ ہمارا کوئی جاسوس، کوئی شوٹران کے قریب نہیں جائے گا۔ ہز ہائی نس ہماری دوستی اور ویانت داری کی قدر کریں۔ ہم سے معاہدہ کریں اور سفارتی تعلقات بحال کریں۔“

”ہم چند اہم معاملات میں اچھے ہوئے ہیں۔ چوبیس گھنٹے کے بعد آپ سے مذاکرات کریں گے۔“

”آپ کے لیے ایک اہم اطلاع یہ ہے کہ سابقہ ملکہ نگارا خانم نے آپ کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے جلد ہی آپ کو وہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ ملکہ نے ہم سے اور دوسرے تمام بڑے ممالک سے اہل کی ہے کہ ہم ان کے حقوق واپس دلانے کے لیے آپ پر فوج کشی کریں۔“

”میری سرحد پر آنے والی فوج کا انجام بڑے ممالک دیکھ چکے ہیں۔ آئندہ بھی دیکھیں گے۔ میری نظروں میں نگارا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے سامنے اس کا ذکر نہ کریں۔“

”اوکے۔ ہم چوبیس گھنٹے تک انتظار کرتے رہیں گے۔“ رابطہ ختم ہو گیا۔ ہم زاو نے بشری اور تپے سے کہا۔ ”تم دونوں کو یہ بہت بڑی خوش خبری سناؤں کہ مراد شادی کر رہا ہے۔ آج شام کراچی میں اس کی پسند کی ایک لڑکی سے نکاح پڑھایا جائے گا۔“

بشری نے کہا۔ ”بھائی نے اتنی بڑی خوش خبری ہمیں نہیں سنائی۔ وہ کہاں ہیں؟“

”وہ محل میں آتے ہی سو گیا ہے۔ ٹھکن سے چور ہے۔ جاگنے کے بعد ضرور تم دونوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرے گا۔ میں نے اس کا یہ فون اپنے پاس رکھا ہے تاکہ کوئی اس کی نیند میں مداخلت نہ کرے۔“

وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا۔ ”میں چلتا ہوں۔ مراد جاگنے کے بعد تم لوگوں کو خوش خبری سنانے ضرور آئے گا۔“

وہ دروازے سے باہر آ کر کم ہو گیا۔ اس نے محل میں آ کر دیکھا۔ نماز ظہر کا وقت گزر رہا تھا اور وہ غافل پڑا ہوا تھا۔ ہم زاو نے اسے نہیں جگا یا۔ خود وضو کر کے بالکونی میں آ کر نماز ادا کی۔ پھر آری ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وہ ہر روز آری اور پولیس والوں کے درمیان جاتا تھا اور ان کی نظروں سے اوجھل رہ کر ان کے ڈھکے چھپے ارادوں کو سمجھتا رہتا تھا۔ اس طرح وہ چھپے ہوئے دشمنوں کو سمجھنے کے بعد

ریاست کے تمام حساس اداروں کے چھوٹے بڑے عہدیدار ہم گئے تھے۔ اسے محتاط ہو گئے تھے کہ تنہائی میں اور بند کمرے میں موجود حکمران کے خلاف سوچنے کی بھی جرات نہیں کرتے تھے۔

ریاست کے عوام مراد علی سنگی کو دل سے چاہنے لگے تھے۔ ڈھکی چھپی سازشیں اس لیے بھی نہیں ہو رہی تھیں کہ کسی ملک کا سفارت خانہ وہاں نہیں تھا۔ جو غیر ملکی ایک عرصے سے وہاں کام کر رہے تھے اور کسی طرح کی سازش میں ملوث نہیں تھے وہ عزت سے وہاں زندگی گزار رہے تھے۔

مراد کی وہ ریاست ارض اسلام اندر سے بہت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ آئندہ بیرونی سازشوں اور حملوں سے مراد کو شٹنا تھا۔ ہم زاد اس کا ایک مضبوط بازو بن گیا تھا۔ وہ عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھنے کے بعد محل میں آیا تو مراد اس وقت بھی بے خبر سو رہا تھا۔

مغرب کی نماز کے بعد اس کا نکاح ماہ نور سے پڑھایا جانے والا تھا۔ ہم زاد محبوب کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ وہ محبوب اور معروف سے کہنے آیا تھا کہ مراد بہت جھکا ہوا ہے۔ نماز عشا کے بعد نکاح پڑھایا جائے۔ اس وقت تک وہ نکاح قبول کرنے کے لیے آجائے گا۔

وہ نا دیدہ ہو کر آیا تھا۔ پہلے وہاں کے افراد کو دیکھنا اور ان کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ محبوب اور معروف جلی ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پوری کوٹھی میں دو مرد اور دو عورتیں تھیں۔ اس نے بیڈ روم میں آ کر سیر اور ماہ نور کو دیکھا۔ سیر ماہ نور کو دلہن بنا رہی تھی۔ میک اپ نے ہیئر اسٹائل نے اور بھڑکتے ہوئے ملبوسات نے ماہ نور کے حسن کو اور بھڑکا دیا تھا۔

ہم زاد دم بخود ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ دل بے اختیار اس کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا..... "یا خدا..... ایہ کیسا پاگل کر دینے والا حسن ہے۔ کیسی من موہنی سی صورت ہے۔ میں تو پاگل ہو رہا ہوں۔"

اس نے بالکل قریب آ کر کبھی سامنے سے کبھی دائیں بائیں مختلف زاویوں سے اسے دیکھا۔ وہ سحر زدہ ہونے لگا۔ بالکل قریب ہو کر دل کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنوں سے لگا لے۔

وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے دور ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ سوچنے لگا۔ آخر وہ ہم زاد تھا۔ کبھی پاز پٹو بھی بھیجی سوچ رکھنے والا تھا۔ وہ بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ بند دروازے کو دیکھنے

مہجلیں

اس خاتون کے بارے میں جبران کے ایک سوانح نگار نے لکھا ہے کہ یہ بوسٹن کی ایک حسین، پر جوش اور بذلہ سنج خاتون تھی۔ پورا نام ایملی ٹچل تھا لیکن پیار سے مہجلیں کے نام سے پکاری جاتی۔ جبران سے اس کی ملاقات بوسٹن ہی میں ہوئی تھی۔ سوانح نگار نے مزید لکھا ہے کہ یہ خاتون جبران کے پیچھے برس بھی گئی تھی اور وہاں اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ جبران نے انکار کر دیا تو اس نے ولبرداشتہ ہو کر اس کا مکان چھوڑ دیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔

ظلیل جبران کے بعض دوسرے سوانح نگاروں نے بھی اس کہانی کو سچ تسلیم کیا ہے لیکن چند ایک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں نام لے کر بطور خاص اس کا ذکر نہیں کیا۔ جو لوگ اس کہانی کو سچ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس کے ثبوت میں دو باتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جبران نے عازم برس ہونے سے پہلے اس خاتون کی تصویر بنائی تھی اور دوسرے جبران کی ایک کتاب کا احتساب ہے جو مہجلیں کے نام ہے۔

(ظلیل جبران کے افکار پر مشتمل کتاب "روح کے آئینے سے" اقتباس)

لگا۔ اس دروازے کے پیچھے اس کی تمام آرزوئیں تمام خواہشیں دلہن بنی ہوئی تھیں۔

اس نے کوٹھی کے باہر آ کر کال بیل کے بٹن کو دیا۔ محبوب نے آ کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر بولا۔ "کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں تو تنگن سے چور ہو گیا تھا۔ گھوڑے چھ کر سو رہا تھا۔ کیا تم بھی نیند سے اٹھ کر آئے ہو؟"

وہ اندر آ کر بولا۔ "ہاں، میں بھی تنگن سے نڈھال ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی آیا ہوں۔"

اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر معروف جلی سے مصافحہ کیا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ معروف جلی نے کہا۔ "ہم مسجد میں چلیں؟"

ہم زاد نے کہا۔ "میں چھپ کر آیا ہوں۔ بے شمار لوگ مجھے کئی چینلز کے ذریعے ایک حکمران کی حیثیت سے دیکھ چکے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ لوگ ایک ریاست کے حکمران کو یہاں دیکھیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دشمن سراغ رساں بھی میری تاک میں رہتے ہیں۔"

وہ تینوں وہیں ڈرائنگ روم میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم زاد نے نماز کی نیت کرتے ہوئے کہا۔
 ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ۔ اے اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔“

اس کے ضمیر نے پوچھا۔ ”اللہ کی پاکی بیان کرنے والے! کیا تیری نیت پاک ہے؟“
 ماہ نور کے لیے دھڑکتے ہوئے دل نے کہا۔ ”ہاں۔ میں نیک نیتی سے اسے شریک حیات بنانے والا ہوں۔“
 ضمیر نے کہا۔ ”وہ مراد کی امانت ہے۔“

ہم زاد نے کہا۔ ”میں ہی مراد ہوں۔ میرے باپ کا نام دہی ہے جو اس کے باپ کا نام ہے۔ ہم ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں۔ وہ میں ہوں اور میں وہ ہوں، جو ابھی سو رہا ہے۔“
 نماز جاری تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ ”اے اللہ! مجھے صراطِ مستقیم پر چلا۔ اس راہ پر چلا جس پر تو نے انعام رکھا ہے۔ اس راستے سے بچالے جس پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔“

اللہ کیوں بچائے گا؟ جبکہ تیر خداوندی کو خود ہی پکارتے ہو۔ اس دہن کو اللہ کا انعام سمجھ رہے ہو۔ جو کمرہ فریب سے حاصل ہونے والی ہے۔ کیا ہے تمہاری نماز؟ رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے بھی خود کو جائز سمجھ رہے ہو وہ پوری نماز کے دوران میں خود کو درست ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل سینٹارہا۔

یہ خوش فہمی میں مبتلا رہنے والے نمازیوں کی فطرت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں اور بڑے یقین کامل سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لاڈلے بندے ہیں۔ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں۔ جب کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں غلطیوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں، جب بیمار پاں ان پر نازل ہوتی ہیں کہ یہ سزا میں مل رہی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ سزا کے طور پر کس طرح ان کی بیویوں اور بچوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ جان لیں کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرتا ہے۔

ہم زاد کی نماز ہو گئی۔ نماز کے ہو جانے اور نماز کے قبول ہو جانے میں فرق ہے۔ وہ سجدے کرتا رہا۔ زمین پر سر مارتا رہا۔ پھر قاضی صاحب آگے لیکن خدا جو چاہتا ہے دہی ہوتا ہے جب مراد کی قسمت میں ماہ نور کا ساتھ لکھ دیا گیا تھا تو کسے کوئی تیسرا اور میان میں آسکتا تھا۔ عین وقت پر مراد کے پاس پھر برق رفتاری سے سارے قافلے سینٹے

چلے گئے۔ ہم زاد منہ دیکھتا رہ گیا اور ماہ نور لڑکی ہو گئی۔ آخر میں ہم زاد نے جھنجھلا کر کہا۔

”میں جا رہا ہوں۔ میری سمجھ میں آرہا ہے۔ بابا صاحب تم پر مہربان ہیں۔ دہی کچھ کر رہے ہیں۔ میں فریب سے اسے حاصل نہیں کر سکوں گا۔“

وہ چلا گیا۔ ہم زاد کی یہ بات دل کو لگی کہ بابا صاحب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے پر آیا۔ پھر وہ بیچ کے سرے پر آکر بیٹھ گیا۔ پھر بولا۔ ”ماہ نور! تم نے قاضی صاحب کے سامنے نکاح قبول کیا۔ میں نے نہیں سنا۔ میں نے بھی قبول کیا تو تم نے نہیں سنا۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ میرے سامنے مجھ کو قبول کرو۔ میں تمہارے سامنے تمہیں قبول کروں گا۔“

گھونگھٹ کے پیچھے سے رس بھری مترنم آواز سنائی دی۔ ”میں ہزار بار آپ کو قبول کرتی ہوں۔ دل و جان سے آپ کو اپنا سرتاج اپنے سر کا آسمان اور بجاڑی خدا تسلیم کرتی ہوں۔ اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی میرے اول ہیں آپ ہی میرے آخر ہیں۔“

مراد گلہ ان سے ایک گلاب کا پھول لے آیا۔ اسے گھونگھٹ کے اندر پیش کرتے ہوئے بولا۔ ”رونمائی کے لیے یہ پھول قبول کرو۔ اس کے بعد میری پوری ریاست تمہارے لیے ہے۔“

ماہ نور نے پھول کو قبول کیا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر چاند سے چہرے کو دیکھا۔ چاند زمین پر اترا آئے تو اس کی چاندنی میں ضرور نہانا چاہیے۔ وہ نہا گیا۔ سرشار ہو گیا۔

☆☆☆

دوسری صبح مراد اور ماہ نور نے پاک صاف ہو کر۔۔۔۔۔۔ نماز پڑھی۔ ایک عبادت گزار کے ساتھ پوری زندگی گزارنی تھی۔ وہ پہلے ہی دن سے نماز کی عادی ہونے لگی۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے دو بھائی بہت ظالم ہیں۔ غیرت مند ہونے کے بہانے بہنوں کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ یوں انہیں ختم کر کے ان کے حصے کی جائداد ہتھیالیتے ہیں۔

مراد نے اپنا فون اسے دے کر کہا۔ ”اپنے کسی بھائی سے بات کراؤ۔ میں تمہارے تمام اندیشے دور کر دوں گا۔“
 ماہ نور نے فون لے کر نمبر سچ کیے۔ پھر اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف نکل جا رہی تھی۔ وہ بھائی صبح ویر تک سونے کا عادی تھا۔ اس نے نیند میں ہاتھ بڑھا کر لائن کاٹ دی۔ چند لمحوں کے بعد پھر رنگ ٹون چیخنے لگی۔ اس نے کان

کے اوپر تکیہ رکھ لیا۔ پھر بھی فون پکار رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ”ارے کون ہے مروو۔۔۔ کیوں نیند خراب کر رہا ہے؟“ پھر خیال آیا کہ اس نے فون اٹینڈ کرنے کا بٹن نہیں دیا ہے۔ مجبوراً ہاتھ بڑھا کر فون کو اٹھا کر بٹن دبانے کے بعد اسے کان سے لگا یا۔ پھر دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ”کون ہے؟“ جواب میں بہن کی آواز سنائی دی۔ ”او۔۔۔ میں ہوں ماہ نور۔ آپ کی بہن۔۔۔“

”یہ تو ہے۔ اتنے دنوں کے بعد فون کر رہی ہے۔ بے شرم کتنے لوگوں سے منہ کالا کیا ہے؟ ہمارا سر جھکا کر گئی ہے۔ اوہر آئے گی تو تجھے زندہ گاڑ دیں گے۔“ جواب میں مراد کی آواز سنائی دی۔ ”سائیکس اخصہ نہ کرو۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ اسے انوکھا کیا گیا تھا۔ یہ بہت شرم والی ہے۔ اس نے میرے سے شادی کی ہے۔ میں بھی منگی ہوں۔ گدھا گاڑی چلاتا ہوں۔ اچھی آمدنی ہے۔ عزت سے گزارہ ہو رہا ہے۔“

”چلو اچھا ہے۔ دیکھا رہو۔ میری نیند خراب نہ کرو۔ اسے یہاں نہ لاؤ۔ ہم اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔“ ”یہ کیسے ہونگتا ہے سائیکس؟ ابھی میرے پاس ایک گدھا گاڑی ہے۔ ماہ نور اپنی زمین جاگداو کے کروڑوں روپے لے کر آئے گی تو میں اور اس گدھا گاڑیاں خرید لوں گا۔ کراچی جیسے شہر میں ہم بھی بہت پیسے والے ہو جائیں گے۔“ وہ بڑی حقارت سے بولا۔ ”اچھا تو ماہ نور کو زمین جاگداو چاہیے۔ چینیٹی کو پر نکل رہے ہیں۔ آجاؤ یہاں زمینوں کے بدلے کروڑوں روپے ملیں گے۔“

”شکر یہ۔ آپ تو بہت اچھے ہیں۔ یہ ماہ نور خوا خواہ ڈر رہی تھی۔ میں آج شام ہی کو اس کے ساتھ آؤں گا۔“ رابطہ ختم ہو گیا۔ ماہ نور نے پریشان ہو کر کہا۔ ”ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو ایک ریاست کا حکمران بنایا ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں اس ریاست کی ملکہ کہلاؤں گی۔ آپ خوا خواہ خطرات کو دعوت نہ دیں۔“

مراد نے کہا۔ ”ماہ نور! ہماری سندھی تہذیب بہت خوبصورت ہے۔ بہت ہی جامع اور مکمل ہے۔ یہ تہذیب ہمارے پاس بزرگوں کی امانت ہے۔ جو لوگ کار و کاری کے اور قرآن مجید سے شادی کی جاہلانہ رسومات کے ذریعے ہماری تہذیب کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، ان کا سختی سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ زمین جاگداو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا فرض

میں پکارتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو کسی بھی پہلو سے کمزور نہ ہونے دیں۔ جو کمزور کر رہے ہیں، انہیں مٹا کر رکھ دیں۔ ماہ نور، ہم محبت کرنے والوں کے لیے نرم ہیں۔ ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ جیسے محبوب علی چائڈ یو ہیں اور گرمی دکھانے والوں کے لیے گرم ہیں جیسا کہ میں ہوں مرا علی منگی۔“

ماہ نور آکر اس کے سینے سے لگ گئی۔ تہذیب کے امین خود کو منوانا جانتے ہوں تو سب ہی راضی ہو کر ان کے سینے سے آکر لگ جاتے ہیں۔

دوپہر کو کھانے کی میز پر سمیرا اور محبوب کے علاوہ معروف، جٹی بھی تھا۔ مراد نے کہا۔ ”ماروی لندن میں اکیلی ہے۔ میں اس کی حفاظت کے لیے ون رات وہاں نہیں رہ سکوں گا۔ اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔“

محبوب نے کہا۔ ”میں تمہاری پریشانیوں کو سمجھ رہا ہوں۔ تم اکیلے ہو اور بیک وقت کئی محاذوں پر رہ کر جنگ لڑ رہے ہو۔“

معروف نے کہا۔ ”ماروی یہاں آئے گی تو تم مطمئن ہو کر کاروبار پر پوری توجہ دے سکو گے۔ اسے یہاں لے آؤ۔“ سمیرا نے گھور کر معروف کو دیکھا۔ وہ بوڑھا صرف کاروبار کی بقا اور سلامتی کی فکر میں رہتا تھا۔ سو کن کو اس کے سر پر لا کر بٹھانے کی بات کر رہا تھا۔

اس نے کہا۔ ”میں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہوں گی اور یہ کوئی میری ہے۔ اسے نہیں چھوڑوں گی۔“ محبوب نے کہا۔ ”وہ تمہارا حق چھیننے کے لیے نہیں آرہی ہے۔ تم دیکھ چکی ہو۔ میری ایک اور شاعر کو بھی ہے۔ ماروی وہاں رہے گی۔“

معروف نے کہا۔ ”وہ یہاں کیسے آئے گی؟ کیا دشمن رکاوٹ نہیں بنیں گے۔“

محبوب سوچ میں پڑ گیا۔ مراد نے کہا۔ ”وہاں کی ایشی جنس والوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نمرہ کے نام سے انیس عالم کی فیملی میں رہتی تھی۔“

محبوب نے کہا۔ ”ہاں اس کا شناختی کارڈ اس کا پاسپورٹ سب ہی نمرہ کے نام سے ہے۔ وہ چھپ کر نہیں آسکے گی۔“

معروف نے کہا۔ ”مراد! تم نے تمام ممالک کے سفیروں کو اپنی ریاست سے رخصت کر دیا ہے۔ اگر تم سفارتی تعلقات رکھو گے تو دشمن دوست بن کر رہیں گے۔ وہ خود ہی ماروی کو سلامتی سے یہاں پہنچاویں گے۔“

محبوب نے کہا۔ ”پھر یہ کہ ماہ نور کو اپنی ریاست میں لے جاؤ گے۔ سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے تو تم اپنی دہن کو بھی سلامتی سے وہاں لے جا سکو گے۔“

وہ سر ہلا کر بولا۔ ”مجھے یہی کرنا ہوگا۔ آپ ماہ نور کا باسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار کرائیں۔ میں تمام مالک سے باتیں کرنے کا وقت مقرر کرتا ہوں۔“

کھانے کے بعد ماہ نور اور مراد نے ایک گھنٹے تک آرام کیا۔ پھر مراد گن اور پبلٹس لے کر ماہ نور کے ساتھ محبوب کی کار میں آکر بیٹھ گیا۔ وہاں سے ڈرائیو کرتا ہوا اس کے میکے کی طرف جانے لگا۔ اس نے پوچھا۔ ”تمہیں ڈرائیو تک آتی ہے؟“

وہ بولی۔ ”ہاں آتی تو ہے لیکن میں نے کراچی کی سڑکوں پر کبھی گاڑی نہیں چلائی۔“

اس نے کراچی سے باہر آکر نیشنل ہائی وے پر گاڑی روک دی پھر کہا۔ ”میری سیٹ پر آؤ اور ڈرائیو کرو۔“

وہ ڈرائیو تک سیٹ پر آگئی۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے اعتماد سے گاڑی اشارت کر کے آگے بڑھائی۔ مراد نے کہا۔ ”میری زندگی میں آگ اور بارود کے سوا کچھ نہیں ہے۔“

”میں جانتی ہوں۔ میرا بھائی نے مجھے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں۔“

”میرے دو اہم راز ایسے ہیں جنہیں صرف ماروی اور محبوب صاحب جانتے ہیں اور آج تم جاننے والی ہو گے۔“

وہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو تھامے ڈرائیو کر رہی تھی۔ مراد نے اس کے ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ”میں وہ راز بتا رہا ہوں تم ڈرتی نہیں جاؤ گی؟“

”ایسی ڈرنے کی کیا بات ہے؟“

”گاڑی ایک کنارے کر کے روکو۔“

اس نے روک کر مراد کو دیکھا۔ مراد نے کہا۔ ”اپنے پیچھے دیکھو۔“

اس نے پیچھے دیکھا۔ مراد نے کہا۔ ”اب مجھے دیکھو۔“

اس نے سر ہٹھا کر دیکھا تو چونک گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے کم ہو گیا تھا۔ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سیٹ پر گھٹنوں کے بل اٹھ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ حیرانی سے بولی۔ ”آپ کہاں ہیں؟“

اسے برابر والی سیٹ سے آواز سنائی دی۔ ”میں تمہارے پاس ہوں۔ جہاں بیٹھا ہوا تھا، وہیں ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔“

”ہاں۔ وہ ریاست کے معاملات سنبھال رہا ہے۔“

اس نے ایک ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ مراد کے دونوں ہاتھوں میں آ گیا۔ ماہ نور ایک ذرا سہم کر بولی۔ ”یہ... یہ آپ ہیں نا؟“

”میں ہی ہوں تمہارا شوہر، تمہارا مجازی خد امراد علی منگلی۔“

”آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟“

”جب کہو گی، نظر آؤں گا۔ ابھی یہ سن لو کہ یہ جاؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین اجمیری کے وسیلے سے مجھے دو روحانی کرامات عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب چاہتا ہوں، ناویدہ ہو جاتا ہوں اور یہ لو ابھی دیدہ ہو گیا۔“

ماہ نور خوش ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ وہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا۔ ”دوسرا اہم راز یہ ہے کہ میں ایک نہیں دو ہوں۔ ایک اور مراد بالکل میرے جیسا ہے۔“

”کیا آپ کا اور بھی کوئی ہم شکل ہے؟ جیسا کہ محبوب صاحب ہیں؟“

”ہاں مگر وہ دوسرا مراد میرا اہم راز ہے۔ میری طرح ناویدہ ہو جاتا ہے۔ میرا بہت ہی مضبوط ہاتھ ہے۔ کبھی کبھی بہک جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر مثبت اور منفی سوچ ہوتی ہے۔ اس دوسرے مراد میں کبھی منفی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ غلطیاں کرتا ہے پھر سنبھل جاتا ہے۔ گاڑی آگے بڑھاؤ۔“

وہ اس سے الگ ہو کر کار اشارت کر کے آگے بڑھانے لگی۔ مراد اسے بتانے لگا کہ ہم زاد نے کیسی غلطی کی تھی اور بڑی مکاری سے اس نے ماہ نور سے نکاح پڑھوانے کی کوشش کی تھی لیکن اب وہ اس سے دور جا چکا ہے۔

ماہ نور نے کہا۔ ”میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہونے والا تھا۔ وہ پھر آئے گا تو میں دھوکا کھا جاؤں گی۔ یہی سمجھوں گی کہ آپ آئے ہیں۔“

”وہ آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔“

”مکاری کرنے والوں پر آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔“

”ماہ نور! وہ میری ذات کا ایک حصہ ہے۔ ہم کبھی کبھی شیطان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں۔ خدا کا خوف دل سے نکال دیتے ہیں لیکن شیطان کا طلسم جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم پھر راہ راست پر آ کر توبہ کرتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ میں نے غلطی کی اور میں توبہ کر کے جا چکا ہوں۔ وہ جو میں ہوں، وہ تمہارے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔“

”آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہے؟“

”ہاں۔ وہ ریاست کے معاملات سنبھال رہا ہے۔“

”ہاں۔ وہ ریاست کے معاملات سنبھال رہا ہے۔“

”ہاں۔ وہ ریاست کے معاملات سنبھال رہا ہے۔“

”ہاں۔ وہ ریاست کے معاملات سنبھال رہا ہے۔“

”ہاں۔ وہ ریاست کے معاملات سنبھال رہا ہے۔“

”ہاں۔ وہ ریاست کے معاملات سنبھال رہا ہے۔“

”چلو آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں۔“

اس نے پلٹ کر حواریوں سے کہا۔ ”جاؤ۔ گڑھا کھودو۔“

مراد نے ایک حواری کے پیچھے رہ کر بڑی حیرانی سے پوچھا۔ ”گڑھا کس لیے؟“

بخشو نے گھور کر کہا۔ ”تیری ماں کے لیے۔۔۔ ذلیل کتے! تجھے بتایا تو تھا کہ آنے والوں کی لاشوں کو چھپایا جائے گا۔“

حواری نے کہا۔ ”یاں قسم۔ میں کچھ نہیں بولا تھا۔ میرے پیچھے سے آواز آئی تھی۔“

دوسرے حواری نے اس کے سر پر چپت لگا کر کہا۔ ”کیا پیچھے سے تیرا باپ بول رہا تھا؟“

اس حواری کے ہاتھ میں پھاؤڑا تھا۔ مراد نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر گھمایا تو پھاؤڑا دوسرے حواری کے سر پر لگا۔ وہ چکرا کر گر پڑا۔ بخشو نے رائفل کے کندے سے پھاؤڑے والے کے منہ پر ہارتے ہوئے کہا۔ ”پاگل کے بچے! تو نے اسے کیوں مارا؟“

وہ ہانکھا کر زمین پر گر پڑا تھا۔ تکلیف کے باعث کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ مراد نے بخشو کے پیچھے آ کر ایک وڈیرے کو زور کی لات ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آ کر بڑے بھائی سے ٹکرا گیا۔ بڑے وڈیرے نے پوچھا۔ ”کیا ہو گیا ہے تجھے؟“

اس نے بخشو کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ ”اس کتے نے مجھے لات ماری ہے۔“

وہ اپنے دونوں کان پکڑ کر بولا۔ ”مجھ سے جیسی بھی قسم لے لو۔ میں آپ کی طرف انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا پھر لات کیسے ماروں گا؟“

مراد نے بخشو کو پیچھے سے جکڑ کر اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کدال کو گھمایا تو اس کی نوک وڈیرے کے سینے میں دھنس گئی۔ یہ ایسا حملہ تھا کہ اس کی سانس اوپر کی اوپر ہی رہ گئی۔ ویدے پھیل گئے۔ ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی۔ پھر وہ زندگی سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔

وہ بہن کے لیے گڑھا کھودنے آیا تھا۔ اب اس کے لیے قبر کھودی جانے والی تھی۔ دوسرا وڈیرا بھائی اس پر جھک گیا۔ دونوں بھائیوں نے عمر زیادہ ہونے کے باوجود شادی نہیں کی تھی۔ اس لیے بڑے بھائی کو اس کی موت کا افسوس نہیں ہوا کیونکہ مرنے والے کی زمینیں آئندہ اسے ملنے والی تھیں۔

جس حواری کے ہاتھوں سے کدال چل گئی تھی، وہ

وہ ونڈ اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ ”ہمارا گوٹھ آرہا ہے۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا ہے کہ آپ ناویدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچے گا۔“

”اب میں تم ہو جاؤں گا۔ تم اپنے میکے پہنچ کر کہو گی کہ میں ضروری کام کے باعث نہ آسکا۔ کل صبح آؤں گا۔“

کھیتوں کے درمیان ایک گچی سڑک تھی۔ اس نے گاڑی کو اس سڑک پر لاتے ہوئے کہا۔ ”یہاں سے ہماری زمینیں شروع ہوتی ہیں۔ میرا بچپن ایسے ہی کھیتوں میں گزرا ہے۔“

”کیا ایسے ماحول میں کبھی سوچا تھا کہ ایک ریاست کی ملکہ بن جاؤ گی؟“

”ہاں۔ اکثر رانی مہارانی بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تعبیر مل تو رہی ہے۔“

”میں نے کدھا گاڑی چلائے وقت کبھی نہیں سوچا تھا کہ نقدیر کتنے غذاہوں سے اور کیسے جان لیوا تجربات سے گزار کر مجھے اقتدار کی مسند پر بٹھائے گی۔“

”ایسا ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے، ایک ڈزہ اڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن غرور سے بچنے کی یہ شرط ہے کہ ڈزہ بلند چوٹی پر پہنچ کر خود کو پہاڑ نہ سمجھے۔ ہم غرور سے باز آ کر جھک سکتے ہیں۔ سجدہ کر سکتے ہیں۔ پہاڑ نہیں جھکتا۔ وہ سجدہ نہیں کرتا اس لیے زلزلے کے ایک جھٹکے سے زخمی ہو جاتا ہے۔“

ماہ نور نے اچانک بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ مراد نے پوچھا۔ ”کیا ہوا؟“

وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔ ”بھائی... دونوں بھائی آرہے ہیں۔“

مراد نے ادھر دیکھا۔ وہ بہت دور تھے۔ دوہٹے کتے وڈیرے ہاتھوں میں بندوق لیے آرہے تھے۔ ان کے پیچھے چار حواری تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کدال اور پھاؤڑے تھے۔

مراد چشم زدوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک مہنگی اور خوبصورت سی کار کو آتے دیکھ کر رک گئے تھے۔ ایک وڈیرے نے کہا۔ ”بخشو! کیا وہ اتنی مہنگی کار میں آرہے ہیں؟ مگر وہ تو ایک گدھا گاڑی والا ہے۔ کار کیسے چلائے گا؟“

بخشو نے کہا۔ ”اوا.....! یہ وہی دونوں ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی ڈور گاڑی روک دی ہے۔“

وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔ ”بھائی... دونوں بھائی آرہے ہیں۔“

مراد نے ادھر دیکھا۔ وہ بہت دور تھے۔ دوہٹے کتے وڈیرے ہاتھوں میں بندوق لیے آرہے تھے۔ ان کے پیچھے چار حواری تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کدال اور پھاؤڑے تھے۔

مراد چشم زدوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک مہنگی اور خوبصورت سی کار کو آتے دیکھ کر رک گئے تھے۔ ایک وڈیرے نے کہا۔ ”بخشو! کیا وہ اتنی مہنگی کار میں آرہے ہیں؟ مگر وہ تو ایک گدھا گاڑی والا ہے۔ کار کیسے چلائے گا؟“

بخشو نے کہا۔ ”اوا.....! یہ وہی دونوں ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی ڈور گاڑی روک دی ہے۔“

وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔ ”بھائی... دونوں بھائی آرہے ہیں۔“

مراد نے ادھر دیکھا۔ وہ بہت دور تھے۔ دوہٹے کتے وڈیرے ہاتھوں میں بندوق لیے آرہے تھے۔ ان کے پیچھے چار حواری تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کدال اور پھاؤڑے تھے۔

جانتا تھا کہ وڈیرا اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ کدال پھینک کر کھیتوں کے اندر بھاگتا چلا گیا۔

ایک وڈیرا مر گیا تھا۔ دو حواری زخمی پڑے تھے۔ تیسرا بھاگ گیا تھا۔ صرف ایک حواری رہ گیا تھا۔ وڈیرے نے پریشان ہو کر کار کی طرف دیکھا۔ وہ بہن اور بہنوئی کو ہلاک کرنے آیا تھا۔ اس کے اپنے ہی ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔

وہ آخری حواری سے بولا۔ ”اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ سب ایک دوسرے کو کیوں مار رہے تھے؟ چل کدال اٹھا اور ادھر جا کے گڑھا کھود۔ میں بہن سے نمٹ کر آتا ہوں۔“

وہ حواری کدال اٹھانے لگا تو وڈیرے نے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ کدال اس پر چلا سکتا ہے۔ وہاں کچھ ایسی ہی تاجبھ میں آنے والی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ کدال اٹھا کر دوڑ چلا گیا۔ وڈیرا تیزی سے چلتا ہوا ماہ نور کی طرف جانے لگا۔ جب وہ کار کے قریب پہنچے لگا تو مراد نے اس کی ٹانگ پر ٹانگ ماری۔ وہ کار کے اگلے حصے سے نکلنا ہوا کچی سڑک پر گر پڑا۔ ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی۔

سب پر چوٹ لگی تھی لیکن وہ قابل برواشت تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر سیدھ کھینے کھینے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ کیا چیز تھی، جو اس کے پاؤں سے نکلانی تھی؟ ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ رائفل بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ حیران ہو کر ادھر سے ادھر جاتے ہوئے اسے تلاش کرنے لگا۔ وہ زمین پر ڈھونڈ رہا تھا اور وہ آسمان سے نیکی اس کے سر پر آ کر گری تو سر چکرانے لگا۔

اس کا سر تو شراب کے نشے میں بھی چکراتا تھا۔ اس نے فوراً ہی جبک کر زمین پر پڑی ہوئی رائفل کو اٹھا لیا۔ یہ اندیشہ تھا کہ پھر گم نہ ہو جائے۔ اس نے حیرانی سے سراٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ کھنسنے سے قاصر تھا کہ زمین پر سے گم ہونے والی رائفل آسمان سے کیسے آگئی۔

اس نے سوچا کہ یہ بعد میں سمجھا جائے گا۔ پہلے ماہ نور سے نمٹا جائے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا گاڑی کے اگلے دروازے پر آیا۔ اس نے کار کے اندر اگلی پچھلی سیٹوں کو خالی دیکھ کر پوچھا۔ ”وہ کہاں ہے؟“

ماہ نور نے کہا۔ ”تجھ سے نمٹنے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے لیکن تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔“

حواری تیرے کسی کام کے نہیں رہے۔ تو گرون اڑا کر سراٹھا کر چلنے والا اوندھے منہ گرتا ہوا آیا ہے۔ اب یہ رائفل بھی تیرے کام نہیں آئے گی۔“

یہ سنتے ہی اس نے نشانے لے کر ٹریگر کو دبایا۔ ایک بار نہیں، دو بار دبایا پھر تیسری بار دبایا۔ کھٹ کھٹ کھٹ کی آواز ہوئی۔ گولی نہیں چلی۔ بددوق آسمان سے خالی ہو کر آئی تھی۔

اچانک ہی اس کے منہ پر گھونسا پڑا۔ رائفل ہاتھ سے چھوٹ گئی پھر دوسرا گھونسا پڑا۔ پھر تو گھونسوں کی اور لاتوں کی بارش ہوتی چلی گئی۔ وہ زمین پر گرتا ہوا لڑھکتا ہوا دور جا کر اٹھا پھر وہاں سے بھاگنے لگا۔ مراد نے اس کی رائفل کو اٹھا کر لوڈ کیا پھر بھاگنے والے پر گولی داغ دی۔ وہ اچھل کر گرا۔ گرنے سے پہلے اور ایک گولی لگی۔ اس نے رائفل کو ایک طرف پھینک کر ماہ نور کے پاس آ کر کہا۔ ”واپس چلو۔ ہمیں یہاں کسی نے آتے نہیں دیکھا ہے۔“

وہ واپسی کے لیے گاڑی کو موڑتے ہوئے بولی۔ ”ای نے سنا ہوگا کہ میں آ رہی ہوں۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔“

”ہم پرسوں تمہارے بھائیوں کے سوئم میں آئیں گے۔ اب تو والدہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں رہا ہے۔ تمہارے بھائیوں نے شادیاں نہیں کی تھیں۔ یونہی رنگ رلیاں مناتے رہے تھے۔ اب ان کی تمام زمینیں تمہاری ہوں گی۔“

”ہماری زمینیں سومر تل پھل پر پھیلی ہوئی ہیں۔ میں ان کی نگرانی نہیں کر سکوں گی۔ پھر یہ کہ مجھے آپ کے ساتھ ریاست میں رہنا ہے۔ بچپن کے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ میں ملکہ عالیہ بن کر رہا کروں گی۔“

”میرا مشورہ ہے، تمام زمینوں کا مختار نامہ محبوب صاحب کے نام لکھ دو۔ وہ انہیں سنبھال لیں گے۔“

”میں یہی کروں گی۔“

انہوں نے کراچی پہنچ کر محبوب اور معروف سے یہی کیا۔ محبوب کو اپنے کاروبار سے چھپر پھاڑ کر دولت مل رہی تھی۔ اس نے کہا۔ ”میں اتنی زمینیں لے کر کیا کروں گا۔ انہیں ماہ نور کے نام ہی رہنے دو۔ وقت اور حالات بدلنے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے حالات پھر بدل جائیں۔ تمہیں ریاست کو چھوڑ کر پھر پاکستان واپس آنا پڑے۔ بے شک زمینوں کو میرے حوالے کرو۔ میں انہیں کاٹھکاری کے لیے ٹھیکے پر دے دوں گا لیکن یہ ماہ نور کے نام پر ہی رہیں گی۔“

ان کے مقابلے پر نہیں آیا تھا یا چند سپاہی ہوں گے۔ انہوں نے ہماری فوج کے ہتھیاروں کے گودام میں اور کئی بڑے ٹیمپوں میں جانے کیسے چھپ کر ٹائم بم رکھ دئے تھے۔ ان ہوں نے کیے بعد دنگرے ایسے دھماکے کیے تھے کہ درجنوں فوجی اسی دم ہلاک ہو گئے۔ سیکڑوں ٹیمپوں میں آگ لگ گئی۔ اس آگ کی روشنی میں دور تک ریاستی فوج کا کوئی سپاہی دکھائی نہیں دیا تھا۔“

ایک بڑے ملک کے حاکم اعلیٰ نے کہا۔ ”یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لڑنے والا کوئی نہیں تھا اور آپ کی فوج کے سپاہی جلتے اور مرتے چلے گئے اور آخر میں بھاگ آئے؟“

ایک افسر نے کہا۔ ”ایسے کئی سوالات ہم سب کے ذہنوں میں چبھتے رہیں گے۔ اسی رات کی صبح ہونے تک ہمارے چار جنگی طیاروں نے اڑتیس سے پندرہ تیس کیس اور بلندی پر پہنچتے ہی زوردار دھماکوں سے ان سب کے پرچے اڑ گئے۔ ان طیاروں میں بھی ٹائم بم رکھے گئے تھے۔ بیچ سمندر کے آسمان پر پرواز کرنے والے تین ہیلی کاپٹر بھی اسی طرح تباہ ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مراد یا اس کے آدمی کب ہمارے فوجی اڈوں میں آتے ہیں اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر ٹائم بم رکھ کر چلے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابھی مراد لندن میں ہوتا ہے۔ ماروی کو سیکورٹی دیتا رہتا ہے۔ ایک آدھ گھنٹے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بحری جہاز میں بھی ہے اور اپنی ریاست میں بھی ہے۔ عقل کام نہیں کرتی۔ یہی بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ جادو جانتا ہے۔ اسی لیے بھی ہماری گرفت میں نہیں آتا ہے۔ جب تک ہم اس کی اندرونی خفیہ حکمت عملی کو نہیں سمجھیں گے تب تک اسے زیر نہیں کر سکیں گے اور نقصانات اٹھاتے رہیں گے۔ آج ہمیں اسی ایک سوال کا جواب معلوم کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر گھسنے کا راستہ کیسے معلوم کریں؟“

ایک نے کہا۔ ”دو ہی راستے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک راستہ سختی کا دوسرا نرمی کا۔ یا تو اسے کسی طرح گھیر کر زنجیروں میں جکڑ کر تھرڈ ڈگری اہلائی کی جائے اور اس کی خفیہ حکمت عملی معلوم کی جائے۔ یا پھر محبت سے مارا جائے۔ اس کے اندر کا مجید معلوم کیا جائے۔“

سیاست کے ایک کھلاڑی نے کہا۔ ”ہم سختی کے راستے پر چل کر بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ پھر بھی ایک پاراور اس طرح گھیرا جائے کہ اسے جوانی کا ردوائی کا موقع نہ ملے۔ اس کے ساتھ ہی دوستی اور محبت کی ایسی زنجیریں پہنائی

معروف نے کہا۔ ”مراد اتم زمین جاگداد کے معاملات میں نہ پڑو۔ سپر پاور اور بڑے ممالک سے باتیں کرو۔ ان سے سمجھوتا کرو۔ اپنی ضرورت کے مطابق سیاسی دوستی کرو۔“

رات کے دس بج رہے تھے۔ وہ دوسرے دن سیاسی معاملات سے ششٹے والا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ماہ نور کے ساتھ خواب گاہ میں آگیا پھر یو لاء۔ ”تمہیں دو گھنٹے تک تہوار ہنا ہوگا۔ میں اپنی ریاست میں جا رہا ہوں۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آ جاؤں گا۔“

وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر یو لاء۔ ”میں اپنی ریاست میں جانے اور وہاں کی ملکہ کھلانے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے بھی ایسی کرامات حاصل ہوتیں۔ میں بھی آپ کی طرح پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچ جاتی۔“

”انشاء اللہ تمہیں جلد ہی وہاں لے جاؤں گا۔ جلد ہی تمہارا پاسپورٹ اور ویزا ہم کاغذات تیار ہو جائیں گے۔“

اس نے دل سے اسے گلے لگایا۔ دل سے پیار کیا پھر پیار سے رخصت ہو گیا۔



سپر پاور اور تین بڑے ممالک کے حکمران فوج کے اعلیٰ افسران اور سیاست کے ماہر مشیر اپنے اپنے فی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ٹیپ کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور مراد اعلیٰ منشی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔

ایک بڑے ملک کے اعلیٰ حاکم نے کہا۔ ”مراد کو زیر کرنے کی خوش گہمی میں ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ہماری آرمی ریاست کی سرحد پر گئی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مراد آدھی رات کے بعد حملہ کرے گا۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اس نے چند گھنٹوں میں ہماری آرمی کے ایک سو دس جوانوں کو ہلاک کیا۔ دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے۔ جس خیمے کو ہتھیاروں کا گودام بنایا تھا، اسے پوری طرح تباہ کر دیا۔ باقی سپاہیوں کو جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔“

ایک فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا۔ ”تعب ہے مراد کی آرمی اتنے اندر تک کیسے گھس آئی کہ ہتھیاروں کے گودام کو بھی تباہ کر دیا اور ایک سو دس سپاہیوں کو بھی مار ڈالا۔ اس کے سپاہی کتنی تعداد میں تھے؟“

دو پڑتے فوجی افسر نے کہا۔ ”جو سپاہی زندہ بچ کر آئے ان کا بیان ہے کہ ریاستی فوج کا ایک بھی سپاہی

یہ سن کر سب ہی اسے مہار کہا دینے لگے۔ اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے لگے۔ اس نے کہا۔ ”شکر یہ..... میں اپنی وائف کو کراہی سے اپنی ریاست میں لانا چاہتا ہوں۔“

سپر پاور کے اعلیٰ حاکم نے کہا۔ ”آپ جب چاہیں ملکہ عالیہ کو ریاست میں لے آئیں۔ ہم بھر پور تعاون کریں گے۔ ہمارا ایک خصوصی وی آئی پی طیارہ ہڑپائی لس کو اور ملکہ کو کراہی سے ریاست تک لے جائے گا۔“

”آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنا ذاتی طیارہ استعمال کروں گا۔ کل صبح چھ بجے وہ طیارہ ریاست سے لندن جائے گا۔ وہاں سے ماروی کو لے کر کراہی جائے گا پھر کراہی سے مجھے اور میری دلہن کو لے کر ریاست پہنچے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل صبح چھ بجے سے چوبیس گھنٹوں تک لندن اور کراہی کے ایئر پورٹ کو میرے لیے اوپن رکھا جائے۔ کوئی ہم سے پاسپورٹ ویزا وغیرہ طلب نہ کرے اور نہ ہی کسٹم چیکنگ کے نام پر ہمیں روکا جائے۔“

ایک اعلیٰ حاکم نے کہا۔ ”ہم ہڑپائی لس کے کام آکر دوستی اور اعتماد کو مستحکم کریں گے۔ کل سے چوبیس گھنٹے تک لندن ایئر پورٹ کا ایک رن ونے آپ کے طیارے کے لیے خالی رہے گا۔“

سپر پاور کے ایک حاکم نے کہا۔ ”ہمیں آپ کا اعتماد حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں ابھی حکم دوں گا تو کراہی ایئر پورٹ کا ایک رن ونے آپ کے لیے خالی ہو جائے گا۔“

”میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وارننگ دیتا ہوں۔ میں پہلی بار آپ پر اعتماد کر رہا ہوں۔ میرے اعتماد کو تمہیں نہ پہنچائیے گا۔ ورنہ...“ وہ ذرا رک کر بولا۔ ”لفظ ورنہ کے بعد کچھ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔“

یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کیا پھر دوسرے ہی لمحے میں سپر پاور کے اعلیٰ حاکم کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اسکائپ پر دوسرے ممالک کے حکمرانوں سے باتیں کرنے لگا۔ ایک ملک کا حاکم کہہ رہا تھا۔ ”یہ مرا اعلیٰ منگلی بہت مغرور ہو گیا ہے۔“ دوسرے حاکم نے کہا۔ ”عورتوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مرد کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب اسے طاقت ملتی ہے تو وہ مغرور ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔“ ایک نے کہا۔ ”یہ اچھا موقع ہے۔ وہ اپنی نئی دلہن

جائیں کہ وہ آپ ہی آپ اسیر ہوتا چلا جائے۔“ ایک حاکم اعلیٰ نے کہا۔ ”کل وہ ہم سے باتیں کرے گا۔ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے سلسلے میں کڑی شرائط پیش کرے گا۔ ہم اسے مان لیں گے۔ اسی طرح ہم اس کا اعتماد حاصل کر سکیں گے۔“

دوسرے دن یہی ہوا۔ مراد کے ساتھ اسی طرح اسکائپ کے ذریعے سپر پاور سے اور چند بڑے ممالک سے مذاکرات ہوئے۔ اس نے کہا۔ ”میں آپ تمام حکمرانوں سے امید کرتا ہوں کہ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے آپ میری جائز شرائط کو تسلیم کریں گے۔ آپ حضرات یہ تسلیم کریں کہ تمام سفارت خانے درپردہ اپنے اپنے ملک کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے اندرونی رازوں تک پہنچنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور بظاہر سیاسی معاملات و دستانہ انداز میں نمٹاتے رہتے ہیں۔“

ایک حاکم نے کہا۔ ”بے شک، اکثر ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم تحریری معاہدہ کریں گے۔ اس معاہدے کی رو سے آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔“

”میں شکایت نہیں کروں گا۔ کسی بھی سفارت خانے کا کوئی بھی چھریدہ ار میری ریاست کے خلاف جاسوسی کرتا ہوا اور سازشیں کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو ہم کسی عدالتی کارروائی کے بغیر اسے گولی مار دیں گے۔“

ایک فوجی نے کہا۔ ”گولی مارنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ انہیں سازشی مجرم ثابت کریں۔“

مراد نے کہا۔ ”ہم گولی مارنے کے بعد آپ کو اطلاع دیں گے اور ثبوت پیش کریں گے۔ اس طرح آپ ان کے لیے معافی کی درخواست نہیں کر سکیں گے۔“

ان سب کو ذرا چپ لگ گئی پھر ایک نے بصد مجبوری کہا۔ ”منظور ہے۔“

دوسروں نے بھی منظور کیا۔ مراد نے کہا۔ ”آپ حضرات کے ملکوں سے جو انجینئرز ڈاکٹرز مختلف شعبوں کے کارکن اور ہنرمند اور قلمی مقاصد کی جماعتیں آئیں گی، انہیں یہاں کی شہریت دی جائے گی لیکن ان میں سے بھی جو مجرمانہ واردات کرتا ہوا پکڑا جائے گا، اسے بھی پہلے گولی ماری جائے گی پھر اس کے ملک کو اطلاع دی جائے گی۔“

سب نے منظور کیا۔ اس نے کہا۔ ”میں اپنے بارے میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ میں نے شادی کی ہے اور میری دلہن کراہی میں ہے۔“

کے ساتھ کراچی سے اپنی ریاست تک سفر کرے گا۔ اس نے آپ کے طیاروں کے اور ہیلی کاپٹروں کے پرچے۔۔۔ اڑائے تھے۔ اس کے جہاز کو بھی زمین و آسمان کے بیچ تباہ کیا جائے گا۔“

پھر یاد رکھیں، اعلیٰ حاکم نے کہا۔ ”نہیں، دو اہم باتیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم خوش فہمی میں جتلا رہے ہیں بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کا اہتمام حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں چوبیس گھنٹوں کے لیے اس سے دشمنی بھول جائیں۔ ہماری سیاسی حکمت عملی کے دور رس نتائج کو سامنے رکھیں۔ ہم اسے دوست بنا کر رفتہ رفتہ یہ راز معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح جہاز پوری فوج سے لڑتا ہے۔ اس نے کس طرح طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو نقصان میں پرواز کے دوران تباہ کیا تھا۔ ابھی یہ اہم نہیں ہے کہ اسے مار ڈالیں۔ اہم یہ ہے کہ اس کی خفیہ طاقتوں کا سراغ لگائیں۔“

وہ تھوڑی دیر تک ان کی باتیں سنتا رہا۔ یہ یقین ہو گیا کہ دشمن اس کو ماروی کو اور ترقی دین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بڑی حکمت عملی سے دوست بن کر سیاسی چالیں چلتے ہوئے اس کی شہ زوری کا راز معلوم کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔

ویسے مراد کے حالات بھی اسے دشمنوں پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ماروی کو محبوب کے پاس پہنچانا ضروری تھا۔ وہ لندن میں زیادہ عرصے تک ٹہرا نہیں رہ سکتی تھی اور وہ زیادہ عرصے تک دن رات اس کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر ماروی کو محبوب کے پاس اور ادھر ماہ نور کو اپنے ساتھ ریاست میں رکھنا ضروری تھا۔ اب تو جو ہونی ہے، وہ تو ہونے ہی والی تھی۔

☆☆☆

اس کا نام جینی جوزف تھا۔ ایسی حسین ایسی دل نشین اور ایسی اداؤں سے بھر پور تھی کہ ماڈرننگ کی دنیا میں ہمیشہ ٹاپ آف دی لسٹ رہتی تھی۔ جو بھی حسینہ عالم ہوتی ہے، حسن و جمال میں یکساں اور بے مثال ہوتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے امیر ترین لوگ بڑی سے بڑی بولیاں دیتے ہیں۔ ایسی خوش نصیب حسینا میں دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹتی رہتی ہیں لیکن جینی نے ماڈرننگ کے پہلے ہی دن سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ ناقابل فروخت ہے۔ کوئی اس کی

اس اعلان نے اس کی قدر و قیمت اور بڑھادی تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس کے لیے شجر ممنوعہ بن جاؤ تو وہ شجر تک پہنچنے کے لیے جنت سے بھی نکل جاتا ہے۔ جو لا حاصل ہو جائے، اسے حاصل کرنے کے لیے ضدی سرکش اور باغی ہو جاتا ہے۔

جینی نے لا حاصل ہو کر دل والوں کو یوانہ اور عیاش مال داروں کو ضدی بنا دیا تھا۔ وہ غصے میں کہتے تھے۔ ”وہ سالی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ بھاؤ بڑھاتی جا رہی ہے اور ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔“

کوئی کہتا تھا۔ ”اپنا بھاؤ بڑھا کر دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند شخص کی آغوش میں جائے گی اور ہمارے ارمان لگتے رہ جائیں گے۔“

اور ایسے کئی تھے جو سوچ رہے تھے کہ اسے اٹھایا جائے۔ اسے اغوا کرنے کے بعد ایک پیسا خرچ نہیں ہوگا۔ وہ مفت میں حاصل ہو جائے گی۔

یہی آسان راستہ تھا۔ دو چار دولت مند ایسے تھے جنہوں نے واردات کرنے والوں کو ہزاروں ڈالرز اور پاؤنڈز کی آفر کی تھی اور کہا تھا اسے رازداری سے اغوا کر کے ان کے رنگ محل میں پہنچا دیں۔ جو چیز مانگنے سے اور خریدنے سے بھی نہ ملے اسے چھین لیا جائے۔

اتنی بڑی دنیا میں ایک عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کو اپنے کسی آئیڈیل کے لیے محفوظ رکھے۔ جو عورت جینی کی طرح حسین دل نشین اور اداؤں سے بھر پور ہوتی ہے، وہ سب ہی کولوٹ کا مال نظر آتی ہے۔ جس میں دم خم ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اسے لوٹ لیتا ہے۔ وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔

اور یہی ہوا۔ ایک بار اسے اغوا کیا گیا لیکن اس کے نصیب اچھے تھے۔ جس گاڑی میں اسے لے جایا جا رہا تھا اس کا ایک پہیا پتھر ہو گیا تھا۔ پھر پولیس کے آنے تک واردات کرنے والے فرار ہو گئے تھے۔

تب سے وہ سہم گئی تھی۔ انجانے لوگ کال کرنے لگے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اطراف سیکورٹی مضبوط کر دی تھی لیکن شامت آتی ہے تو سیکورٹی کے درمیان سے بھی گزر کر آ جاتی ہے۔ راجڑی سوزا ہیروں کی کان کا مالک تھا۔ ڈالرز، پاؤنڈز اور یورو اس کے ہاتھوں کا میل تھے۔ وہ دونوں ہتھیاریاں رکھتا تو میل نہیں رکھتا تھا کرسی نکلتی تھی۔

وہ حسن پرست تھا اور جینی کو ہوس کی بیج پر لانے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اغوا کرنے والوں کو بہت بڑی

میں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ ایک کلونی نے پھیلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر آئی تو سب نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سروں کو جھکا لیا۔ وکنیز بڑے ادب سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر قلعے کے اندر لے آئیں۔

وہ اندر آ کر شاہی محل کی آرائش اور اس کا حسن کیا دیکھتی؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے ایک وسیع و عریض خواب گاہ میں پہنچایا گیا۔ کنیزوں نے اسے پھولوں بھری ساج کے سرے پر لا کر بٹھا دیا۔ تب اس دروازے پر ایک قد آور محکمہ کلا کلونا ٹیکر نظر آیا۔ وہ ہیروں کی کان کا مالک راجر ڈی سوزا تھا۔ اپنی مطلوبہ حسینہ عالم کو دیکھ کر خوشی سے بیسی جھلک رہی تھی۔ کالے چہرے کے درمیان سفید چمکتے ہوئے دانت کہہ رہے تھے کہ ہم چبانے کو تیار ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہی رو پڑی۔ کنیزیں سر جھکا کر باہر چلی گئیں۔ آہ! اپنا بدن کسی نہ کسی کو دیتا ہی پڑتا ہے لیکن حسین سوغات کو قبول کرنے والا کسی قابل تو ہو۔

وہ کہاں جاتی؟ بھانسنے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ہنستے ہوئے بولا۔ ”ہی ہی ہی ہی زرونی ہوئی خوف زدہ عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ باکی گاڈ..... شکار کو دوڑا دوڑا کر اس پر نہ چھو تو شکار کھینے کا مزہ ہی نہیں آتا۔“

وہ قریب آ کر اس پر جھک کر بولا۔ ”ماں قسم۔ ایسا مدہوش کرنے والا بدن پہلے نہیں دیکھا۔“ وہ ایک انگلی بڑھا کر بولا۔ ”پہلے ایک انگلی سے چھو کر دیکھتا ہوں کہ یہ تیرے رخساروں سے چسپائی ہوئی نیچے کہاں تک جائے گی؟“

اس نے انگلی اور آگے بڑھائی۔ وہ سہم کر ذرا پیچھے ہوئی۔ انگلی سرخ و سفید رخسار کے بالکل تریب پہنچ کر رک گئی۔ وہ حیران ہونے لگا۔ انگلی خود نہیں رکی تھی۔ روک ہی گئی تھی۔ اس نے اپنی کلائی کو چھو کر دیکھا تو معلوم نہ ہو سکا کہ کیسی گرفت میں ہے؟

اس نے زور لگا کر انگلی کو آگے بڑھانا چاہا اور اسے چھوٹا چاہا تو ہاتھ پھر اسی طرح رکا رہا۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ حسینہ عالم کے سامنے انسلٹ محسوس کر رہا تھا۔

وہ بہت شہ زور تھا۔ اس نے ایک جھٹکا دیا تو کلائی ناویدہ گرفت سے آزاد ہو گئی۔ وہ شدید حیرانی سے اپنی کلائی کو سہلاتے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کوئی نہیں تھا اور کلائی کسی کے ہاتھ میں آگئی تھی۔

جینی اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ یہ کالا بخار آتے

آفری تھی۔ اسے لندن سے افریقا کے شہر کوٹا پہنچانے کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی۔ بڑی مضبوط پلاننگ کی گئی۔ ایسے ہی وقت جینی کو ایک پروڈکشن کی ماڈلنگ کے لیے افریقا جانا پڑا۔ مجرموں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ وہ شوٹنگ کی خاطر آڈٹ ڈور لوکیشن میں آئی تو وہاں منظم حملہ کیا گیا۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں جینی کو اٹھا کر لے گئے۔

وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ ایک ہیرو کی درمیانی سیٹ پر بیٹھی سیاہ فام ٹیکروز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب جدید اسلحے سے لیس تھے۔ اس نے پوچھا۔ ”کون ہو تم لوگ؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟“

کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب ہی گونگے بہرے بن گئے تھے۔ وہ ہیرو ایک فور سیٹر طیارے کے پاس آ کر رک گئی۔ ان ٹیکروز نے دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ وہ باہر آئی تو اسے بندوق کے اشارے سے جہاز پر سوار ہونے کو کہا گیا۔ کوئی اس سے نہ بول رہا تھا نہ اسے ہاتھ لگا رہا تھا۔ باس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کوئی اسے ہاتھ لگا کر میلانہ کرے۔ پہلی بار وہی سرمایہ دار ڈی سوزا اسے چھوٹا چاہتا تھا۔

وہ طیارہ بلندی پر پرواز کرتا ہوا ایک گھنٹے بعد کوٹا پہنچا۔ اس شہر کے مضافات میں ایک قلعہ نما وسیع و عریض عمارت تھی۔ اس کے احاطے میں دور تک باوروی سیاہی نظر آرہے تھے۔ طیارہ ایک چھوٹے سے رن وے پر اتر گیا۔ ایک بہت مہنگی کار فورڈ فیا شاسا سے لینے آئی تھی۔ وہ طیارے سے باہر آئی تو کئی باوروی ملازم اسے سیلیوٹ کرنے لگے۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا شاہانہ استقبال کیا جا رہا تھا۔

اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے شاہانہ حسن سلوک کے نتیجے میں کوئی اس اچھوتے بدن کو ہاتھ لگائے گا جسے اب تک کسی نے چھوا نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی غیبی طاقت مل جاتی تو وہ کسی کو ہرگز چھوٹے نہ دیتی۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھتی ہوئی تھی۔ کار اس قلعے کے احاطے کے اندر آ کر ایک سمت جا رہی تھی۔ چاروں طرف بہت ہی خوبصورت باغ تھا۔ ہریالی کے ساتھ دور تک رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور دور تک مسلح سپاہیوں کی موجودگی کہہ رہی تھی کہ اس قلعے کے احاطے کے اندر نہ کوئی اجازت کے بغیر آ سکتا ہے اور نہ باہر جاسکتا ہے۔

کار قلعے کے صدر دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ کئی کنیزیں ترق ترق برق لباس میں اس کے استقبال کے لیے تھیں۔ کئی کنیزیں کلونی تھیں۔ چمکتے دیکھتے ملبوسات

آتے کیوں رک گیا ہے؟ اوگا ڈا! یہ رکا رہے۔ میرے اور قریب نہ آئے۔ مجھے بھی چھو نہ سکے۔

وہ اپنے دونوں ہاتھ حملہ کرنے کے انداز میں ادھر ادھر گھمرا ہاتھ۔ اسے پورا یقین تھا کہ کسی نے اس کی کلائی کو جکڑ لیا ہے۔ یوں پیٹریے بدل بدل کر دونوں ہاتھ گھماتا رہے گا تو کوئی اس سے مار کھا جائے گا۔

لیکن اسے پکڑنے والا نہیں تھا۔ وہ ہاتھ گھماتا رہا۔ اس نے گھور کر جینی کو دیکھا پھر کہا۔ ”میرا سر پھر گیا تھا۔ پتا نہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے تجھے چھونے کے لیے تیس لاکھ ڈالر خرچ کیے ہیں۔“

وہ اپنی آستینیں پڑھاتے ہوئے بولا۔ ”کون سا ہمارے بیچ میں آئے گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ لے لے تجھے چھو رہا ہوں۔“

اس نے چیخ کرتے ہوئے اسی انگلی کو اس کی طرف بڑھایا پھر اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ جینی سہم کر بستر کے سرے سے اتر کر دوڑ ہو گئی۔ اس کی آدمی انگلی کٹ کر قالین پر گر پڑی تھی۔ باقی آدمی انگلی سے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے زخمی ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ پھر اس نے بری طرح سہم کر جینی سے پوچھا۔ ”تم کون ہو؟ خوبصورت بلا بن کر آئی ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ تم دوچ لیڈی (جادوگرنی) ہو۔“ وہ کچھ بول نہیں پار رہی تھی۔ نگاہوں کے سامنے انگلی کے کٹنے کا منظر ایسا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور دل کو سمجھا رہی تھی۔ ”مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ دشمن کو سزا مل رہی ہے۔ یہ میرے کورے کنوارے بدن کو چھوٹا چاہتا تھا۔ اس کی انگلی کٹ گئی ہے۔ میں اپنے گاڈ سے یہی مدد مانگ رہی تھی۔ وہ مدد مجھے مل رہی ہے۔ میں نہیں ڈروں گی۔“

وہ دروازہ کھول کر چنچ رہا تھا۔ ”کم آن۔ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ یہ دوچ لیڈی ہے، اسے گرفتار کرو۔“

پورے قلعے میں ہچکل مچ گئی۔ دوڑتے ہوئے فوجی بوٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ راجر ڈی ہوزا نے کہا۔ ”اسے گن پوائنٹ پر رکھو۔ یہ دوچ لیڈی کوئی جادو دکھائے تو اسے گولی مار دو۔ مگر تمہیں، اسے زنجیروں میں جکڑ کر اس کے منہ پر اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ دو۔ پھر وہ جادو نہیں کر سکے گی۔ اسے زندہ رکھو۔ میں اسے چھو کر اسے پکڑ کر رہوں گا۔ اس کے بدن کی دجیاں اڑا کر رہوں گا۔“

جینی خواب گاہ میں ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پھر تباہی دیکھا۔ سبھی جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آئے، وہ تڑپ کر جان چلنے کے ساتھ سپاہیوں کی چنچیں ابھرنے لگیں۔

کچھ گولیاں کھا کر گرے کچھ واپس بھاگ گئے۔

گولیاں کس نے چلائیں؟ کہاں سے چلائیں؟ کچھ نظر نہیں آیا۔ جینی نے دیکھا۔ دروازہ خود بخود بند ہو کر اندر سے لاک ہو گیا تھا۔ باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔

وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر عبرانی زبان میں دعا مانگ رہی تھی۔ اسے وہی سی سرگوشی سنائی دی۔ ”ہیلوا“

وہ چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ کوئی بالکل قریب ہی تھا اور پوچھ رہا تھا۔ ”کیا مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟“

وہ انکار میں جلدی جلدی سر ہلانے لگی۔ اسے آواز سنائی دی۔ ”شاباش، حوصلہ رکھو۔ میں ان سے نمٹنے جا رہا ہوں۔“

پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ کچھ میں آیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ اس نے قالین پر کھٹنے ٹیک کر سر جھکا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ ”اوگا ڈا! پورا گرٹ مائی گاڈ! تو نے میری سلامتی کے لیے میری بہتری کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا ہے۔“

خواب گاہ کے باہر راجر ڈی ہوزا نے حیرانی سے دیکھا کہ خواب گاہ کے اندر سے فائرنگ ہوئی تھی۔ تین سپاہی مارے گئے تھے۔ باقی واپس آ کر بول رہے تھے کہ ہم کس پر گولیاں چلاتے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ وہاں بے شمار گن مین آگئے تھے۔ ایک ڈاکٹر اس کی آدمی انگلی کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ اس نے چیخ کر حکم دیا۔ ”دروازہ توڑ دو۔“

دو سپاہیوں نے دروازے کے لاک کو توڑنے کے لیے نشانہ لیا لیکن گولیاں چلانے سے پہلے خود ہی نشانہ بن گئے۔ سب ہی اپنی اپنی گن سنبھالتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گولیاں کہاں سے آ کر لگی تھیں۔

راجر ڈی ہوزا نے غصے سے کہا۔ ”سب مل کر بیک وقت فائر کرو۔ دروازے کو چھلنی کر کے گرا دو۔“

اس کی بات ختم ہوتے ہی تڑا تڑا گولیاں چلنے کی آوازوں کے ساتھ راجر ڈی ہوزا کے چاروں طرف قالین کی دجیاں اڑنے لگیں۔ وہ بوکھلا کرناچنے کے انداز میں چاروں طرف گھومنے لگا۔ چیخ چیخ کر کہنے لگا۔ ”دروازہ نہ توڑو۔ گولیاں نہ چلاؤ۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔“

اس کے چاروں طرف فائرنگ رک گئی تھی۔ تمام مسلح سپاہی دوڑتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قلعہ نمائل اندر سے خالی ہو گیا۔ صرف وہ رہ گیا تھا۔

وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بولا۔ ”او مائی گاڈ! او مائی لارڈ! میں تیرے عذاب سے ڈر گیا ہوں۔ توبہ کرتا ہوں۔ کان پکڑتا ہوں۔“

دنیا کے کسی بھی گوشے میں اور ملک میں



رسالے حاصل کیے
جاسوسی ڈائجسٹ
سینس ڈائجسٹ
ماہنامہ پاکیزہ ماہنامہ سرگزشت

یا قاعدہ کی سے ہر ناخوشگوار عمل کریں اسے دروازے پر

ایک رسالے کے لیے 12 ماہ کا زر سالانہ
 (بشمول رجسٹرڈ ڈاک خرچ)

پاکستان کے کسی شہر یا گاؤں کے لیے 800 روپے

امریکا، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے 9,000 روپے

بقیمت مالک کے لیے 8,000 روپے

آپ ایک وقت میں کئی سال کے لیے ایک سے زائد
 رسائل کے خریدار بن سکتے ہیں۔ رقم اسی حساب سے
 ارسال کریں۔ ہم فوراً آپ کے دیے ہوئے پتے پر
 رجسٹرڈ ڈاک سے رسائل بھیجنا شروع کر دیں گے۔

بینک کی طرف سے پیسے یا ادائیگی کے لیے بہترین تحفہ بھی ہو سکتا ہے

یورپ، ملک سے قارئین صرف ویسٹرن یونین یا منی گرام کے
 ذریعے رقم ارسال کریں۔ کسی اور ذریعے سے رقم بھیجنے پر
 ہماری بینک فیس عائد ہوتی ہے۔ اس سے گریز فرمائیں۔

زابطہ: شہر عباس (فون نمبر 0301-2454188)

جاسوسی ڈائجسٹ پبلی کیشنز

C-63 فیز 111-یکسٹینشن ڈیفنس او سٹنگ اتھارٹی مین کورنگی روڈ، کراچی
 فون: 021-35895313 فیکس: 021-35802551

وہ دونوں کالوں کو پکڑتے ہوئے بولا۔ ”میں جینی
 جوزف کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اسے جہاں سے انخوا کرایا
 تھا وہیں اسے پہنچا دوں گا۔“

یہ تماشے کرنے والا ہم زاد تھا۔ وہ ماہ فور کو ہارنے
 کے بعد ایک حسین دلہن کی تلاش میں نکلا تھا۔ تلاش یار میں
 اس کا دل جینی کے پاس آ کر ٹپک گیا تھا۔

اس نے جینی کے پاس آ کر کہا۔ ”راستہ صاف ہو گیا
 ہے۔ دروازہ کھولو۔ باہر راجر کھڑا ہوا ہے۔ اس سے بولو وہ
 تمہارے ساتھ چلتا ہوا بھیجے میں بیٹھے گا اور تم جہاں
 چاہتی ہو تمہیں وہاں پہنچائے گا۔ اس دوران تمہیں کوئی
 نقصان پہنچانا چاہیے گا تو وہ اپنی طرف آنے والی اندھی
 گولیوں کا نشانہ بن جائے گا۔“

وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ راجر نے اسے دیکھتے ہی
 دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک دیے۔ اپنے کالوں کو پکڑتے
 ہوئے بولا۔ ”مجھے معاف کر دو۔ تمہیں جہاں سے لایا گیا
 ہے، میرے آدمی تمہیں وہیں پہنچا دیں گے۔“

وہ بولی۔ ”کوئی نہیں۔ صرف تو میرے ساتھ یہاں
 سے جائے گا۔ چل میرے آگے آگے چل۔“

وہ اس کے آگے آگے چلتا ہوا محل کے باہر آیا۔ پھر
 ڈرائیور سے بولا۔ ”میں طیارے کے پاس لے چلو۔“

جینی نے سختی سے کہا۔ ”ڈرائیور نہیں۔ تو گاڑی
 چلائے گا۔ چل میرے لیے دروازہ کھول۔“

اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر ایک تابعدار کی طرح
 جھک کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک ملکہ کی شان کے
 ساتھ چلتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے ڈرائیور تک
 سیٹ پر آ گیا۔ کار کو اسٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگا۔

وہ خوشی سے پھولی نہیں ہمار ہی تھی۔ اس نے تمہارہ کر
 اس طاقتور شخص کو شکست دی تھی جو بیروں کی کان کا مالک
 تھا۔ جس کے وسیع و عریض قلعے کے اندر بے شمار مسلح سپاہی
 تھے۔ ان میں سے کئی سپاہی مارے گئے تھے۔

وہ تمہا بے یار و مددگار عورت کی طرح بڑی بے بسی
 سے اپنی آبرو لٹنے کا تماشا دیکھنے آئی تھی۔ اب کنوارے بہن
 کی سلامتی کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ اس نے ایسی فتح و
 کامرانی کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔

جب وہ طیارے میں جا کر بیٹھی تو اچانک اس کے
 ساتھ والی سیٹ پر ایک بڑا سا بیگ آ گیا۔ راجر اس سے دور
 ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جہاز فضا میں بلند ہو کر ایک مخصوص
 رفتار سے چلا رہا تھا۔ اس نے بیگ کی زپ کو ہٹا کر دیکھا تو

READING

اندرا میرے جگمگ رہے تھے۔ ہم زادانہیں محل کے سیف سے نکال کر لایا تھا۔

وہ خوشی سے جھوم گئی۔ اسے زیر لب پکارا۔ "میرے محسن! میرے محافظ! میری آبرورکننے والے! تم کہاں ہو؟" اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے دل میں سوچا کہ وہ راجہ کی موجودگی میں نہیں بولے گا۔

وہ چپ ہو گئی۔ سوچنے لگی۔ یہ فرشتہ کون ہے؟ میری مدد کرنے اچانک کہاں سے آ گیا ہے؟ اور گاڈا! اگر یہ میرے ساتھ رہے۔ کبھی نہ جائے تو مجھ پر یہی نظر رکھنے والوں کو کتنی کا ناچ مچا دوں گی۔ میں ابھی تک حیران ہو رہی ہوں کہ ایک فوج رکھنے والے ظالم عیاش نیکرو کو میں نے شکست دی ہے۔ میں اپنے محسن پر قربان ہو جاؤں۔ اس کے قدموں کی وصول بن جاؤں۔"

وہ جلد از جلد تنہائی چاہتی تھی۔ اس سے دل کھول کر باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک کھنڈر بعد اشتہاری ظلم شوٹ کرنے والوں کے درمیان آ گئی۔ سب نے حیرانی سے پوچھا۔ "وہ کون لوگ تھے؟ تمہیں کہاں لے گئے تھے؟" اس نے جواب دیا۔ "وہ جو بھی تھے، میں انہیں اچھا سبق سکھا کر آئی ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گی۔ بہت تھک گئی ہوں۔ تنہائی چاہتی ہوں۔"

وہ بیگ اٹھا کر ہونٹ کے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اندر سے بند کر کے بولی۔ "تم تو بند کمرے میں بھی آ جاتے ہو۔ پلیز آ جاؤ، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔"

اسے جواب نہیں ملا۔ وہ موجود تھا۔ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا اسے بڑی لگن سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسی تھی کہ دیکھتے رہو پھر بھی دل نہیں بھرتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر خاموش تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ چینی کے دل میں اور شدت سے اس کی طلب پیدا ہوتی رہے۔ وہ بند دروازے کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ "شاید میں دروازہ بند کر کے غلطی کر رہی ہوں۔ اسے کھلا رکھنا چاہیے۔"

اس نے اٹھ کر دروازے کو کھول دیا۔ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ "آ جاؤ۔ کچھ بولو۔ تمہاری آواز سننے کے لیے یہ دل پاگل ہو رہا ہے۔ پلیز آ جاؤ۔"

وہ تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی پھر اس نے مایوس ہو کر دروازے کو بند کر دیا۔ زیر لب بڑبڑائی۔ "کیا وہ جا چکا ہے؟ اب نہیں آئے گا؟ کیا وہ نیکی کا فرشتہ تھا؟ اس نے ایک لمحے مجھے بچایا اور جب برا وقت گزر گیا ہے تو

نیکی کو دریا میں ڈال کر چلا گیا ہے۔ کیوں چلا گیا ہے؟ اور نو۔ نو مائی گاڈا! اسے نہیں جانا چاہیے۔ واپس آ جانا چاہیے وہ نہیں آئے گا تو میرا سکون برباد ہو جائے گا۔"

ہم زاد نے دروازے کے پاس آ کر دستک دی۔ اس نے ناگواری سے دروازے کو دیکھا۔ وہ کسی سے ملتا اور باتیں کرنا نہیں چاہتی تھی۔

اس نے دروازے کے باہر جا کر آواز دی۔ "میں ہوں۔ کیا اندر آ سکتا ہوں؟"

وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ تیزی سے چلتی ہوئی دروازہ کھولنے آئی تو پیچھے سے آواز سنئی دی۔ "میں اندر آ گیا ہوں۔" اس نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا۔ ہم زاد نے کہا۔ "افسوس مجھے کبھی دیکھ نہیں سکو گی۔"

"تم کون ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں دیکھ سکوں گی؟"

"میں کوئی جن بھوت نہیں ہوں۔ انسان ہوں لیکن اپنی

پیدائش کے پہلے دن سے ہی ناویدہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوں؟ یوں سمجھ لو کہ قدرت کا تماشا ہوں۔ یہ تماشا نظر نہیں آتا ہے۔ نظر نہ آ کر بھی تماشے دکھانا رہتا ہوں۔"

"تم اچانک میری مدد کرنے کیسے آ گئے؟ کیا مجھے پہلے سے جانتے تھے؟"

"ہاں۔ تمہیں ایفل ٹاور کے گارڈن میں دیکھا تھا۔

تمہیں دیکھتے ہی یہ دل تمہیں چھونے کے لیے ٹپک گیا۔ میں چہرہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا تو تم مجبور ہو جاتیں لیکن میں نے کسی عورت پر کبھی چہرہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو آج تک ہاتھ لگایا ہے۔ میں تمہارے کام آ کر تمہارا دل جیتنا چاہتا تھا۔ مجھے جلد ہی یہ موقع مل گیا اور آج تمہارے کام آ گیا۔ مجھے سچ بتاؤ، کیا میں تمہارا دل جیت رہا ہوں؟"

وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ "تم

نے مجھے سر سے پاؤں تک جیت لیا ہے۔ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گی۔ وعدہ کرو، مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔"

"یہ میں پہلے سے کہہ دوں کہ دن رات تمہارے

ساتھ نہیں رہ سکوں گا لیکن آتا جاتا رہوں گا۔ تم جیسے ہی فون

پر مس کال دو گی، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔"

"یہی بہت ہے کہ کال کرتے ہی تم آ جاؤ گے۔"

"کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟"

وہ سر جھکا کر شرمانے لگی۔ وہ قریب ہو کر بولا۔ "میں

نظر نہیں آ رہا ہوں۔ تمہیں ہاتھ لگاؤں گا تو شاید تم ڈر جاؤ گی۔ پہلے تم مجھے چھو کر میرے وجود کا یقین کرو۔"

چینی نے جھپکتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ اس

وقت ضرورت ناویدہ ہو جایا کرتا ہے۔

پھر سپر پاور اور تمام بڑے ممالک کی سمجھ میں آجاتا کہ مراد چاہا ہو کہ پوری فوج کو کس طرح مار بھگاتا ہے اور ان کے طیارے اور ہیلی کاپٹر کس طرح پرواز کے دوران میں تباہ ہو چکے ہیں۔ ایک یہودی حسینہ تمام رازوں کو طشت ازہام کر دیتی۔ اس پہلو سے ہم زادنہ و اشمندی کا ثبوت دیا تھا۔

☆☆☆

محبوب نے فون کے ذریعے ماروی سے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح نو بجے لندن ائر پورٹ کے پرائیویٹ رن وے کے شیڈ میں پہنچ جائے اور ریاست سے آنے والے طیارے میں بیٹھ جائے۔ دشمنوں سے بھڑکتا ہو چکا ہے۔ وہ کسی طرح کا امدیشہ نہ کرے۔ پھر یہ کہ مراد بڑی رازداری سے اس کا ہم سفر رہے گا۔

ریاست کے حکمران مراد علی سنگی کا طیارہ صبح چھ بجے وہاں سے روانہ ہوا۔ طیارے میں پائلٹ کو پائلٹ اسٹیوارڈ اور دو گن مین تھے۔ مراد کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ تین گھنٹے میں لندن پہنچے۔ ماروی رن وے کے شیڈ میں ٹیلی فون پر محبوب سے کہہ رہی تھی۔ ”ابھی ایک طیارہ رن وے پر آ کر رکا ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں کیا کروں؟“

محبوب نے کہا۔ ”گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، حوصلہ کرو۔ پرواز کے دوران فون کا رابطہ نہیں رہے گا۔ مراد تمہارا محافظ رہے گا۔“

اسی وقت مراد کی آواز سنائی دی۔ ماروی نے فوراً ہی سر کے آئینے کو گھومتے بنا کر خود کو چھپالیا۔ وہ بولا۔ ”پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ طیارے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔“

اسٹیوارڈ اور دو گن مینوں نے ماروی کا استقبال کیا۔ وہ میزبیاں چڑھ کر طیارے کے اندر چلی گئی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر اس ملک کی آری کے سپاہی اسلحے کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ماروی اور طیارے کو سیکورٹی دے رہے تھے۔

مراد نے چشم زدن میں کراچی پہنچ کر اپنے فون پر سپر پاور کے اعلیٰ حاکم سے کہا۔ ”آپ کا شکریہ۔ ابھی ماروی نے فون پر بتایا ہے کہ آپ کی آری اسے سیکورٹی دے رہی ہے اور میرا طیارہ وہاں سے قلائی کرنے والا ہے۔ میں بہت مصروف ہوں پھر کسی وقت رابطہ کروں گا۔“

وہ فون بند کر کے پھر ماروی کے پاس آ گیا۔ اس طرح سپر پاور کے اعلیٰ حاکم کو کال کر کے فون کے کوڈ نمبر کے

کے سینے سے نکرا گیا۔ وہ دوسرا ہاتھ بھی وہاں لاکر چٹان کی طرح پھیلے ہوئے سینے کو محسوس کرنے لگی۔ یہ اندازہ ہوا کہ وہ اس سے بہت اونچا ہے۔ اس کے ہاتھ دو پتھر جیسے ہاروؤں پر لگے۔ وہ قربت کا عجیب عالم تھا۔ سامنے وہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کا محسوس وجود تھا۔

پھر اس نے اپنے چہرے پر گرم سانسوں کی حرارتیں محسوس کیں۔ پھر مضموم ہوا کہ اس کے ہونٹ ایک رخسار کو چھو رہے ہیں اور وہاں سے پھسلتے ہوئے لب لعینیں پر آ گئے ہیں۔ یہ عجیب ظلم تھا۔ کوئی اس سے اس کا بدن چرا رہا تھا۔ وہ بہت پہلے اعلان کر چکی تھی کہ کوئی اس کے بدن کو چھونے کبھی نہیں آئے گا اور یہی ہو رہا تھا۔ کوئی اسے ہاتھ لگانے نہیں آیا تھا۔ اگر سر مغل ایسا ہوتا تو سبھی کہتے کہ کوئی اسے نہیں چھو رہا ہے۔ یہ تو صرف دعویٰ جان رہی تھی کہ وہ چھونے کی حد سے گزر رہا ہے۔

پھر یہ ایک اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ وہ فضا میں معلق ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاروؤں میں اسے اٹھالیا تھا۔ پیار کے ایسے مرحلے سے آج تک کوئی ایسے نہ گزری ہوگی۔ اس نے بیچ پر اسے لاکر بڑے پیار سے بچھا دیا۔

یہ گناہ ہے۔ دینی اور دنیاوی قوانین کے مطابق نکاح کے بغیر میرج سرٹیفکیٹ کے بغیر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔

لیکن وہ ہم زاد صرف پازینو نہیں تھا، نیگیٹو بھی تھا۔ صرف نیک کام نہیں کرتا تھا۔ بدی بھی کما تا تھا۔ جینی کے حسن و شباب نے اسے ورغلا یا تھا۔ جب ہوس غالب آئی تو اس نے گناہ کو جائز قرار دینے کے لیے اپنے آپ کو بچھایا۔ ”میں نے جینی سے نیکی کی ہے۔ دوسری نیکی یہ کی ہے کہ راجر جیسے ظالم ہوس پرست کے غرور کو اور اس کی فوجی قوت کو خاک میں ملایا ہے۔ لہذا انعام کے طور پر وہ جینی کا حق دار ہے۔ وہ کسی کو تو اپنا وجود دے گی پھر مجھے کیوں نہ دے؟“

اس کے اندر سوال پیدا ہوا کہ جینی کو انعام کے طور پر حاصل کرنے کے لیے اس سے نکاح کیوں نہیں پڑھا لے؟ اس نے یہ جواب دے کر نمبر کو سمجھایا کہ وہ یہودی حسینہ ہے۔ کسی دن اپنی اصلیت دکھائے گی۔ اس سے باقاعدہ ازدواجی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔

وہ جینی کے سامنے ہمیشہ ناویدہ بن کر رہنا چاہتا تھا۔ اگر اپنی صورت دکھاتا تو اس کے پیٹ میں بات نہ رہتی۔ وہ بڑے فخر سے دور تک یہ خبریں پھیلا دیتی کہ ریاست ارض اسلام کا حکیم آج مراد علی سنگی اس کی زلفوں کا اسیر ہے اور

ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کراچی میں ہے۔
جس وقت وہ طیارہ کراچی جانے کے لیے پرواز کر رہا تھا، اس وقت سپر پاور اور اس کے اتحادی ممالک کے درمیان گرم بحث جاری تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا سنہری موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ ماروی کو بحیرت کراچی جانے دیا جائے اور مراد پر کڑی نظر رکھی جائے۔ پوری طرح یہ یقین کیا جائے کہ مراد ہی اپنی نئی ذہن کے ساتھ اس طیارے میں اپنی ریاست کی طرف جا رہا ہے۔

جب یقین ہو جائے کہ وہ مراد ہی ہے تو پھر اس طیارے کو ریاست میں پہنچنے نہ دیا جائے لیکن سپر پاور کا اعلیٰ حاکم اور آرمی کے اعلیٰ افسران اتحادی ممالک کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ سیاسی حکمت عملی سے کام لیا جائے۔ مراد کو اور اس کی وائف کو بحیرت ریاست پہنچا کر اس کا اعتماد حاصل کیا جائے۔ اس طرح ہم قابل اعتماد دوست بن کر دوسرے الفاظ میں بیٹھی چھری بن کر اسے آہستہ آہستہ کاٹتے رہیں گے۔

لیکن اتحادی ممالک اتنا لمبا کھیل نہیں کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ کسی شک و شبہ کے بغیر مراد ہی ہوگا تو اسے آج ہی گرفتار کر لیا جائے۔ اسے طیارے سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ اچھی طرح زنجیروں میں جکڑنے کے بعد اسے تارچرٹل میں پہنچایا جائے۔ وہاں اس سے یہ راز اگلوایا جائے گا کہ وہ کس طرح تنہا پوری فوج کو مار بھگاتا ہے؟ اور کس طرح طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو پرواز کے دوران تباہ کر دیتا ہے؟

سپر پاور اپنے اتحادی ممالک کو ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے دباؤ میں آ رہا تھا۔ ہوا کارخ بدل رہا تھا۔ دامن دوست بنتے بنتے پھر دشمنی کی طرف کروٹ لے رہے تھے۔ ماروی کراچی پہنچ گئی۔ وہ نمرہ کے بہروپ میں تھی۔ اس کا ہتاجہرہ لندن میں کم ہو گیا تھا۔ وہاں آخری دنوں میں وہ روپوش رہا کرتی تھی۔ اسے اپنے اصلی چہرے کی طرف لوٹ آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ محبوب نے کہا تھا کہ کراچی میں پلاسٹک سرجری کے کسی ماہر سے اس کا پیدائشی چہرہ اسے واپس مل جائے گا۔ وہ معروف ججی کے ساتھ اتر پورٹ آیا تھا۔ اس نے معروف کو بتایا کہ یہی ماروی ہے۔ معروف نے اسے حیرانی سے دیکھا پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دی۔ پھر کہا۔ ”بیٹی! ہمارے درمیان اختلافات بھی رہے اور محبتیں بھی رہیں۔ اس تمام عرصے میں سب سے بڑا

کے کاروبار میں استحکام پیدا کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم یہاں مستقل محبوب کے ساتھ رہو گی تو یہ اپنے بزنس پر بھرپور توجہ دیتا رہے گا۔“
ماروی نے کہا۔ ”میں یہاں مستقل رہوں گی اور خود بزنس میں دلچسپی لیتی رہوں گی تو یہ بھی میرے ساتھ لگے رہیں گے۔“

سمیرا اس کے استقبال کے لیے نہیں آئی تھی۔ محبوب نے بھی مناسب نہیں سمجھا تھا کہ دوسو کنیں ایک دوسرے کا سامنا کریں۔ اس نے ماروی کے لیے دوسری کونٹری کی... از سر نو آرائش کی تھی۔ وہ اسے وہاں لے گیا۔

مراد کا ذاتی طیارہ رن وے کے ایک حصے میں کھڑا تھا۔ ادھر اس کے دو گن مین پہرے دار کے طور پر تھے۔ کسی اعلیٰ افسر کو بھی اس طیارے کے قریب جانے کی اجازت... نہیں تھی۔ یہ اندیشہ تھا کہ کوئی وہاں دھماکا خیز مواد رکھ سکتا ہے۔ مراد حفاظتی معاملات میں بہت محتاط تھا۔ وہ طیارے کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد محبوب کی کونٹری میں آ گیا۔

ماہ نور اس کی منتظر تھی۔ اسے ریاست کی طرف سفر کرنا تھا وہ تمام ضروری سامان پیک کر چکی تھی۔ ادھر ریاست میں پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ ریاست کی نئی ملکہ بیگم ماہ نور مراد شریف لانے والی ہیں۔ وہاں نئی ملکہ کے استقبال کی اور جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔

شام کو ماروی محبوب اور معروف ججی انہیں الوداع کہنے کے لیے اتر پورٹ میں آئے۔ ماروی نے ماہ نور کو گلے لگا کر شادی خانہ آبادی کی مبارکباد دی۔ معروف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ محبوب نے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا پھر وہ دونوں اپنے ذاتی طیارے میں آ کر بیٹھ گئے۔

سپر پاور کے اعلیٰ حاکم نے اسے فون پر مخاطب کیا۔ ”بیو لائٹ ہز ہائی لس مراد علی منگی! ہمیں پل پل کی خبر مل رہی ہے۔ ہماری آرمی آپ کو بھرپور سکیورٹی دے رہی ہے۔ آپ نے لندن اور کراچی کے اتر پورٹ میں کسی طرح کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کیا ہے اور کسی رکاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کسی بھی حال میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔“

مراد نے کہا۔ ”آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ ہمارے درمیان بہت مضبوط سیاسی اور ثقافتی تعلقات قائم ہوں گے۔ جہاز پرواز کرنے والا ہے۔ میں فون بند کر رہا ہوں۔“

سے باتیں کرتے ہوئے اسے آغوش میں لینے والا تھا۔ مراد کو دیکھتے ہی ہڑ بڑا کر اس سے دور ہو گیا۔ جینی نے پوچھا۔
”کیا ہوا؟“

وہ بولا۔ ”کچھ نہیں، مجھے فوراً جانا ہوگا۔ پھر کسی وقت آؤں گا۔“

یہ کہتے ہی وہ مراد کے ساتھ ریاست کے محل میں آ گیا۔ مراد نے اس کے ایک بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ”یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا تم نے اس سے نکاح پڑھایا ہے؟“

وہ ہلکے پاتے ہوئے بولا۔ ”وہ..... وہ بات ذرا لمبی ہے۔ تم آرام سے بیٹھو۔ میں بتاتا ہوں۔“

”میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فوراً آؤ اور دیکھو کہ میرے جہاز کو کس طرح گھیرا جا رہا ہے۔“

وہ دونوں جہاز کے ٹوائلٹ میں پہنچ گئے۔ مراد باہر آیا۔ اس کے ساتھ ہم زادنا دیدہ تھا۔ اس نے دونوں طرف کی گھڑکیوں سے جنگی طیاروں کو دیکھا۔ مراد پائلٹ کے پاس آ کر ہیلڈ فون کان سے لگا کر بولا۔ ”یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہیں جو مجھے گھیر رہے ہیں؟“

دوسری طرف سے کہا گیا۔ ”تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ ہم تمہارے پائلٹ کو حکم دے رہے ہیں۔ آگے ایک ویران علاقے میں ایک رن دے ہے۔ وہاں سے سسٹل ملنے رہیں گے۔ اسی رن دے پر تمہارے جہاز کو اتارا جائے۔ انکار کی صورت میں وہ چاروں جہاز تمہارے طیارے کو تباہ کر دیں گے۔ اپنی خیر متاؤ تم نے بلندی بہت دیکھ لی، اب کوئی مسئلہ پیدا کیے بغیر زمین کی پستی میں اتر آؤ۔“

مراد نے کہا۔ ”میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کروں گا۔ میرے طیارے کو تمہارے مطلوبہ رن دے پر اتارا جائے گا۔“

پھر وہ ماہ نور سے اور دوسرے تمام لوگوں سے دور پھپھلی ایک سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم زادنا اپنا کان اس کے قریب لے آیا۔ وہ بہت دھیمی سرگوشی میں بولنے لگا۔ جو اسے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے وقت وہ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہا ہے، اپنے رب سے مدد مانگ رہا ہے۔

ہم زادنے تمام ہدایات سننے کے بعد اپنا منہ مراد کے کان کے پاس لاکر کہا۔ ”میں یہی کروں گا، جا رہا ہوں۔“

وہ اپنا فون مراد کو دے کر مراد کا فون لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مراد ماہ نور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ

”مجھے امید ہے، یہ سرفروشاوار ہوگا اور آپ نئی دلہن کے ساتھ بٹیریت ریاست تک پہنچ سکیں گے۔“

رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ جہاز رن دے پر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہو گیا۔ ایسے وقت سپر یادر اور اس کے اتحادی ممالک کے درمیان بڑی پہلے سی بیجی ہوئی تھی۔ یہ کشش تھی کہ مراد کو گھیر کر پابند زنجیر کیا جائے یا نہیں؟

ان کے جاسوس پکھلے چوہے بیس ٹھنوں سے کراچی میں یہ دیکھتے آرہے تھے اور معلومات حاصل کرتے آرہے تھے کہ مراد اور محبوب دونوں ہم شکل کراچی میں ہیں۔ انہوں نے مراد کو کوئی دلہن کے ساتھ کوٹھی سے نکل کر اتر پورٹ آتے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے معروف نے، محبوب اور ماروی نے انہیں الوداع کہا تھا اور تازہ ترین اطلاع کے مطابق مراد اپنی ریاست میں نہیں تھا۔ وہاں نئی دلہن کے ساتھ اس کے استقبال کی اور جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔

کسی بھی پہلو سے شہیے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ہر پہلو سے یقین ہو گیا تھا کہ مراد علی منگلی ہی اپنے ذاتی طیارے میں ریاست کی طرف جا رہا ہے۔ وہ پہلی بار دشمنوں کے سامنے آنے کی غلطی کر چکا ہے۔

اس کی یہ غلطی ناقابل معافی ہوئی۔ آری کے ایک اتریں سے چارجنگی طیاروں نے پرواز کی۔ پھر ایک گھنٹے میں مراد کے ذاتی طیارے کے قریب پہنچ گئے۔ دو طیارے اس کے دائیں بائیں آگئے۔ ایک پیچھے تھا اور ایک بلندی پر مراد کے طیارے کے اوپر رہ کر پرواز کر رہا تھا۔

مراد نے گھڑکیوں سے دائیں بائیں طیاروں کو دیکھا۔ پائلٹ نے آواز دی۔ ”سر! کنٹرول ٹاور سے کہا جا رہا ہے کہ چارجنگی طیاروں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حراست میں لیا گیا ہے۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔“

مراد نے کہا۔ ”ان سے بولو میں ٹوائلٹ میں ہوں، چند منٹوں کے بعد ان سے بات کروں گا۔“

ماہ نور پریشان ہو گئی تھی۔ مراد نے اسے تھپک کر کہا۔ ”آرام سے بیٹھی رہو۔ کچھ نہیں ہوگا۔“

اس کے دونوں گن مین اور اسٹیوارڈ نے اپنی اپنی سئیں سنبھال لی تھیں۔ اس نے کہا۔ ”انہیں رکھ دو۔ یہ کسی کام نہیں آئیں گی۔ یاد رکھو، میں جب بھی حکم دوں، ان کے سامنے ہتھیار پھینک دینا۔“

یہ کہہ کر وہ ٹوائلٹ میں گیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے ہم زادنا کے پاس پہنچ گیا۔ ان لمحات میں وہ جینی

تھام کر بولا۔ ”تم نے کبھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔“

وہ بولی۔ ”مجھے اپنی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہوں۔ آپ اکیلے دشمنوں سے کیسے نمٹ سکیں گے جبکہ ہم زمین پر نہیں ہیں؟“

”میرمی فکر نہ کرو۔ تم ابھی دیکھو گی، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ انشاء اللہ ہم جلد ہی اپنی ریاست میں پہنچیں گے۔“

اسٹیوارڈ نے کہا۔ ”سر! ہم لینڈ کر رہے ہیں۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔“

وہ ماہ نور کی سیٹ بیلٹ باندھ کر پائلٹ کے پاس آ گیا۔ وہاں سے اس نے دیکھا۔ طیارہ ایک رن وے پر اتر رہا تھا۔ وہاں بڑی بڑی سولر لائٹس کے ذریعے رات روشن ہو گئی تھی۔ جہاں طیارہ آ کر رکھا، وہاں رن وے کے آس پاس سیکڑوں کی تعداد میں مسلح سپاہی موجود تھے۔ کچھ قاصدے پر ایک وسیع وعریض عمارت بھی نظر آرہی تھی۔ اس ویرانے میں وہی ایک عمارت تھی اور وہی عمارت کنٹرول ٹاور تھی۔ وہاں سے کہا گیا۔ ”ہم مراوے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔“

اس نے ہیڈ فون کان سے لگا کر کہا۔ ”ہاں بولو۔“

کنٹرول ٹاور سے پوچھا گیا۔ ”تم نے اپنے فون کا سوئچ آف کیا ہے۔ اسے آن کرو۔ سپر پاور کے کمانڈران چیف بات کریں گے۔“

مراوے نے کہا۔ ”سی ان سی سے بولو، ابھی تھوڑی دیر میں انجانے نمبر کی کال آنے والی ہے۔ اسے ریسیو کریں۔ مجھ سے باتیں ہو سکیں گی۔“

اس نے دو منٹ کے بعد ہم زاوے کے فون سے اسے کال کیا۔ سی ان سی کی آواز سنائی دی۔ ”تم کون ہو؟“

”میں وہ مراد ہوں جسے تم نے طیارے سمیت اپنے ہتھکے میں لے لیا ہے اور جس مراد سے تم فون پر باتیں کرتے رہے ہو، وہ کراچی میں تھا۔ اس نے آخری بار تم سے باتیں کر کے اپنے فون کا سوئچ آف کر دیا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ تمہیں پانچ گھنٹے بعد معلوم ہوگا۔ بہر حال تم نے دوستی کا فریب وے کر اپنے پاؤں پر کلبھاڑی ماری ہے۔ تمہیں چھ گھنٹے کے اندر یقین ہو جائے گا کہ میں مراوکی ڈمی ہوں میرے ساتھ جو عورت ہے وہ بھی ملکہ ماہ نور کی ڈمی ہے۔ مراوے کے لیے چھ گھنٹے اس لیے ضروری ہیں کہ وہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چھ گھنٹے بعد سپر پاور اور اس کے اتحادی ہانگ کان کے فوجی اڈوں پر قیامت آنے والی ہے۔“

”یوشٹ اپ۔ تم بکو اس کر رہے ہو۔ تم نے فون کی سم بدل دی ہے۔ دوسری سم سے مراوکی ڈمی بن کر بول رہے ہو۔“

”ذرا عقل سے سوچو۔ میں سم بدل کر ڈمی مراوین کر کب تک دھوکا دے سکوں گا؟ چھ گھنٹے۔ صرف چھ گھنٹے میں تم سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ میں مراد نہیں ہوں اور یاد رکھو، اس جہاز کے کسی ایک فرد کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی آئے گی یا ہمارے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی تو تمہارے اور اتحادیوں کے تمام ملکوں میں قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔“

اس وقت تمام ممالک اسکاٹلینڈ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ مراد کی یہ باتیں ان تک پہنچ رہی تھیں اور انہیں تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ الجھ گئے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کیا وہ دھوکا کھا گئے ہیں؟ ایک ڈمی مراد کو گرفتار کر رہے ہیں؟

انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ جو مراد گرفت میں آ گیا ہے اسے چھ گھنٹوں تک حراست میں رکھ کر انتظار کیا جائے اور اپنے اپنے ملک کے فوجی اڈوں کی تفرانی سخت کر دی جائے اور اگر اصل مراد حراست میں نہیں آیا ہے تو معلوم کیا جائے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟

اس نے اب سے پہلے آرمی کے سیکڑوں سپاہیوں کو ہلاک کر کے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو تباہ کر کے یہ وہشت پیدا کر دی تھی کہ وہ آئندہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے پھر جہاز میں مراد سے رابطہ کیا۔ اس سے کہا۔ ”کسی بھی طرح مراد سے ہماری بات کراؤ۔“

اس نے جواب دیا۔ ”کسی بھی طرح رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ اپنی حکمت عملی کو سمجھتا ہے۔ وہ ہم سے بھی نہیں بول رہا ہے۔ چھ گھنٹے تک انتظار کرنا ہی ہوگا۔“

فون پر کہا گیا کہ جہاز کے دروازے پر سیڑھیاں لگائی جا رہی ہیں۔ وہ سب ہتھیار سپینک کر باہر آ جائیں۔ مراد نے کہا۔ ”اس طیارے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم باہر نہیں آئیں گے۔ اگر جلد بازی کرو گے، چھ گھنٹے تک انتظار نہیں کرو گے تو بہت بچھتاؤ گے۔“

وہ جبر نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں انتظار کرنا تھا۔ دو گھنٹے گزر چکے تھے اور چار گھنٹے رہ گئے تھے۔

حیرت انگیز واقعات، سحر انگیز لمحات اور سنسنی خیز گورنیشن ایام کی دلچسپ داستان کا مزید احوال اگلے ماہ ملاحظہ فرمائیں

Downloaded From Paksociety.com

بے رنگ

مقبول حسین

جب کوئی بچہ چھوٹی چھوٹی شترازتوں سے اپنی ذہانت کو ثابت کرتے کی کوشش کرتا ہے تو بڑوں کی آنکھیں اس ذہانت میں کہیں چھپی کسی کمی کو دیکھ کر مسکرا اٹھتی ہیں لیکن... یہی کہیل جب کوئی مجرم کھیلتا ہے تو قانون اس کی تمام چالیں الٹی کر دیتا ہے کیونکہ جو کمی بچہ مصومیت میں چھوڑتا ہے ویسا ہی کوئی سقم مجرم اپنی چالاکی، پوشیاری کے باوجود سمجھ نہیں پاتا... اور پھر یہی چوک آپستہ آپستہ اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ اس بے رنگ منظر میں بھی جب وقت بے دھیرے دھیرے رنگ بھرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا۔

عزراؤتوں کی زنجیر میں لپٹا مغربی دنیا کا تحفہ

تھا کیونکہ ہم کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے۔

لیکن اس نے پھر بھی کہا۔ ”یارا آج دفتر میں اس کا فون آیا تھا۔ کہہ رہی تھی بہت ضروری بات کرنا ہے اور آج

ظاہر ہے میری رات کو میں اس کے لیے کرا چھوڑ دینے کی تجویز خوشی سے تو قبول نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مشکل کی رات کو میں ہر ہفتے کالج جاتا ہوں اور اسی لیے میں میری رات کو پڑھتا ہوں اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتا

مارچ 2016ء

209

سپینس ڈائجسٹ

READING

Section
f PAKSOCIETY

ہی رات کرنا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے، میں اس کے گھر نہیں جاسکتا۔ اس کے گھر والے مجھے پسند کہاں کرتے ہیں۔ لہذا اب یہی کمرہ جاتا ہے۔ اسے میں نے یہیں بلا لیا ہے۔ صرف ایک بار ریڈ! صرف ایک بار مجھے اجازت دے دو۔ آئندہ میں تم سے اس قسم کی درخواست نہیں کروں گا۔“

میں نے سوچا، انکار کروں مگر اس کے بعد پھر اس سے تعلقات خراب ہو جاتے اور بہر حال اسے اس کمرے پر آدھا حق تو حاصل تھا۔ ایک بات اور تھی۔ اس رات بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ لائبریری میں پڑھنے کا خیال بھی چھوڑ دوں۔ اگلے دن کلاس شروع ہونے سے پہلے کالج میں پڑھ لوں گا۔ آج رات ادھر ادھر گھوم پھر کر گزار دیتا ہوں۔

”ٹھیک ہے۔“ میں نے اس سے کہا۔ ”تو کرفیو کب نافذ ہو جائے گا؟“

”تم غلط سمجھ رہے ہو۔“ اس نے احتجاج کیا۔ ”وہ صرف بات کرنے آرہی ہے ہماری کوئی ڈیٹ نہیں ہے۔ آج اس نے کہا تھا کہ آج کی باتوں پر ہم دونوں کے مستقبل کا وارومبار ہے۔ وہ تمہاکی میں بات کرنا چاہتی ہے اور بس۔ اگر تم بھی یہاں موجود رہے تو نہ تم پڑھ سکو گے، نہ ہم بات کر سکیں گے۔ تم اس کے آنے کے بعد چلے جانا۔ میں نے تمہیں پہلے اس لیے بتا دیا ہے کہ اس کے آنے کے بعد کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ وہ ساڑھے آٹھ بجے تک آجائے گی۔“

”ساڑھے آٹھ تو بچتے والے ہیں۔“ میں نے کوٹ اور ہیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ”شاید مجھے کسی فلم کا ٹکٹ ہی مل جائے۔“ میں نے نیم ولی سے کہا۔

وہ میرے ساتھ دروازے تک آیا۔ ”تم خیال نہ کرنا ریڈ!“

اب خیال کرنے سے ہوتا بھی کیا۔ کیوں نہ میں خوش ولی سے اس پر احسان ہی دھروں..... ”چھوڑ دیجی یار!“ میں نے آنکھ مار کر کہا اور نکل آیا۔

وہ مجھے سیزمیںوں پر ملی۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مگر اتنا ذکر سنا تھا کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے۔ وہ بزرگ کی برساتی پہنے ہوئے تھی۔ میں نے ایک نظر میں ہی اندازہ کر لیا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ میں کون ہوں۔ وہ اخلاقاً مسکرائی اور بولی۔ ”اس نے میری وجہ سے

م کیا ہوگا!“

میں نے بھی اخلاقی کہا۔ ”نہیں نہیں..... میں تو ہوں بھی باہر جانے والا تھا۔“

پھر ہم شب بخیر کہہ کر اپنے اپنے راستے پر ہو لیے۔ میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اس نے یقیناً کھڑکی سے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ آرہی ہے کیونکہ لڑکی نے دستک نہیں دی تھی۔

”ہیلو! بیٹیل!“ وہ بولا۔ اس کی آواز کچھ پریشان سی تھی۔

اگلے چند گھنٹوں کے دوران مجھے ان دونوں کا کئی بار خیال آیا مگر محض اس لیے کہ ان کی وجہ سے مجھے بے آرامی ہو رہی تھی۔ اکیلے پینے کی بھی عادت نہیں ہے لہذا کسی بار میں بھی نہیں جاسکتا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کافی ہاؤس میں بیٹھ جاؤں۔

☆☆☆

ساڑھے گیارہ بج گئے تو میں نے سوچا کہ گھر چلنا چاہیے۔ آخر وہ لوگ تین گھنٹے کی تمہاکی میں بات کر چکے ہوں گے۔ اب میں مزید رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی اگر اب بھی وہاں ہوئی تو اب اسے جانا ہی ہوگا تاکہ میں گیلے جوتے اتار سکوں۔

سڑک پار کرنے سے پہلے میں نے دوسرے موڑ سے جھانک کر کھڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے ساتھی کا سایہ بھی لہراتا ہوا نظر آیا۔ لڑکی کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔

”میں تو آرہا ہوں۔ تم جانے کے لیے تیار ہو یا نہیں،“ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ”میں نے خود سے کہا۔ میرے جوتوں میں اتنا پانی بھر چکا تھا کہ ان سے چوں چوں..... چہر چوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں نے سڑک پار کی اور سڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں نے ہیٹ اتار کر ہاتھ میں لے لیا تھا تاکہ اس پر پڑی بوندیں جھٹک جائیں۔

میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر چند سیکنڈ سننے کی کوشش کی۔ میرے ساتھی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آرہی تھیں مگر یوں لگتی تھی کہ کوئی آواز نہیں تھی۔ شاید وہ چلی گئی تھی، وہ بھی کچھ جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ان چند سیکنڈ میں ہی اسے تین بار کمرے میں ادھر سے ادھر چلتے ہوئے سنا۔ یقیناً وہ ٹہل رہا تھا۔ میں نے دستک دی۔ کمرے میں سنانا چھا گیا۔ وہ دروازے تک نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سسڑی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس

کے چہرے کی تہی ہوئی جلد ڈھیلی پڑ گئی۔ دروازہ بھی پورا کھل گیا مگر میں نے اس کی ہچکچاہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔
 ”تمہاری چابی کہاں گئی جو تم نے دستک دی؟“ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔

”تم اتنے نروس کیوں ہو؟“ میں نے جواباً سوال کر دیا۔ ”چابی تو ہے مگر جب تم اندر موجود تھے تو مجھے کئی جیبوں میں تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟“
 میں اندر آ گیا اور چاروں طرف نظر دوڑائی.....
 ”تمہاری گرل فرینڈ گئی؟“

”ہاں۔ تمہارے آنے سے ذرا پہلے.....“
 ”تم بھی عجیب آدمی ہو۔ تم نے اتنی رات میں اسے اکیلے جانے دیا؟“
 ”میں نے اسے ٹیکسی میں سوار کرا دیا تھا.....“ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔

اس نے حماقت یہ کہہ کر ناگھنیں پھیلا کر ایک دوسرے پر رکھ لیں۔ اس سے اس کے جوتوں کے تلے صاف نظر آنے لگے۔ وہ خشک اور صاف تھے۔ بھلا کوئی شخص اپنی محبوبہ کو ٹیکسی دلانے جائے اور اس کے جوتے تک گیلے نہ ہوں۔
 وہ تھوٹ بول رہا تھا۔ اسے یقیناً شرم آئی ہوگی کہ میں اسے کتنا سنگ دل سمجھوں گا..... خیر میں نے نظر انداز کرتے ہوئے موزے نچوڑے مگر وہ کچھ اتنا کھن تھا کہ اسے دھیان ہی نہیں رہا۔

پتا نہیں وہ گیا سوچ رہا تھا۔ ورنہ وہ جب بھی اپنی محبوبہ سے مل کر آتا تو گھنٹوں مجھے اس کی باتیں سننا پڑتیں کہ وہ اتنی خوبصورت ہے۔ آج اس نے یہ کہا، وہ کہا یا پھر اس کی ماں کی شکایتیں کہ وہ انہیں علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مگر آج تو اس کے چہرے پر کسی اندرونی جذبے کا نقاب پڑا ہوا تھا۔ میں کوئی ماہر نفسیات یا قیافہ شناس تو تھا نہیں جو اسے سمجھ سکتا۔

وہ اسی طرح کرسی پر بیٹھا رہا..... میں نے کپڑے بدلے اور خواب گاہ میں جاتے ہوئے بولا..... ”کیا بات ہے یار؟ کیا لڑائی ہو گئی ہے؟“

اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر مجھے اس سے بھی سروکار نہیں تھا۔ وہ اچانک اٹھا اور تیزی سے اس ایک کپ بورڈ کی طرف بڑھا جہاں ہم ایک بوتل کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اس نے بوتل نکال کر اوپر کی۔ ”خالی ہے۔“
 اس نے مایوسی سے ہاتھ لٹکالیا۔

”میں ابھی ایک پیگ پی کر آتا ہوں!“ وہ بولا۔

”آخر اتنی رات گئے ایک پیگ کی کیا ضرورت ہے؟“
 ہم لوگ زیادہ پینے کے عادی نہیں تھے۔ صرف سٹیج کی رات کو پی لیتے تھے۔ اتنی رات کو ایک پیگ کے لیے باہر نکلنے کی بات بالکل نئی تھی۔ اس نے مجھ سے ساتھ چلنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ شاید اس لیے کہ میں نے کپڑے بدل لیے تھے۔ وہ کہتا تو میں ساتھ نہ جاتا۔

”میں تو سونے جا رہا ہوں.....“ میں نے ہدایت کی۔
 ”تم اپنی چابی ساتھ لے جاؤ.....“
 ”میں ابھی آیا۔ مجھے بھی فوراً سونا ہے۔“

وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا اور میں سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ مگر پھر خیال آیا تو ننگے پیر روشنی بچھانے واپس پلٹا۔ وہ اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔

کوئی چیز میرے پیر میں چھپی اور میں نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ یہ ایک کلپ تھا جس میں ہزریک کی برسائی کا نسخا سا لکڑا پھنسا ہوا تھا۔ میرے دوست کی محبوبہ کا کلپ گر گیا تھا مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود نہیں گرا تھا بلکہ اسے کھینچا گیا تھا۔ شاید وہ کسی چیز میں اٹک گیا ہو۔ میں سوچنے لگا۔ وہ اسے نکال کر ساتھ کیوں نہ لے گئی۔ میں نے اسے احتیاط سے ایک جگہ رکھ دیا اور بستر پر لیٹ گیا۔

مجھے لیٹنے کے بعد تین کروٹیں بدلتا پڑتی ہیں۔ ہر کروٹ کے درمیان پانچ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تب کہیں جا کر نیند آتی ہے اور پھر میں اپنے باپ کے لیے بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔

میری آنکھیں بند ہونے کو تھیں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے سنجی سے آنکھیں موند لیں کہ میری نیند خراب نہ ہو۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی رائگ نمبر ہوگا۔ اتنی رات گئے کسی کو ہمیں فون کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ گھنٹی بجتی رہی۔ آخر کار مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں نے اٹھ کر گاؤن پہنا اور کوستا ہوا ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ میں نے روشنی جلانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوسری طرف سے ایک عورت بول رہی تھی۔ اس کی آواز میں بیک وقت غصے اور خوف کی آمیزش تھی۔

”ذرا میری بیٹی کو بلا دو.....“ اس نے کسی القاب و آداب کا کھلف کیے بغیر کہا۔ ”وہ کہہ کر گئی تھی کہ آج آخری بار تم سے فیصلہ کن بات کر کے آئے گی اور فوراً واپس آ جائے گی۔ اس شرط پر میں نے اسے تم سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ساری رات روک کر تم اسے قائل کر لو گے تو.....“ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا اور وہ بولی۔

”تم مسٹر ڈکسن بول رہے ہونا؟“ اس نے یہ نام بھی بڑی نفرت سے لیا تھا۔

”جی نہیں! میں اسٹورٹ کار بول رہا ہوں۔ اس کا روم میٹ..... اور وہ ابھی آنے ہی والا ہے۔“

وہ سرد مہری اور نفرت فوراً خاتون کے لہجے سے غائب ہو گئی۔ صرف خوف باقی رہا۔ ”اوہ! آئی ایم سوری..... تو پھر شاید وہ جا چکی ہے اگر وہ شریف آدی ہوتا تو اسے اس وقت تک نہ روکے رکھتا بلکہ اس سے بہت پہلے گھر پہنچا دیتا۔ مجھے پریشان ہو کر فون نہ کرنا پڑتا۔“

میں نے خاتون کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ”وہ تو پون گھنٹا ہوا چلی گئی تھی۔ اب وہاں پہنچنے ہی والی ہوگی۔“

مجھے گھر آئے بہت دیر ہو چکی تھی اور ڈکسن نے کہا تھا کہ وہ میرے آنے سے ذرا پہلے گئی تھی۔ میں نے شاید غلط بات کہہ دی تھی کیونکہ وہ اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ”پون گھنٹا پہلے.....؟ تو وہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ وہاں سے یہاں تک صرف چھ بلاک کا فاصلہ ہے۔ اتنی دیر تو نہیں لگتی!“ اور میرا دوست کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ٹیکسی میں بٹھا کر آیا ہے۔

”وہ کبھی اسے اس بیگنی رات میں سڑکوں پر شہلا رہا ہوگا!“ لہجہ اور تلخ ہو گیا تھا۔ وہ شاید سوچ رہی تھی کہ ڈکسن اسے پیدل گھر کی طرف لا رہا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اسے یہ بتانا چلتی پرتیل چھڑکنا ہوگا کہ ڈکسن نے اسے اسی ٹیکسی میں بٹھا دیا تھا۔

”وہ اب آتی ہی ہوگی.....“ میں نے پھر اسے اطمینان دلانا چاہا۔

”خدا کرے جلد آ جائے.....“ وہ دھیمے سے بولی اور پھر فوراً ہی اس کی آواز بلند ہو گئی..... ”اگر وہ چھ منٹ کے اندر اندر یہاں نہ پہنچی تو میں.....“ اس نے جملہ ختم کیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔

میں نے بھی ریسیور رکھ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مجھے سونا تھا کیونکہ صبح جلدی اٹھنا تھا۔ میں فوراً بستر میں گھس گیا اور پھر جلد ہی سو گیا۔

اچانک پھر میری آنکھ کھل گئی۔ گھنٹی پھر بج رہی تھی۔ میں غنورگی کے عالم میں ہی اٹھ کر فون کی طرف بڑھا۔ اسی عورت کی آواز سن کر میری نیند فوراً غائب ہو گئی۔ اس بار اس کی آواز میں خوف ہی خوف تھا۔ ”میں جان ڈکسن سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کہاں ہے؟“

”کیا وہ اب تک نہیں پہنچی؟“ میں نے حیرت سے کہا۔

میری حیرت کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا..... ”اس کبھی نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اب تک کیوں نہیں آئی؟“ میری ایسٹیل اتنی رات گئے اپنی مرضی سے گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ تین دفعہ تو بارش میں باہر کونے تک جا کر دیکھ آئی ہوں..... اس وقت کیا بجا ہے؟“

مجھے بھی وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں سمجھا تھا، مجھے سوئے ہوئے شاید تین بجیں منٹ ہوئے ہوں گے۔ ”ایک منٹ ٹھہریے!“ میں نے یہ کہہ کر لائٹ جلائی اور گھڑی پر نگاہ ڈالی، اف خدایا! پونے تین بج رہے تھے۔ ڈکسن کو گئے بھی تین گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ ساڑھے تین گھنٹوں میں چھ بلاک کا فاصلہ طے نہیں کر سکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوں؟

”وہ..... وہ بھی باہر چلا گیا تھا کہ ابھی آتا ہوں..... وہ بھی..... نہیں پلٹا.....“ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔

گھر اسے یقین نہیں آیا..... ”وہ خود مجھ سے فون پر بات کیوں نہیں کرتا.....؟ وہ کب تک مجھ سے بیچ سکے گا؟“

خاتون کا لہجہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا..... ”مجھے اپنی لڑکی واپس چاہیے۔ میں اب پولیس کو رپورٹ کرنے جا رہی ہوں..... پولیس ہی بتائے گی کہ وہ گھر کیوں نہیں پہنچی؟“ یہ کہہ کر اس نے فون بیچ دیا۔

چند سیکنڈ بعد ہی تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور وہ اندر آیا۔

”تم کہاں تھے.....؟ تم تو صرف ایک پیگ پینے گئے تھے اور آدمی رات کر دی۔ یہاں بلا وجہ میری نیند غارت ہو رہی ہے۔“

اس کے چہرے پر جیسے ایک سایہ سا لہرا گیا..... ”کیا ہوا؟“

”ہونا کیا ہے؟ اپنی خیر مناد۔ تمہاری مجبوری ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہے۔ اس کی ماں دو ہار فون کر چکی ہے اور اب وہ پولیس میں رپورٹ درج کرانے گئی ہے۔ اب تم جلدی سے اس کا ہتالکا ڈورنہ۔“

وہ چپ کھڑا تھا..... میں بھی چپ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا۔ ”تم کم از کم اس کی ماں کو تو فون کر دو.....“

”فون کر کے کیا کروں..... وہ میری بات ہی نہیں سنے گی..... وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اس نے ہم دونوں کو جدا کرنے کی پوری کوشش کی ہے.....“

”یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لڑکی یہاں آئی تھی اور اس کی

ماں کو یہ پتا ہے۔ اگر تم اس سے بات نہیں کرو گے تو وہ نہ معلوم کیا کیا سوچ لے گی.....“

”وہ پہلے ہی سب کچھ سوچ چکی ہوگی..... میں کچھ بھی کہوں، اسے یقین نہیں آئے گا۔“

اب اس پتھر سے سر پھوڑنا حماقت تھی۔ وہ مصیبت کو خود دعوت دینے پر غلا ہوا تھا۔ میں خاموش ہو کر کن اکھیروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ پیسے ہوئے نہیں تھا..... تو وہ تین گھنٹے تک کیا کرتا رہا۔ ”تم تھے کہاں؟ میکیز میں گئے تھے کیا؟“

اس نے کچھ پورے بغیر اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہ کونے پر واقع ایک بار تھا جو رات بھر کھلا رہتا تھا مگر جب اس نے زیادہ پی بھی نہیں تھی تو وہ وہاں بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ وہ جیسے میرا سوال جان کر خود ہی بولا۔

”میں نے ایک پیگ لیا تھا۔ میں خیالات میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔“

میں کھڑکی کے قریب اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ بارش میں بھیگی ہوئی سڑک سیاہ ہو گئی تھی۔ اچانک میرا جسم تن گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے پہلے سے بتا دوں تا کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ میں نے رخ تبدیل کیے بغیر کہا..... ”ایک پولیس والا ابھی گاڑی سے اترا ہے اور اسی طرف آرہا ہے۔“

”ریڈ اٹم میرا ساتھ دینا۔“

میں ایک دم گھوم گیا..... ”ساتھ دینا کیا مطلب ہے تمہارا؟“

وہ گردن کھجانے لگا۔ جیسے اس سوال کا جواب سوچ رہا ہو۔

”اگر پولیس آکر پوچھے کہ تم نے لڑکی کو جاتے دیکھا تھا تو تم کہہ دینا کہ ہاں۔ تم کہنا کہ جب تم واپس آئے تو میں اسے ٹیکسی میں بٹھا رہا تھا۔“

”مگر یہ غلط ہے.....“ میں نے سختی سے کہا۔

”ہاں اگر تم پانچ منٹ پہلے آجاتے تو اسے جاتا دیکھ لیتے..... اگر تم یہ نہیں کہو گے تو کون کہے گا کہ وہ یہاں سے گئی ہے۔ میں خواہ مخواہ پھنس جاؤں گا۔“

مجھے اس کے جوتوں کے خشک تلے یاد آئے مگر مجھے اپنا اطمینان بھی تو کرنا تھا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے سوچا۔ اگر اس کا جواب بھی اس نے غلط دیا تو وہ میری.....

یہ سب تو بتاؤ کہ تم واقعی اسے دروازے تک چھوڑنے اور

ٹیکسی میں بٹھانے گئے تھے؟“

شاید میرا لہجہ کام کر گیا کہ اس نے صحیح جواب دے دیا۔ ”نہیں۔ میں اسے دروازے تک چھوڑنے نہیں گیا۔ مگر میں تمہیں یقین دلانا ہوں کہ وہ یہاں سے چلی گئی تھی اور ٹیکسی میں ہی گئی تھی۔“

”مگر پہلے تو تم نے کہا تھا کہ تم خود اسے ٹیکسی میں بٹھا کر آئے تھے؟“

”ہاں! مگر اس وقت معاملے کی نوعیت اتنی سنجیدہ نہیں تھی۔ دراصل مجھے تمہیں یہ بتاتے ہوئے شرم آرہی تھی کہ میں اسے چھوڑنے تک نہیں گیا..... میں کمرے کے دروازے تک گیا تھا..... وہ باہر نکل گئی۔ پھر میں نے اسے سیٹی بجا کر ٹیکسی کو بلواتے ہوئے سنا تھا۔ پھر مجھے کھڑکی سے ایک ٹیکسی کے رکنے کی آواز بھی آئی..... پھر اس نے دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی اور.....“

”ایک منٹ! تم نے اسے خود اندر بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا؟“

اس نے مجھے گھور کر دیکھا..... ”دراصل کھڑکی کے قریب میں تانخیز سے پہنچا۔ میں نے اسے جھکے ہوئے دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ ٹیکسی کے دروازے کے پینڈل پر تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی ہو سکتی تھی اور کون ہو سکتا تھا؟ ایک منٹ پہلے ہی تو وہ نکلی تھی۔ میں اس کے بعد پانچ منٹ تک کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا۔ کوئی اور باہر نہیں نکلا۔ اب تو تم کہہ سکتے ہو نا کہ جب تم آئے تو وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں صرف.....“

دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اٹکوٹھے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تب بھی اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے ایک بار درخواست کی..... ”تم میرا ساتھ دو گے؟ یولو اوو گے نا؟“

اسے یقین دہانی کی ضرورت تھی میں سوچنے لگا کہ آخر اس کی اپنی بے گناہی اسے سہارا دینے کے لیے کیوں کافی نہیں ہے اور پھر یہ پولیس والا تو محض ایک ماں کی رپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے لیے آیا تھا۔ جیسے کوئی ٹریفک والا چالان کرتا ہے۔ یا کسی گھر سے شور و غل کی آواز آئے تو تنبیہ کرنے آجاتا ہے۔ پھر ڈکسن اتنا پریشان کیوں تھا؟

پولیس والا اندر آکر اس سے سوال کر کے جواب لکھتا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا۔ ”وہ پونے بارہ بجے چلی گئی تھی..... نہیں! میں نے کہا تھا مگر اس نے کہا کہ اس کے پاس برساتی ہے اور وہ دروازے سے ہی ٹیکسی لے لے گی.....“

”وہ اس وقت یہاں موجود تھی؟“

”نہیں، اسی وقت گئی تھی۔“

”آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اسی وقت گئی تھی؟ کیا آپ نے

خود اسے جاتے دیکھا تھا یا آپ کے دوست نے بتایا تھا؟“

اب وہ دشوار گزار مرحلہ آ گیا تھا۔ اگر مجھے ڈکسن پر

اطمینان ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میں اسے خود کو نے تک چھوڑ کر

آ گیا تھا۔ جہنم میں جائے پولیس مگر مجھے خود اس کی طرف

سے تسلی نہیں تھی۔

”دیکھا تو تھا!“ میں نے محتاط لہجے میں کہا۔

”دیکھا تو تھا، سے کیا مراد ہے؟“

”دراصل میں جب کونے پر مڑا تو ایک ٹیکسی

دروازے کے آگے کھڑی تھی اور کوئی اس میں بیٹھ رہا تھا۔

اوپر کھڑکی میں ڈکسن کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔“

”آپ کو یقین ہے کہ وہی ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی؟“

”میں نے یہ تو نہیں کہا.....“ میں ڈکسن کا جہاں تک

ساتھ دے سکتا تھا، دے رہا تھا مگر میرا اپنا ضمیر بھی مجیب

ہے۔ پہلے اپنا اطمینان چاہتا ہے۔“ یہ مجھے یقین ہے کہ وہ

کوئی لڑکی تھی مگر رات اتنی اندھیری تھی کہ اس کا چہرہ نظر

نہیں آ رہا تھا۔ جب اوپر گیا تو ڈکسن نے بتایا کہ وہ ابھی گئی

ہے..... اب آپ خود تہیجاخذ کر سکتے ہیں۔“

”آپ نے اس لڑکی کو پہلے کبھی دیکھا تھا؟“

”نہیں..... کل رات پہلی بار اس سے سیزھیوں پر

ملاقات ہوئی تھی.....“

اب وہ کچھ نرم پڑا۔ یعنی اس نے سمجھ لیا کہ ایک دفعہ

دیکھنے سے کوئی چہرہ رات کی تاریکی میں پہچاننا مشکل ہے،

جبکہ بارش بھی ہو رہی ہو۔

”وہ گھر واپس کب آتا ہے؟“

وہ روزانہ اس وقت تک گھر آ جاتا تھا مگر مجھے بتانے

کی کیا ضرورت تھی۔ ”اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔“ میں

نے بے پروائی سے کہا۔ ”ممکن ہے وہ اپنی دوست کے گھر

چلا گیا ہو.....“

”ٹھیک ہے، میں اس کا انتظار کر لیتا ہوں.....“

”میں باہر جا کر کچھ کھا سکتا ہوں؟ دوپہر سے صرف

کافی پر چل رہا ہوں.....“

اس نے دوستانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا..... ”جاؤ

کار! بڑے شوق سے جاؤ.....“ مگر مجھے اس کا لہجہ پسند نہیں

آیا۔ جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی

اور سے ہے۔

اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے میز کی طرف نگاہ

ڈالی جہاں میں نے برساتی کا ٹوٹا ہوا کلب رکھا تھا..... وہ

وہاں نہیں تھا۔ میں نے ڈکسن کی طرف دیکھا..... اس نے

نظریں نیچے کر لیں۔

پولیس والے نے مجھ سے صرف ایک سوال کیا تھا.....

”آپ یہاں تھے؟“

میں نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا۔ ”نہیں!“

ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا جہاں مجھے ڈکسن نے ساتھ

دینے کے لیے درخواست کی تھی۔

وہ چلا گیا اور ہم دونوں لیٹ گئے..... میں سویا تو وہ

جاگ رہا تھا۔ چارنج رہے تھے۔ میں اٹھا تو تب بھی وہ

جاگ رہا تھا۔ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور میں جلدی

میں بھی تھا۔ میں کوٹ پہنتے ہوئے نیچے اتر گیا۔

☆☆☆

جب میں گھر آیا تو وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے

دروازہ کھولا تو اندر ایک شخص بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھا

اخبار پڑھ رہا تھا مگر میں اس کے چہرے کے تاثرات سے

بھانپ گیا کہ اس نے چابی کی آواز سن کر وہ اخبار اٹھایا

ہے۔ قالین کا ایک کونا اٹھا ہوا تھا جیسے وہ اس کے نیچے کچھ

تلاش کرتا رہا ہو.....

”کیا ہو رہا ہے؟“ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔

اس نے مجھے اپنا بیچ دکھایا..... ”میں آپ کا انتظار

کر رہا تھا۔ آپ مسٹر کار ہیں؟ آپ ہی ڈکسن کے ساتھ

رہتے ہیں؟“

”ہاں۔“

”ایک لڑکی اسٹیل مشین کل رات یہاں آئی تھی؟“

”ذرا میں بیٹھ جاؤں۔ راستے بھر بس میں کھڑا

رہا ہوں۔“

”ہاں، ہاں!“

”ہاں!“ میں نے سرو لہجے میں اس کے سوال کا

جواب دیا۔ ”ایک لڑکی یہاں آئی تھی۔ اسٹیل ہی نام ہوگا

اس کا۔“

”کتنے بجے آئی تھی؟“

”ساڑھے آٹھ بجے۔“

”آپ نے اسے آتے دیکھا تھا؟“

”میری اس سے سیزھیوں پر بڑھ بھیر ہوئی تھی۔“

”آپ واپس کب آئے تھے؟“

”تھارہ بجے کے قریب!“

میں بغیر کچھ کہے باہر نکل آیا۔ جب میں کوٹے پر پہنچا تو ایک کھڑی ہوئی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ تب مجھے وہ ایک ڈیوڑھی میں نظر آیا..... ”تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنکھ مجھ کو کھیل رہے ہو کیا؟“

”جوڑے کا فیتہ نکل گیا تھا۔ اسے باعہر رہا تھا.....“ وہ بولا۔ ”کوئی آیا تو نہیں تھا؟“

”ایک پولیس والا تمہارے انتظار میں اور بیٹھا ہے.....“ وہ پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا..... وہیں کھڑا رہا۔

”تم جا کر اس سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟“ وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں اس سے کسی آدم

خور شیر کی کچھار میں جانے کو کہہ رہا ہوں۔

”تم اس لڑکی کے ہاں گئے تھے کیا؟“ اس نے ٹی میں سر ہلا دیا اور نیچے دیکھنے لگا۔

”تو کل رات سے تم نے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی؟“

”اس کی ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے..... وہ مجھے دیکھتے ہی برس پڑے گی اور میری حالت ایسی نہیں ہے کہ یہ برواشت کر سکوں۔“

”دیکھو ڈکسن!“ میں نے اسے سبھانے کی کوشش کی۔ ”لڑکی کی گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو تم اس کی ماں..... یا پولیس..... یا کسی اور سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟“

”تم اپنے آپ کو دیکھ لو.....“ وہ تلخ لہجے میں بولا.....

”جہیں خود میری بات کا یقین نہیں ہے..... تمہاری آنکھوں سے صاف معلوم ہوتا ہے.....“

میں نے اس کے جملوں کو نظر انداز کر دیا.....

”خیر اب تم جاؤ۔ تمہارا تمہ بھی بندھ چکا ہے.....“ میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ ایک بے وقوف

آدی ہے اور خود کو اچھا بھلا پھنسانے لگا۔ چاہے بعد میں چھوٹ ہی کیوں نہ جائے اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو خود پولیس کے پیچھے پڑ جاتا کہ میری دوست کو تلاش کیا جائے..... لیکن وہ تو خود ہی مشتہ نظر آنے لگا تھا۔

میں کھاپی کروا لیں گیا تو وہ پھر قائب تھا اور اس کے ساتھ پولیس والا بھی۔ چالیس منٹ بعد وہ آیا تو اس کا چہرہ سفید تھا۔ جیسے اس کا خون چھوڑ لیا گیا ہو.....

”وہ مجھے لے کر ہیڈ کوارٹر گئے تھے..... تفتیش کرنے۔“ وہ بولا۔ اس نے کوٹ اتار دیا اور کرسی پر بیٹھ کر ٹائی ڈھیلی کر پانے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ ”ایک بار تو مجھے ایسا لگا

جیسے اب وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں..... مگر پھر چھوڑ دیا۔“ میں نے شانے اچکائے..... ”آخر کیوں نہ چھوڑتے تمہیں؟“

”میں اب مزید برواشت نہیں کر سکتا.....“ ”کیوں؟ اس سے پہلے تو تم اتنے حساس نظر نہیں آئے.....“ میں نے کہا۔ ”آخر تم اس کا اتنا اثر کیوں لے رہے ہو؟ پولیس تو سوالات کرتی ہی ہے۔ انہیں تم پر تو شک نہیں ہے یا؟“

وہ ٹی سے ہنسا۔ ”مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مجھ پر ہی شک کر رہے ہیں.....“ میں نے سوچا کہ اگر وہ ہیڈ کوارٹر میں بھی اسی طرح بیٹھا رہا ہوگا تو یقیناً اس پر شک کرنے میں وہ حق بجانب ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس آڑے وقت میں، میں ہی اسے سہارا دوں۔

میں تھوڑی دیر پہلے رہا۔ پھر اس کی کرسی کے قریب آ کر بولا۔ ”دیکھو یارا تم کم از کم میری خاطر ہی اس کی ماں کو فون کرو۔ پتا تو چلے کہ اسے کوئی اور بات معلوم ہوئی یا نہیں۔ اس طرح بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں.....“

وہ پھر اچکچکایا..... ”میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ مجھے مجرم سمجھ رہی ہوگی۔ میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔“

میں نے پھر ٹھہلنا شروع کر دیا اور یکدم رک کر بولا۔ ”لیکن کیا اس لڑکی سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی؟“

اس جملے نے اسے بھڑکا دیا..... ”ریڈ اے مجھے اس سے دیوانگی کی حد تک محبت تھی۔ میں اسے اپنانے کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ میں اسٹیشن کی اس شخص سے شادی کے بجائے اس کی موت گوارا کر سکتا تھا۔“ اسے..... بہت بعد میں احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔

وہ قول اور فعل دونوں میں غلطیاں کرتا جا رہا تھا۔

”اس قسم کا جملہ کسی اور کے سامنے نہ کہنا.....“ میں نے اسے نصیحت کی اور فون اٹھالیا۔

”تم کسے فون کر رہے ہو؟“

”اسٹیشن کے گھر کا نمبر بتاؤ.....!“

اس نے نمبر بتایا..... میں نے ڈائل کیا..... دوسری طرف سے ایک مرو نے اٹھایا۔

”مسٹر مشل سے بات کرنا ہے.....“

”آپ کون صاحب ہیں.....؟“

”ڈکسن بات کرنا چاہتا ہے۔“

یقیناً وہ سراغ رساں تھا کیونکہ اس کے بعد کافی دیر تک وقفہ رہا یقیناً وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے

..... پھر مجھے اس عورت کی آواز آئی۔ ”آپ کو مجھے مجبور نہیں

کرنا چاہیے.....“ میں نے ڈکسن کی طرف دیکھ کر زور سے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہوں کہ آذبات کرو۔ پھر بھی وہ نہیں اٹھا تو میں نے زبردستی ریسیور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔

وہ کسی قدر بے جان لہجے میں بول رہا تھا..... ”مسٹر محل ایسٹیل کی کوئی اطلاع ملی؟“

یقیناً دوسری طرف سے کوئی تلخ جواب ملا ہوگا۔ اس کا چہرہ اور سفید ہو گیا تھا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ میں نے اٹھا کر کان سے لگا یا تو اس کی آواز آرہی تھی۔ وہ صرف ایک لفظ چیخ چیخ کر کہے جا رہی تھی..... ”قل قل قل اقل اقل!“

میں نے فون رکھ دیا۔

تھوڑی دیر بعد وہ شراب پی رہا تھا۔ یہ بوتل وہ بیڈ کو اڑھ سے دائیں پر لایا تھا۔ میں اسے اس پر تصور وار نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی ماں کے جیلے سننے کے بعد میری بھی یہی حالت ہوئی۔

”دیکھا تم نے!“ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی..... ”اگر تم رات کو میری بات مان کر اسے فون کر لیتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ تم نے تو لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع پا کر ایسی حرکات شروع کر دیں کہ انہیں خود تم پر شبہ ہو.....“ اب بھی اگر میں ہوتا تو ان کے گھر جا پہنچتا اور خود بھی اس کی ماں کے ساتھ مل کر طوفان اٹھا لیتا۔ مگر یہ میں نہیں، وہ تھا۔ ایک خیال بار بار میرے ذہن سے گزر رہا تھا۔ اگر میں بے گناہ نہ ہوتا تو کیا پھر بھی ایسی ہی حرکتیں کرتا جیسی وہ کر رہا ہے۔

میں نے اس..... خیال کو زبردستی ذہن سے نکالنے کی کوشش کی مگر وہ نکلا نہیں۔ پھر میں اٹھا۔ اب وہ کھڑکی سے جھانک رہا تھا جیسے دیکھ رہا ہو کہ اس کی نگرانی تو نہیں ہو رہی۔ میں باہر نکلنے لگا تو اس نے پوچھا۔

”تم جلدی آ جاؤ گے نا۔“ آج سے پہلے کبھی اس نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ دراصل وہ مجھ سے کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھنا باہر کوئی گھر کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔

”میں جلدی آ جاؤں گا۔“ میں نے بے دھیانی سے کہا۔ دراصل ایک دو باتیں میرے ذہن پر سوار تھیں جنہیں میں حل کرنا چاہتا تھا۔

☆☆☆

!! پکھیر ایک بندر جیسی صورت کا گنجا شخص تھا۔ وہ مجھے

پراہیز

ایک موٹی عورت وزن کم کرنے کا مسئلہ حل کرنے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوا میں تجویز کیں اور چند مشورے پر ہیزی غذا کے متعلق دیے۔ خاتون بڑی سعادت مندی سے سر ہلاتی رہی۔ آخر کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہوئی۔ دروازے کے پاس جا کر اسے کچھ یاد آیا تو بولی۔

”ڈاکٹر صاحب! دوا میں تو ٹھیک ٹھاک سمجھ آ گئیں مگر آپ نے جو پر ہیزی غذا بتائی ہے، وہ کھانا کھانے سے پہلے کھانی ہے یا بعد میں.....؟“

☆☆☆

ملا مت ضمیر

ایکشن میں ایک امیدوار دوڑ کو بکھار رہا تھا۔ ”میرے بھائی میرے دوست..... بھلا تم میرے جزیف کو ووٹ کیسے وو گے۔ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرے گا۔ ذرا سوچو میں نے تمہارے باپ کو نوکری دلوائی۔ تمہارے بھائی کو دکان الاٹ کروائی۔ تمہاری بہن کو گورنمنٹ اسکول کی پرنسپل بنوایا جالانکہ وہ ہرگز اس کی اہل نہ تھی۔ میں نے تمہارے دوست انور کو جو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار ہوا تھا، قید سے چھڑوایا میں نے.....“ دوڑ نے جھٹ امیدوار کی بات نکات کر کہا۔ ”وہ تو سب ٹھیک ہے مگر آپ نے میرے لیے کیا کیا.....؟“

☆☆☆

ایک ہی کمی

ایک بادشاہ نے اپنا مقبرہ زندگی میں تعمیر کرا لیا۔ عمل ہونے پر بادشاہ مقبرے کا جائزہ لینے گیا۔ مقبرہ دیکھنے کے بعد اس نے معمار سے پوچھا۔ ”بہت اچھا بنا ہے اور کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتاؤ؟“ ابھی معمار نے کچھ جواب نہ دیا تھا کہ قریب کھڑا ایک سر پھرا بول اٹھا۔ ”حضور! بس آپ کی کمی رہ گئی ہے۔“

مرسلہ۔ نجی رحمان، یو ایس اے

اور ڈکسن کو خوب پہچانتا تھا۔ ہم لوگ باقاعدہ بیٹے والے نہیں تھے مگر آٹھ ماہ سے صرف اسی کے بار میں جایا کرتے تھے۔
 ”کل میرا دوست یہاں آیا تھا؟“ میں دراصل ان تین گھنٹوں کا کھوج لگانا چاہ رہا تھا۔
 ”ڈکسن؟“ وہ بولا۔ ”ہاں آیا تو تھا مگر کل کیا ہوا تھا اسے..... آدھا پیگ چھوڑ گیا۔“

”یہ تو اس نے بھی مجھے بتا دیا تھا۔ میں خود اس کی پریشانی جانتا چاہ رہا ہوں۔“ میں نے ڈرانارل رہنے کی کوشش کی۔ ”وہ یہاں کتنی دیر رہا؟“
 ”تین بجے تک بیٹھا رہا۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں!“

ایک دم میرا اتنا ڈھم ہو گیا۔ میں نے اس بیڑی کی چسکی لی جو پینا نہیں چاہتا تھا۔
 ”آج اس کی طبیعت ٹھیک ہوگئی؟“ وہ پوچھنے لگا۔
 پھر خود ہی بڑبڑایا۔ ”معدہ خراب ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ نہ کھایا جائے۔ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔“

معدے کی خرابی! کیا مطلب؟ یہ تاثر اس نے کیسے لیا؟ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی جس سے یہ تاثر لیا جاسکتا تھا۔ میں نے ایک دو منٹ توقف کیا پھر اٹھا۔ ”ابھی آتا ہوں۔“ اور ہاتھ روم کی طرف ہو لیا۔ اس سے پہلے ایک دو بار میں وہاں گیا تھا مگر اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ ایک گنڈا سا داش بیسن لگا ہوا تھا اور روشنی بھی ناکافی تھی۔ وہاں ایک کھڑکی بھی تھی۔ لمبی اور پتلی۔ شیشے پر بھی گرجھی ہوئی تھی۔ وہ اوپر سے ہوا کے لیے ذرا سی ٹھلی ہوئی تھی۔ اس پتلی سی کھڑکی میں سے کسی کا ٹکٹنا ناممکن ہی تھا اور پھر وہ یہاں ”بعد“ میں آیا تھا..... ”بعد“ میں آکر وہ عدم موجودگی کے حذر سے کیا حاصل کر لیتا؟ لعنت ہے اس پر شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور بھروسا بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔

میں نے داش بیسن پر بیٹھ کر کھڑکی کے اوپر کھلے حصے سے باہر جھانکا۔ باہر ہوا کے ٹکٹنے کا راستہ بنا ہوا تھا جس سے نہ نیچے جایا جاسکتا تھا اور نہ اوپر..... میں نیچے اتر آیا اور کھڑکی کو نیچے سے کھول کر دیکھنے لگا۔ نیچے کھڑکی کی منڈیر تھی..... میری آنکھیں بہت تیز ہیں اور میں بہت غور سے دیکھ بھی رہا تھا۔ پھر بھی میں نے آنکھوں پر بھروسا نہ کرتے ہوئے جیب سے اخبار نکالا اور اسے جلا کر پھر باہر دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ جلائے، میں نے اسے اندر کر کے فرش پر ڈال کر بھجا دیا۔

پہلے میں نے اپنا ہاتھ ڈالا۔ پھر میں جھکا اور ہاتھ نیچے

کیا۔ میری انگلیاں کسی چیز سے چھو گئیں۔ میں نے اسے فوراً اٹھالیا..... یہ دو بٹن تھے جو اسی برساتی کے تھے۔ اگر مجھے کوئی شبہ تھا تو وہ ان میں لگے ہرے رنگ کے برساتی کے ریشوں سے دور ہو گیا۔ یہ ویسے ہی بٹن تھے جیسا مجھے کمرے میں ملا تھا۔

تین بٹن ٹوٹنے کا مطلب تھا کہ برساتی پہننے والے کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی تھی مگر بدسلوکی اتنی وہشت ناک نہیں تھی۔ جتنی اسے چھانے کی یہ کوشش..... اس نے یقیناً کھڑکی کے کھلے حصے سے گرائے ہوں گے اور اسے یہ خیال بھی نہ آیا ہوگا کہ یہ نیچے بھی گر سکتے ہیں۔ پھر وہ برساتی کہاں گئی۔ برساتی جس پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، وہ آسانی سے جل سکتا ہے۔ اگر وہ جلائی نہیں گئی تو کس طرح پاہر لے جانی گئی ہوگی۔ ہاں ایٹان کے اوپر باندھ کر، جیسے بعض لوگ ہونٹوں سے تو لیے چراتے ہیں۔ میں نے بٹن اٹھا کر کاغذ میں لپیٹ کر جیب میں ڈال لیے اور باہر نکل آیا۔ میں اپنے ذہن کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھی اپنے دوست کو شک کا قائدہ دوں۔

اب میں سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں..... واپس گھر جاؤں تو وہ ان دو بٹنوں کو بھی تیسرے بٹن کی طرح غائب کر دے گا۔ پولیس کے پاس جاؤں؟..... مگر نہیں، اس موقع پر وہاں جانا مناسب نہ ہوگا..... اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو آپ اسے سہارا دے کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

تو پھر اسٹیل کے گھر جانا چاہیے..... اور مجھے ان کا پتا معلوم نہیں تھا مگر ہاں ڈائریکٹری سے معلوم ہو سکتا ہے۔ نیلی فون نمبر تو تھوڑی دیر پہلے اس نے بتایا ہی تھا..... اس سے ملا کر میں نے پتا ڈھونڈ نکالا۔ وہ ہمارے گھر سے بہت قریب تھا۔ اتنا قریب کہ اچھے سے قاصلے کے درمیان اس لڑکی کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی تھی۔

☆☆☆

یہ ایک پرانی عمارت تھی جو صفائی کی وجہ سے رہنے کے قابل نظر آتی تھی۔ یقیناً اس کی ماں اپنی محدود آمدنی کی وجہ سے یہاں رہ رہی ہوگی۔ میں نے فلیٹ کی تیل بجانے سے پہلے پھر سوچا کہیں میں ریا کاری تو نہیں کر رہا ہوں۔ میری جیب میں دو بٹن ہیں جو میں انہیں دکھانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ آخر میں کس کا طرف دار ہوں؟ ان کا یا اپنے ساتھی کا.....؟

میں بے چینی سے وہیں ٹہل رہا تھا۔ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ لفٹ سے اوپر جانے کے لیے کھڑا ہوں۔ اسی

دوران مجھے دو پولیس والے آتے نظر آئے۔ وہ کسی چیز کو
تھامے ہوئے تھے جسے انہوں نے اخبار سے ڈھانپ رکھا
تھا۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا۔

”خود باہر آنے کے بجائے انہوں نے ہمیں اندر
کیوں بلوایا؟“

”ہٹائیں..... شاید وہ بے چاری باہر نہ آسکتی ہو.....“
وہ دونوں چلتے ہوئے اسی دروازے کے سامنے آ کر

رکے جہاں تھوڑی دیر پہلے میں کھڑا تھا۔ ان کے قریب
آنے سے مجھے اخبار کے نیچے ڈھکی ہوئی چیز کو ایک نظر دیکھنے
کا موقع مل گیا۔ نیچے سے مہز رنگ کی برساتی کا ایک حصہ نظر
آ رہا تھا۔ ان دونوں پولیس والوں کو کیا معلوم کہ میں کون
ہوں؟..... انہوں نے مجھے عام سا آدمی سمجھا ہو گا ورنہ وہ
شاید اسے چھپانے کی کوشش کرتے۔

میں ان کے سامنے تیزی سے باہر نہیں
آیا..... بلکہ جب وہ اندر چلے گئے تو بھی میں دو تین منٹ
وہیں کھڑا رہا۔ اسٹیل کی ماں شاید دروازے کے
قریب ہی تھی کیونکہ فوراً ہی ایک دہشت ناک چیخ ابھری
اور پھر جیسے کوئی چیز نیچے گری۔

میں تیزی سے باہر آیا اور تیز تیز چلتا ہوا اپنے گھر
آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا پہلے میں سمجھا کہ وہ اندر نہیں
ہے مگر وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس طرح نہیں جیسے کوئی سونے
کے لیے لیٹا ہو۔ وہ آڑا اور اونگھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے
میرے آنے کی آہٹ سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔

”یہ تم ہو ریڈ.....؟“

”ہاں ایہ میں ہوں..... میں دروازے پر ہی کھڑا تھا۔“

وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑی مشکل سے بولا.....
”تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟“

”تم اب تیار ہو جاؤ..... تمہاری محبوبہ مر چکی ہے.....“

اس کے چہرے پر اچھل پھٹل سی چیخ گئی۔ جیسے وہ رو
دینے کو ہے۔ پھر وہ بولا۔ ”کیا انہیں یقین ہے؟“

”وہ اسے اندر لے کر جا رہے تھے کہ میں نے اس کی
برساتی کی جھلک دیکھ لی!“

اس نے ایک گہری سانس کھینچی اور ایک دم تیزی سے
اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ ”میں یہاں سے جا رہا
ہوں.....“ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بند
کر لیا اور کہا۔

”ایک منٹ! پاگل کیوں ہوتے جا رہے ہو۔ اتنی

بڑی حماقت کرو کے؟“

”میں باہر جا رہا ہوں۔ آج انہوں نے ہیڈ کوارٹر میں
جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے، وہی کافی ہے۔ اب لاش ملنے
کے بعد تو.....“ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں
اسے بند رکھنے کی۔

”کیا تم مجھے یہاں روکے رکھنے کے لیے آئے ہو
تاکہ پولیس آ کر پکڑ لے.....؟“

”نہیں! میں تو تمہیں بروقت اطلاع دینے کے لیے
آیا تھا۔“ میں نے ایک ہاتھ دروازے سے ہٹا لیا۔

”تو پھر مجھے جانے دو ریڈ! مجھے کم از کم ایک موقع تو دو.....“
”تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس

طرح تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اسے تم نے ہی مارا ہے.....
مگر وہ اب دلائل کی منزلوں سے گزر چکا تھا.....

”با تم بنانا آسان ہے۔ میری جگہ تم ہوتے تو پتا چلتا.....
میری زندگی پر بن آئی ہے۔ اگر میں یہاں رک گیا تو ہمیشہ

کے لیے پھنس جاؤں گا اور مجھے خود کو بچانے کا کوئی بھی موقع
نہیں مل سکے گا۔“

وہ مجھے ہٹا کر دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ تھوڑی دیر
جدوجہد کرنے کے بعد اس نے ہمت ہار دی اور کرسی میں

بٹھنسا گیا۔ ہم دونوں ہاتھ پڑے تھے۔
”تو تم میرے دوست ہو.....؟“ بالآخر وہ بولا۔

اور یہ جملہ اپنا کام کر گیا۔ اگر وہ مجھ سے جسمانی تھوڑی
کرتار پتا تو میں بھی اسے باہر نہ نکلنے دیتا مگر اس کے انداز

پسپائی نے مجھے مجبور کر دیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ ”تم
باہر نکل کر بھی بیچ نہیں سکو گے.....“ میں نے کھڑکی کے قریب

آ کر باہر جھانکا۔ ابھی تک کوئی آثار نہیں تھے مگر اس نے بھی
دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید یہ بات

اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔
میں نے اپنا کوٹ اور بیٹ اس کی طرف اچھالتے

ہوئے کہا..... ”لو! یہ تم بہن لو۔ انہوں نے مجھے اس عرصے
میں دو تین بار دیکھا ہے۔ اس طرح تم بیچ کر نکل سکتے ہو۔ مگر

سامنے کی طرف سے مت جانا۔ پیچھے سے نکلنا، وہاں شاید
گھرائی نہ ہو رہی ہو..... اور اگر تم باہر نکلو تو میری طرح لمبے

لمبے ڈگ بھر کر چلنا۔ اپنی چال نہ چلنا۔ بائیاں ہاتھ پتلون کی
جیب میں رکھنا اور بیٹ کا اگلا سرا میری طرح جھکانے رکھنا۔

بس کافی ہے.....“
اس نے دروازہ کھولا..... میں تقریباً پھسل چکا تھا۔

”لو! کچھ پیسے رکھ لو.....“ یہ کہہ کر کچھ نوٹ میں نے
اس کے ہاتھ میں ٹھوس دیے۔

”میں تم سے رابطہ کہاں قائم کروں گا ریڈا“
 ”کیا تمہیں اس کی ضرورت ہوگی؟“ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔

”ہاں۔ مجھے..... مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ میرے بعد کیا ہوا۔ خیر میں کوئی نہ کوئی ترکیب تلاش کروں گا..... یہاں گھر پر یا تمہارے دفتر میں تو رابطہ نہیں ہو سکتا۔“ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔

کتنا احمق تھا وہ۔ میں اسے سیزھیاں اترتے دیکھتا رہا۔ کوٹ کی وجہ سے اس کے چلیے میں کسی قدر تہدیلی آگئی تھی۔ شاید نگرانی کرنے والا دھوکا کھا جائے۔

میں نے اس کے نیچے اترنے اور پچھلا دروازہ کھولنے کی آواز سنی اور پھر میں اندر گیا..... آخر میں نے یہ کیوں کیا؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔

☆☆☆

ان لوگوں کو شاید آنے میں دیر لگ رہی تھی۔ یقیناً کچھ انتظامات کرنے ہوں گے۔ بہر حال انہیں شبہ تو تھا نہیں کہ میں نے کچھ دیکھ لیا ہے ورنہ وہ جلد پہنچ جاتے۔

دروازے پر دی جانے والی دستک اس بات کا ثبوت تھی کہ ڈاکسن بیچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔

وہ دو تھے۔ پہلا مجھے ہٹا کر اندر گھس آیا..... ”باہر نکل آؤ ڈاکسن اور نہ ہم خود تمہیں پکڑ لیں گے۔“

”وہ تو یہاں ہے ہی نہیں!“ میں نے مصومیت سے کہا۔

دوسرا آدی وہی تھا جو پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ اس کا نام ہیلر تھا۔ میں نے اس کے سامنے کوپکارنے سنا..... ”یہ رہا اس کا کوٹ اور بیٹ، اور تمہارا کہنا ہے؟“ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔

”الماری میں بائیں سے تیسرا.....“ میں نے کہا۔

”تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ بہن کر چلا گیا.....“ وہ

مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا میں بھی اس کا مددگار ہوں..... ”تم کیا کر رہے تھے.....؟“

”میں تو اندر شیو کر رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے؟“

وہ ہاتھ روم میں گیا اور اس نے میرا برش چھو کر دیکھا۔

تو لیے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بھی وہ مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔

پھر اس نے میرے گال چھو کر دیکھے۔ میں نے واقعی شیو کیا

تھا۔ میں رات کو شیو کرتا تھا اور ڈاکسن کے جانے اور ان کے

آنے کے درمیان وقفے میں، میں نے شیو کر لیا تھا۔

ہیلر نے آنکھیں سیڑھ کر پوچھا..... ”تمہیں یقین ہے

کہ تم اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہو.....؟“

”اس کے جانے یا ٹھہرنے سے مجھے کیا فائدہ تھا.....“

وہ مایوس سا ہو گیا..... ”چلو اب یہاں ٹھہرنے سے کوئی

فائدہ نہیں۔ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا..... ہاں کارا اس بار تم

ہمارے ساتھ چلو۔ تم سے کچھ سوالات کرنا ہیں.....“

مجھے بغیر کوٹ اور بیٹ کے جانا پڑا۔ ہیلر نے تجویز

پیش کی تھی کہ میں ڈاکسن کا کوٹ اور بیٹ بہن لوں۔ مگر مجھے

عجیب سا وہم آ گیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں تھا کہ اس کوٹ اور

بیٹ کے پہننے والے نے واقعی کسی کی جان لی ہے یا نہیں؟

انہوں نے مجھے کرینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں

ہوئے۔ چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ، اگر آدی زیادہ اڑنے کی

کوشش نہ کرے تو کامیاب رہتا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے

دروازے پر دھندلکے میں ایک عورت کو فیکسی میں بیٹھتے

دیکھا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسٹیل تھی یا کوئی اور۔

میری ساری کہانی یہ تھی۔ اس قدر ساواہ اور مختصر سی بات کو کوئی

پہچیدہ بناتا بھی تو کیسے۔

انہوں نے اب بھی میری جان نہیں چھوڑی بلکہ مجھے

لے کر اسٹیل کے گھر پہنچے۔ ایک شخص ہمیں اندر لے گیا۔

پہلے میں سمجھا کہ وہ انہی لوگوں کا ساگی ہے۔ ہیلر نے اس سے

کہنا تھا..... ”ڈراما سز مشل کو بلو او۔ انہیں کچھ بتانا ہے.....“

وہ بولا..... ”ڈاکٹر نے ابھی انہیں سکون بخش دوا دی

ہے۔ اس لیے زیادہ پریشان نہ کرنا.....“ پھر وہ ہمیں جس

طرح اندر لے گیا اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ سز مشل کا

کوئی عزیز ہے۔ اس کی عمر میں پینتیس کے درمیان تھی۔

ہمیں کوریڈور میں بٹھا کر وہ سز مشل کو ایک ہاتھ کا سہارا

دینے لے کر آیا۔ اس واقعے نے اس عورت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔

کوریڈور میں لگی اپنی تصویر سے وہ بالکل مختلف ہو گئی تھی۔

آنکھیں گڑھوں میں دھنس گئی تھیں۔ اس شخص نے جس کا نام

ٹریہولٹ تھا، اسے کرسی پر بٹھا دیا اور اپنا بازو اس کے

شانے پر رکھ لیا..... اور بولا۔

”بیٹھ جائیں مام!“

مگر وہ لڑکی کا بھائی تو نہیں لگتا تھا۔ ممکن ہے سوتیلا بھائی

ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تو سمجھ گیا کہ وہ اپنی پریشانی

کس طرح برواشت کرنے کا عادی ہے۔ اس نے اپنے

ناخن آدھے کھا لیے تھے، کمرے میں سوگواری چھائی ہوئی

تھی۔ ایک ننھا سا کتا بھی غمزہ سا وہیں آ گیا۔

ہیلر بولا..... ”میں ایک بار اور آپ کو زحمت دے رہا

ہوں، سز مشل.....“

”ہاں بولو.....“ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔

ہے۔ اگر معلوم بھی ہوتا تو یہ معاملہ میرے اور اس کے درمیان تھا۔

”کیا بولوں؟“ میں نے چپن ہو گیا۔ ”صرف یہی کہ میں نے ایک عورت کو ٹیکسی میں بیٹھتے.....“ اور میں نے ایک دفعہ پھر وہی کہانی دہرا دی۔

وہ مجھے لے کر مردہ خانے گئے۔ انہوں نے ایک لمبی دراز کھینچی جس میں لاشیں رکھ جاتی تھیں اور چادر ہٹا دی۔ میں ان کی موجودگی کے باوجود ڈر گیا۔ گردن بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کوئی اسے بازو میں جکڑ کر گھوم گیا ہو۔ مگر اتنی طاقت تو کسی غیر معمولی آدمی میں ہی ہو سکتی تھی۔

”نہیں! یہ نہیں.....“ ہیلر بولا۔ ”تم مجھے یہ بتاؤ کیا کسی نے ٹیکسی کو بلانے کے لیے آواز دی تھی..... کیونکہ اتنی دھند میں صرف ہاتھ کے اشارے سے تو کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں آسکتا تھا.....“

انہوں نے مجھے مزید تفصیل بتانا ضروری سمجھا..... ”غور سے دیکھو کار! اس لڑکی کی عمر صرف بائیس سال تھی۔ کیا اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا؟ وہ تو صرف یہ بتانے گئی تھی کہ اب وہ بھی اس سے نہیں ملے گی..... اور ٹریبولٹ سے اس کی شادی.....“

اب میں یہ چال سمجھ گیا..... وہ میرے اور ڈکسن کے بیان میں تضاد پیدا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت ملا۔ مجھ پر چھ آنکھیں جھی ہوئی تھیں۔ اگر میں نے انکار کیا کہ میں نے آواز نہیں سنی تو ڈکسن کا بیان جھوٹا پڑ جائے گا۔ اس نے ادھر کھڑکی میں سے آواز کیسے سن لی جبکہ میں باہر سڑک پر یہ آواز نہیں سن سکتا تھا۔ اس چال میں بھی ایک چال تھی۔ ہیلر نے لفظ ”آواز“ استعمال کیا تھا۔ جبکہ ڈکسن نے کہا تھا کہ اسٹیشن نے سیٹی بجائی تھی..... اس نے مجھ سے کہا تھا کہ واقعہ یہی ہے..... صرف پانچ منٹ کے وقفے کی بات ہے۔ بہر حال مجھے یا تو اس کے پورے بیان کی تائید کرنا تھی یا تردید۔

”ٹریبولٹ سے.....؟“ میں اب تک اسے بھائی سمجھ رہا تھا۔ ”ہاں! وہ کئی برس سے ان کے ساتھ رہ رہا ہے اور جب وہ اسکول میں تھی تب سے اسے چاہتا تھا۔ یہ ملے تھا کہ جب وہ بڑی ہوگی تو وہ اس سے شادی کرے گا۔ اس نے سسر مشکل کی بہت مدد کی تھی اور وہ اس کا قرض بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ اسٹیشن بھی اسے پسند کرتی تھی مگر پھر ڈکسن درمیان میں آگیا لیکن اس کی ماں اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اسٹیشن قائل ہو ہی گئی.....“

”آواز نہیں تھی..... بلکہ سیٹی بجائی تھی جو میں نے سنی۔“ کوئی کچھ نہیں بولا۔ اب وہ سسر مشکل کے بولنے کے خنجر تھے جیسے وہ مب پہلے ہی وہ کچھ جانتے ہیں جو مجھے معلوم نہیں۔ ٹریبولٹ سسر مشکل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر خروہ نہایت دھیمی آواز میں بولی..... ”میری بیٹی سیٹی بجائی نہیں سکتی تھی۔ زبان کی کسی خرابی کی وجہ سے جب بھی کوشش کرتی بس ایک سانس کی آواز آ کر رہ جاتی۔ جب بھی وہ کہتے کو باہر لے جاتی تو اس کا نام لے کر آواز دیتی تھی.....“

”اس رات وہ اسے یہی بتانے گئی تھی۔ بے وقوف ماں نے اسے اکیلا جانے دیا۔ ٹریبولٹ کو بھی علم نہیں تھا۔ اسٹیشن تمہارے دوست کو اپنا فیصلہ بنا کر باہر نکلی ہوگی کہ اس نے سڑھیوں پر اسے پکڑ لیا۔ پھر اس کی گردن دبا کر ادھر پھینچ لیا کہ کہیں وہ چلانہ پڑے۔ وہ بے ہوش ہوئی تو ڈکسن نے سمجھا کہ وہ مر گئی ہے۔ گھبرا کر وہ اسے ایک زینے پر لے گیا اور چھپا دیا۔ کیونکہ اسی وقت اسے نیچے کسی کی آہٹ سنائی دی ہوگی۔ اس نے لڑکی کے جسم کو کوڑے دان میں ڈال دیا تھا۔“

ہیلر میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں خیالات میں گم تھا۔ میرے ذہن میں ایک جملہ گھوم رہا تھا۔ بار بار چکرار ہا تھا..... ”ذلیل جھوٹا! ذلیل، جھوٹا!“

”کار! تم تو کوڑے دان کی تکنیک جانتے ہو۔ تم ایک دعوات کا ہینڈل کھاتے ہو اور کوڑا نیچے چلا جاتا ہے۔ اب تم برداشت کر سکتے ہو تو سنو! اور ہاں، ہم ہر چیز کا سائنسی ثبوت دیں گے۔ اس نے ہینڈل کھما کر اس کے جسم کو نیچے کرنا چاہا۔ اس وقت وہ زندہ تھی اور اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر تھیں۔ اس وقت یقیناً کوئی نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے آ رہا ہوگا۔ اس نے گھبرا کر اسے نیچے کرنا چاہا اور جب خطرہ ٹل گیا تو اسے اوپر کھینچنا چاہا مگر اس کا شانہ اور سر پھنس گیا تھا۔ لو! تم خود دیکھ لو.....“

میں ان کے ساتھ ہیڈ کوارٹر واپس آ گیا..... اب میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا

READING

Section

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

”بند کرو اسے.....“ مجھے متلی ہونے لگی تھی۔

”اس نے کھینچ کر نکال تو لیا مگر اس کی گروں ٹوٹ گئی۔ ہم یہ سوچ کر خود کو تسلی دے سکتے ہیں کہ اس وقت وہ بے ہوش تھی مگر ذرا سوچو کار ایہ شخص تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہ رہا تھا.....“

میں نے رومال نکال کر اپنا چہرہ تھپکا۔

”پھر وہ اسے کھینچ کر چھت پر لے گیا اور بلحاظہ چھتوں سے ہوتا ہوا ایک ایسی چھت پر آیا۔ جہاں ابھی رنگ ہوا تھا اور ڈرم وہیں پڑا تھا۔ اس نے ڈرم کا باقی ماندہ سامان نکال کر پہلے لڑکی کو اس میں ڈالا اور پھر وہ سامان بھر دیا۔ جب مزدور اسے لے کر نیچے آئے تو پتا چلا کہ وہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا تھا۔“

”کیا تم اب بھی ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کرو گے؟“ دوسرا بولا۔ ”بتاؤ وہ کہاں گیا ہوگا؟ تمہیں کوئی آئیڈیا تو ہوگا.....“

میں نے رومال ہٹا کر کہا..... ”کاش! مجھے معلوم ہوتا.....“ اور انہوں نے مجھے گھر جانے دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اب اگر مجھے اس کا پتا مل گیا تو میں انہیں ضرور بتاؤں گا..... وہ میری آنکھیں دیکھ کر یقین کر سکتے تھے۔

میں اس رات سو نہیں سکا بار بار مجھے اس کا چہرہ اور وہ جملہ یاد آتا رہا۔ ”اس نے میری وجہ سے آپ کو بے آرام کیا ہوگا۔“

☆☆☆

اسے اگلے روز دفن دیا گیا۔ میں بھی تدفین میں گیا اور پھول بھی بیچے جس میں کارڈ لگا ہوا تھا۔ کارڈ کی عبارت تھی۔ ”اس شخص کی طرف سے جسے اس رات گھر پر ٹھہرنا چاہیے تھا۔“ یقیناً ٹریہولٹ بڑی اذیت سے دوچار رہا ہوگا۔ وہ بار بار ماچس کی تیلیاں توڑ رہا تھا۔ سب کے نکلنے کے بعد میں نے دیکھا، جہاں وہ بیٹھا..... تھا وہاں بے شمار تیلیاں ٹوٹی پڑی تھیں۔

میں پھر اپنی اسٹڈی میں معروف ہو گیا ہم جلد اول پچھلے ہفتے ختم کر چکے تھے اور ڈکسن کو بھی معلوم تھا کہ مجھے اب جلد دوم لانا ہے۔ میں دفتر سے واپسی پر لائبریری گیا اور جلد دوم اجراء کرالی۔

گھر آ کر میں نے آستینیں چڑھائیں اور چسل کاغذ لے کر بیٹھ گیا۔ کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ جب میں نے دوسرا صفحہ پلٹا تو مجھے وہ نظر آیا۔ اکثر لوگ پڑھتے پڑھتے کتاب پر لکھ دیتے ہیں۔ کسی نے شاید ایسی ہی

عبارت لکھ دی تھی مگر.....

یہ تو میرا نام تھا۔ گو کسی نے بہت گھسیٹ گھسیٹ کر لکھا تھا مگر میں پہچان گیا..... ”ریڈ! پیغام ملنے کے بعد دس بجے رات میلام کے ہاں میرے فون کا اہتیار کرنا.....“ یہ اس قائل ڈکسن کی تحریر تھی۔ وہ یقیناً دن میں کسی وقت لائبریری گیا ہوگا اور اس نے اسی کتاب پر پیغام لکھا ہوگا جو اسے معلوم تھا کہ میں لے جاؤں گا۔ یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ میں لڑکیوں کے قاتلوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا۔ میں نے زور سے کتاب بند کر دی اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا..... پھر رک گیا..... ”نہیں“ پہلے میں اسے یہاں لاؤں گا تا کہ ہیلرا سے یہیں سے پکڑ لے۔ میری غلطی کی تلافی اسی طرح ہو سکتی تھی۔

”میلام“ ایک بہت بڑی وداؤں کی دکان تھی جہاں ہم اکثر جاتے تھے۔ اس نے کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں دیا تھا مگر وقت لکھا تھا اب میرا کام اس وقت پر اس جگہ پہنچنا تھا۔ باقی کام وہ خود کرے گا۔

میں دس بجے دکان میں موجود تھا۔ ٹھیک دس بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی دکاندار بڑھا۔ میں نے اسے روک دیا..... ”یہ میرا فون ہوگا.....“

اس نے خود ہی بات کی۔ ”تو تمہیں پیغام مل گیا.....؟“ ”ہاں!“ میں نے اپنی آواز پر سکون رکھنے کی کوشش کی تھی۔ درندہ سارا کھیل بگڑ جاتا۔

”تم اکیلے ہو..... تمہارا کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا؟“ ”قطعاً نہیں.....“

”مجھے تم سے ملنا ہے ریڈ! اخبارات میں اب کچھ نہیں آ رہا۔ تم ہی میرے واحد دوست ہو۔ میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ یہاں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ کسی اور سے کہہ بھی نہیں سکتا۔“

”مجھ سے جو ہو سکا، میں کروں گا.....“ میں نے وعدہ کیا۔ وہ جلدی جلدی بولنے لگا۔ ”لاول ایوینیو کی بس پکڑو۔ براڈ لین اسٹاپ پر اترنا۔ وہاں ۳۰۵ نمبر کی عمارت ہے۔ جس کے نیچے درزی کی دکان ہے۔ ایک زینہ چڑھنا۔ ہیرس نام ہے۔“ پھر وہ توقف کے بعد بولا..... ”اگر کوئی پیچھے آ رہا ہو تو.....“

”وہ لوگ مجھ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔“ اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔

☆☆☆

اس کی بہت بری حالت تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ یہاں آنے کے بعد سویا ہی نہ ہو۔ کمرے میں سگریٹ کے بے شمار کٹڑے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تیار شدہ کھانا کھاتا رہا تھا اور سگریٹ پیتا رہا تھا۔

پھر وہ کمرے میں ٹھہرنے لگا..... "یہ نا انصافی ہے۔ بلا تصور میرا کتے کی طرح بچھا کیا جا رہا ہے۔ میں بے تصور ہوں اور دنیا میں صرف ایک شخص ہے جسے اس پر یقین ہے....."

"نہیں! میں قطعیت سے بولا....." تم مجھے ساری دنیا میں شامل کر لو..... اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے....." یہ جملہ سن کر وہ چونک گیا اور پھر بستر پر بیٹھ کر اس نے گدے کا کونا پکڑ لیا۔

"دیکھو اس رات جب میں واپس آیا تو تم ادھر سے ادھر چل رہے تھے میں نے خود دیکھا تھا....."

"ہاں میں بے یقینی سے ٹہل رہا تھا۔ تم میری جگہ ہوتے تو اپنی محبوبہ کے چلے جانے پر یہی کرتے۔"

"میں نے چالی سے کھولنے کے بجائے دستک دی تو تم ڈر گئے۔ تم نے وزوازہ ڈر سا کھول کر دیکھا۔ پھر مجھے دیکھ کر تم نے پورا وزوازہ کھول دیا....."

"یہ بھی فطری رد عمل تھا۔ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا....."

"تم نے کہا تھا کہ تم اسے جیسی پریشانی گئے تھے مگر تمہارے جوتے خشک تھے....."

"وہ جھوٹ تھا مگر میں نے تمہیں اس کی وجہ بھی بتا دی تھی۔"

"تم نے کہا تھا کہ تم نے اس کے سیٹی بجانے کی آواز سنی تھی اور تم نے مجھے بھی یہی جھوٹ بولنے پر مجبور کیا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ سیٹی بجا ہی نہیں سکتی تھی....."

وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ "یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔"

میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ "وہ تمہاری محبوبہ تھی اور تمہیں یہ بات نہیں معلوم تھی؟"

"ایسا موقع بھی نہیں آیا کہ وہ بتاتی اور پھر میں نے واقعی سیٹی کی آواز سنی تھی۔"

"کوئی چڑیا ہوگی....." میں نے کہا۔ "تم بارہ بجے پیک بنے گئے۔ میکینز نے مجھے بتایا کہ تم وہاں دو بجے پہنچے تھے۔ تم آخر کیا کرتے رہے.....؟"

"تم نے اپنا ہونٹ پر گھومنا رہا تھا۔ ایسے آوی کی طرح

جس کا کچھ کھو گیا ہو....."

"شاید یہ کھویا تھا....." میں نے دونوں ہنسنے کی طرف بڑھا دیے۔ "ایک ہنسنے میں گرا تھا جو میں نے اٹھا کر میز پر رکھا تھا مگر تم نے اسے دیکھتے ہی غائب کر دیا....."

"ہاں! اس نے سر جھکا لیا۔" صورت حال پہلے ہی میرے لیے بگڑ چکی تھی۔ اسے ہنسنے لگا تو کیا ہوتا؟ تم خود سوچ سکتے ہو۔ جب وہ جاری تھی تو میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنی برساتی مچھنی تو ہنسنے لگا۔ آخر سب ہی حماقتیں کرتے ہیں۔ پھر میری ذرا سی حماقت کی اتنی مزاحیوں وی جائے۔"

"اور تم نے دو ہنسنے میکینز بار کی کھڑکی سے باہر پھینک دیے!"

"ہاں! یہ بھی میں نے غصے میں کیا تھا۔ تم خود سوچو ریڈ! اگر مجھے انہیں چھپانا تھا تو میرے پاس دو گھنٹے تھے۔ جب میں ٹھہرا رہا تھا، انہیں بھی پھینک دیتا۔ آخر مجھے بارہی میں جا کر پھینکنے کی کیا ضرورت تھی.....؟"

"ممکن ہے تمہیں اندر جا کر یاد آیا ہو کہ ہنسنے تمہارے پاس ہیں۔" میں نے ہاتھ ہلائے۔ "اب کوئی فائدہ نہیں ڈسٹن اتم اب بھی مجھے تصور وار سمجھو گے اگر میں تمہیں اس لڑکی کا قاتل گردانوں؟"

"تو تم انہیں جا کر بتا دو گے کہ میں یہاں ہوں؟ جاؤ بتا دو....."

میں نے سنی میں سر ہلایا۔

"تو پھر..... تم کہاں جا رہے ہو.....؟"

"اپنے گھر....." میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا..... "اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے!"

"اچھا!" اس نے کہا اور تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے پتا چل گیا کہ وہ گدے کا کونا کیوں پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک پستول نکالا۔ اس نے یقیناً پستول کا رخ میری طرف کیا اور بولا۔

"تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے۔ اب میں اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اگر تم میرے سگے بھائی بھی ہوتے تو....."

"بالآخر تم نے آخری ثبوت بھی فراہم کر دیا....."

میں نے کہا۔ "جو شخص اپنے بہترین دوست پر پستول اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی محبوبہ کو بھی مار سکتا ہے۔ اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو تم میرے ساتھ جانے سے ڈرتے کیوں ہو.....؟"

میں نے کہا۔ "جو شخص اپنے بہترین دوست پر پستول اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی محبوبہ کو بھی مار سکتا ہے۔ اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو تم میرے ساتھ جانے سے ڈرتے کیوں ہو.....؟"

میں نے کہا۔ "جو شخص اپنے بہترین دوست پر پستول اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی محبوبہ کو بھی مار سکتا ہے۔ اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو تم میرے ساتھ جانے سے ڈرتے کیوں ہو.....؟"

میں نے کہا۔ "جو شخص اپنے بہترین دوست پر پستول اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی محبوبہ کو بھی مار سکتا ہے۔ اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو تم میرے ساتھ جانے سے ڈرتے کیوں ہو.....؟"

میں نے کہا۔ "جو شخص اپنے بہترین دوست پر پستول اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی محبوبہ کو بھی مار سکتا ہے۔ اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو تم میرے ساتھ جانے سے ڈرتے کیوں ہو.....؟"

میں نے کہا۔ "جو شخص اپنے بہترین دوست پر پستول اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی محبوبہ کو بھی مار سکتا ہے۔ اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو تم میرے ساتھ جانے سے ڈرتے کیوں ہو.....؟"

میں نے کہا۔ "جو شخص اپنے بہترین دوست پر پستول اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی محبوبہ کو بھی مار سکتا ہے۔ اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو تم میرے ساتھ جانے سے ڈرتے کیوں ہو.....؟"

READING

Section

مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کس وقت پستول چلاوے گا۔ وہ کسی بھی لمحے ایسا کر سکتا تھا۔ وہ لوہے کے جس پنگ پر بیٹھا تھا۔ اس کے پائے اندر فولڈ ہو جاتے تھے۔ ایک پایہ پوری طرح سیدھا نہیں تھا۔ میں نے اندر آتے ہی دیکھ لیا تھا لیکن اگر میں اس وقت حرکت کرتا تو وہ دیکھ لیتا۔ میں نے کہا۔ ”چلو! تم ہی اپنی خواہش پوری کر لو.....“ یہ کہہ کر میں نے اپنی گردن پکڑ کر سر پیچھے ڈال دیا۔ اس کی توجہ میرے جسم کے اوپری حصے پر مبذول ہو گئی۔ میں نے موقع پاتے ہی پھر کو حرکت دی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا، پنگ کا ایک حصہ نیچے آچکا تھا۔ گولی چل گئی مگر نشانہ بدل چکا تھا۔ میرے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ گولی پنگل کے نیچے سے نکل گئی۔ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور پستول چھین کر نیچے پھینک دیا۔

میں نے اس کی پٹائی شروع کر دی جس سے پنگ کا دوسرا حصہ بھی نیچے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں لڑھکتے ہوئے بچے آگئے۔ میں نے اسے گھونسوں پر رکھ لیا۔ پستول اٹھا کر میں نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ کسی نے گولی چلنے کی آواز یا تو بستی نہیں تھی یا اس علاقے کے لوگ اپنے کام سے کام رکھنے کے عادی تھے۔ میں اسے لے کر باہر نکلا اور اس سے پہلے کہ اسے نیم بے ہوشی میں کچھ سمجھ آتا، میں اسے ٹیکسی میں ڈال کر گھر لے آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں نے اسے اس کی پسندیدہ کرسی پر پھینک دیا۔

وہ ہلاکت نہیں۔ نہ منہ سے کچھ بولا۔ اس کی آنکھیں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ ان میں الجھا تھی..... ”مجھے اس طرح مت دیکھو.....“ میں نے کہا اور اپنے زخمی ہاتھوں پر آئیوڈین لگانے لگا۔ میں نے اسے آئیوڈین نہیں دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسے پی جاتا۔ ”کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے، تمہیں ان کے حوالے کرنے میں خوشی ہوگی.....“ یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ یہاں آنے کے بعد پہلی اور آخری بار بولا۔ ”کار! تم انسان نہیں ہو۔“ اس بار اس نے مجھے ریڈ نہیں کہا تھا جو وہ مجھے میرے سرخ بالوں کی وجہ سے کہتا تھا۔

”پولیس ہیڈ کوارٹر ملانا!“ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دیتے ہوئے آپریشن سے کہا۔

اسی لمحے نیچے کہیں ایک سیٹی بجی اور کوئی عورت بولی..... ”اوہ ٹیکسی!“

پھر سیٹی بجی اور کسی گاڑی کے رکنے اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے ریسیور نیچے رکھ دیا اور کھڑکی کی طرف

لیکا۔ میں ایک منٹ تاخیر سے پہنچا تھا ٹیکسی کی چھت تو نظر آئی مگر سیٹی بجانے والی اندر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا ہاتھ باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا۔

میں پوری قوت سے چلایا۔ ”ڈرائیور! ڈرائیور! کتنا۔“ اس نے اوپر دیکھا اور بولا..... ”ٹیکسی خالی نہیں ہے.....“

میں نے اپنا کوٹ ہلایا..... وہ اتنی دور سے کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ”پولیس!“ میں نے چیخ کر کہا اور سر اندر کر لیا۔ فون پر دوسری طرف کوئی چیخ رہا تھا..... ”کون ہے بھی؟ بولو! میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے بول رہا ہوں.....“

میں نے ”ساری! رنگ نمبر“ کہہ کر فون رکھا اور ڈکسن کو اندر ہی مقفل کر کے دوڑا ٹیکسی میں بیٹھی عورت پینتیس چھتیس سال کی تھی سنہرے بالوں والی۔ وہ سر باہر نکالے مجھے دیکھ رہی تھی۔

”آپ یہاں رہتی ہیں۔ اسی عمارت میں؟“ میں نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔

”ہاں! سیکنڈ فلور پر۔ تمہیں ہفتے قبل آئی ہوں۔“

”گزشتہ پچھ کورات گیارہ بجے کیا آپ نے اس دروازے پر ٹیکسی کو آواز دی تھی؟ جیسے ابھی سیٹی بجائی تھی..... اس روز بارش ہو رہی تھی۔“

”ہاں!“ وہ فوراً بولی..... ”میں روزرات کو ٹیکسی کو آواز دیتی ہوں۔ بارش ہو یا نہ ہو۔ مجھے اپنے کام پر پہنچنا ہوتا ہے۔ میں ہر رات کیریکا کلب میں بارہ بج کر پانچ منٹ پر خصوصی پروگرام پیش کرتی ہوں۔ سیٹی اس لیے بجائی ہوں کہ مجھے اس میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ لیونورا میرا نام ہے اور.....“

تو وہ سچ بول رہا تھا۔ اس نے واقعی سیٹی کی آواز سنی تھی۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی دیسی۔ جیسے میں نے ابھی دیکھی تھی۔ اور اسی سے سارا معاملہ مختلف ہو گیا۔ کتنے عجیب و غریب اتفاقات تھے جنہوں نے اس کی قسمت پر مہر لگا دی تھی۔

وہ عورت کہہ رہی تھی..... ”مسٹر! اب مجھے جانا ہے اگر میری سیٹی کی آواز سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو میں آواز دے لیا کروں گی.....“

”جہیں!“ میں نے ممنوعیت سے کہا۔ ”آپ کی سیٹی نے تو ایک آدمی کی جان بچائی ہے۔ آپ جب واپس آئیں تو مجھ سے مل لیں۔ میرا نام کار ہے اور میں چوتھی منزل پر رہتا ہوں۔“

میں اوپر چلا آیا..... وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ شاید

اب وہ تھک چکا تھا۔

”تم میری نظر میں بے گناہ ہو۔“ میں نے کہا۔ وہ مجھے گھورتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔

”ہیلر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اتنا معلوم کر چکے ہیں کہ

اسٹیل سیزھیوں پر آئی تھی۔ پھر کسی نے اسے پکڑ لیا ہوگا۔

اس کا گلا دبا یا تو وہ بے ہوش ہوگئی۔ اسی لمحے یہ لیونورا نکلی

ہوگی۔ اسٹیل اس وقت زندہ تھی مگر وہ یہ سمجھا کہ مرگئی ہے۔

گھبرا کر وہ اسے اوپر لے گیا اور کوڑے وان میں ڈال

دیا۔ وہیں وہ مرگئی۔ اسی لمحے تم نے نیچے سیٹی کی آواز سنی۔ تم

نے کھڑکیوں میں سے دیکھا اور اس عورت کو اسٹیل سمجھے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ کوئی لیٹر انہیں

ہوسکتا۔ وہ یقیناً اس کا منتظر رہا ہوگا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے

ہوئے آیا ہوگا اور جب تک وہ اندر تمہارے ساتھ رہی، وہ

یا پھر کھڑا رہا ہوگا اور اس نے اس کے یہاں آنے کا نہایت

خلط نتیجہ نکالا ہوگا.....“

”ہاں! وہ انسر دی سے بولا.....“ وہ بار بار یہی کہہ

رہی تھی کہ وہ مجھے چاہتی ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو پھر واپس

آئی مجھے اوداعی پیار کیا اور بولی۔۔۔ جانی! تمہاری جگہ کوئی

اور بھی نہیں لے سکے گا۔“

یہ جملہ اس نے سن لیا ہوگا اور اس نے حسد کی

آگ اور بھڑکادی ہوگی۔ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوگا

اس لیے اس نے تمہارے اندر جانے کا انتظار کیا..... اور

جب اسے پکڑا.....“

ہم دونوں میں سے کسی نے اس کا نام نہیں لیا تھا مگر ہم

دونوں اسے جانتے تھے لیکن صرف جاننے سے کیا ہوتا ہے۔

ہم دونوں خاموش ہو کر سوچنے لگے۔

میں سگریٹ سلکا کر ٹپٹنے لگا اور وہ ناخن کترنے لگا۔

یہ اس کی مخصوص عادت تھی۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو منہ سے

ہاتھ ہٹا کر بولا۔ ”اس نے میری یہ عادت چھڑا دی تھی۔ یہ

لڑکیاں اپنے محبوب کی ہر ناپسندیدہ عادت سب سے پہلے ختم

کراتی ہیں اور اب میں پھر وہی حرکت کر رہا تھا۔ شاید اس

لیے کہ اب منع کرنے والی نہیں رہی.....“

میں کچھ نہ بولا.....

”اور صرف یہی بات وہ ٹریہولٹ کی تعریف میں کہتی

تھی کہ وہ تو کبھی ناخن نہیں کترتا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟“

میں رک کر اس کی طرف پلٹ پڑا۔ وہ چونک

گیا.....“ وہ نہیں کترتا۔ میں نے خود اس کے ناخن دیکھے

تھے.....“ اس کے تو ناخن نہ ہونے کے برابر تھے اور پھر تڑھن

کے دوران جب وہ زروس تھا تو۔۔۔ ما جس کی تیلیاں توڑ رہا تھا۔

اگر وہ ناخن کترنے کی عادت میں مبتلا ہوتا تو اس وقت بھی

یہی کر رہا ہوتا۔ اسٹیل صحیح کہتی تھی لیکن پھر اس نے اس کی

موت کے فوراً بعد اپنے ناخن اس قدر کیوں کاٹ ڈالے؟“

پھر میں نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دیا.....“ اس لیے کہ

ان میں کچھ لگا ہوا ہوگا..... شاید اس ڈرم کا چونا یا رنگ

..... شاید ہم اسے اسی بنیاد پر گرفت میں لاسکیں۔“

”مگر کیسے؟“ وہ اب بھی مایوس تھا۔ ”ناخن تو اب

ہیں نہیں۔ ان کے ساتھ چوڑے یا رنگ کے آثار بھی مٹ

چکے ہوں گے۔“

”ممکن ہے ایسا نہ ہو۔“ اچانک میرے ذہن میں

ایک خیال آیا۔ ”ارے ہاں! وہ جمعدار کہہ رہا تھا کہ کوڑے

دانوں پر ابھی رنگ کرایا گیا ہے۔ ایک دو روز پہلے ہی تو وہ

مجھے سیزھیوں پر رنگ اور برش لیے ملا تھا۔ ٹھہرو! میں ابھی

دیکھ کر آتا ہوں۔ تم ہمیں رکوا کوئی نہیں دیکھ نہ لے۔“

میں نے اوپر جا کر وہ کوڑے دان دیکھا جس میں

اسٹیل کو ڈالا گیا تھا۔ اس پر تازہ مبرنگ کیا گیا تھا۔ اب یہ

چٹا نہیں تھا کہ رنگ اس دانے سے پہلے کیا گیا تھا یا بعد میں۔

اگر پہلے کیا گیا تھا تو اس کے ناخنوں میں یہی تازہ رنگ لگ

گیا ہوگا۔ میں نے یونہی ایک جگہ سے کھریج کر دیکھا نیچے

سے پرانا رنگ جھانکنے لگا تھا۔ میں بھاگتا ہوا نہ خانے میں

آیا اور جمعدار سے پوچھا۔

”نہیں..... یہ قتل کے بعد کیا گیا ہے قتل والے دن

میں آپ کے فلور تک پہنچا تھا۔ اگلے روز میں پانچویں منزل

کے کوڑے دان پر کرتا۔ وہ چوتھی منزل والے کوڑے دان

میں اسے نہیں ڈال سکتا تھا۔ کیونکہ میں نے اس کا دروازہ

بند کر دیا تھا تاکہ رنگ سوکنے سے پہلے کوئی اسے ہاتھ نہ

لگا دے۔ اسی لیے وہ اسے اوپر کی منزل پر لے گیا جب

پولیس والوں کا کام ختم ہو گیا۔ تب میں نے اسے رنگ کیا۔“

تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ناخنوں پر تازہ

رنگ نہیں لگا تھا جس کی وجہ سے اس نے انہیں کاٹ کر

پھینک دیا۔ شاید ڈرم کا رنگ لگا ہو مگر جیسا کہ ڈکسن نے کہا

جب ناخن ہی نہیں رہے تو ثابت کیا گیا جاسکے گا۔

میں اپنے قلیٹ میں واپس آ گیا اور مایوسی سے ہاتھ

پھیلا دیے اور اسی لمحے مایوسی کی انتہا پر مجھے ایک خیال

آیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان بری طرح الجھ جائے اور مایوسی

ہو کر ہار مان لے تو ابھرنے کا عمل خود بخود اس کے ذہن میں آ جاتا

ہے۔ میں نے اس سے پوچھا۔ ”تم بتا سکتے ہو کہ دوبارہ رنگ

کیے جانے سے پہلے کوڑے دان کا رنگ کیا تھا؟“

”نہیں..... میں وہاں کب جاتا ہوں؟“

”جب کہ تم نہیں رہتے ہو۔ مجھے بھی پتا نہیں تھا۔ ابھی میں نے اوپری سطح کھرچی تو اندر سے کوئی اور رنگ نکلا“ میں اسی پر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک حربہ ہے مگر اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔“

وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔

”اس رات اس کا رنگ زرد تھا اور پولیس نے اسے دو دن تک رنگ نہیں کرنے دیا۔ اب اگر 600-650 سٹیبل کو وہاں لے کر نہیں گیا تو اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔“ یہ کہہ کر میں نے فون اٹھالیا اور جب میں نے ہیڈ کوارٹر کا نمبر مانگا تو وہ پریشان نظر آنے لگا۔ ”تم مطمئن رہو ڈکسن“ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ جب ہیلر لائن پر آ گیا تو میں نے اس سے کہا.....

”آپ مجھ سے سز مشل کے ہاں مل سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔“

میں ڈکسن کو وہیں چھوڑ کر اور روشنی نہ کرنے کی ہدایت دے کر وہاں سے چل پڑا۔

سز مشل کے دروازے پر مجھے ہیلر کو قائل کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھا۔

”میں آپ سے صرف اتنی درخواست کر رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں آپ اس کی تردید نہ کریں تاکہ ایسا معلوم ہو جیسے یہ آپ کے اشارے پر کہہ رہا ہوں۔ آپ سنیے گا وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ اس کوڑے دان کے قریب نہیں گیا؟“

”وہ کیا کوئی پرندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔“

”بس تو ٹھیک ہے۔“ میں نے گھنٹی بجائی۔ ٹری ہوٹل نے دروازہ کھولا اور ہم دونوں اندر آ گئے۔ میں اندر سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ایک دھاگے کا سہارا ملا تھا اور میں اس پر عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹری ہوٹل بڑا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے ناخن پھر بڑھنے لگے تھے۔

اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ باقاعدہ دانتوں سے ناخن کترنے کا عادی نہیں تھا۔ اب مجھے اس کے ذہن کو تھوڑا سا چکراتا تھا تاکہ وہ چند لمحوں کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ میں دیر سے دیر سے کہانی بناتا ہوا ٹیپو تیز کرتا رہا۔ یہاں تک میں نے براہ راست حملہ کر دیا۔

”یہ تم تھے۔ ہمیں شروع سے معلوم تھا۔“ میں خوفزدہ تھا کہ مجھے ہیلر تردید نہ کروئے مگر اس نے وعدے کا پاس

کیا اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔

”تمہارا کمر بالکل سامنے کی طرف ہے اور سز مشل کا پیچھے کی طرف۔ اس نے تمہیں آٹھ بیچے اندر آتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد تم اس کے علم میں لائے بغیر ہزار بار نکل کر اندر آ سکتے تھے۔ تمہارے پاس اپنی چابی تھی اور پھر سز مشل دوبارہ اس وقت تمہارے پاس آئی جب آدمی رات گزرنے کے باوجود سٹیبل واپس گھر نہ لوٹی۔“

میں نے اندازہ لگایا کہ اب لوہا گرم ہو چکا ہے گو یہ ظاہر وہ اب بھی پرسکون تھا مگر وہ اضطراب ہی طور پر ماچس کھول رہا تھا۔ یہ ابتدا تھی۔ ”اور تم نے اپنے ناخن اس قدر گہرے کترنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟“ پھر میں نے اسے سوچنے کی مہلت دیے بغیر حملہ کر دیا۔ ”میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ تمہارے ناخنوں پر کوڑے دان کا شمار تک لگ چکا تھا۔“

وہ اب بھی پرسکون رہا۔ ”کیا کہنے؟ تم مجھے گھیرنا چاہتے ہو۔ اس کوڑے دان کا رنگ نکلا نہیں بلکہ زرد تھا اس لیے میں کس طرح.....“

میں خاموش ہو گیا۔ اب مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔

ہیلر صرف اتنا بولا۔ ”یہ بات تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھی۔“ اور کرسی سے اٹھ گیا۔

☆☆☆

میں گھر پہنچا تو صبح ہونے والی تھی۔ ”آؤ بار میں تمہیں ہیڈ کوارٹر لے جانے آیا ہوں۔“ میں نے ڈکسن کو مخاطب کیا جو شاید تمام رات ایک لمحے کو بھی نہ سوسکا ہوگا۔ وہ میری بات سن کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔

”اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔“ میں نے کہا۔ ”سارا بھید کھل چکا ہے۔ ٹری ہوٹل اچھی طرح گرفت میں آچکا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پیش کروں گا۔ اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔“

نیچے اترتے ہوئے میں نے اس سے کہا۔ ”اس نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی تھی مگر اس کوشش میں وہ اکیلا نہیں تھا۔“

”تو اور کون تھا اس کے ساتھ.....؟“ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔

”تم خود تھے..... میں نے آج تک ایسا..... شخص نہیں دیکھا جو خود کو دلدل میں دھنسانے کی اتنی کوشش کر رہا ہو.....“

ان دلوں پر صغیر میں ہر قسم کے لوگ کھنچے چلے آ رہے تھے۔ تجارت پیشہ، ہنرمند، کاریگر، جنگ جُو، عالم اور صوفی، مثل سلطنت اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ جلال الدین اکبر کا عہد حکومت تھا اور انہی دین الہی وجود میں نہیں آیا تھا۔ انہی دلوں سر قند سے خواجہ عبدالسلام نامی ایک بزرگ اپنے بال بچوں کے ساتھ برصغیر میں داخل ہوئے اور وہلی کے قریب نریلہ نامی ایک بستی میں مقیم ہو گئے۔ اپنے کردار اور گفتار کی وجہ سے لوگوں نے انہیں اپنے دلوں میں جگہ دی اور آنکھوں پر بٹھایا۔ ان کی علیست

ابوالعلیٰ قطبِ دوراں

ضیاء نسیم بلگرامی

ہر عہد میں نیکی اور بدی نے اپنے اپنے کو داریوں کو اتنی خوبی سے ڈبھایا ہے کہ کہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی... اگر بدی نے کسی کو اپنی گرفت میں قید کیا تو اسے مکمل تباہ و برباد کو ڈالا۔ اسی طرح جب نیکی نے اپنے حصار میں پناہ دی تو اسے مٹی سے سونا بنا دیا... آپ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا جنہوں نے اپنے رب العزت کی رستی کو مضبوطی سے تھاما اور تمام تر دشواریوں کو بہ آسانی عبور کر لیا... یہی اس کی شان ہے نیازی کا کوشمہ ہے کہ ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے... لیکن یہ تو وہ ذرہ ہی جانتا ہے کہ آفتاب بننے کا رستہ کن کن آزمائشوں سے گزر کوٹے کیا گیا۔

محبت اور انکساری کے شاہکار ایک نیک انسان کا قصہ

Downloaded From
Paksociety.com

REALING
tion

مسلم تھی۔ زبان میں تا شیر تھی جس سے مخاطب ہوتے، اپنا بنا لیتے۔ جس کے کان میں ان کی آواز پڑ جاتی وہ والدہ شیدا ہو جاتا۔
کچھ عرصہ فریلہ میں رہ کر فتح پور سیکری کا برخ کیا۔ وہاں قیام کر کے آگے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے جن کے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام پھیلا تھا اور جن کے روحانی فیوض و برکات نے ایک زمانے کو اپنا امیر بنا رکھا تھا۔ خواجہ عبدالسلام کا شہرہ جلال الدین اکبر کے کانوں تک پہنچ چکا تھا۔ بعض امرائے دربار بھی خواجہ عبدالسلام کے ارادت مند تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا۔ ”کیا تم میں کوئی بھی خواجہ عبدالسلام سے واقف ہے؟“

کئی امیروں نے ہائی بھری اور واضح لفظوں میں بتایا کہ آج کون ہے جو خواجہ عبدالسلام سے واقف نہیں۔
بادشاہ نے کہا۔ ”میں نے سنا ہے وہ بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ ہیں؟“
ایک امیر نے جواب دیا۔ ”اس میں کیا شک! بلاشبہ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔“
بادشاہ نے تردد سے کہا۔ ”میں نے سنا ہے وہ فتح پور سیکری سے کہیں اور چلے جانا چاہتے ہیں۔“
کسی دوسرے امیر نے جواب دیا۔ ”اگر وہ کہیں جانا چاہیں گے تو انہیں روک بھی کون سکتا ہے۔ ممکن ہے ان کا دل ہندوستان سے بھر گیا ہو اور وہ یہاں سے چلے جانا چاہتے ہوں۔“

بادشاہ نے کہا۔ ”لیکن میں انہیں نہیں جانے دوں گا، چاہے وہ کیسی بھی کوشش کریں۔“
امراء خوفزدہ ہو گئے کہ معلوم نہیں بادشاہ کا ان باتوں سے مطلب کیا ہے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں بادشاہ خواجہ عبدالسلام سے ناراض تو نہیں ہے۔ ایک امیر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ”کیا حضور کو خواجہ عبدالسلام کی کوئی بات گراں گزری ہے؟“
بادشاہ نے جواب دیا۔ ”نہیں، میں خواجہ کی عزت کرتا ہوں اور میں اس بزرگ کو یہاں سے اس لیے نہیں جانے دوں گا کہ میں ان کی قربت میں سعادت محسوس کرتا ہوں۔“

امراء کی جان میں جان آئی۔ جب خواجہ عبدالسلام کو یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ انہیں نہیں اور نہیں جانے دے گا اور ان کی قربت کو اپنے حق میں سعادت سمجھتا ہے تو یہ خود ہی رک گئے اور فتح پور سیکری میں مستقل اقامت اختیار کی۔ بادشاہ کو ان کی اقامت سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔

کچھ عرصے بعد خواجہ عبدالسلام نے بادشاہ سے حج بیت اللہ پر جانے کی اجازت چاہی جو دے دی گئی۔ خواجہ عبدالسلام نے سرزمین حجاز میں انتقال فرمایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے امیر ابو الوفا نے باپ کی جانشینی کی اور ارادت مندوں نے انہیں اپنا مرجع بنا لیا لیکن یہ بھی زیادہ غم لے کر نہیں آئے تھے۔ فتح پور سیکری ہی میں ان پر درویشی کا دورہ پڑا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امیر ابو الوفا نے اپنی زیارت کے لیے ایک کسٹن بچھ چھوڑا تھا، اس کا نام تھا امیر ابو العلی۔

اس کسٹن بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کے نانا خواجہ محمد فیض کے سر پڑی۔ وہ ان دنوں بردوان (بنگال) میں ناظم تھے چنانچہ نانا نے اپنے نواسے کو بردوان ہی بلوایا۔ انہوں نے امیر ابو العلی کی تعلیم و تربیت نیز بڑی توجہ دی۔ ان کی ذہانت، حافظے اور فہم و ادراک کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ بتایا یا پڑھایا جاتا، ازبر ہو جاتا۔ نانا کو بڑی خوشی تھی کہ اتنا لائق اور ہونہار نواسان کی سرپرستی میں پرورش پا رہا تھا۔

بنگال کی صوبے داری راجا مان سنگھ کے سپرد تھی۔ امیر ابو العلی کے نانا خواجہ محمد فیض، مان سنگھ ہی کے ملازم تھے۔ راجا مان سنگھ نے امیر ابو العلی کو کوئی بار دیکھا اور ان سے باتیں کرنے کے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ نوجوان امیر ابو العلی ایک نہایت دن بڑی شہرت کا حامل ہوگا۔ اس نے امیر ابو العلی کے نانا سے کہا۔ ”خواجہ فیض! آپ کا نواسہ غیر معمولی شخصیت کا حامل معلوم ہوتا ہے اس لیے آپ اگر میری بات مانیں تو ان صاحبزادے کو کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرادیں۔“

نانا نے جواب دیا۔ ”راجا جی! جب تک میں زندہ ہوں، اپنے نواسے پر کسی قسم کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کو ذرا اور بڑا ہو گئے دیکھے پھر تو میں خود ہی اس کی سفارش کر کے کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرادوں گا۔“
راجا مان سنگھ نے کہا۔ ”جیسی آپ کی مرضی، ورنہ میں اس نوجوان کے لیے بڑے اچھے جذبے رکھتا ہوں۔“
نانا خواجہ فیض نے اپنے نواسے کو زمانے کے دستور کے مطابق نین سپاہ گری بھی سکھائی اور امیر ابو العلی نے اس میں خاصی شہرت حاصل کر لی۔

اسی دوران خواجہ فیض کو راجا مان سنگھ کی طرف سے ایک مہم میں جانا پڑا۔ وہاں محمسان کارن پڑا جس میں خواجہ فیض شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر امیر ابو العلی کو پہنچی تو بہت پریشان ہوئے کیونکہ اب ان کا کوئی سرپرست نہیں رہ گیا تھا۔ راجا مان سنگھ

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

بہ نفس نفیس خود چل کے امیر ابو العلیٰ کے پاس پہنچا اور ان سے تعزیت کی۔ امیر ابو العلیٰ نے جواب میں کہا۔ ”راجا جی! مشیت ایزدی پوری ہوگئی، ہم آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میں تو ہر حال میں صابر و شاکر ہوں۔“

راجا جان سنگھ نے امیر ابو العلیٰ کی باتوں میں عظمت محسوس کی، کہا۔ ”صاحبزادے! میں تم سے کوئی وعدہ تو نہیں کر رہا ہوں لیکن میں تمہارے لیے جو جذبات رکھتا ہوں، اس کا احترام عملی اظہار کروں گا۔“

امیر ابو العلیٰ خاموش ہو گئے۔ کئی ماہ بعد راجا جان سنگھ ان کے پاس دوبارہ آیا اور کہا۔ ”صاحبزادے! امیر اخیال ہے علم و فضل اور فنون سیاہ گری میں تم بہتوں پر فوقیت رکھتے ہو چونکہ تمہارے نانا خواجہ فیض مرحوم کوئی بیٹا نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے تم کو ہی بیٹوں کی طرح پالا پوسا تھا، اس لیے میں منصب نظامت پر تمہارے نانا کی جگہ تم کو فائز کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں، میں نے بادشاہ سے باقاعدہ منظوری بھی حاصل کر لی ہے۔ میں چاہتا تو یہ منصب اسی وقت تمہیں دے دیتا جب تمہارے نانا شہید ہوئے تھے لیکن میں مضبوط کام کرنا چاہتا تھا اور اب جبکہ بادشاہ نے بھی تحریری منظوری دے دی ہے تو تم اپنے نانا کے منصب پر پختہ ہو گئے ہو۔“

اس طرح نو عمر امیر ابو العلیٰ کو بادشاہ کی طرف سے منصب سہ ہزاری ذات و سوار حاصل ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو حیرت تھی کہ اس قدر نو عمری میں بادشاہ اور راجا جان سنگھ نے امیر ابو العلیٰ کو عہدہ نظامت کی عطا کر دیا لیکن جب ان کا کام دیکھا تو اور رنگ رہ گئے۔ نیا پنے فرانسس مینسٹی کو جس دیانت و فراست اور لیاقت سے انجام دے رہے تھے، بڑے بڑے آزمودہ کار بھی ان کے مقابل نہیں ٹھہرتے تھے۔

چند سال بعد امیر ابو العلیٰ کو اپنے اندر ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے منصب سے مطمئن نہیں تھے۔ انہیں دنیا داری بری لگنے لگی۔ جاہ و شہرت سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اس بے چینی اور اکتاہٹ میں ایک شب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس تین بزرگ تشریف فرما ہیں۔ امیر ابو العلیٰ ان سے نظریں ملاتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ ایک بزرگ نے ان سے پوچھا۔ ”سید ابو العلیٰ! ایک بات تو بتا؟“

انہوں نے شرمناک کہا۔ ”کون سی بات؟ پوچھیے تو۔“

بزرگ نے کہا۔ ”تو نے یہ کیسی وضع اختیار کر رکھی ہے؟ کیا دنیا اور جاہ و شہرت واقعی اتنی دلچسپ اور مزے کی چیزیں ہیں جن میں آدمی اپنی زندگی گزار دے۔“

ابو العلیٰ نے پوچھا۔ ”پھر میں کیا کروں؟“

بزرگ نے جواب دیا۔ ”اپنی موجودہ وضع قطع کو ترک کر کے ہماری روش اختیار کرو۔“

ابو العلیٰ نے عرض کیا۔ ”اور فکرِ معیشت؟ زحمت رہنے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہی پڑے گا۔“

بزرگ نے جواب دیا۔ ”سید ابو العلیٰ! اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اپنے دل میں خدشوں اور وسوسوں کو کوئی جگہ بندو۔“

اتنا کہہ کے ان بزرگ نے استرہ نکالا اور اس سے ان کے سر کے بال صاف کر دیے۔ دوسرے بزرگ نے آگے بڑھ کر ان کا لباس اتار پھینکا اور اس کی جگہ گھنٹی پہنا دی۔ تیسرے بزرگ نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ایک عمامہ رکھ دیا اور پھر تینوں نے ان سے کہا۔ ”ہم تینوں نے تو اپنے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ آگے تم جانو اور تمہارا کام۔“

امیر ابو العلیٰ کی آنکھ کھلی تو ان کی بے چینی دور ہو چکی تھی اور انہیں ایک عجیب سی طمانیت حاصل ہو چکی تھی۔ صبح انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ حجام کو بلوا کر سر کے بال کٹوا دیے۔ عہدہ نظامت کا لباس اتار پھینکا اور ایک معمولی لباس زیب تن کیا۔ اب ان کا کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا، دنیا بچ نظر آتی تھی۔ کاروبار دنیا سے دل بے زار ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں یہ راجا جان سنگھ کے پاس پہنچے۔ وہ اچانک انہیں اپنے روبرو دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید ان پر کوئی افتاد آن پڑی ہے، اس کا صل معلوم کرنے تشریف لائے ہیں، پوچھا۔ ”ابو العلیٰ! کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے، یہ بے وقت کی تشریف آوری کیسی؟“

ابو العلیٰ نے عرض کیا۔ ”راجا جی! آپ نے مجھے میرے نانا کے منصب پر فائز کر کے جو احسان کیا تھا، میں چاہتا ہوں اسے آپ کو واپس کر دوں۔“

راجا جان سنگھ نے حیرت سے پوچھا۔ ”میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟“

ابو العلیٰ نے جواب دیا۔ ”راجا جی! میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔“

راجا مان سنگھ نے سمجھا شاید ابو العلی سے کوئی غلط سلسلہ کام ہو گیا ہے اس سے دل برداشتہ ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، جواب دیا۔ ”صاحبزادے! آپ اس منصب کے ال ہیں یا نہیں ہیں، یہ فیصلہ تو میں کروں گا، بادشاہ کرے گا۔ وہ لوگ کریں گے جو آپ سے متعلق ہیں اور جن کا شب و روز آپ سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو بتائیے، میں اس کا حل نکال دوں گا اور اس کا تدارک کر دیا جائے گا۔“

ابو العلی نے جواب دیا۔ ”راجاجی! مجھ سے چند ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں جن کا آپ تدارک نہیں کر سکتے اس لیے میں اپنے آپ کو عہدہ نظامت کا ال نہیں سمجھتا۔“

راجا مان سنگھ نے پوچھا۔ ”صاحبزادے! آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟“

ابو العلی نے عرض کیا۔ ”میں چاہتا ہوں، مجھ کو عہدہ نظامت سے سبکدوش کر دیا جائے۔“

راجا مان سنگھ کی نظر میں یہ ایک غیر معمولی مطالبہ تھا، جواب دیا۔ ”ابو العلی! میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس منصب پر آپ فائز ہیں، وہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے اور اس پر ہمیشہ جہاں دیدہ آزمودہ اور تجربے کار لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ میں معلوم نہیں کیا دیکھا تھا جو بادشاہ سے یہ منصب آپ کو دلا دیا اور آپ اس کی ناقدری کر کے اسے چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آخر کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟“

ابو العلی نے کہا۔ ”راجاجی! جب آپ نے مجھے یہ منصب عطا فرمایا تھا، میں بہت خوش ہوا تھا لیکن اب میں خود کو دنیا اور کاروبار دنیا سے نفور اور بےزار محسوس کرتا ہوں اس لیے اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہتا ہوں۔“

راجا مان سنگھ نے آپ کو ٹٹولنا چاہا، بولا۔ ”میں آپ کی لیاقت اور قابلیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں بادشاہ سے سفارش کر کے آپ کو کوئی اس سے بھی بڑا منصب دلوں گا۔“

ابو العلی نے جواب دیا۔ ”اگر آپ میرا استعفا منظور فرمائیں گے تو میں آپ کا بہت شکر یہ ادا کروں گا۔“

راجا مان سنگھ نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ ”سید صاحب! آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجیے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے گا۔“

ابو العلی نے جواب دیا۔ ”راجاجی! یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے ورنہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب تک میں نے جو کچھ کیا ہے، اس سے مجھے نقصان پہنچا ہے۔ میں مزید نقصان کا تحمل نہیں ہو سکتا۔“

راجا مان سنگھ نے آپ کا استعفا لے کر رکھ لیا، کہا۔ ”میں آپ کا استعفا اپنے پاس رکھے لیتا ہوں اور آپ کو سوچنے کا کچھ اور وقت دے رہا ہوں ممکن ہے چند دنوں بعد آپ اپنے اس فیصلے پر شرمسار اور تادم ہوں، اس وقت آپ اپنا یہ استعفا واپس لے سکتے ہیں۔“

ابو العلی نے کہا۔ ”راجاجی! افسوس کہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ میں نے یہ استعفا بہت سوچ سمجھ کر دیا ہے براؤ کر م آپ اس کو منظور فرما کر مجھے سبکدوش فرمادیں۔“

راجا مان سنگھ نے کہا۔ ”افسوس کہ میں بھی بہت مجبور ہوں، جب تک مجھے آپ جیسا کوئی اور شخص اس منصب کے لیے نہیں مل جاتا، میں آپ کا استعفا نہیں منظور کر سکتا۔“

آپ کو راجا مان سنگھ کی حیل حجت سے دکھ پہنچا اور عاجزی سے فرمایا۔ ”راجاجی! میرا دل نہ دکھائیے، میرا استعفا منظور کر لیجیے۔“

راجا مان سنگھ نے جواب دیا۔ ”سید صاحب! آپ بھی میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت میں بڑی اہم مہم میں الجھا ہوا ہوں، جب تک ادھر سے فراغت نہ مل جائے، میں آپ کا استعفا نہیں منظور کر سکتا۔“

آپ نے طوعاً و کرہاً راجا کی بات مان لی۔

چند دنوں بعد راجا مان سنگھ نے آپ کو طلب کیا اور کہا۔ ”سید صاحب! میں نے آپ سے جس مہم کا ذکر کیا تھا اس کا وقت آچکا ہے۔ میناپور کے میدان میں باغیوں کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور مجھ کو کسی شبی طاقت نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ مہم آپ کی سرکردگی میں لڑی گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ورنہ ناکام رہیں گے۔ آپ کو اس مہم میں شاہی افواج کی سالاری کرنا ہے چنانچہ اب آپ تیار ہو جائیں۔“

راجا مان سنگھ نے آپ سے کہا۔ ”راجا مان سنگھ کی بات مان لی اور شاہی افواج کو لے کر میناپور روانہ ہو گئے۔ وہاں

باغی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہی افواج کو دیکھتے ہی حملہ آور ہو گئے۔ آپ نے ان کے حملوں کو نہایت پامردی اور ہوشیاری سے روکا اور خود جوانی حملہ کر دیا۔ گھمسان کارن پڑا اور شام سے پہلے ہی باغیوں کو پسا کر دیا۔ انہوں نے راہ فرار اختیار کی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا اور بیشتر باغیوں کو زندہ گرفتار کر لیا۔ راجا مان سنگھ کو یہ خبر پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا۔

آپ صبح کا نقارہ بجاتے ہوئے برووان میں داخل ہوئے تو یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ راجا مان سنگھ نے آپ کو سینے سے لگا لیا اور کہا۔ ”صاحبزادے! آپ میرے کہنے سے اپنے استغنے پر نظر ثانی کیجیے، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو سبکدوش کروں۔ آپ بہت لائق نوجوان ہیں۔“

ابوالعلیٰ نے جواب دیا۔ ”راجاجی! میں نے آپ کا کام کر دیا، آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ میں دنیا سے بے زار ہوں اور اس سے کناوہ کسی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔“

مان سنگھ نے کہا۔ ”آپ انجی صاحبزادے ہیں، یہ عمر ترک دنیا کی نہیں۔“

ابوالعلیٰ نے بڑے تحمل سے کام لیا، فرمایا۔ ”راجاجی! جو تو میں مجھے دنیا سے بے زار کر رہی ہیں، ان میں یہ طاقت بھی ہے کہ وہ آپ کو یا بادشاہ کو میرا استعفا قبول کرنے پر مجبور کر دیں۔“

مان سنگھ نے جواب دیا۔ ”اگر یہ بات ہے تو میں ان ناویدہ قوتوں کے دباؤ کا انتظار کروں گا اور جب تک میں ان کے دباؤ میں آکر استعفا منظور نہ کر لوں، آپ اپنا کام کرتے رہے۔“

ابوالعلیٰ اپنے گھر واپس آ گئے اور بہت اوس رہنے لگے، جب تک استعفا منظور نہ ہو جاتا وہ برووان سے مل بھی نہیں سکتے۔

وہ انتہائی مغموم اور فکر مند رات کو اپنے بستر پر سو گئے تو خواب میں پہلے تینوں بزرگوں کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی نظر آئے۔ یہ چوتھے بزرگ سب سے زیادہ نورانی شکل و صورت رکھتے تھے۔ ان کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن اور ماہتاب کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر انہیں مخاطب کیا۔ ”ابوالعلیٰ! تو نے یہ کیسی روش اختیار کر رکھی ہے، اپنی آہائی روش کیوں نہیں اختیار کرتا؟“

ابوالعلیٰ نے عرض کیا۔ ”حضرت! میں کیا کروں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میرا استعفا منظور کر لیا جائے لیکن راجا مان سنگھ ہر بار ٹال دیتا ہے۔ میں کبیل کو کس طرح چھوڑ دوں۔ کبیل نے تو مجھے پکڑ رکھا ہے، کسی طرح چھوڑتا ہی نہیں۔“

ایک بزرگ نے جواب دیا۔ ”ابوالعلیٰ! مت گھبرا۔ ہم نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔“

ابوالعلیٰ نے بے صبرے پن سے پوچھا۔ ”حضرات! وہ کس طرح؟“

جواب دیا۔ ”برووان خیر ادا میں پکڑے ہوئے ہے اور ہم برووان ہی سے تیرا پیچھا چھڑا دیں گے۔“

اس کے بعد ابوالعلیٰ کی آنکھ کھل گئی اور دنیا سے بے زاری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر راجا مان سنگھ

پڑو ہاؤڈالا کہ ان کا استعفا منظور کر لیا جائے لیکن مان سنگھ نے ایک بار پھر انہیں ٹال دیا۔ اب آپ کو خواب کی تعبیر کا انتظار تھا۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر برووان ان کا پیچھا کس طرح چھوڑ دے گا۔

ایک شب اچانک راجا مان سنگھ کو ہرکارہ ابوالعلیٰ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ راجاجی نے انہیں فوراً ہی طلب فرمایا ہے۔

ابوالعلیٰ اسی وقت راجا مان سنگھ کے پاس چلے گئے اور پوچھا۔ ”اس بے وقت طلبی کا کوئی خاص مقصد ہے کیا؟“

راجا مان سنگھ بہت اوس تھا۔ ایسا لگتا تھا گویا بس رونے ہی والا ہے۔ ابوالعلیٰ کا ماتھا ٹھنکا اور اندازہ لگایا کہ یہاں کوئی

خاص بات ضرور ہے، پوچھا۔ ”راجاجی! آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ آپ نے اس رات کے اندھیرے میں کیوں طلب فرمایا ہے؟“

راجا مان سنگھ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ایک طرف بیٹھ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ”صاحبزادے! بیٹھ جائیے۔ اصرار نہ کریں، ابھی بتاتا ہوں۔“

ابوالعلیٰ راجا مان سنگھ کے سامنے بیٹھ گئے۔ راجا مان سنگھ نے اپنی جیب سے دو مال نکالا اور آنکھوں کے گوشوں کو خشک کر کے کہنا شروع کیا۔ ”سید صاحب! شہنشاہ اکبری کی بابت تمہاری کیا رائے ہے؟“

ابوالعلیٰ نے جواب دیا۔ ”شہنشاہ اکبر اس ملک کا حکمران ہے اور ہم سب اس کے نمک خوار ہیں۔“

راجا مان سنگھ نے کہا۔ ”تو یہ منحوس خبر بھی سن لیجیے کہ ہمارے دلی نعمت کا انتقال ہو گیا۔ شہنشاہ اکبر سورگ باشی ہو گئے اور اب ان کی جگہ ان کے بیٹے نور الدین جہانگیر نے تاج و تخت سنبھالا ہے۔ جہانگیر نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فوراً آگرنے پہنچیں کیونکہ وہ جملہ صوبے دارانِ مملکت اور دوسرے بڑے منصب داروں کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہے۔ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ ہم میں سے بعض کو معزول کر دیا جائے اور نئی تقرریاں عمل میں آئیں۔“

ابو العلی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ تو چاہتے ہی یہی تھے۔ راجا مان سنگھ نے انہیں خوش دیکھ کر کہا۔ ”تو گویا آپ بہت خوش ہیں؟“

ابو العلی نے جواب دیا۔ ”ہاں، میں خوش ہوں اور اس لیے خوش ہوں کہ اب میں کاروبار دنیا سے بہت جلد نجات حاصل کر لوں گا۔“

راجا مان سنگھ بہت دل برداشتہ تھا، بولا۔ ”تب پھر سز کی تیاریاں کیجیے۔“
ابو العلی کو تیاری ہی کون سی کرنا تھی، معمولی سا رخت سفیر لیا اور اکبر آباد روانہ ہو گئے۔ راستے میں جہاں جہاں اللہ کا پتلا، اس سے ملاقات کو ضرور پہنچے۔ چنانچہ منیر تائی قبے میں قیام کیا تو پتلا چلا کہ یہاں مشہور صوفی شیخ عسکری منیری کی اولاد میں سے کوئی بزرگ رہتے ہیں۔ ابو العلی ان سے ملاقات کو پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا۔ ”آؤ شاہ علی آؤ..... مرحبا، جزاک اللہ۔ یہ تم نے خوب کیا کہ دنیا کو چھوڑ دیا۔ اللہ نیا چیز دے گا۔ (دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے) اور بھائی کمال تو یہ ہے کہ پہلے تو جینے پر گوشت بھی تھا مگر اب سوکھی ہڈی باقی ہے۔“

ابو العلی ان سے مل کر خوش بھی ہوئے اور روح میں ایک تازگی بھی محسوس کی۔ کچھ دن ان کے پاس رہ کر اکبر آباد روانہ ہو گئے۔ وہاں پورے ملک سے امراء اور ناظم جمع ہو رہے تھے اور جہانگیر ان سب سے ملاقاتیں کر کے ان کی قابلیت اور لیاقت کا اندازہ لگا رہا تھا چنانچہ جہانگیر نے ابو العلی سے بھی ملاقات کی اور ان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا، پوچھا۔ ”کیا آپ خواجہ فیض کے نواسے ہیں؟“

انہوں نے جواب دیا۔ ”ہاں، میں خواجہ فیض کا نواسہ ہوں۔ میرے نانا خواجہ فیض کے نام سے مشہور تھے۔“
جہانگیر نے پوچھا۔ ”خواجہ عبدالسلام آپ کے کون تھے؟“

جواب دیا۔ ”وہ میرے دادا تھے جن کا سرزمین حجاز میں انتقال ہو گیا۔ خلد مکانی شہنشاہ اکبر ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔“

جہانگیر نے پوچھا۔ ”آپ کے باپ کا نام خواجہ ابو الوفا تھا؟“
ابو العلی نے جواب دیا۔ ”ہاں، میں خواجہ ابو الوفا کا بیٹا ہوں اور یہ سب تارک دنیا لوگ تھے۔“
جہانگیر نے مسکرا کر طنزاً کہا۔ ”مگر آپ تو تارک دنیا نہیں ہیں۔“

انہوں نے جواب دیا۔ ”یہ راجا مان سنگھ کی نوازشوں سے ہے۔ میں نے کئی بار دنیا کو چھوڑنا چاہا مگر اس مرد شریف نے اجازت ہی نہیں دی۔ اب میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، امید ہے کہ آپ میرا استعفاء ضرور منظور کر لیں گے۔“

جہانگیر نے کہا۔ ”آپ دربار میں آتے جاتے رہیں، میں آپ کی درخواست پر غور کروں گا۔“
ابو العلی نے دربار میں آنا جانا شروع کر دیا۔ جہانگیر ان سے بہت متاثر ہوا لیکن اپنے تاثر کو ان سے چھپائے رکھا۔ اس نے ابو العلی کو اس محفل میں بھی شریک کر لیا جس میں شراب کا دور چلتا تھا۔

ایک دن جہانگیر بہت خوش تھا۔ ساتی، بادشاہ کو شراب کے جام پیش کر رہا تھا اور بادشاہ مزے لے لے کر انہیں ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ بادشاہ کے پاس ہی ابو العلی موجود تھے۔ بادشاہ کو معلوم نہیں کیا سوچھی، اس نے ایک جام ان کی طرف بڑھا دیا۔ ابو العلی نے بے جھجک جام تولے لیا لیکن اسے فرش پر اٹھیل دیا۔ جہانگیر کو یہ بات بہت گراں گزری۔ اس کا تو جیسے نشہ ہی ہرن ہو گیا۔ گھور کر ابو العلی کی طرف دیکھا۔ ساتی کی جان نکلی جا رہی تھی کہ یہ ابو العلی کو ہو گیا گیا ہے۔ شاید اب ان کی خیر نہیں، اول تو انہیں جام لیتا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بادشاہ سے معذرت کر لیتے اور جب لیا ہی تھا تو اس کو فرش پر اٹھیلانا نہیں چاہیے تھا۔

بادشاہ نے کچھ سوچ کر ساتی سے دوسرا جام لیا اور یہ جام بھی ابو العلی کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے یہ جام بھی بادشاہ سے لے کر فرش پر اٹھایا کر دیا۔ بادشاہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکا۔ غصے سے بولا۔ ”ابو العلی! ابھی تک میں

حیری عزت کرتا تھا لیکن تو گستاخ لکلا۔ کیا تو آداب شاہی سے واقف نہیں ہے۔ یہ خود نمائی، بے اعتنائی۔ کیا تو غضب سلطانی سے نہیں ڈرتا؟“

ابوالعلیٰ نے جواب دیا۔ ”بے شک میں غضب سلطانی سے نہیں ڈرتا مگر قہر ربانی سے ضرور ڈرتا ہوں۔“

بادشاہ نے غصے میں کہا۔ ”اگر یہ بات ہے تو، تو اسی وقت میری محفل سے اٹھ جا۔“

ابوالعلیٰ بادشاہ کی محفل سے اٹھ آئے اور اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے۔ جب بادشاہ کو ذرا ہوش آیا تو اس نے انہیں طلب کیا لیکن ابوالعلیٰ نے جانے سے انکار کر دیا۔

بادشاہ نے دوبارہ آوی بھیجا اور کہلایا۔ ”میں نے جو کچھ کیا تھا، نشے میں کیا تھا، اس کو بھلا دیجیے اور تشریف لے آئیے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔“

آپ نے جواب میں کہہ دیا۔ ”میں دنیا داری کے چکر میں بہت ذلیل ہو چکا ہوں، میں استغنیٰ کی منگوری کا انتظار کرتا رہا اور دنیا میں جہلا اور رسوا رہا لیکن اب میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ میرا استعفا منظور کریں یا مسترد کر دیں۔ میں شاہی ملازمت نہیں کر سکتا۔“

جہا تکیر بے بس ہو گیا اور آپ کا استعفا منظور کر لیا۔ راجا مان سنگھ نے کہلایا۔ ”شاہی ملازمت چھوڑ کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ بہت بچھتا کریں گے۔“

آپ نے جواب دیا۔ ”شرمندگی اور بچھتاؤ تو ان کا مقدر ہے جو دنیا میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہ کیا بچھتا کریں گے جنہوں نے دنیا کو لات ماروی۔“

انہوں نے اپنا سارا مال و متاع تقسیم کر دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ اب وہ اپنے طور پر مراقبے میں رہنے لگے۔ ایک دن مراقبے میں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ ان سے کہہ رہے تھے۔

”اے فرزندِ ارجمند! تمہارا کشود کار خواجہ معین الدین چشتی سے مقدر ہے۔ تم قتالِ امت اختیار کرو، اٹھو، اجیر روانہ ہو جاؤ ویر نہ لگاؤ، جاؤ اور اپنا حصہ پناؤ۔“

آپ نے اسی وقت اپنا وہ سامان بھی راو خدا میں دے دیا جو فروغ کیا تھا۔ سفید بند باندھ کر جسم کو چادر میں چھپا لیا اور وہی روانہ ہو گئے۔ وہاں قلب الدین بختیار کاکی اور نظام الدین اولیا کے مزار پر حاضری دی اور پھر اجیر روانہ ہو گئے۔ مزار پر حاضری دی اور اس بات پر حیران رہ گئے کہ خواجہ چشتی نے عالم رویا میں ان سے ملاقات کی۔ پھر ایک دن یہ خواجہ کے مزار کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں اپنے پاس ہی خواجہ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے خواجہ کو دیکھا تو بس دم بخود دیکھتے ہی رہ گئے۔ خواجہ نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کچھ دیتے ہوئے کہا۔ ”ابوالعلیٰ! اے کھالو۔“

ابوالعلیٰ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح کے دانے جیسے کوئی سرخ چیز دیکھی اور بے تامل منہ میں رکھ کر حلق سے اتار لیا۔ اس کے اترتے ہی ابوالعلیٰ نے اپنی کیفیت میں نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ ان کا قلب روشن ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دن اور اجیر میں رہتے لیکن خواجہ نے انہیں حکم دیا۔ ”آگرے واپس جاؤ، تمہارا کام ہو چکا۔“

ابوالعلیٰ نے عرض کیا۔ ”حضرت! میں تو آپ کی بیعت کو حاضر ہوا ہوں اور آپ مجھے آگرے واپس جانے کا حکم دے رہے ہیں۔“

خواجہ نے جواب دیا۔ ”ابوالعلیٰ! تو نے اپنے چچا امیر عبداللہ کو معلوم نہیں کیوں بھلا رکھا ہے حالانکہ وہ بہت بڑے عبادت گزار بندے ہیں۔ جا انہی سے بیعت ہو جا اور ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔“

ابوالعلیٰ آگرے واپس چلے گئے اور اپنے چچا امیر عبداللہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھتے ہی مسکرا کر فرمایا۔

”ابوالعلیٰ! میرے بیٹے۔۔۔ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ میرے پاس بیٹھ جا۔“

ابوالعلیٰ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑی دل سوزی سے کہا۔ ”اگر خواجہ نے تجھ کو میرے پاس نہ بھیجا ہوتا تو، تو مجھ سے اسی طرح دور دور رہتا حالانکہ میں تیرا شکر تھا۔“

ابوالعلیٰ نے معذرت کی۔ ”عم محترم! جب میں چھوٹا سا تھا اور والد محترم رحلت فرما گئے تھے تو اس وقت آپ نے مجھ کو بہارا و ماہ ہوتا حالانکہ میرے نانا خواجہ فیض نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ آپ نے میری سرپرستی فرمائی ہوتی تو شاید

میرے پاس نہ بھیجا ہوتا تو، تو مجھ سے اسی طرح دور دور رہتا حالانکہ میں تیرا شکر تھا۔“

”ابوالعلیٰ! میرے بیٹے۔۔۔ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ میرے پاس بیٹھ جا۔“

امیر عبداللہ نے جواب دیا۔ ”جو ہوا، سو ہوا۔ اب اس ذکر کو چھوڑو۔“
اس کے بعد انہوں نے ابو العلیٰ کو بیعت کیا اور اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی۔

☆☆☆

اب تو ابو العلیٰ کا حال ہی کچھ اور ہو چکا تھا۔ ریاضت اور مجاہدے نے ان میں بڑی تبدیلیاں کیں اور مکاشفات ہونے لگے۔ تاثیر نے ظہور کیا اور آپ کی ذات سے ایسی باتیں ظاہر ہونے لگیں کہ جو سنا حیران رہ جاتا، جو دیکھتا عاجز ہو جاتا۔ آپ کے حلقہ ارادت میں بیٹھنے والوں میں ایک صاحب ملا عمر بھی تھے۔ ان پر سماع کا خاصا اثر ہوتا تھا۔ یہ سماع سے اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے کہ کئی کئی گھنٹے بے ہوش رہتے۔

ایک دن محفل سماع میں یہ اتنی زور سے اچھل کر گرے کہ حاضرین پریشان ہو گئے اور انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ملا عمر بے ہوش ہو چکے تھے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہوش میں آجائیں لیکن ناکام رہے۔ آخر کافی دیر بعد کسی نے یہ اعلان کیا کہ ملا عمر کا وصال ہو چکا ہے اس لیے ان کے ہوش میں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
اس اعلان نے کچھ کو تو دم بخود کر دیا اور کچھ رونے لگے۔ رونے کی آواز سن کر ابو العلیٰ حجرے سے باہر نکلے اور پوچھا۔
”کیا معاملہ ہے، یہ گریہ و زاری کیسی۔“

کسی نے جواب دیا۔ ”ملا عمر سماع سے از خود رفتہ ہو کر وصال پا گئے۔“
ابو العلیٰ نے فرمایا۔ ”یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہاں سے ملا عمر؟ میں بھی تو دیکھوں!“
لوگوں نے آپ کو ملا عمر کے سر ہانے پہنچا دیا۔ ابو العلیٰ نے ملا عمر کو جھک کر بغور دیکھا اور کچھ دیر دم بخود رہے، پھر حاضرین سے پوچھا۔ ”کون کہتا ہے کہ ملا عمر مر گیا؟“
ایک نے جواب دیا۔ ”اب ان میں رکھا ہی کیا ہے اور سبھی یہ کہتے ہیں کہ ملا عمر کا وصال ہو گیا۔“
ابو العلیٰ نے ملا عمر کو شانے سے نکل کر بلایا اور ازراہ مذاق کہا۔ ”ارے بھائی اکیوں مگر کرتا ہے، اٹھ بہت دیر مستی ماری۔ اب لوگوں کو پریشان نہ کر۔“

ملا عمر کسمسا کر اٹھا اور اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک ایک سے سوال کرنے لگا۔ ”یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا؟“
ابو العلیٰ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ”سوال یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، سوال تو یہ ہے کہ ابھی تجھ کو کیا ہو گیا تھا؟“
ملا عمر نے کہا۔ ”مجھے نیند آگئی تھی اور میں خواب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا وجود بالکل ہلکا ہو چکا ہے اور میں اوپر اٹھا چلا جا رہا ہوں۔ پھر معلوم نہیں کس نے مجھے واپس کر دیا اور جب ہوش میں آیا تو اپنے ارد گرد ہجوم دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔“
ابو العلیٰ نے فرمایا۔ ”حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہوش میں آنے کے بعد نماز شکر ادا کر۔“
ملا عمر نے عرض کیا۔ ”حضرت! میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ معما کیا ہے۔ مجھ کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بتایا ہے، اس پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔“

ابو العلیٰ نے جواب دیا۔ ”تیری باتوں پر میں نے یقین کر لیا اب اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہو گیا، ہو گیا۔“
کسی ارادت مند نے کہا۔ ”ملا عمر! تیرا تو وصال ہو چکا تھا مگر پیر و مرشد کی دعا سے تجھے دوبارہ زندگی مل گئی... سمجھایا اب بھی نہیں سمجھا؟“

ملا عمر نے حیرت سے پوچھا۔ ”کیا کہا؟ کیا میں مر چکا تھا؟“
ابو العلیٰ نے فرمایا۔ ”ملا عمر! اب تو اپنے گھر چلا جا، یہاں باتیں نہ بنا کیونکہ تیری باتوں پر بہ مشکل ہی کوئی یقین کرے گا۔ لوگ تجھے پاگل کر دیں گے۔“

ملا عمر جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن جب سبھی نے مجبور کیا تو وہ چلا گیا مگر خاصا متر و دور پریشان رہا۔ چند دنوں بعد اس نے سبھی پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ واقعی مر چکا تھا مگر شاہ ابو العلیٰ کی دعاؤں اور میر بائیوں سے دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ جب یہ واقعہ بہت زیادہ شہرت پا گیا تو ابو العلیٰ کی ولایت لوگوں میں شہرت پا گئی۔

☆☆☆

ابوالعلیٰ کسی ضرورت سے دریائے جہنا کے پار تشریف لے گئے۔ آپ کی شہرت آپ سے پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی یا پہنچ جاتی تھی چنانچہ جہنا پار کے لوگ آپ کو خوش آمدید کہنے حاضر ہوئے۔ آپ ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ آپ کی یہ شہرت ہندوؤں میں بھی پھیل چکی تھی۔ چنانچہ وہ بھی آپ کے پاس آنے جانے لگے۔ جہنا پار ایک ہندو جوگی بھی چٹکار دکھانے میں خاصی شہرت رکھتا تھا۔ ابوالعلیٰ کی وجہ سے اس کے درشن کرنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی۔ اس کے چیلے تشویش میں پڑ گئے۔ گرو جی کائی کائی و پر بعد پوچھتے۔ ”کوئی آیا؟“

چیلے جواب دیتے۔ ”گرو جی! کوئی نہیں۔“
گرو جی نے پوچھا۔ ”یہ آنے جانے والے کہاں مر گئے؟“
ایک چیلے نے جواب دیا۔ ”گرو جی! ایک میاں آئے ہوئے ہیں، سنے میں آیا ہے کہ بڑے پختے ہوئے ہیں۔ یہاں کے تمام ہندو مسلمان انہی کے پاس آ جا رہے ہیں۔“

گرو جی نے پوچھا۔ ”کیا یہ مسلمان گرو مجھ سے زیادہ چٹکار دکھا سکتا ہے؟“
چیلے نے جواب دیا۔ ”پتا نہیں لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ بڑا چٹکاری گرو ہے۔“
گرو فکر مند ہو گئے، پھر یوں لے۔ ”پھر کام کیسے چلے گا، ان سے ملنا چاہیے۔“ چیلوں سے پوچھا۔ ”کیا تم لوگ ان میاں جی کو میرے پاس لاسکتے ہو؟“

ایک چیلے نے جواب دیا۔ ”نہیں، شاید ہم سب میں سے ایک بھی ان میاں جی کو یہاں نہیں لاسکتا۔“
گرو جی نے سختی سے کہا۔ ”لیکن میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ ان کے چٹکار دیکھنا اور اپنے دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کام کس طرح ہوگا؟“

چیلے نے جواب دیا۔ ”گرو جی! وہ میاں جی تو یہاں آنے سے رہے، شاید آپ کو خود ہی وہاں جانا پڑے گا۔“
گرو جی خاصے فکر مند ہو چکے تھے۔ کچھ دیر حیرت میں پڑے خاموش رہے، پھر پوچھا۔ ”شاید سچ کچھ بھی کو جانا پڑے گا لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا مجھے ان میاں جی کے پاس جانا چاہیے؟ کیا میرا یہ قدم مناسب رہے گا؟“

چیلے نے جواب دیا۔ ”گرو جی! اگر آپ کو میاں جی سے ملنا ہے تو ان کے چٹکاروں سے اپنے چٹکاروں کا مقابلہ کرنا ہے تو ان کے پاس ضرور جانا پڑے گا ورنہ خاموش بیٹھے رہیے۔ پھر جب میاں جی یہاں سے چلے جائیں گے تو لوگ آپ کے پاس پھر آنے جانے لگیں گے۔“
گرو جی نے کہا۔ ”وہ تو، تو ٹھیک ہی کہتا ہے لیکن اس طرح تو میری ہوا اکھڑ جائے گی۔“

چیلے نے عرض کیا۔ ”پھر آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ ان میاں جی کے پاس چلے چلیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں۔“
گرو جی بڑی دیر تک جانے نہ جانے کی فکر میں پڑے رہے اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں ان میاں جی سے ضرور ملنا چاہیے اور مل کر انہیں ان کے مریدوں اور چیلوں کے سامنے نچا دکھا دینا چاہیے ورنہ اس کی اپنی ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔

آخر اس نے اپنے چیلوں سے کہہ دیا۔ ”ان میاں جی کو مطلع کرو کہ میں ان سے ملنے آ رہا ہوں۔ تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔“
جب جوگی کا یہ پیغام ابوالعلیٰ کو ملا تو آپ نے ہندو جوگی کو کہلا دیا۔ ”میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، جب جی چاہے چلا آ..... میں ملوں گا۔“

ہندو جوگی اپنے چند چیلوں کے ساتھ ابوالعلیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے نہایت خوش اخلاقی سے اس کا سواگت کیا اور کچھ دیر مزاج پر سی میں لگے رہے۔ جوگی غلط فہمی میں پڑ گیا۔ اس نے آپ کی خوش اخلاقی کا یہ مطلب لیا کہ شاید آپ اس سے مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے ہیں، یوں لگا۔ ”شریمان جی! آپ کو دریا کے دوسری ہی طرف رہنا چاہیے تھا، یہ علاقہ میرا ہے یہاں میری حکومت ہے۔ میری حکومت میں چند دنوں تک آپ کی پوچھ رہ سکتی ہے لیکن زیادہ دنوں تک نہیں۔ آخر کار آپ شرمندہ ہو کر واپس چلے جائیں گے۔“

آپ نے جواب دیا۔ ”جوگی جی! میں یہاں کسی سے مقابلہ کرنے تو آیا نہیں۔ رہ گئی حکومت کی بات تو دریا کے اس پار

یا اس پار، ہر جگہ اسی ایک حاکم کی حکومت ہے جو احکم الحاکمین کہلاتا ہے۔ یہ دوسرا اپنے دل سے نکال دو کہ کہیں تمہاری بھی حکومت ہے۔“

جوگی نے اکر کر کہا۔ ”میاں جی! میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ یہاں میری حکومت ہے۔ آپ کو یہاں نہیں آنا تھا اور اگر آئے ہی تھے تو اپنے ارد گرد لوگوں کا مجمع نہیں لگانا تھا۔“

آپ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ”اب تو لوگوں کا مجمع لگ ہی گیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔“

جوگی نے کہا۔ ”میں مسلمان آنے جانے والوں کی بابت تو کچھ بھی نہیں کہوں گا لیکن ہندوؤں کی بابت یہ کہوں گا کہ انہیں اپنے پاس نہ آنے دیجیے اور ان سے صاف صاف کہہ دیجیے کہ وہ آپ کے پاس آکر اپنا دھرم نہ برباد کریں۔“

آپ نے پوچھا۔ ”اگر میں انہیں نہ منع کروں اور انہیں آنے جانے سے نہ روکوں تو؟“

جوگی نے جواب دیا۔ ”پھر تو ٹرابی پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ کو اور آپ کے پاس آنے جانے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم دونوں میں کون کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے۔“

آپ نے فرمایا۔ ”بہتر ہے، میں تو کسی کو منع کرنے سے رہا۔ اب تو انہیں ہماری اور اپنی چھٹائی بڑائی کی بابت جو کچھ بتانا چاہتا ہے بتا دے۔“

جوگی کو آپ سے اس جواب کی امید نہیں تھی، بولا۔ ”میاں جی! میں آپ کو اپنا مہمان سمجھتا ہوں۔ آپ کو شرمندہ کر کے مجھے شرمندگی ہوگی۔“

ابو العلی نے جواب دیا۔ ”تو میری شرمندگی کی فکر نہ کر۔“

جوگی نے کہا۔ ”تب پھر ایسا ہے کہ میں صبح آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اپنے مریدوں اور چیلوں کو روک لیجئے گا، انہی کے سامنے کچھ کام کی باتیں ہو جائیں گی۔“

آپ نے جوگی کی بات مان لی اور اس کے اعلان کو قبول کر لیا۔ دوسرے دن علی الصبح آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جوگی کا انتظار کرنے لگے۔ مریدوں کے علاوہ کچھ ہندو بھی آگئے تھے، یہ بھی ابو العلی کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔

کچھ دیر بعد جوگی بھی آگیا۔ اس نے آتے ہی ہجوم پر نظر ڈالی اور متکبرانہ شان سے کہا۔ ”میاں جی! یہ گھڑی آپ کی شہرت اور عظمت کی آخری گھڑی ہے کیونکہ میں اس کو پارہ پارہ کرنے آیا ہوں۔“

آپ نے جواب دیا۔ ”تو غرور کیوں کرتا ہے، معلوم المملکت نے غرور کیا تھا ابلیس بنا دیا گیا۔ غرور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، مخلوق کو نہیں۔“

جوگی نے اپنی دعوتی کے پھیلنے میں سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا، پوچھا۔ ”میاں جی! اس ڈبیا میں کیا رکھا ہے، کچھ جانتے ہو؟“

آپ نے جواب دیا۔ ”میں کیا جانوں، اس میں کیا رکھا ہے..... تو ہی بتا اس میں کیا ہے؟“

جوگی نے کہا۔ ”اس میں اکسیر بھری ہے۔“

آپ نے پوچھا۔ ”یہ اکسیر کس کام آتی ہے؟“

جوگی نے جواب دیا۔ ”اس کو تانے سے چھو دو، وہ سونا بن جائے گا۔“ پھر مجھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ”آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں تاکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا آپ اور یہ ہجوم مشاہدہ بھی کر لے۔“

آپ نے حیرت سے کہا۔ ”اچھا تو یہ بات ہے۔“ آپ نے ڈبیا اٹھالی اور اس کو دیکھنے لگے۔

جوگی نے اصرار کیا۔ ”میاں جی! ڈبیا دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، اس کا چسکار خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دکھائیے۔“

آپ نے وہ ڈبیا اٹھا کر جتنا میں پھینک دی، بولے۔ ”یہ میرے کس کام کی، میں سونا بنا کر کیا کروں گا؟“

جوگی نے اپنا سر پکڑ لیا، بڑی بے مروتی سے بولا۔ ”میاں جی! یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو میرا نقصان کر دیا۔“

آپ نے اکسیر کا چسکار تو کسی کو دکھایا ہی نہیں۔“

آپ نے فرمایا۔ ”سادھو جی! انسان تو خود اکسیر ہے، ایسی صورت میں کسی دوسری اکسیر کی تدبیر کرنا انسان کی

جوگی بہت اداس اور دل برداشتہ تھا، بولا۔ ”میاں جی! میں جانتا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ مجھ سے مقابلہ کر کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے اس لیے ڈبیا دریا میں پھینک دی حالانکہ یہ ڈبیا میری زندگی بھر کی کمائی تھی، میں تو برباد ہو گیا۔“

آپ نے دریافت فرمایا۔ ”اچھا یہ تو بتاؤ، یہ اکسیر ہوتی کیسی ہے؟“
جوگی نے جواب دیا۔ ”خاک جیسی۔“

آپ نے فرمایا۔ ”خاک کی یہ دھاک۔ یہ افسوس یہ ملال۔ میں تیرا افسوس دور کر دوں گا۔ ادھر جتنا کی ساحلی ریت کی طرف دیکھ۔ یہ سب خاک ہے۔“

جوگی نے کہا۔ ”اس خاک کا میں کیا کروں گا، میرے کس کام کی یہ خاک۔“
آپ نے جواب دیا۔ ”جتنا کی ساحلی ریت کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لے۔ تیری ڈبیا تو ذرا سی تھی، یہ تو بہت ساری ہے۔ اس سے جتنا سونا بنانا چاہے، بنالے۔ یہ بھی وہی کام کرے گی جو تیری اکسیر کرتی تھی۔“

جوگی سمجھا آپ اس سے مذاق کر رہے ہیں، بولا۔ ”میاں جی! خواجواہ کیوں مذاق کر رہے ہو؟“
آپ نے جواب دیا۔ ”میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو تجربہ کر لے۔“

جوگی نے دریا کی ساحلی ریت اٹھا کر اس کو تانے پر ملا۔ وہ سونا بن گیا۔ جوگی ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے دوسری جگہ سے خاک اٹھائی اور اس سے بھی سونا بنالیا۔ جھوم دم بخود تھا۔ جوگی پریشان اور بدحواس۔ پورے مجھے نے ابو العلیٰ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ جوگی کچھ دیر آپ کے پاس کھڑا واقعے پر غور کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ بھی آپ کے ارادت مندوں میں داخل ہو گیا۔ ہندو تماشاخی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کا اتنا شہرہ ہوا کہ جوہنا، بھاگا چلا آتا، آپ کی زیارت کرتا اور ہندو ہوتا تو مسلمان ہو جاتا۔

☆☆☆

کچھ دنوں بعد آپ اپنی خانقاہ میں داخلے چلے گئے۔ آپ کے مریدوں اور ارادت مندوں میں دن رات اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپ نماز پڑھنے جامع مسجد تشریف لے جاتے تو آپ کے ساتھ ایک جھوم مسجد میں داخل ہوتا۔

ایک دن نماز جمعہ کے بعد آپ مسجد ہی میں بیٹھے مریدوں کو کچھ سمجھا رہے تھے کہ انہیں شور و غل کی آواز سنائی دی۔ ایک مرید کو حکم دیا کہ باہر جا کر دیکھ، یہ شور و غل کیسا ہے؟

مرید باہر جا کر واپس آ گیا۔ وہ خاصا پریشان تھا۔ آپ نے پوچھا۔ ”کیا بات ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟“
مرید نے جواب دیا۔ ”حضرت! ایک بدست ہاتھی ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے۔ لوگ اس کے خوف سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ڈر ہے کہ وہ ادھر مسجد میں نہ آ جائے۔“

آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، بولے۔ ”اگر وہ ادھر آنا چاہتا ہے تو میں اس کو یہاں آنے ہی کیوں دوں گا، اسے باہر ہی کیوں نہ روک لوں گا۔“

ابو العلیٰ باہر نکل گئے۔ کئی مریدان کے پیچھے گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بولے۔ ”حضرت! کیا آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے؟“

آپ نے جواب دیا۔ ”جان کس کو پیاری نہیں ہوتی۔“

مرید نے عرض کیا۔ ”حضرت! آپ باہر نکل آئے، بدست ہاتھی سامنے سے آرہا ہے۔ معلوم نہیں آپ کا حشر کیا ہو؟“
ابو العلیٰ نے جواب دیا۔ ”بابا ابو العلیٰ اپنی راہ جاتا ہے، ہاتھی اپنی راہ جائے۔“

ابھی یہ بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک طرف سے بدست ہاتھی بھی نمودار ہو گیا۔ وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ پاس آیا تو آپ نے فرمایا۔ ”یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے تو تیرا کیا نقصان ہو جائے گا۔“

ہاتھی کھڑا آپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کئی دن بعد لوگوں نے آپ کو خبر دی کہ بدست ہاتھی خانقاہ کے در پر کھڑا ہے۔ آپ باہر گئے اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہاتھی چپ چاپ ان کے در پر کھڑا ہے۔

آپ نے ہاتھی کے پاس جا کر اس کے کان میں کہا۔ ”اتھس! یہ تو مخلوق کو خواجواہ کیوں پریشان کر رہا ہے؟“

READING

ہاتھی نے ایک سرسری نظر آپ پر ڈالی اور ایک دوہار چنگھاڑ کر خاموش کھڑا رہا۔
 آپ نے فرمایا۔ ”مخلوق کو تنگ کرنا یا نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تو میری بات مانے تو میں تجھ کو مشورہ دوں
 گا کہ راج گھاٹ چلا جا اور لوگوں کو اپنی پشت پر بٹھا کر دوسرے کنارے پر پہنچانے کا کام شروع کر دے۔“
 ہاتھی کچھ دیر تو کھڑا رہا، اس کے بعد راج گھاٹ چلا گیا۔ چند دنوں بعد لوگوں نے اطلاع دی کہ ہاتھی راج گھاٹ کی
 سواریوں کو دوسرے کنارے تک پہنچانے کی خدمت بڑی مستعدی سے انجام دے رہا ہے۔ پھر اس ہاتھی کو ہر کوئی میر صاحب
 کا ہاتھی کہنے لگا۔

☆☆☆

آپ کی خدمت میں ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ تاجر، سپاہی، کاشت کار، وکاندار، طالب علم، عالم، ہر کوئی آتا اور
 اپنے حق میں وعائیں لے کر چلا جاتا۔ ایک دن ایک سپاہی آیا اور آپ سے درخواست کی۔ ”حضرت! میں ایک مہم پر جا رہا
 ہوں، میرے حق میں وعافرماتے رہیے۔“

آپ نے دریافت فرمایا۔ ”کیا محاذ جنگ پر جا رہا ہے تو؟“

اس شخص نے جواب دیا۔ ”جی ہر و مرشد! میں محاذ جنگ پر جا رہا ہوں۔“

آپ کچھ دیر کے لیے مرا تھے میں چلے گئے پھر فرمایا۔ ”مجھے تیرے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سو اس کا انتظام کیے دیتا ہوں۔“

سپاہی نے عرض کیا۔ ”بابا! کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں تیرے علاوہ دوسرے ہتھیاروں سے بھی محفوظ رہوں۔“

آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر سپاہی کے سر پر رکھ دی، فرمایا۔ ”بس تیرے لیے یہی کافی ہے۔“

وہ شخص محاذ جنگ پر چلا گیا۔ عین اس وقت جب گھمسان کارن پڑا ہوا تھا، ایک طرف سے ایک تیر آیا اور اس کی
 ٹوپی میں لگ کر بیچے گر گیا۔ اس شخص نے ٹوپی کو سر سے اتار کر جو دیکھا تو وہ بالکل محفوظ تھی مگر تیر کا پھل ٹیڑھا ہو چکا تھا۔
 اسی وقت ایک آواز سنائی دی۔ ”دیکھا میں جو کہتا تھا۔ تجھے تیر ہی سے خطرہ تھا جو مل گیا، اب بے خوف و خطر رہ، تیرا کوئی
 کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔“

ایک دن آپ علی الصبح اٹھے اور وضو کے لیے جانے لگے مگر انہیں ایسا محسوس ہوا گویا وہ خود کو تھمسیٹ رہے ہیں اور جسم
 خاصا بھاری ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب وہ وضو کرنے لگے تو ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔
 انہیں خود ہی احساس ہو گیا کہ وہ مفلوج ہو چکے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح پریشان نہیں ہوئے۔ کئی دن تک اس اذیت اور
 اس دکھ کو جھیل جانے کے بعد آپ نے فاری کا ایک شہر پر دھنا شروع کر دیا۔

دردم از یاد راست دورماں نیز ہم
 دل فدائے اوشد و جاں نیز ہم

(میر اور وہی تو درماں بھی تو... میرا قلب و جسم و جان بھی تو)

اس شعر کی تاثیر نے ابو العلیٰ پر گہرا اثر کیا اور چند دنوں کے اندر ہی انہوں نے اپنے جسم میں خون کے دوران کو صحیح
 گردش کرتے ہوئے محسوس کیا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔
 آپ سے ایک زمانے کو فیض پہنچا اور آپ کے مریدوں میں جید ترین لوگ گزرے ہیں۔
 آپ صوفیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تصوف یہ نہیں ہے کہ چلہ کشی میں مشغول ہو جاؤ، بلکہ تصوف یہ ہے کہ صوفی خود
 باقی ندر ہے۔

9 صفر 1061 ہجری میں آپ نے رحلت فرمائی اور بے شمار لوگوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ اس وقت آپ کی عمر اکہتر سال
 تھی۔ آپ نے دولت کے چھوڑے تھے، امیر فیض اللہ اور امیر نور العالی اور ان دونوں ہی نے آپ کے بعد بڑا نام پیدا کیا اور
 دلیوں میں شمار ہوئے۔

ملفوظات

طہات اکبری	تاریخ فیروز شاہی	عہدہ سلطین علی	تاریخ فرشتہ	آثار افسانویہ	تاریخ مبارک شاہی
لطائف الدین احمد	شمس سراچ عقیف	ملاح الدین لاسک	محلہ امام فرشتہ	سورہ سید احمد خات	مثنوی شمس رحمتی

Downloaded From
Paksociety.com

لہوائی

کاشف زہیر

خون میں گرمی اور والدین کی نرمی جب انتہا کو چھو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں وقت کے پردوں میں کوئی نہ کوئی حادثہ پردوش پارہا ہے۔ جیسے کہ یہاں ماں کی تربیت نے اپنی ہی اولاد کی تربیت کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا لیکن ذمے داری کسی اور کے کندھے پر ڈال کر کوئی بھی خود کو مکافات کے چنگل سے نہیں نکال سکتا۔۔۔ ایک ذرا سی غلطی نے کس طرح ان کی زندگی کا نقطہ اور رشتوں کی سمت ہی کو بدل ڈالا تھا۔

ملح حقائق اور مکروفریب کا حیرت انگیز

استخراج

اس پر یہ آفت آئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی کلاس کا سب سے کم گو اور ہمد وقت سر جھکائے رکھنے والا لڑکا اس کی آبرو لوٹنے کی کوشش کرے گا اور اس حد تک چلا جائے گا کہ اس کا یہ حال کر دے گا۔ گزشتہ روز ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اسے چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے مگر رویہ نہ لگ رہا تھا کہ ابھی چھ منٹ پہلے ہی سب ہوا ہو۔ اس میں

اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی تھی۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے سوچا ہوا اور ٹنگوں تھا۔ ہاتھ پر زخم کا نشان اور اس پر ٹانگے لگے ہوئے تھے۔ دائیں کان کے آگے رخسار سوچ کر یوں ابھرا آیا تھا کہ اس کے چہرے کا یہ حصہ دوسرے حصے سے دوگنا لگ رہا تھا۔ روزانہ ایک خوب صورت لڑکی تھی اور اسی وجہ سے

READING
Section

مارچ 2016ء

239

سپینس ڈائجسٹ

شہزاد بھی شامل تھا۔ صرف چہرہ ہی نہیں، اس کا جسم بھی زخموں سے چھڑتا اور دواؤں کے زیر اثر بھی وہ ان زخموں اور چوٹوں کی اذیت محسوس کر رہی تھی مگر سب سے زیادہ تکلیف اس کے دل میں تھی۔

دو سال پہلے ماسٹر کرنے کے بعد اس نے ملازمت کا سوچا تھا۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ باپ نے ساری عمر محنت کر کے جو کمایا تھا، اس سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا اور اب اس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ تین بیٹیوں کی شادی کر سکتا۔ یہ ڈسے واری اس نے دو بڑے بیٹوں کے سپرد کر دی تھی کہ وہ اپنی تین چھوٹی بہنوں کی شادیاں کریں۔ روینہ سے بڑی دو بہنوں سپنا اور امینہ کی شادیاں یوں ہوئی کہ ماں باپ نے ایک بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی بھی نمشا دی تھی۔ روینہ کی باری میں کوئی بیٹا نہیں تھا اور دونوں بیٹے بھی شادی شدہ ہو گئے تھے اس لیے اس کی لگن نہیں رہی تھی۔ باپ ریٹائر ہو کر خود بیٹوں پر آ گیا تھا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ روینہ کو بھی عزت سے گھر کا کر دیتا۔

بڑے بھائیوں نے شادی کے بعد مکان کے ادھر اپنا اپنا گھر بنا لیا تھا اور اپنی زندگی میں گمن ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں یہ ہوش بھی نہیں رہا کہ ماں باپ اور روینہ کا گزارہ کیسے ہو گا۔ روینہ نے ٹیوشن پڑھا کر اور کوشش کر کے وقافی یونیورسٹی سے بائیولوجی میں ماسٹر کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کہیں جاب مل جائے گی مگر جب اس نے کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس ملک میں سائنسی تعلیم کی نہ تو قدر ہے اور نہ ہی ضرورت۔ زیادہ سے زیادہ اسے کہیں ٹیچر کی نوکری مل سکتی تھی اس لیے اس نے یہی کیا۔ اسکولوں میں اہلاکی کرتی رہی۔ بالآخر اسے ایک متوسط اسکول میں جاب مل گئی۔ یہاں ایک سال کے تجربے کے ساتھ وہ اس اجھے درجے کے اسکول میں آئی تھی۔ یہاں زیادہ تر اوپری متوسط طبقے کے بچے پڑھتے تھے۔ فیس خاصی زیادہ تھی جو عام انفرادی نوڈل نہیں کر سکتے تھے۔

ٹیچرز کو بھی کسی قدر بہتر تنخواہ اور سہولیات دی جاتی تھیں۔ روینہ کو آغاز میں سولہ ہزار مل رہے تھے پھر اس کی قابلیت کے لحاظ سے تنخواہ بیس ہزار کر دی گئی۔ جب روینہ نے جاب شروع کی تو کم تنخواہ کی وجہ سے اسے بہت مشکل پیش آئی تھی۔ تنخواہ کا زیادہ حصہ تو آنے جانے اور خود پر خرچ ہو جاتا تھا۔ اس کے پاس دو ہی اجھے سوٹ تھے جو اس نے پہلی تنخواہ ملنے تک چلائے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ تنخواہ بڑھی گئی اور اتنی خرچے بھی کم ہوئے تھے۔ اب اس کے

پاس خاصے سوٹ اور دوسری چیزیں تھیں۔ اس لیے وہ ہر مہینے بارہ تیرہ ہزار روپے ماں کے ہاتھ پر رکھ سکتی تھی۔ ماں گھر کا خرچ چلانے کے ساتھ ساتھ اس میں سے روینہ کی شادی کے لیے بھی بچت کر لیتی تھی۔

روینہ کے ذمے میٹرک اور ایف ایس سی کی کلاسز کو بائیولوجی پڑھانا تھا۔ یہ ہائی اسکول تھا اس لیے یہاں انٹر کی کلاسز بھی ہوتی تھیں۔ کلاسز زیادہ نہیں تھیں مگر پڑھائی کا شیڈول بہت سخت تھا۔ طلباء اور ٹیچرز دونوں کو بہت جان مارتی پڑتی تھی۔ ہر مہینے ٹیسٹ اور پھر پریکٹیکل ہوتے تھے۔ روز کے کام کے علاوہ اسے آنے والے ٹیسٹ اور پریکٹیکل کی تیاری بھی کرنی پڑتی تھی۔ اکثر وہ چھٹی کے بعد ہی کاپیاں اور جرنل چیک کرنے میں لگی ہوتی تھی۔ وہ صبح ساڑھے سات بجے گھر سے نکلتی اور ڈھائی بجے اس کی چھٹی ہوتی تھی۔ تین بجے وہ گھر میں داخل ہوتی تو تھک کر چھڑ ہو چکی ہوتی تھی۔ البتہ وہ شام میں ماں کا ہاتھ بٹاتی اور رات تک لیکن صاف کر کے اور اسکول کا کام نمٹا کر سونے کے لیے لیٹی تو ساڑھے گیارہ بج جاتے۔ صبح وہ سات بجے اٹھ جاتی اور آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر اور ناشا کر کے اسکول کے لیے نکل جاتی۔

اسکول گھر سے قاصطے پر تھا اور اسے بس یا دین سے جانا پڑتا تھا۔ یہ بھی اسکول تھا اس لیے ٹیچرز کو وقفے میں چھڑ کر چائے کے ساتھ کپ شپ کرنے کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ پرنسپل اور اسکول ایڈمن طلباء سے زیادہ کڑی نظر ٹیچرز پر رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول کا معیار بلند تھا اور بورڈ کے امتحانات میں کوئی نہ کوئی طالب علم پوزیشن لیتا تھا۔ شہزاد ایف ایس سی قائل میں تھا۔ وہ متوسط درجے کا طالب علم تھا، نہ بہت اچھا اور نہ بہت خراب۔ وہ شاید ہی اسے ٹریڈ لیتا تھا مگر کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنے ساتھی طلباء سے کم گھٹاتا تھا اور روینہ نے بھی اسے لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ اکثر لڑکے، لڑکیوں کے چکر میں ہوتے تھے۔ لڑکیاں، بھی کم نہیں تھیں۔ اس درجے میں تقریباً ساری ہی لڑکیاں اور لڑکے اٹھارہ انیس سال کے تھے۔ مگر اسکول کے سخت ڈسپلن کی وجہ سے کوئی حد سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔

روینہ کئی دن سے محسوس کر رہی تھی کہ شہزاد اسے غور سے دیکھتا ہے اور جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ جلدی سے نظر سے جھکا لیتا ہے۔ وہ اپنے کام میں گمن ہو جاتی تو پھر اسے دیکھنے لگتا۔ روینہ نے اس بات پر خاص توجہ نہیں

دی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خوب صورت ہے اور لوجوان لڑکے اسے دیکھتے ہیں۔ روینہ کی عمر جو بیس سال تھی مگر اپنے نقوش اور ہلکی جسامت کی وجہ سے وہ اپنی کئی طالبات سے بھی چھوٹی لگتی تھی۔ شہزاد بھی سترہ سال کا ہوا تھا مگر وہ اپنے پانچ فٹ دس انچ قد اور روزنی جسم کی وجہ سے اپنی عمر سے کئی برس بڑا لگتا تھا۔ کلاس میں اس جسامت کا کوئی اور لڑکا نہیں تھا حالانکہ بہت سے لڑکے عمر میں اس سے بڑے تھے مگر وہ دبیلے اور چھوٹے قد کے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ شہزاد اپنے دبے انداز کی وجہ سے ان میں نمایاں نہیں ہو پاتا تھا۔

ان دنوں ٹیسٹ ہو رہے تھے اور اس روز شہزاد کا بھی ٹیسٹ تھا۔ اتفاق سے ٹیسٹ دو بجے کے قریب ختم ہوا جب چھٹی ہونے والی تھی بلکہ نچلے درجے کی کلاسز کی چھٹی ہو چکی تھی۔ ٹیسٹ کے جرنل جمع کراتے ہوئے طلبانے باہر کا رخ کیا۔ وقت بچانے کے لیے روینہ نے جرنل چیک کرنا شروع کر دیے۔ جب آخری جرنل بھی اس کے پاس آ گیا تو وہ نصف کے قریب جرنل چیک کر چکی تھی۔ پھر محکم کی وجہ سے اس نے سر کرسی سے اٹھایا۔ کچھ دیر بعد اس نے چونک کر گھڑی دیکھی تو دس منٹ گزر چکے تھے۔ اس نے دوبارہ جرنل چیک کرنا اور نمبر دینا شروع کیے۔ جس وقت وہ آخری جرنل چیک کر رہی تھی، کلاس روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شہزاد اندر آ رہا تھا۔

روینہ کو علم نہیں تھا کہ اس وقت سارا اسٹاف چھٹی کر کے جا چکا ہے۔ صفائی کرنے والی ماسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بارہ بجے ہی چھٹی کر کے چلی گئی تھی ورنہ وہ عام طور سے چھٹی کے بعد پورے اسکول کی صفائی کر کے چھٹی کرتی تھی۔ باہر گیٹ پر ایک چوکیدار ہوتا تھا اور شہزاد نے اسے دو سو روپے دے کر کھانا کھانے بھیج دیا تھا۔ وہ اصل میں نشہ کرتا تھا اور اس کے پاس نشے کے لیے رقم نہیں تھی اس لیے جب شہزاد نے اسے اس شرط پر دو سو روپے دیے کہ وہ جا کر دوپہر کا کھانا کھالے تو اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسکول اندر سے لاک ہے۔ اس کی ذمہ داری صرف گیٹ تک تھی۔ اسکول کو اندر سے بند کرنا صفائی کرنے والی عورت کی ذمہ داری تھی۔ صرف لیپ اور دفتر کا حصہ خود ایڈمن بھر کرتا تھا، باقی کلاس روم صفائی کرنے والی لاک کر کے جاتی تھی مگر وہ پہلے ہی جا چکی تھی اس لیے کلاس روم کھلے رہ گئے۔ چوکیدار کو بھیج کر شہزاد اوپر آیا۔ روینہ کو حیرت ہوئی، اس نے کہا۔

”تم ابھی تک گئے نہیں؟“

شہزاد نے جواب دینے کے بجائے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پلٹ کر اس کی طرف بڑھا تو روینہ گھبرا کر گھڑی ہو گئی۔ ”یہ کیا کر رہے ہو..... تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟“ عام سا اور ویلوسا نظر آنے والا شہزاد اچانک ہی اسے بڑا اور خوفناک لگنے لگا تھا۔ روینہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو شہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں سے ایک خوفناک کھٹکس کا آغاز ہوا۔ روینہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور اٹنے کے ہاتھ سے شہزاد کے منہ پر چھڑ مارا۔ اس پر شہزاد پھر گیا اور اس نے پوری قوت سے روینہ کے منہ پر چھڑ مارا۔ اس کے ہاتھ پر شہزاد کی گرفت سخت تھی۔ وہ پلٹ کر واپس آئی تو شہزاد نے دوسرا چھڑ مارا اور اس بار اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ روینہ دونوں ہاتھ پکڑ کر حلق کے بل چینی۔ اسے امید تھی کہ چوکیدار اس کی آواز سن لے گا مگر وہ وہاں ہوتا تو سنا۔ روینہ ویلوسا سے گھرائی اور اس کے شانے پر چوٹ آئی مگر اس چوٹ نے اس کے حواس بحال کر دیے اور اس نے شہزاد کو خود پر بھینٹے دیکھا۔ خود کار سے انداز میں اس کا پاؤں حرکت میں آیا اور وہ نیچے جھکتے شہزاد کے منہ پر لگا۔

روینہ نے سخت تلے اور تپتی ایڑی والی سینٹل کاٹھن رکھی تھی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ شہزاد کی ناک کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز روینہ نے بھی سنی۔ وہ بلبلایا اور پیچھے گرا۔ خون فوارے کی طرح اس کی ناک سے نکل کر اس کی سفید شرٹ پر گرا۔ روینہ نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر جب وہ شہزاد کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے ٹانگ اڑا کر اسے گرا دیا۔ روینہ منہ کے بل گری اور اس کا ماتھا فرش سے گرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ کھال پھٹ گئی اور خون بہنے لگا مگر روینہ کو پتا نہیں چلا کیونکہ اس کے حواس کم ہو گئے تھے۔ اس دوران میں شہزاد اس تک آ گیا۔ اس نے روینہ کو شانے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور دمٹ ورازی کرنے لگا۔ روینہ کے ڈوبتے ذہن نے اسے خبردار کیا کہ اس کی عزت خطرے میں ہے اور اگر وہ مزاحمت نہ کر سکی تو اپنی قیمتی ترین متاع سے محروم ہو جائے گی۔ مگر اس کا ذہن اس طرح چکر رہا تھا کہ وہ اپنے اندر ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہیں پارہی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اور گہرے سانس لے رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے شہزاد کو اپنی من مانی کرنے کا موقع ملا مگر وہ اس کی طرف جھکا تھا کہ روینہ نے اچانک انگلی سیدھی کر کے اس کی آنکھ میں اتار دی۔

روینہ کا ناخن کسی قدر لمبا اور نکلیلا سا تھا۔ شہزاد کو اس داری کی توقع نہیں تھی۔ ناخن اس کی آنکھ میں اتر گیا اور اس

کی۔ روینہ نے اس سے شہزاد کے بارے میں پوچھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ خشک ٹہنی جتنے جیسی آواز اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی۔

روینہ نے ایک انسان کو مار دیا تھا۔ بے شک اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ عمل کیا تھا مگر پھر بھی قتل تو تھا اور اسے تو سوچ کر ہی بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا مگر جسمانی تکلیفوں سے قطع نظر وہ پرسکون تھی۔ جب پرسپل نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ شہزاد نے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہا تھا اور اس مزاحمت کے نتیجے میں وہ زخمی تھی اور اوپر شہزاد کی لاش پڑی تھی۔ میڈم جہانم دیدہ عورت تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ روینہ سو فیصد سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے روینہ کو سمجھایا کہ پولیس کے سامنے اس طرح کھل کر بیان نہ دے۔ خاص طور سے ازخود کرسی مارنے کا اعتراف بالکل نہ کرے۔ بلکہ کرسی اپنے دفاع میں مارنے کی بات کرے۔ پولیس کے آنے تک میڈم نے جو کیدار کو بھی پکا کر لیا تھا۔ شہزاد کے گمراہوں کو اطلاع دینے کی ذمہ داری اس نے پولیس پر چھوڑ دی تھی۔

☆☆☆

روینہ خود کو آپینے میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ زخم اور نیلے نشانات چند دن میں مٹ جائیں گے مگر اس کے دامن پر جو داغ آ گیا ہے، کیا وہ مٹ سکے گا؟ اس نے پولیس کو بیان دیا اور پولیس نے اسے ذاتی ضمانت پر چھوڑ دیا مگر اس کے خلاف کیس بننا تھا اور اسے عدالت سے بری ہونا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ اس کے بڑے بھائی کے ایک دوست وکیل نے اسے یقین دلایا کہ وہ چند پیشیوں میں باعزت بری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسے معاشرے کی عدالت سے بری ہونا تھا۔ کل رات تک معاملہ میڈیا پر آ گیا تھا اور شہزاد کی بیوہ ماں رورو کر کہہ رہی تھی کہ اس کا بیٹا بے گناہ اور معصوم تھا۔ اسے سازش کر کے مارا گیا ہے اور مارنے کے بعد قاتلوں نے اس پر یہ الزام لگایا تاکہ خود کو کمزرا سے بچا سکیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ غریب عورت ہے اور شوہر کے مرنے کے بعد اس نے ملازمت کر کے بیٹے کو پالا تھا۔

عورت نے خاصے قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی عمر چالیس بیالیس برس سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ گوری چہنی اور نقوش کے لحاظ سے خاصی خوب صورت تھی۔ جسمانی طور پر بھی خود کو سنبھال رکھا تھا اسی لیے اپنی عمر سے دس سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ بیٹے کی موت کے غم میں وہ بے حال تھی لیکن روینہ کو یقین تھا کہ عام زندگی میں وہ خاصی تک سب

نے درو سے بے تاب ہو کر قہقہہ ماری۔ روینہ نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا بلکہ انگلی کو آنکھ میں کھسائی چلی گئی اور شہزاد اس کے اوپر سے ہٹ کر پیچھے گرا۔ اس کے گرنے سے روینہ کی انگلی اس کی آنکھ سے نکل آئی جو خون اور آنکھ کے لمبوں سے لٹھری ہوئی تھی۔ شہزاد اپنی فرس پر لوٹ رہا تھا اور اس کے منہ سے دھاڑیں نکل رہی تھیں۔ روینہ بہ مشکل کھڑی ہو گئی مگر اس بار بھاگنے کے بجائے وہ کھڑی رہی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ”ذلیل، کتے، کینے..... میں تجھے قتل کروں گی۔“

اس نے کہتے ہوئے ایک کرسی اٹھائی اور اسے گھما کر شہزاد پر دوے مارا۔ اس نے قتل کرنے والی بات غصے میں کی تھی اور اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ شہزاد کے سر پر کرسی مار کر اسے ناک آؤٹ کرنا چاہتی تھی مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کرسی مارنا چاہی شہزاد فرس سے اٹھنے لگا۔ کرسی کا دھاتی پایہ بہت قوت سے اٹھتے شہزاد کی گردن پر لگا اور خشک ٹہنی جتنے جیسی آواز آئی۔ شہزاد اوندھے منہ نیچے گرا اور ساکت ہو گیا مگر وہ مکمل ساکت نہیں تھا اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس سے زیادہ زور سے روینہ کانپ رہی تھی۔ اس نے کرسی پھینک دی۔ پہلی بار اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ شہزاد کی دست درازی سے اس کی ٹیس پھٹ گئی تھی۔ روینہ نے دوپٹے سے ستر پوشی کی اور پھٹ جانے والی ٹیس ٹی میں پکڑ کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی۔ اس کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ اسے خود کو لگنے والی چونوں کا احساس بھی نہیں تھا۔ ماتھے سے بہنے والا خون پورے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ وہ بہ شکل میڈیوں سے اتر کر نیچے آئی تو اسی لمحے جو کیدار آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بھی بدحواس ہو گیا۔ وہ گیٹ سے اندر آیا۔

”یہ کیا ہوا بی بی؟“

”میڈم کو..... فون کرو۔“ اس نے بہ مشکل کہا اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جو کیدار نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا اور کچھ پانی اس کے حلق میں ڈالا تو اسے ہوش آیا۔ اس نے اٹھ کر خود کو سنبھالا اور سب سے پہلے کال کر کے ماں باپ کو اطلاع دی۔ اسکول پرسپل جو میڈم کہلاتی تھی، پاس ہی رہتی تھی اور جو کیدار کی کال پر وہ دس منٹ میں وہاں پہنچ گئی۔ اس نے روینہ کی حالت دیکھی تو اسے اپنے دفتر میں لے آئی۔ دفتر کی ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی۔ روینہ نے اسے رک رک کر ساری کہانی سنائی تو وہ اور کئی اور پھر اس نے واپس آ کر پولیس کو کال

سے تیار رہتی ہوگی۔ شہزادوں کو لے کر اور سولے نقوش والا عام سا لڑکا تھا جسے یہ مشکل ہی قبول صورت کہا جاسکتا تھا۔ وہ اس عورت سے خاصا مختلف تھا اور یقیناً اپنے باپ پر گیا تھا۔ شگفتہ نامی یہ عورت خود کو غریب کہہ رہی تھی جبکہ اسکول کی فیس ہی سات ہزار روپے ماہانہ تھی۔ وین والا تین ہزار روپے لیتا تھا۔ دس ہزار تو سامنے کا خرچ تھا۔

اس کے علاوہ بھی اسکول کا ووڈ ہائی ہزار مہینے کا خرچ تھا۔ پھر شہزادوں کا ذاتی خرچ بھی تھا۔ یہ سب مل ملا کر سولہ سترہ ہزار روپے تک پہنچ جاتا ہوا۔ روینہ حیران تھی کہ خود کو غریب بیوہ کہنے والی شگفتہ اتنا خرچ کہاں سے برداشت کر رہی تھی۔ پولیس کو بیان دینے سے پہلے اسے ایک ڈاکٹر نے چیک کیا تھا جسے میڈم نے فون کر کے بلا یا تھا۔ اس نے روینہ کو ابتدائی طبی امداد بھی دی تھی۔ پھر پولیس نے اسے اسپتال لے جا کر میڈیکل رپورٹ بنوائی اور اس میں اسے کچھ ناگوار مرحلوں سے گزرنا پڑا مگر یہ سب قانونی کارروائی اور اس کے بعد عدالتی کارروائی کے لیے ضروری تھا۔ اس کے باوجود روینہ کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ عام حالات میں وہ بھی اپنا اس طرح محاسبہ کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ شام تک پولیس کی طرف سے اسے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔

پولیس سے پہلے روینہ کے ماں باپ آگئے تھے اور ماں اس کے لیے چادر لے آئی تھی جسے اوڑھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا ورنہ پھٹی ٹیس کے ساتھ وہ بہت مشکل میں تھی کہ اس حلیے میں پولیس کا سامنا کیسے کرے گی۔ اسپتال میں اس کے بھائی بھی آگئے تھے اور انہوں نے ہی کوشش کر کے اس کی شخصی ضمانت کرائی تھی۔ ورنہ پولیس شاید اسے پولیس اسٹیشن لے جاتی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک وردکش دوادی گئی جسے دودھ کے ساتھ لے کر وہ سو گئی۔ اس کی آنکھ رات گئے کھلی تھی جب سب گھر والے سو گئے تھے۔ جب اس نے ٹی وی لگا کر دیکھا اور اسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میڈیا پر بھی آچکا ہے۔ اگرچہ اس کی تصویر نہیں آئی تھی مگر اسکول کے ساتھ اس کا نام آیا تھا تو یقیناً سارے ہی جاننے والے جان گئے تھے۔ وہ صبح تک سوچتی رہی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ فجر کے بعد اسے نیند آگئی۔

☆☆☆

”تمام واقعات، گواہوں اور شہوتوں کی روشنی میں عدالت نے روینہ انصاری ولد احمد انصاری کوئل کے الزام سے

بری الذمہ قرار دیتے ہوئے نہ صرف باعزت بری کرتی ہے بلکہ ان کے حوصلے اور بہادری کو جہد کو سلام کرتی ہے جو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کی۔“ جج نے فیصلہ سنانے کے بعد میز پر ہتھوڑا مارا اور اٹھ کر کمرائے عدالت سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عدالت میں شور مچ گیا تھا۔ سب سے اگلی نشست پر اپنے دیکل کے ساتھ بیٹھی شہزادوں کی ماں نے رونا اور دعاؤں کا شروع کر دیا۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔

”میں اس فیصلے کو نہیں مانتی، اس حرافہ نے میرے اکلوتے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس کا خون پی جاؤں گی۔“

دوسری طرف ماں باپ نے روینہ کو لپٹا لیا۔ بھائی اسے مبارک باد دے رہے تھے کیونکہ اس کیس کا فیصلہ متوقع تھا۔ باہر میڈیا موجود تھا اس لیے روینہ بہ مشکل ہی نکلی تھی۔ اس کی طرف سے اس کے بڑے بھائی نے میڈیا سے بات کی اور اس فیصلے کو حق و انصاف کی فتح قرار دیا۔ ساتھ ہی اس نے میڈیا سے اہل کی کہ اب مزید اس بارے میں میڈیا پر نہ دیا جائے کیونکہ اس شخص سے روینہ اور اہل خانہ کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس واقعے کو جتنی جلدی فراموش کر دیا جائے، اتنا ہی اچھا ہوگا۔ گھر جاتے ہوئے روینہ گاڑی کے باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی سب ویسا ہی تھا مگر اس کے لیے دنیا بدل گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جو ساری عمر اس کی ذات سے چھٹا رہتا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا۔

اسکول کی ملازمت اس نے پہلے ہی چھوڑ دی تھی۔ اس دوران میں وہ نہ تو بلا ضرورت گھر سے نکلی نہ کسی رشتے دار یا دوست کے ہاں گئی۔ لوگ اس سے نلنے آتے تو وہ زیادہ دیر ان کے سامنے نہیں بیٹھ پاتی تھی لیکن پولیس اور عدالت کی پیشیوں سے جان چھونے پر اس نے خود کو بہت بہتر محسوس کیا تھا۔ دو پورے ڈیزے مہینے سے اس ذہنی اذیت کو برداشت کر رہی تھی۔ اس رات وہ سوئے سے اٹھ کر پانی پینے لاؤنج میں آئی تو اس نے ماں باپ کو کمرے میں بات کرتے سنا۔ وہ اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کر دیں مگر ساتھ ہی یہ پریشانی بھی تھی کہ اس واقعے کے بعد اس کے لیے کسی اچھے رشتے کی آمد مشکل نظر آرہی تھی۔ ماں نے کہا۔ ”ابھی تو واقعہ تازہ ہے۔ وقت گزرے گا تو دھول بیٹھ جائے گی اور

تب میں کوشش کروں گی۔“

”کوشش ابھی سے شروع کر دو۔“ باپ نے کہا۔ ”تم

روینہ کے بھائیوں اور بھائیوں کا رویہ دیکھ رہی ہو۔ اس مشکل وقت میں وہ کتنی مشکل سے ہماری منت سماجت کے بعد آگے آئے۔“

”میں دیکھ رہی ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہمارے پاس روینہ کی شادی کے لیے کچھ ہی جمع چھتارہ گیا ہے۔ وہ بھی تیزی سے خرچ ہو رہا ہے۔ میں نے روینہ کی تنخواہ سے ہی بچایا تھا۔“

”پولیس اور عدالت کے چکروں میں کتنا خرچ ہوا ہے۔ اگر اس لڑکے کی ماں کیس کو آگے کسی عدالت میں لے گئی تو ہم کیسے اپنی بیٹی کا کیس لڑیں گے۔“

ماں سہم گئی۔ ”پھر عدالت کچھری کے چکر لگیں گے۔“

”لگ سکتے ہیں۔“ باپ نے ٹھکے ٹھکے انداز میں کہا۔ ”وہ عورت غربت کا شور تو بہت مچا رہی تھی مگر وہ کہیں سے غریب نہیں لگتی ہے اور پھر معاملہ اس کے اکلوتے بیٹے کا ہے، وہ بائی کورٹ بھی جاسکتی ہے۔ روینہ کو سیشن کورٹ نے بری کیا ہے۔“

روینہ کا دل رک سا گیا۔ اس نے گہرے ذکر دعا کی کہ اب یہ سلسلہ کب تک رک جائے۔ اس سے آگے نہ جائے۔ اسے احساس تھا کہ اس کے ملازمت چھوڑنے سے اس کے ماں باپ مشکل میں آگئے تھے۔ باپ کو لگی بدعمری پٹن بنتی تھی جو بیلوں کی اداہنگی میں ختم ہو جاتی تھی۔ باقی گھر روینہ کی تنخواہ سے چل رہا تھا۔ ان نے سوچا تھا کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ سے کسی اور اسکول میں ملازمت کی کوشش شروع کرے گی۔ نئی جگہ اور نئے لوگ ہوں گے تو اسے اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ ماں باپ کی گفتگو سے اسے اندازہ ہوا کہ گھر کی مالی حالت اس کے اندازے سے زیادہ خراب ہے اور اسے فوری ملازمت کی ضرورت ہے۔

اس کا ایک بڑا بھائی ذاتی کاروبار کرتا تھا اور سپلائی کا کام کرتا تھا۔ اس کی آمدنی اتنی اچھی تھی کہ اس نے اپنا طور ہر سہولت اور آسائش والی چیز سے بھر لیا تھا۔ بہترین فرنیچر اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں اور اس کا ماہانہ خرچ بھی خاصا کھلا ہوا تھا مگر ماں باپ کو وہ صرف دو ہزار دیتا تھا۔ جس دن وہ دو ہزار دینے آتا اس کا موڈ بہت خراب ہوتا تھا۔ اس سے چھوٹا ایم بی اے تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ تنخواہ اس کی بھی مناسب تھی مگر وہ اخراجات اور مہنگائی کے بہانے کچھ بھی نہیں دیتا تھا۔ روینہ سے بڑی بہنیں اچھے گھروں میں بیاہی گئی تھیں اور کھاتی چیتی تھیں مگر وہ ماں باپ کی بس اتنی ہی مدد کرتی تھیں جتنا کہ ان

کے آنے جانے سے ان پر بوجھ پڑتا تھا۔ یوں صرف روینہ تھی جو ماں باپ کا سہارا تھی اور اب وہ بھی گھر بیٹھ گئی تھی۔ اب تک اسے ان کی حالت کا احساس نہیں تھا مگر ان کی باتیں سن کر روینہ کو پتا چلا تھا کہ وہ کتنے پریشان تھے، اس کے حوالے سے بھی اور گھر کے خرچ کے حوالے سے بھی۔

گھرے میں آتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اگلے دن سے ہی جاب کی تلاش شروع کر دے گی۔ ان کے گھر اتوار کے دن اخبار آتا تھا۔ اتفاق سے اگلے دن اتوار ہی تھا۔ ناشتا کرتے ہی روینہ نے اخبار سنبھالا اور ٹیچرز کے لیے جاب کے اشتہارات دیکھنے لگی۔

ملازمتوں والا حصہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اسکول بزنس کتنا چل رہا تھا۔ اسے درجنوں کے حساب سے اشتہارات ملے اور صرف بائیو لوگی کی ٹیچر کے سات آٹھ اشتہارات تھے۔ اس نے سب پر نشان لگایا اور نمبرز و ای میل نوٹ کر لیے۔ جب سے اس دانتے کے بعد وہ گھر بیٹھی تھی تو اپنی جسمانی حالت ٹھیک ہوتے ہی اس نے ذہن کو اشتہار سے بچانے کے لیے گھر کے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ ماں کو اس نے سب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا نامہ یہ ہوا کہ اسے سوچنے کے لیے وقت کم ملتا تھا اور جب وہ رات کو بستر پر لیٹی تو اتنی تھک چکی ہوتی کہ نیند آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ آج اسے ای میل کرنی تھیں اور اس کے لیے اسے وقت نکالنا پڑا۔ اس کے پاس اسمارٹ فون تھا جس سے وہ نیٹ استعمال کر سکتی تھی۔ اوپر بھائیوں نے ڈی ایس ایل نیٹ اور وائی فائی لگوایا ہوا تھا اس کے سگنل نیچے بھی آتے تھے اور روینہ اپنے موبائل سے نیٹ استعمال کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی سی وی تمام جگہوں پر بھیج دی۔

اگلے دن سے ہی اسے انٹرویو کے لیے کالز آنا شروع ہو گئیں۔ روینہ جانتی تھی کہ جب وہ انٹرویو کے لیے جائے گی تو اس کی سبقت جاب کا پوچھا جائے گا اور تب یہ واقعہ بھی سامنے آئے گا۔ اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ کال پر ہی بتا دے تاکہ انہیں انکار کرنا ہوتا بھی کر دیں۔ وہ دھکے کھا کر انکار سے تو یہ اس سے تو بہتر ہوتا۔ اس کی صاف گوئی کی داد دیتے ہوئے تقریباً تمام ہی کالرز نے اسی وقت انکار کر دیا۔ ایک نے بعد میں بتانے کو کہا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی دوبارہ کال کرنے کی زحمت نہیں کرے گا۔ اگلے روز اس نے مزید کچھ اسکولوں میں اپنی سی وی بھیجی اور جہاں سے اسے کال آئی اس کے بارے میں جانتے ہی انہوں نے منع کر دیا۔ روینہ مایوس تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کسی اسکول

میں شاید ہی ملازمت ملے اور اگر ملی بھی تو کسی معمولی سے اسکول میں ملے گی جہاں تنخواہ بھی معمولی ہی ہوگی۔
 آج کل موبائل پر اشتہاری ایس ایم ایس بہت زیادہ آنے لگے ہیں۔ روپینہ کے موبائل پر بھی روزانہ درجنوں اشتہار والے پیغام آتے تھے اور وہ انہیں پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیتی تھی مگر جب وہ فارغ ہو کر گھر بیٹھی تو ان میں سے کوئی بھی وقت گزاری کے لیے دیکھ لیتی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ان میں جاہس کے پیغام بھی آتے ہیں۔ مختلف کوالیفیکیشن رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جاہس آفر ہوتی ہیں۔ ایک کال کے بعد مایوسی کے عالم میں وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے گی کہ پیغام آیا اور اس نے اوپن کیا تو اس میں جاہ آفر تھی۔ جاہ کال سینٹر کی بھی اور صرف خواتین کے لیے تھی۔ اچھی آواز، بولنے کا مناسب انداز اور انگریزی سے واقفیت لازمی شرط تھی۔ اشتہار میں ای میل دیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اور پھر ماں سے پوچھا۔ اس نے روپینہ کے باپ سے پوچھا اور ان کی رضامندی پا کر روپینہ کو ہاں کر دی۔ اس نے اپنی سی وی میل کر دی۔

ای میل پر ہی اسے جواب آیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ دارالحکومت میں اس پتے پر صبح دس بجے آئے جو ای میل میں دیا گیا تھا۔ روپینہ کی رہائش دارالحکومت کے ساتھ ہی جڑواں شہر میں تھی۔ مگر یہ جگہ اس کی رہائش سے زیادہ دور نہیں تھی۔ جب وہ انٹرویو دینے پہنچی تو اسے کسی قدر مایوسی ہوئی۔ یہ ایک چھوٹی سی کمرشل بلڈنگ کے اوپر بنا ہوا دفتر تھا۔ اگرچہ بلڈنگ اور دفتر صاف سترا اور چھید پیدل طرز کا تھا مگر ستائے اور کم افراد کی وجہ سے یہ جگہ کمرشل کے بجائے رہائشی لگتی تھی۔ اس کے خیال میں اسے یہاں جاہ مل بھی جاتی تو تنخواہ اچھی نہیں ملے گی۔ مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا۔ انٹرویو اچھا رہا اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ کال سینٹر کے مالک نے اس سے اس کی سابقہ ملازمتوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ انٹرویو کے بعد کال سینٹر کے مالک نے کہا کہ اسے ایک دن بعد کال کر کے بتایا جائے گا اور اگلے ہی دن... اسے تین دن کے ٹرائل پر طلب کر لیا گیا۔ اگر وہ ٹرائل میں کامیاب ہو جاتی تو اسے جاہ مل جاتی۔

کال سینٹر اسی دفتر کے پیچھے چھوٹی سی جگہ میں تھا۔ یہاں کارڈ بورڈ سے پارٹیشن کر کے پانچ کمپن بنائے گئے تھے جن میں پانچ پی سی اور ان کے لوازمات تھے۔ پی سی انٹرنیٹ سے منسلک تھے۔ کال سینٹر کا کام اصل میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی چلتا تھا۔ کام مسلسل تین شیفتوں میں ہوتا تھا۔

یعنی کسی وقت کے بغیر جو نہیں کھینچے چلتا تھا۔ مارننگ شفٹ صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہوتی تھی۔ ایونگ شفٹ پانچ سے رات ایک بجے تک اور ایک سے صبح نو بجے تک نائٹ شفٹ ہوتی تھی۔ مارننگ میں اس سمیت تین لڑکیاں تھیں۔ جبکہ ایونگ اور نائٹ شفٹ میں لڑکے ہوتے تھے۔ پہلے دن کال سینٹر کے مالک رضامراد نے خود اسے تربیت دی کہ اسے کیا اور کیسے کرنا ہے۔ شام تک وہ تقریباً سیکھ چکی تھی اور آنے والے دو دن تک وہ اپلائی کرتی رہی۔

تین دن بعد اس کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر رضامراد نے اسے سترہ ہزار کی پیشکش کی جو اس کی توقع سے زیادہ تھی اس لیے اس نے قبول کر لی۔ رضامراد نے اسے تین دن دلا یا تھا کہ اسے بہت اچھا ماحول ملے گا اور مارننگ شفٹ میں کسی مرد کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی کال سینٹر والے حصے میں نہیں آتا تھا اور اپنے آفس میں بیٹھ کر گرائی کرتا تھا۔ آپریٹر جو کال ریسیو کرتی تھیں، وہ رضامراد بھی سن سکتا تھا۔ اس لیے کالز کے معاملے میں انہیں الرٹ رہنا پڑتا تھا۔ البتہ وہ ان کی آہٹوں میں ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ ان کے کمرے کے ساتھ ہی دو دواش روم تھے جن میں سے ایک خواتین کے لیے مخصوص تھا اور وہ اپنی شفٹ کے بعد جاتے ہوئے اسے لاک کر کے جاتی تھیں۔ دوسرا ہاتھ روم لڑکوں کے لیے تھا۔ کپیوٹر اور دوسری چیزیں لڑکے بھی استعمال کرتے تھے مگر انہیں ان میں کسی قسم کی تہیابی یا آفس میں اپنی ذاتی چیز رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کپیوٹر میں کسی قسم کے پروگراموں کی انسٹالیشن ممکن نہیں تھی اور نہ ہی ان میں ڈیٹا کاپی یا ان سے نکالا جاسکتا تھا۔

رضامراد کے علاوہ دفتر میں صرف ایک بیون تھا جو دیگر کاموں کے لیے مخصوص تھا۔ وہی ان کے لیے بیچ لے کر آتا تھا۔ بارہ بجے سب اپنی اپنی پسند کی چیزوں کی لسٹ پیسوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیتی تھیں۔ بیچ سب مل کر نہیں کرتی تھیں بلکہ ایک بیچ کرتی تو باقی دو کال پر ہوتی تھیں۔ کال سینٹر کو زیادہ کال یورپ اور امریکا سے آتی تھیں اس لیے مارننگ میں لوڈ کم ہوتا تھا اور اسی وجہ سے یہاں تین لڑکیاں تھیں جبکہ باقی شیفتوں میں پورے پانچ پانچ لڑکے کام کرتے تھے۔ اس کے باوجود انہیں سرکھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی اور انہیں کھانے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ مشکل وہ دواش روم جا پاتے تھے۔ رات کو شفٹ انچارج بھی آتے تھے اور اکثر اوقات انہیں بھی آپریٹر بننا پڑتا تھا۔ یہ سب رابعہ اور مونا نے اسے بتایا تھا۔ ان کے مزے تھے کہ کبھی

آدمے گھنٹے بھی کوئی کال نہیں آتی تھی اور وہ اس دوران آرام یا گپ شپ کرتی تھیں۔

اس بار جاب کرتے ہوئے اسے ماں باپ کے خدشات سے بھی نمٹنا پڑا تھا۔ ایک حادثے نے انہیں اس کے حوالے سے سہاویا تھا مگر اس نے انہیں قائل کر لیا کہ ہر بار اس کے ساتھ ایک ہی حادثہ نہیں ہوگا اور کسی واقعے سے متاثر ہو کر گھر بیٹھ جانا مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر گھر کو اس کی جاب کی ضرورت تھی۔ یہ بات ماں باپ بھی سمجھتے تھے اس لیے مجبوراً وہ راضی ہو گئے۔ اسکول کے لیے وہ ساڑھے سات بجے گھر سے نکلتی تھی اور عام طور سے تین ساڑھے تین بجے واپس آ جاتی۔ یہاں وہ ساڑھے آٹھ بجے گھر سے نکلتی اور ساڑھے پانچ بجے واپس آتی تھی اس لحاظ سے دورانہ بڑھ گیا تھا۔ البتہ کام کا بوجھ اسکول کی جاب کے مقابلے میں کہیں کم تھا۔ اسے پورے دن میں بیس سے پچیس کا بزنس ایڈمنسٹریشن کرنا پڑتی تھیں جن کا دورانہ مشکل سے ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہوتا تھا۔

باقی وقت وہ فارغ ہوتی تھی اور اسے نہ تو تیاری کرنی پڑتی اور نہ ہی جاب کے بعد کرنے کو کچھ باقی رہ جاتا تھا۔ اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی تو وہ رضامراوہ سے مدد لے سکتی تھی۔ یعنی کام کے لحاظ سے جاب بہت آسان تھی۔ شروع میں تین دن تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے دفتر گئی لیکن اس کے بعد وہ گاڑی میں آنے جانے لگی۔ گاڑی رابعہ کے پاس تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ گاڑی اس کے باپ کی مگی جو سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو گیا تھا اور اس نے اپنی گاڑی بیٹی کے حوالے کر دی تھی۔ جاب وہ وقت گزاری کے لیے کر رہی تھی مگر وہ اکیلی روز گاڑی میں آنا جانا فوراً نہیں کر سکتی تھی اس لیے اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں سے ہات کی اور لڑکیاں اس کے ساتھ آنے جانے لگیں۔ وہ ان سے دو ہزار ملتی تھی۔ اس سے سی این جی کا خرچ نکل آتا تھا اور مرمت و سروس وہ خود کرائی تھی۔ پھر ایک لڑکی نے جاب چھوڑ دی اور اس کی جگہ رویینہ نے پُر کر دی۔ اتفاق سے تینوں جڑواں شہر کے ایک ہی علاقے میں پاس پاس رہتی تھیں۔ رابعہ اسے گھر کے دروازے سے ملتی اور واپسی میں دروازے پر چھوڑتی تھی۔

اگرچہ بس یاوین میں آنے جانے کی صورت میں ہزار روپے کرایہ لگنا مگر سہولت دیکھتے ہوئے رویینہ نے دو ہزار روپے قبول کر لیا۔ ماں باپ کو بھی اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ اسے اسٹاپ پر کھڑے ہونا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں

دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ کچھ وقت گزرا تو رویینہ کی زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آ گئی۔ اب اسے اس واقعے کی سوچیں تنگ نہیں کرتی تھیں۔ پھر شہزاد کی ناں نے اپنی دھمکی کے برعکس کیس ہائی کورٹ لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے وہ تقریباً اس حادثے کے حصار سے نکل آئی۔ ماں باپ خوش تھے کہ اس کی زندگی روٹین پر آ گئی ہے۔ ماں نے اس کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی اور اپنی جائزے والیوں سے کہہ دیا۔ چند ایک رشتے تجویز بھی ہوئے مگر وہ اسے رویینہ کے لحاظ سے مناسب نہیں لگے تھے۔

رشتوں میں تعلیم یا شکل صورت کی کمی تھی۔ ایک لڑکا اچھا پڑھا لکھا اور صورت کا بھی اچھا تھا مگر اس کا تعلق دیہات سے تھا۔ وہ ملازمت کرنے شہر آیا تھا اور شادی کر کے بیوی کو گاؤں لے جاتا۔ رویینہ یا اس کے ماں باپ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ ان کی بیٹی شہر میں پیدا ہوئی اور پٹی بڑھی تھی، وہ گاؤں میں نہیں رہ سکتی تھی۔ بہر حال اب انہیں عجلت بھی نہیں تھی۔ مشکل وقت گزر گیا تھا اور وہ رویینہ کا رشتہ و یکم بھال کر کرنا چاہتے تھے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مشکل وقت گزر جانے کے بعد وہ مضطرب نہیں رہتا۔ رویینہ اپنی زندگی کو دوبارہ معمول پر لانے میں رضامراوہ کی شکر گزار تھی۔ اس نے نہ صرف اسے ملازمت دی بلکہ کام کے لیے بہت اچھا ماحول بھی دیا۔ ورنہ لڑکیوں کے لیے کال سینٹر کی جاب کو عام طور سے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔

رویینہ کا واسطہ صرف دو لڑکیوں سے تھا اور وہ دونوں مہذب اور اچھی فطرت کی تھیں۔ انہوں نے اس سے دوستانہ تعلق استوار کر لیا مگر زیادہ گہرائی میں جا کر اس بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رضامراوہ صرف خود لڑکیوں کی شفقت کے دوران کرنے میں آنے سے گریز کرتا تھا بلکہ بیون کو بھی بغیر بلائے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے وہ سکون سے بنا کسی اندیشے کے رہتی تھیں۔ شام کو جب لڑکوں کی شفقت کا وقت آتا تو جب تک تمام لڑکیاں کمرے سے نہیں نکل جاتیں کوئی اندر نہیں آتا تھا۔ لڑکوں سے صرف آتے جاتے سامنا ہوتا تھا۔ اگرچہ لڑکے پاس کاروبار دیکھتے ہوئے محتاط رہتے تھے مگر ایک دو واقعات ہوئے جب کسی لڑکے نے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی اور لڑکی کی شکایت پر رضامراوہ نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ اب خاصے عرصے سے کسی نے ایسی جرأت نہیں کی تھی۔

یہ سارا کمال یقیناً رضامراوہ کی ایڈمنسٹریشن کا تھا۔ اس نے دس سال پہلے یہ کال سینٹر قائم کیا تھا۔ اس وقت یہاں

گھر جاتے ہوئے رضا مراد کا مکان دکھایا تھا۔ یہ دوسرے پر بنا ہوا جدید طرز کا ایک منزلہ مکان تھا۔ وکٹس ڈیزائن اور خوب صورت کمر اسکیم سے آراستہ تھا۔ مکان کے باہر بھی بڑی سی کیاری تھی۔ مکان کے اگلے حصے میں کھلا مچن تھا اور اس میں آرائشی درخت لگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر پھولیں پڑھ رہی تھیں۔ روینہ نے مکان دیکھ کر کہا۔ ”لگتا ہے سڑکو فطرت سے عشق ہے۔“

روینہ کو ذہنی طور پر پھول پووے پسند تھے اور اس نے گھر میں نہ صرف کیاری بنائی ہوئی تھی بلکہ گھلوں میں بھی بہت سے پووے لگائے ہوئے تھے۔ اگلے دن روینہ کام کر رہی تھی کہ رضا مراد نے اسے طلب کیا۔ وہ اٹھ کر اس کے آفس میں آئی۔ ”میں سر؟“

”آپ کیسی ہیں؟“ رضا مراد نے اتنے عرصے میں اس سے پہلی بار کام سے ہٹ کر کوئی بات کی اس لیے وہ ذرا گڑبڑا گئی اور پھر سنبھل کر بولی۔

”میں ٹھیک ہوں سر۔“

”میرا گھر کیسا لگا؟“

روینہ چونکی اور انجان بن کر بولی۔ ”آپ کا گھر؟“

”ہاں کل آپ سب خواتین میرا گھر دیکھنے گئی تھیں۔ اتفاق سے میں بھی اسی وقت وہاں آیا تھا۔“

روینہ بوکھلا گئی کہ رضا مراد نے ان لوگوں کو وہاں دیکھ لیا تھا اس نے جلدی سے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ ”ہم اتفاق سے اس طرف سے گزرے تو آپ کے گھر کا ذکر ہوا اور ہم نے سوچا۔“

”قاریٹ اٹ۔“ رضا مراد نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ”میں نے برا محسوس نہیں کیا بلکہ مجھے اچھا لگا۔“

روینہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ ”آپ کا مکان بہت خوب صورت ہے سر اور آپ نے اسے بہت اچھے انداز میں سجایا ہے۔“

”ٹھیکس فورس کھلی منٹ۔“ اس نے سر ہلایا۔ ”اگر آپ لوگ مکان اندر سے دیکھنا چاہیں تو اپنی ٹائم ویکم ہے۔“

”تھینک یو سر۔“ روینہ نے دل سے کہا۔ ”اس کا زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے رجسٹر کا برا نہیں مانا۔“

”میں آفس میں جتنا سخت نظر آتا ہوں، عام زندگی میں اتنا سخت نہیں ہوں۔“ رضانا نے آہستہ سے کہا۔

اپنے کہیں میں آنے کے بعد بھی روینہ سوچتی رہی کہ اس بیٹے یہ بات کیوں کی۔ اس دن وہ چھٹی کر کے نکلیں تو

کچھ کام تھا تو وہ آج ورکشاپ میں دیتی ہوئی جائے گی اور گاڑی اسے کل شام واپس ملے گی اس لیے کل ان سب کو خود سے آنا اور جانا پڑے گا۔ سینے میں ایک دو بار ایسا ہوجاتا تھا۔ اگلے روز روینہ بروقت پہنچنے کے لیے جلدی گھر سے نکلی اور اتفاق سے اسے فوراً ہی وین مل گئی اور وہ پندرہ منٹ میں آفس پہنچ گئی۔ راجہ اسے اور سونا کو لیتی تھی اس لیے آفس آتے آتے میں منٹ سے زیادہ ہی لگ جاتے تھے۔ آج وہ معمول سے ڈرا جلدی پہنچ گئی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت رضا مراد بھی پہنچا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پارک کی اور اترتے ہوئے بولا۔

”خیریت، آج گاڑی میں نہیں آئیں؟“

”گاڑی ورکشاپ گئی ہے۔“ اس نے کہا۔ ”آج وین میں آئی ہوں۔“

”اور واپسی؟“

”ظاہر ہے، وہ بھی وین میں ہوگی۔“

مگر جب وہ شام کو آفس سے نکلی تو پتا چلا کہ ٹرانسپورٹ

ڈالوں نے اچانک ہی کسی وجہ سے ہڑتال کر دی ہے اور

سڑکیں گاڑیوں سے خالی ہو گئی تھیں۔ ٹرانسپورٹرز کا پوئیس

سے کسی بات پر جھگڑا ہوا اور اس کی سزا عوام کو دی جا رہی

تھی۔ چھٹی سے پہلے روینہ دہشت گردی کی تھی اور جب وہ نکلی تو

راجہ اور سونا جا چکی تھیں۔ وہ اسے اسٹاپ پر بھی نظر نہیں

آئیں۔ شاید وہ آگے ایک بڑی ہائی وے تک چلی گئی تھیں

جہاں سے باہر سے آنے والی بسیں بھی مل جاتی تھیں۔ اس

دن روینہ صبح سے اٹھی ہوئی تھی اور آج کام بھی زیادہ

تھا۔ اب اس میں ایک کلومیٹر پیدل چلنے کی ہمت نہیں تھی۔

دارالحکومت میں رکشوں کو اجازت نہیں تھی۔ وہاں کچھ

ٹیکسیاں تھیں مگر وہ اکیلے ان میں بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پارہی

تھی۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ پیدل ہی چلنا شروع کر دے کہ

رضا مراد کی کار اس کے پاس آ کر رکی۔ اس نے بتا تمہید

فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ”آجائیں،

میں آپ کو ڈراپ کرویتا ہوں۔“

وہ کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ اندر بیٹھ گئی۔ ”شکریہ،

اس وقت تو یہاں وورڈرز تک کسی ٹرانسپورٹ کا نام و نشان

نہیں ہے۔“

”آپ کی خوش قسمتی کہ مجھے اس طرف کام تھا اور میں

یہاں آ گیا ورنہ یہ میرا روٹ نہیں ہے۔“

”میں شکر گزار ہوں۔“

”اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئیگ ہونے کے ناطے

248

سبپنس ڈائجسٹ

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

Section

ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے۔“ رضا مراد نے کہا۔ ”میں نے آج تک کہا نہیں لیکن آج میں بتا دوں کہ آپ ان چند بہترین کال آپریٹرز میں سے ہیں جو میرے آفس میں آئی ہیں اور جب آپ جاگیں گی تو مجھے افسوس ہوگا۔“

”میں فی الحال تو نہیں جا رہی۔“
 ”عام طور سے ہمیں زیادہ عرصے نہیں رکتی ہیں اور شادی یا کسی اور وجہ سے جا ب چھوڑ دیتی ہیں۔“
 ”شادی کا ابھی کچھ پتا نہیں ہے۔“ روینہ نے جھینپ کر کہا۔ ”جا ب چھوڑنے کی کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے۔ ویسے آپ کے آفس میں الٹا ہوتا ہے، لڑکیاں زیادہ عرصے جا ب کرتی ہیں اور لڑکے جلدی چھوڑ جاتے ہیں۔“
 ”کیونکہ وہ پارٹ ٹائم کرتے ہیں اور لڑکیاں فل ٹائم کرتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ پانچ سال سے زیادہ جا ب نہیں کرتیں۔ رابعہ سب سے پرانی ہے مگر اگلے سال تک وہ بھی جا ب چھوڑ دے گی۔“ رضا مراد نے کہا اور پھر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ”آپ جا ب ٹائم پاس کے لیے کرتی ہیں یا.....؟“

”ضرورت کے تحت۔“ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ”میرے والد ریٹائر ہیں اور بڑے بھائی اتنا نہیں کرتے کہ ہم اپنا خرچ پورا کر سکیں اس لیے مجھے جا ب کرنی پڑی۔“

”تب آپ سزا ہے جانے کے قابل ہیں۔“ رضا مراد نے تقریبی انداز میں کہا۔ ”بیٹے ہوں یا بیٹی، ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت دونوں پر فرض ہے۔ اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں۔ میں اس معاملے میں بد قسمت ہوں کہ ابھی پڑھ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں ان کی زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔“

”اوہ، افسوس ہوا۔“ روینہ نے کہا اور پھر بے ساختہ پوچھ لیا۔ ”تب سے آپ اکیلے ہیں سر؟“
 ”ہاں، تب سے میں اکیلا ہی ہوں۔“
 ”آپ نے شادی نہیں کی؟“ یہ سوال اس نے جھجک کر کیا۔

”پہلے اپنا کیریئر بنانے میں لگا رہا۔ وراثت میں مجھے صرف یہ مکان ملا تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ڈگری ملنے تک رقم کے لیے ہوٹلوں میں ڈش واشنگ تک کی ہے۔ میرا شروع سے ارادہ تھا کہ میں اپنی آئی ٹی کمپنی کھولوں گا اور اس لیے میں

نے ایم سی ایس کیا۔“

”پھر آپ نے یہ کال سینٹر کھول لیا؟“

”نہیں، پہلے چھ سال دوسری کمپنیوں میں کام کیا اور پھر کچھ رقم جمع ہوئی تو کال سینٹر کا بزنس شروع کیا۔ آئی ٹی کمپنی اس لیے نہیں شروع کر سکا کہ اس کے لیے زیادہ رقم اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹاف چاہیے تھا۔ کال سینٹر اس کے مقابلے میں کم رقم میں ہو سکتا تھا۔ یہ دفتر میں نے کرائے پر لیا تھا اور عمارت نئی تھی۔ اس کے اندر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ رنگ و روغن کا سارا کام میں نے ہی کیا۔ آفس کے لیے سیکنڈ ہینڈ فرنیچر اور کمپیوٹرز لیے۔ چند سال بعد کال سینٹر چل نکلا اور میری گنجائش ہوئی تو میں نے کچھ قرض لے کر یہ آفس ہی خرید لیا۔ درمیان میں گنجائش دیکھ کر فرنیچر اور سسٹم اپ گریڈ کرنا رہا۔ اب آفس میں سب میری مرضی کے مطابق ہے۔ مجھ پر سے قرض اتر گیا ہے اس لیے میں اپنا بزنس بڑھا رہا ہوں۔ برابر والا آفس بھی اسی لیے خریدا ہے۔“

”اسی وجہ سے آپ نے شادی بھی نہیں کی؟“
 ”نہیں، اس کی اصل وجہ وقت کی کمی تھی۔ دن میں یہاں ہوتا تھا اور رات کو نیٹ پر بزنس ڈینگ کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ سونے اور کھانے کے لیے بھی وقت مشکل سے ملتا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ آنے والی میری مصروفیات سے سمجھوتا کرتی۔ جس اسی وجہ سے میں شادی سے گریز کرتا رہا۔ اب میں اس قابل ہوں کہ بیوی کو مناسب وقت دے سکوں مگر شاید اب وقت گزر گیا ہے۔“

”آپ شادی کر لیں۔“ روینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ”آپ کے پاس ابھی وقت ہے مگر ضائع کرنے کے لیے بہت کم ہے۔“

”آپ نے ٹھیک کہا مگر میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں۔ میرے خیال میں انسان کی ہونے والی بیوی سے ماسٹڈ میچنگ ضروری ہے۔“
 ”اس کے لیے تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔“
 ”مجھے مل گئی ہے۔“ رضانا نے اس کی طرف دیکھا تو روینہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جھجک کر پوچھا۔

”وہ کون ہے سر؟“
 ”ابھی میں نہیں بتا سکتا کہ وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچتی ہے؟“
 ”تب آپ رشتہ بھیج دیں۔ آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔“
 ”میں ایسا ہی کروں گا لیکن پہلے اس کی رضامندی

ضروری ہے۔“

”سرا آپ جیسے شخص کے رشتے سے کون انکار کرے گا۔“ روینہ نے تھین سے کہا۔ ”یہ اس لڑکی کی خوش قسمتی ہوگی۔“

”نہیں، اس کی رضامندی لازمی ہے اور ایک مسئلہ اور ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے خاصی کم ہے۔“ رضانا نے کہا۔

”پندرہ سال چھوٹی ہے۔ پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت خوب صورت اور اتنی ہی خوب سیرت ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اسے اپنے معیار کا رشتہ مل سکتا ہے۔“

روینہ کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اب اس سے بولا نہیں جا رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ رضامراد اس کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تو وہ چونکی۔ اس نے یہ مشکل کہا۔ ”سر..... آپ کوشش تو کریں۔“

وہ کہتے ہی پچھے اتر آئی۔ بدحواسی میں وہ رضامراد کا شکر یہ ادا کرتا بھی بھول گئی تھی۔ اس کے پاس چھوٹے گیٹ کے آٹویک لاک کی چابی تھی اس لیے اسے کال بیل یا دروازہ نہیں بجانا پڑتا تھا۔ اندر آ کر اس نے سب سے پہلے فریج سے پانی نکال کر پیا۔

وہ چیخ کرنے کے لیے کمرے میں آئی۔ اسے پہلی بار خیال آیا کہ رضامراد نے اسے گھرنیک چھوڑا تھا۔ بے شک آفس کے ریکارڈ میں اس کے گھر کا پتا تھا مگر رضامراد نے اس کا گھر تو نہیں دیکھا تھا، جب وہ بنا اس سے پوچھے اس کے گھرنیک کیسے آگیا تھا؟ اسے رضامراد کی باتیں یاد آئیں۔ وہ اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں بتا رہا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روینہ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس کا اشارہ اسی کی طرف تھا مگر ساتھ ہی وہ اپنے خیال کو جھٹلا رہی تھی۔ اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی جو وہ اس سے اس کی رضامندی چاہتا اور اس کے حسن اور کم عمری کا خیال کرتا۔

شاید وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو اور ہو سکتا تھا کہ وہ ایک کوئیگ ہونے کے ناتے اس سے یہ باتیں کر رہا تھا اور اس نے واضح طور پر تو کچھ نہیں کہا تھا۔ اگر اس کی پسند وہ تھی تو اسے کھل کر یہ بات کہہ دینی چاہیے تھی۔ روینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے میں دیکھے اور انتظار کرے گی۔ اگر رضانا نے کھل کر بات کی تو وہ اسے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا کہہ دے گی۔

عورت مرد کا کردار اور زندگی کے بارے میں اس کا رویہ دیکھتی ہے۔ خاص طور سے وہ عورت جو میچور ہو اور رہے ہو۔

میچورٹی آگئی تھی۔ کردار کے معاملے میں اس نے رضامراد کو بہترین انسان پایا تھا۔ جہاں تک بات پندرہ سال کے فرق کی تھی تو یہ اتنی اہم بات نہیں تھی۔ پھر ہمارے معاشرے میں عمر کے لحاظ سے بے جوڑ شادیاں عام ہیں۔

صبح وہ آفس آئی اور اس کا رضامراد سے سامنا ہوا تو وہ معمول کے مطابق تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے غور سے نہیں دیکھا کہ وہ آج خاص طور سے تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ میک اپ سے گریز کرتی تھی مگر آج اس نے ہلکا میک اپ کیا تھا اور راستے میں اس کی کونٹیکٹ نے اس کی تعریفوں کے پل باعدہ دیے تھے بلکہ گاڑی چلاتی راہدہ نے اسے کئے بھی مارے تھے۔ ”کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ کیا اس طرح سے تیار ہو کر نہیں آ سکتی؟“

”تیار نہیں ہوئی ہوں۔“ اس نے جھینپ کر کہا۔ ”لائٹ میک اپ کیا ہے۔“

”یہی کر لیا کرو۔“ مونا بولی۔ ”آج تو سب تمہیں ہی دیکھیں گے۔“

وہ ہنسی۔ ”آفس میں سوائے سزاور بیون کے ہوتا ہی کون ہے؟“

”چل وہی دیکھ لیں گے۔“

لیکن جس کے لیے اس نے تیاری کی تھی، اس نے سرسری سا دیکھا اور بتا کسی رد عمل کے اپنے کام میں لگ گیا مگر کچھ دیر بعد جب وہ کپڑوں کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے موبائل پر ایس ایم ایس آیا۔ ٹون سن کر اس نے موبائل دیکھا تو رضا کا ایس ایم ایس تھا۔ ”آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔“

روینہ کو لگا کہ وہ اندر سے کھل اٹھی ہے۔ اس نے جوابی ایس ایم ایس کیا۔ ”شکریہ۔“

”آپ نے برا نہیں مانا اس کا شکریہ۔“

روینہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر میسج کیا۔ ”آپ کو کچھ بھی کہنے کے لیے میسج کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔“

”تب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ میسج کے بعد میرے کمرے میں آئیے گا۔“

”آپ مجھے طلب کر لیجئے گا۔“ روینہ نے جوابی میسج کیا۔ ”خود سے آپ کے آفس میں کوئی نہیں جاتا ہے۔“

”اوکے، میں کال کر لوں گا۔“ رضامراد نے کہا۔ اسی اثنا میں اسے کال آنے لگی اور وہ کال ریسیو کرنے لگی۔ میسج انہوں نے ڈیڑھ بجے کیا۔ دوپہر رضامراد نے اسے طلب کیا اور وہ یوں گئی جیسے رضامراد نے اسے کسی کال کے سلسلے

میں بلایا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو رضا مراد جیسے سرایا منتظر تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تو اس سے نظر س نہیں اٹھاکی جا رہی تھیں لیکن اس سے پہلے رضا مراد کچھ کہا اس نے کہا۔

”سرا میں آگئی ہوں۔“

”کاش کہ تم پہلے آگئی ہوتیں۔“ رضا مراد نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ”میری زندگی اتنی سوزنی نہ ہوتی۔“

”سرا! آپ کیا کہہ رہے ہیں؟“ اس نے بہ مشکل کہا۔

”روینہ! میں اسٹریٹ فارورڈ قسم کا آدمی ہوں اس لیے سیدھی بات کروں گا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ کی اجازت سے آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔“

روینہ نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ حالانکہ اس کا خیال تھا کہ ایسی کوئی بات سن کر وہ شاید بدحواس ہو جائے گی مگر اس کے برعکس ہوا تھا۔ اس نے کہا۔ ”سرا! میں اسے اپنی عزت افزائی سمجھوں گی لیکن جہاں تک شادی کا تعلق ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز میرے ماں باپ ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔“

”میں سن رہا ہوں۔“

”وقت نہیں ہے اس لیے میں مختصراً بتاؤں گی۔“

روینہ نے کہا اور اسے اپنی زندگی کا بھانک ترین واقعہ سنا دیا۔ رضا مراد حیران نظر آیا۔ وہ سنا کر کھڑی ہو گئی۔ ”یہ میری زندگی کا وہ واقعہ ہے جو شاید ساری عمر میرا پیچھا کرے گا اور میں نہیں چاہوں گی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی اس سے متاثر ہو۔ آپ اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا مگر آپ کے کسی بھی فیصلے سے میرے دل میں آپ کے لیے موجود عزت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔“

وہ اپنے کیمین میں آئی تو اس کا دل پوچھل تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ خوش قسمتی سے رابعہ بیچ کر رہی تھی اور مونا ایک کال انٹینڈر کر رہی تھی اس لیے دونوں اس کی کیفیت نہیں دیکھ سکیں۔ وہ سیدھی واپس روم گئی اور وہاں سے دل اور آنکھوں کا پوچھ بھکا کر کے باہر آئی۔ منہ دھونے سے میک اپ صاف ہو گیا تھا اور اس نے منہ دھونے کی وجہ بھی یہی بتائی کہ اسے میک اپ میں رہنے کی عادت نہیں ہے، ابھن ہوتی ہے اس لیے اس نے منہ دھو لیا۔ مونا ممتی خیر انداز میں بولی۔ ”ڈییر! عادت ڈال لو، جلد تمہیں میاں جی کی خاطر دیر تک میک اپ میں رہنا پڑے گا۔“

”وہ وقت ابھی دور ہے۔“

رابعہ بیچ سے فارغ ہو گئی تھی۔ اس نے کیمین سے بھاگ کر کہا۔ ”قسم سے میں لڑکا ہوتی تو اسے اغوا کر کے لے جا چکی ہوتی۔ پتا نہیں لوگ اندھے ہیں جو انہیں روینہ نظر نہیں آتی۔“

”تم لوگوں کے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے۔“ اس نے کسی قدر چڑ کر کہا تو مونا ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس نے شانے اچکائے۔

”تجھے پسند نہیں ہے تو نہیں کرتے۔“

روینہ اپنے کیمین میں آگئی اور کام میں لگ گئی۔ زیادہ تر کال دو بجے کے بعد آتی تھیں اور وہ معروف رہتی تھیں۔ شام کے وقت جب وہ چھٹی کر کے نکل رہی تھیں تو رضا مراد پہلے ہی جا چکا تھا۔ روینہ کے اندر ہوک سی اٹھی۔ وہ سارے وقت انتظار کرتی رہی کہ رضا کی طرف سے سچ آئے گا اور وہ اسے بتائے گا کہ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ سب سے بہادر عورت وہی ہوتی ہے جو عزت کے لیے جان دے دے یا کسی کی جان لے لے مگر کوئی سچ نہیں آیا اور اب وہ وقت سے پہلے آگئی سے جا چکا تھا۔ شاید اسے روینہ کی ذات سے منسوب اس واقعے سے دھچکا پہنچا تھا اور وہ اب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ روینہ کے خیال میں اگر وہ ایسا کر رہا تھا تو وہ حق بہ جانب تھا۔ بھلا کون ہو گا جو ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارے جس نے ایک انسان کو کھل کیا ہو۔ بے شک اپنے وقار ہی میں کیوں نہ کیا ہو۔ وہ گھر آئی تو ماں بہت خوش تھی۔ اس نے روینہ کو چمٹا کر پیار کیا۔

”کیا ہوا ای۔۔۔ آج بہت پیار آ رہا ہے؟“

”کیوں نہ آئے، میری بیٹی اتنی پیاری ہے۔ آج ایک عورت کا فون آیا تھا۔ وہ رشتے کرانی ہے۔ اسے کسی توسط سے پتا چلا تھا کہ ہم تیرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو اس نے پیشکش کی ہے کہ اس کے پاس ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ وہ کل آئے گی اور اگر ہمیں لڑکا پسند آ گیا تو پرسوں اتوار کو وہ لڑکے کو بھی لے آئے گی۔“

ماں کی خوشی دیکھ کر وہ ڈبرستی تھی۔ ”اتنی جلدی۔۔۔ کیا ہتھیلی پر برسوں جمانا چاہتی ہے وہ۔“

”بیٹا! اس کا کہنا ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے اور ایسا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔“

”آپ دیکھیے گا۔“ اس نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ”میرے لیے سب سے بہتر فیصلہ آپ ہی کریں گے۔“

”جیتی رہو، خوش رہو بیٹی۔“ ماں نے خوش ہو کر کہا۔

اگلے دن وہ دفتر سے آئی تو ماں خوش بھی تھی اور کسی قدر فکرمند بھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ماں بھی اس کے پیچھے آئی۔ ”آج وہ عورت آئی تھی۔“

”اچھا تو آپ نے کیا کہا؟“

”ابھی تو میں نے کچھ نہیں کہا، سو چاہ پہلے تجھ سے بات کروں پھر اسے جواب دوں گی۔“

”مجھ سے کیا بات کرتی ہے جبکہ میں نے سب آپ پر چھوڑا ہوا ہے۔“

”ہاں مگر اس رشتے کے لیے تجھ سے پوچھنا ضروری ہے۔ وہ عورت تیرے باس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ رضامراد نام ہے نا اس کا؟“

روبینہ کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی۔ پھر اس نے چونک کر کہا۔ ”ہاں، ان کا یہی نام ہے۔“

”کیا اس نے تیری مرضی سے رشتہ بھیجا ہے؟“

روبینہ ماں کے لہجے میں موجود اصل سوال تک پہنچ گئی اور اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ”اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ انہوں نے رشتہ میری مرضی سے بھیجا ہے یا نہیں۔ اصل اہمیت آپ اور ابو کے فیصلے کی ہوگی اور مجھے آپ کا فیصلہ خوشی قبول ہوگا۔“

ماں نے گہری سانس لی۔ ”تب میں تیرے ابو سے بات کرتی ہوں۔“ وہ باہر جاتے جاتے رکی اور کہا۔ ”تو جانتی ہے رضامراد پھر میں تجھ سے کافی بڑا ہے۔“

”جی جانتی ہوں۔“ روبینہ نے جواب دیا۔

”تصور میں وہ خاصا کم عمر لگ رہا تھا۔“

”سامنے سے بھی ایسے ہی لگتے ہیں۔ اگر آپ نے ملنے کا فیصلہ کیا تو دیکھ لیں گی۔“

ماں نے اسی رات اس کے باپ سے بات کی اور باپ نے بھائیوں سے بات کی۔ ماں کے توسط سے انہوں نے رضامراد کے بارے میں روبینہ سے بہت سے سوالات کیے اور اسے جن کے جواب آتے تھے، وہ اس نے دیے۔ آنے والے ایک ہفتے تک وہ رضامراد کے بارے میں چھان بین کرتے رہے۔ اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملی تھیں مگر اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں تھی۔ اس کے دو بھائی اور دو بہنیں تھیں اور سب شادی شدہ تھے۔ پیچھے سے بھی اچھے خاندان سے تھا اور اپنا بزنس کر رہا تھا۔ اگلے اتوار سے پہلے پہلے گھر کی رائے عامہ رضامراد کے حق میں ہموار ہو گئی تھی۔

ابن دوران روبینہ معمول کے مطابق دفتر جاتی رہی۔

تو اس نے رضامراد سے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ دونوں میں جتنی بار گفتگو ہوئی، دفتر کی کاموں کے سلسلے میں ہوتی تھی۔ روبینہ نے رابعہ اور مونا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ کیا چکر چل رہا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس کے گھر والے اس رشتے پر راضی ہو گئے تو وہ جاب چھوڑ دے گی اور پھر ان دونوں کو بتا کر جائے گی۔ لیکن اگر اس کے گھر والے راضی نہ ہوئے تو بھی وہ جاب چھوڑ دے گی اور ان کو اصل بات نہیں بتائے گی۔ جاب چھوڑنے کے لیے کوئی ذاتی وجہ بیان کر دے گی مگر نئے والے دن وہ گھر پہنچی تو ماں نے اسے بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اگلے دن رضامراد کو بلا لیا ہے۔ وہ رشتہ کرانے والی عورت کے ساتھ آئے گا۔ روبینہ چونکی۔ ”کیا وہ اپنے بہن بھائیوں کو نہیں لائیں گے؟“

”اس کا کہنا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ وہ ذمے دار اور بڑی عمر کا آدمی ہے۔“

”یہ تو ٹھیک ہے لیکن انسان ایسے موقع پر رشتے داروں کو بتاتا ہے۔“ روبینہ نے کہا۔ ماں مطمئن لگی مگر اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اتوار والے دن اس نے خاص طور سے ڈرائنگ روم صاف کیا۔ چونکہ اسے رضامراد کے سامنے نہیں جانا تھا اس لیے اس نے ذاتی تیاری پر توجہ نہیں دی البتہ کچن میں بہت کچھ بنا لیا تھا۔ رضامراد رشتہ کرانے والی عورت کے ساتھ شام کے وقت آیا تھا۔ ڈرائی ویر میں وہ اس کے باپ اور بھائیوں سے اتنا بے تکلف ہو گیا کہ ان کے چنے کی آذائیں کچن تک آرہی تھیں۔ وہ شام کی چائے پر آیا تھا مگر اسے اصرار کر کے رات کے کھانے تک روک لیا گیا اور روبینہ کو ایمر جیسی میں رات کے کھانے کا بھی اہتمام کرنا پڑا۔ وہ دس بجے گیا تو روبینہ جھک کر چور ہو گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا وقت کچن میں نہیں گزارا تھا مگر ساتھ ہی وہ بہت خوش تھی۔ رضامراد کے لیے اس کے گھر والوں نے بہت اچھا روٹل دیا تھا اور کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ وہ اسی کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ رات کو موقع پاتے ہی اس نے ماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔

”آپ لوگوں نے رضامراد کو ہاں کر دی ہے تو کل سے میں دفتر نہیں جاؤں گی۔“

ماں نے سکون کا سانس لیا۔ ”یہی میں تجھ سے کہنے والی تھی۔ تیرے باپ اور بھائی چاہتے ہیں کہ اب تو گھر بیٹھے۔“

”میں استعفا بھیج دوں گی۔“ روبینہ نے کہا اور اس نے رات میں ہی کال کر کے رابعہ اور مونا کو بتا دیا تھا۔ وہ دنگ رہ گئیں۔ مونا نے کہا۔

”تو اتنی بچی رستم نکلے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔“
 رابعہ کسی قدر خفا تھی۔ ”تو نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔“
 روینہ نے اسے بتایا کہ اس نے کیوں نہیں بتایا تھا۔
 اب بتا رہی تھی کیونکہ سب طے ہو گیا تھا اور وہ کل سے دفتر
 نہیں آئے گی۔ اسی میل سے اپنا استعفا بھیج دے گی۔ اسے
 ستانے کے بعد ان دنوں نے اسے مبارک باد بھی دی تھی کہ
 اسے رضامراو جیسا اچھا آدمی مل رہا تھا۔ اس نے اگلے دن
 اسی میل سے رضامراو کو اپنا استعفا بھیج دیا۔ اس نے کال
 کر کے اسے بتایا کہ اس نے استعفا قبول کر لیا ہے اور اس
 کی اس مہینے کی تنخواہ براہ راست اس کے اکاؤنٹ میں بھیج
 دی جائے گی۔ روینہ نے منع کیا کہ اس کی ضرورت نہیں
 ہے، وہ صرف سات دن تو اس مہینے آئی تھی مگر رضامراو نہیں
 مانا۔ اس نے صرف تنخواہ ہی نہیں بلکہ دو یونٹس تنخواہیں بھی اس
 کے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہیں۔ روینہ اس رشتے سے خوش
 تھی مگر ساتھ ہی فکر مند بھی تھی۔ فکر اسے ماں باپ کی تھی کہ
 اب ان کا گزارہ کیسے ہوگا۔ اس نے ماں سے کہا تو اس نے
 جواب دیا۔

چاہتے تھے کہ وہ ان کی مرضی سے شادی کرے اور
 انہوں نے اس کے لیے رشتے بھی دیکھ رکھے تھے۔ اس کے
 انکار کے بعد وہ اس سے خفا تھے اور امکان بھی تھا کہ وہ اس
 کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اگر یہ نارمل رشتہ
 ہوتا یا روینہ کے ساتھ وہ حادثہ نہ پیش آیا ہوتا تو شاید اس
 کے گھر والے بھی اس بات کو محسوس کرتے مگر اب انہوں نے
 کیا تھا تو رضامراو پر اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔

ان چند مہینوں میں ماں نے اس کے رشتے کے لیے
 جو کوششیں کی تھیں، ان سے اسے پتا چل گیا تھا کہ اب
 روینہ کو کوئی معقول رشتہ ملنا مشکل ہے اور جو رشتے آرہے
 تھے اس سے بہتر تھا کہ وہ گھر بیٹھی رہتی۔ رضامراو میں صرف
 ایک چیز تھی کہ اس کی عمر روینہ سے خاصی زیادہ تھی مگر یہ عیب
 بھی نمایاں نہیں تھا۔ رضامراو نے جہیز کی چیزوں کے لیے منع
 کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ انہوں
 نے جو دینا ہے، وہ اپنی بیٹی کو ذاتی طور پر دے دیں۔ بلکہ
 اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ روینہ کو دو کپڑوں میں اس
 کے ساتھ رخصت کر دیں تو وہ زیادہ خوشی محسوس کرے گا۔

اس لیے ماں نے روینہ کے لیے سوٹ بنا لیے تھے
 اور زیور بنایا تھا۔ برات اور ویسے کا سوٹ رضامراو کی
 طرف سے ہونا تھا لیکن کیونکہ اس نے جہیز کو مع کر دیا تھا اس
 لیے انہوں نے روینہ کے یہ دو سوٹ بھی خود بنانے کا فیصلہ کیا
 تھا۔ اسی طرح مراد نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے خود
 بنائے گا۔ برات کے لیے طے ہوا تھا کہ وہ سادگی سے صرف
 چند لوگ لے کر آئے گا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ گھر میں
 تقریب رکھ لیں اور نکاح بھی نہیں ہو جائے گا مگر ان کے
 بہت سے رشتے دار تھے اس لیے انہوں نے لان کرایا
 تھا۔ رضامراو نے ویسے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا بیٹیکوٹ
 بک کرایا تھا۔ ویسے برات کے ایک ہفتے بعد تھا۔ ایک اتوار
 کو شادی تھی اور دوسرے اتوار کو ویسے تھا۔ روینہ اور اس کے
 گھر والوں نے بھی توجہ نہیں دی تھی کہ رضامراو نے ویسے اتنا
 آگے کیوں رکھا تھا؟

☆☆☆

روینہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا سر گھوم رہا ہے۔ کرا گھوم
 رہا تھا اور ہر چیز جیسے رقص میں تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ
 رضامراو کے گھر آنے کے بعد ایک عورت نے اسے پینے
 کے لیے کچھ دیا تھا اور اصرار کر کے اس کے چند گھونٹ پلا
 دیے تھے۔ یہ عجیب سے ڈانکے والا شربت تھا۔ برات میں
 صرف ایک گاڑی میں پانچ لوگ تھے۔ تین مروجن میں رضا

”تو کیوں فکر کرتی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اسی
 نے رزق کا وعدہ بھی کیا ہے۔“
 ”پھر بھی ای کوئی سبیل بھی تو ہوتی۔“

”تیرے ابا نے سوچا ہے کہ ڈرائنگ روم کے ایک
 حصے کو دکان میں تبدیل کر لیں گے اور وہاں کوئی کام کر
 لیں گے۔“

”ابا اس عمر میں کام کریں گے؟“ اس نے دکھ سے کہا۔
 ”ہاں میری بیٹی، ایک تو مجبوری ہے دوسرے تیرے
 ابا ٹھیک ٹھاک اور چلتے پھرتے ہیں۔ آوی آخری وقت تک
 کچھ نہ کچھ کرتا رہے تو ٹھیک ہے۔ بیٹہ جانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا
 اگر تیرے ابا ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کچھ کر لیتے تو آج یہ
 نوبت نہ آتی۔“

ماں نے اس کی تنخواہ سے بہت کچھ بچایا ہوا تھا اور
 اب وہی اس کے جہیز کی تیاری میں کام آ رہا تھا۔ پھر
 بھائیوں نے بھی ماں کو رقم دی تھی۔ آنے والے اتوار کو رضا
 مراو پھر رشتہ کرانے والی عورت کے ساتھ آیا تھا اور اس نے
 تاریخ طلب کی تھی۔ فون پر پہلے ہی سب طے ہو گیا تھا اس
 لیے ایک مہینے بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ روینہ کو ایک بار
 پھر محسوس ہوا کہ رضامراو کے بہن بھائی نہیں آئے تھے۔
 اس نے اسے معاف کر کے پوچھ بھی لیا اور اس نے جواب دیا
 کہ وہ اس کی شادی سے خوش نہیں تھے۔ اتفاق سے سب ہی

مراد بھی تھا اور دو عورتیں۔ ان میں سے ایک عورت نے نقاب کیا ہوا تھا اور اس نے عورتوں میں آکر بھی نقاب نہیں اتارا تھا۔ دوسری عورت وہی تھی جس نے رشہ کرایا تھا۔ گاڑی رضا مراد کی تھی اور وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے سادہ شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ دلچسپی میں ان میں سے ایک مرد گاڑی میں تھا۔ پیچھے روئینہ دونوں عورتوں کے ساتھ تھی اور آگے ایک مرد رضا مراد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ روئینہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔

جب وہ گھر میں آئے تو اسے گاڑی سے اتار کر ایک سادہ بیڈروم میں لایا گیا۔ سادہ ان محبتوں میں کہ یہ دلہن کے لحاظ سے سجا ہوا نہیں تھا لیکن یہاں فرنیچر اعلیٰ درجے کا تھا۔ فرش پر پیش قیمت دیبہ قالین اور اس سے سج کرتے ہوئے پردے تھے۔ روئینہ کو ڈبل بیڈ پر بٹھایا گیا تھا اور اس کے کچھ دیر بعد اسی نقاب پوش عورت نے اسے تقریباً زبردستی شربت پلایا تھا۔ اس کے تیسرے گھونٹ کے بعد اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر چکر رہا ہے اور کمر گھوم رہا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ ہاتھ پاؤں ہلا سکے۔ اس سے کچھ دیر بعد اس کی نیم کھلی آنکھوں کے سامنے رضا مراد کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس نے لہرائی آواز میں کہا۔

”کیسا محسوس کر رہی ہو؟“

”مجھے..... کیا ہوا..... ہے؟“

”کچھ نہیں۔“ دوسرا چہرہ نمودار ہوا اور یہ گفتگو کا چہرہ تھا..... شہزاد کی ماں گفتگو کا۔ اب روئینہ کوشہ ہونے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ بھلا گفتگو یہاں کہاں سے آگئی؟ وہ اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ”شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔“

”تم..... تم گفتگو ہو؟“ اس نے بہ مشکل کہا۔

”تم نے ٹھیک پہچانا، یہ گفتگو ہے۔“ رضا مراد نے کہا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ روئینہ کو ایک باز پھر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ آج اس کی شادی تھی اور اس کا شوہر جس نے اسے چھو بھی نہیں تھا، وہ اس عورت کو اپنی بانہوں میں لیے ہوئے تھا جس کے بیٹے نے روئینہ پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس نے خود سے کہا۔

”..... میں خواب دیکھ رہی ہوں۔“

”یہ حقیقت ہے۔“ گفتگو زہرے لہجے میں بولی۔ ”تیری زندگی کی سب سے بھیا تک حقیقت لیکن تو اسے کسی کو بتانے کے لیے زندہ نہیں رہے گی۔“

رضا مراد نے گفتگو کی تائید کی۔ ”آج رات تم مر جاؤ گی۔“ ”میں کیسے مر جاؤں گی..... مجھے کیا ہوا ہے؟“ اس نے پوچھا۔ اب روئینہ کو کسی قدر احساس ہوا کہ وہ جو دیکھ رہی ہے، وہ خواب نہیں ہے مگر اس کا شبہ باقی تھا۔

”تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے لیکن صبح کے قریب یہاں ڈاکو آئیں گے کیونکہ یہ شادی کا گھر ہے اور وہ لوٹ مار کے بعد مزاحمت کرنے پر گولیاں چلائیں گے۔“ رضا مراد نے یوں اطمینان سے کہا جیسے روزمرہ کی کوئی بات کر رہا ہو۔

”اس میں سے ایک گولی تمہیں لگے گی۔“ گفتگو نے بات آگے بڑھائی۔ ”اور تم مر جاؤ گی۔“

روئینہ کے حواس کسی قدر بہتر ہوئے اور اس کا سر چکرانا کم ہوا تھا اور اسے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو گفتگو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس لٹا دیا۔ ”میں نے تمہیں جو شرب دیا تھا، اس میں دوا تھی اور وہ انسان کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ تمہاری بے ہوشی سے قائدہ اٹھا کر ہم نے گھر میں ڈاکے کا بیٹ اپ بنا دیا ہے۔“

”اب ایک کام باقی ہے۔“ رضا مراد نے اس کے سامنے پستول لہرایا۔ ”لیکن جلدی نہیں ہے۔ تم دوا کے اثر سے نکل آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ پوسٹ مارٹم میں دوا کا ذکر آ جائے۔“

”جب تک ہم برابر والے بیڈروم میں سہاگ رات مناتے ہیں۔“ گفتگو نے بے شری سے کہا۔ ”میں نے تو تجویز دی تھی کہ تمہارے سامنے ہی.....“ اس نے رک کر رضا مراد کو دیکھا۔ ”مگر یہ نہیں مانا۔“

گفتگو کی دشمنی تو واضح تھی لیکن رضا مراد اس کے ساتھ کیوں تھا؟ اس نے یہی سوال کیا تو رضا مراد نے ذرا جھک کر کہا۔ ”تم نے جس لو جو ان کو قتل کیا تھا، وہ میرا بیٹا تھا..... میرا اکلوتا بیٹا۔ میں نے اور گفتگو نے تم عمری میں شادی کی تھی اور شادی کے چند مہینے بعد ہی ہمارے درمیان جھگڑے کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ بد قسمتی سے ہم نے اس کا ذکر بھی کر دیا اور یوں ہمیں جدا ہونا پڑا مگر ہم صرف دنیا کی نظر میں جدا ہوئے تھے۔ ویسے ہم چھپ کر ملتے رہے۔ جب میں نے گفتگو کو طلاق دی تو شہزاد اس کے پیٹ میں تھا اور مجھے بعد میں پتا چلا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔“ کہتے ہوئے رضا مراد کا چہرہ بگڑ گیا۔ ”کتیا..... تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا، اب تجھے

پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیوں کلفتہ کے ساتھ ہوں؟“

”میں مرتے دم تک اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں بھول سکوں گی جسے تو نے بگاڑا اور پھر اسے مار دیا۔“ کلفتہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ”میں تجھے ہائی کورٹ میں پہنچتی مگر رضا نے مجھے انتقام کا بہتر راستہ دکھایا۔ اب میں تیرا چہرہ بھی ایسے ہی بگاڑوں گی۔“

”اس نے میری عزت برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔“ رویینہ کمزور لہجے میں بولی۔ ”پھر بھی میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ جو ہوا وہ بغیر کسی ارادے کے ہوا۔“

”لیکن ہم جو کریں گے پورے ارادے سے کریں گے۔“ رضا مراد نے کہا۔ ”جیسے تمہیں ملازمت کے لیے بلایا اور پھر ملازمت دی۔ تمہیں شادی کے جال میں پھنسا دیا اور یہاں بلا لیا۔ کچھ دیر بعد یہاں قاترنگ ہوگی اور ڈاکو تمہیں قتل کر کے فرار ہوں گے مگر وہ ڈاکو نہیں کلفتہ ہوگی۔ مراد نے کپڑوں اور نقاب میں، محلے والے قاترنگ کی آواز سن کر باہر آئیں گے اور ڈاکوؤں کو فرار ہونے دیکھیں گے گاڑی کے پچھلے حصے میں دو ڈرمیاں بھی ہوں گی جو بالکل اصل لگیں گی۔ پھر میں روتا پھینٹا باہر آؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میری ایک رات کی دلہن کو ڈاکو مار گئے ہیں۔ سب میری بات مانیں گے، کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔“

”چلو۔“ کلفتہ نے رضا مراد کو بازو سے پکڑ کر کھیچا۔ ”وقت کم ہے، ابھی مجھے جانا بھی ہے۔ اسے میں اپنے ہاتھ سے شوٹ کر دوں گی، تب میرے کیلجے میں شہنڈ پڑے گی۔“

”تب تک تم زندگی کے آخری لمحات گزارو۔“ رضا مراد نے کہا اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا تھا۔ رویینہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس سے اٹھا نہیں جازا تھا۔ پتا نہیں اسے شربت میں کیسی دواوی گئی تھی جس نے اس کی جان نکال لی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آنکھ بند کر کے لیٹ جائے۔ مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس کے قائل کچھ دیر کے لیے گئے تھے اور جلد وہ اسے مارنے آجاتے۔ رویینہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رضا مراد کا اصل روپ یہ ہوگا۔ وہ کتنی چالاکی اور ماہرانہ اداکاری سے اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ دفتر میں اس نے اپنا کیسا تاثر بنایا ہوا تھا۔ عورتوں کے معاملے میں کتنا مہذب بنا تھا۔ شاید اس کے اسی تاثر کی وجہ سے رویینہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنی اور وہ اس کے بچھائے ہوئے جال میں بہت آسانی سے پھنس گئی۔

وہ جت لیٹ کر اور گہرے سانس لے کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ اٹھ سکتی ہے مگر اس سے سیدھا نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ اس نے پہلے کروٹ لی اور پھر ہاتھوں پر زور دے کر اٹھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کا وزن بہت بڑھ گیا ہو یا پھر کوشش نکل میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ بہت کوشش کر کے وہ اٹھی تو یوں ہانپ رہی تھی جیسے اس نے نہ جانے کتنی طویل مسافت طے کی ہو۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ مگر وہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اسے شدت سے پیاس لگ رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ کہیں سے ڈھیروں پانی طے اور وہ پی جائے۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی نظر ایک طرف چھوٹے دروازے پر گئی۔ شاید یہ ہاتھ روم کا دروازہ تھا۔ وہ اٹھی اور نیچے قالین پر گر گئی۔ اگر قالین دبیر نہ ہوتا تو اسے چوٹ آتی اور آواز بھی پیدا ہوتی۔

اس نے بہتر سمجھا کہ اٹھنے کی کوشش میں توانائی اور وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ قالین پر ہی سرک کر آگے بڑھے۔ یہ زیادہ آسان ثابت ہوا اور وہ ایک منٹ میں اس دروازے تک پہنچ گئی۔ ونڈل سمجھا کر اس نے نیم کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو سامنے ہی جدید طرز کا واش ٹین ویکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ وہ اسی حالت میں اندر آئی اور سہارا لے کر اوپر ہوئی۔ ٹل کھولتے ہوئے اس نے منہ براہ راست اس سے لگا دیا اور اس وقت تک پانی پیتی رہی جب تک وہ حلق میں نہیں بھر گیا اور پھر اسے قے آگئی۔ اس سے شادی کا کھانا نہیں کھایا گیا تھا اور اس نے مشکل سے چند لقمے لے لیے تھے۔ اس قے میں صرف پانی نکلا۔ مگر پانی کے نکلنے ہی اس کی حالت میں خیرت انگیز تغیر آیا۔

اسے لگا جیسے اس کا جسم اور ذہن دونوں ہلکے ہو گئے ہوں۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی اور جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اس بار صرف چند گھونٹ پانی پیا۔ پھر اس نے منہ دھویا اور ہاتھ روم میں چل پھر کر اپنی حالت کا جائزہ لیا۔ اسے لگا کہ وہ نوے فیصد ٹھیک ہو گئی ہے۔ ذہن بالکل صاف تھا اور جسمانی توانائی بھی لوٹ آئی تھی۔ اس نے وہاں دیکھا مگر اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی۔ صرف ایک داکٹر تھا جس کا ڈنڈا اتنی ہلکی بلاسٹک کا بنا ہوا تھا کہ اس سے کسی بلی کے بچے کا بھی کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا۔ وہ بیڈ روم میں آئی اور جلد اسے مطلب کی چیز نظر آگئی۔ یہ ماربل کا بنا ہوا ڈیڑھ فٹ لمبا اور تقریباً تین سیروز لی گلدان تھا۔

سے باہر آئی تو محلے والے اور چوکیدار پہلے ہی فائر کی آواز سن کر جمع ہو رہے تھے۔

☆☆☆

روینہ دفتر میں آئی تو لڑکیوں کی شفٹ شروع ہو گئی تھی۔ مونا کے علاوہ دو لڑکیاں سحر اور فرحانہ آئی تھیں۔ رابعہ کی چند دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ایک سال کے طویل عرصے میں روینہ نے معاملات پر کسی حد تک قابو پالیا تھا اور وہ اب بزنس آگے بڑھا رہی تھی۔ ماضی کی بھانک یادیں رفتہ رفتہ اتنی پیچھے رہ گئی تھیں کہ اب اسے یہ مشکل ہی ان کا خیال آتا تھا۔ اس نے ایک مہینہ بہت مشکل دیکھا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا مگر اس کے ماں باپ نے ایک قابل وکیل کیا جس نے ثابت کیا کہ وہ مظلوم ہے اور اس کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ پولیس نے پہلے گلگتہ سے سادہ باز ... کی اور اسے مدعی بنا لیا مگر چند تھنوں کے بعد صورت حال بدل گئی اور عدالت نے نہ صرف پولیس چالان مسترد کر دیا بلکہ نئے سرے سے انویسٹی گیشن کر کے نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا۔ روینہ کی خوش قسمتی کہ اس ہارٹیکیش جس ڈی ایس پی کے سپرد ہوئی، اس نے محنت اور دیانت سے اسے مکمل کیا۔ گلگتہ رضا مراد کی سازش میں اس کی ساسھی اور اس کے کل کی مجرم قرار پائی۔ تمام شہادتیں اس کے خلاف آئی تھیں اور جس پیشی پر روینہ کو باعزت بری کیا گیا، اسی پیشی میں اس پر فرد مجرم ثابت کر دی گئی۔ چھ مہینے بعد سیشن کورٹ نے اسے حرقید کی سزا سنائی تھی۔ گلگتہ کے وکیل نے پائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی تھی مگر سزا سے بچنے کا امکان کم تھا۔ روینہ کا وکیل بھی استغاثہ کی معاونت کر رہا تھا اور اس نے یقین دلایا تھا کہ سزا کسی صورت ختم نہیں ہوگی۔

کیونکہ روینہ رضا مراد کی بیوی تھی اس لیے اس کی دولت اور اثاثوں میں بڑا حصہ روینہ کو ملا تھا۔ اس کی دونوں بہنوں نے حصہ لیا تھا مگر اس کے بھائیوں نے حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ روینہ کو کھپتی کے علاوہ مکان بھی ملا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اسے بزنس فروخت کرنے کا مشورہ دیا مگر اس نے اسے چلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ اپنے مکان میں منتقل ہو گئی تھی اور خوش تھی کہ اب وہ ماں باپ کی مکمل دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ اپنے مستقبل کے بارے میں اس نے مزید کچھ نہیں سوچا تھا۔ شاید آنے والے دنوں میں اسے کوئی مخلص آدمی مل جاتا مگر فی الحال اس کی ساری توجہ ماں باپ اور بزنس پر تھی۔

اس کی گردن والا حصہ آسانی سے گرفت میں آ گیا۔ وہ بے قدموں اس دروازے تک آئی جس میں رضا مراد اور گلگتہ گئے تھے۔ اس نے پہلے اس کمرے کی تیز لائٹس آف کیں اور بیٹل گھمایا۔ خلاف توقع وہ آسانی سے کھل گیا۔ دوسری طرف ایسا ہی بیڈ روم تھا۔ وہاں بھی نیم تاریکی تھی اور اس نیم تاریکی میں گناہ کا پرائیوٹیل جاری تھا۔ اب روینہ کی سمجھ میں آیا کہ یہ ظاہر دیو اور سیدھے سے شہزاد کے اندر یہ گنہ کہاں سے آیا کہ اس نے استاد شاگرد کے مقدس رشتے کو پامال کرنے میں ذرا بھی حیا محسوس نہیں کی۔ یہ ان دونوں بے حیا مرد عورت کے خون کا فطری اثر تھا جو شہزاد میں آیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں دروازہ کھلنے اور روینہ کی آمد کا پتا ہی نہیں چلا۔

وہ بہت دیر تک کھڑی اندر داخل ہونے کی ہمت کرتی رہی۔ اس کے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے۔ پھر اس نے خود کو یاد دلایا کہ اگر اس نے ہمت نہیں کی تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اندر آئی اور بے قدموں بیڈ کی طرف بڑھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی نظریں اور ذہن اس منظر سے دور رہیں لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر گلگتہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ چلائی۔ رضا مراد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے روینہ نے گلدان گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ کراہا اور نیچے گرا۔ گلگتہ نے تھاماری اور اپنی ناگفتہ بہ حالت کی پروا کیے بغیر بیڈ کے دوسری طرف مڑ گئی۔ اس نے سائڈ ورائے سے ہتھول اٹھایا اور اس کا رخ روینہ کی طرف کر دیا۔ اس نے بلا جھجک ٹرگمروایا تھا مگر گولی نہیں چلی کیونکہ سیٹھی کیچ لگا ہوا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے سیٹھی کیچ ہٹایا۔ روینہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے اپنی جان بچانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ گلگتہ نے سیٹھی کیچ ہٹاتے ہوئے چلا کر کہا۔ ”کتیا.....“

اس نے کہتے ہی گولی چلا دی مگر اسی لمحے قالین سے رضا مراد اٹھ رہا تھا اور گولی اس کی پیشانی پر لگ کر پیچھے سے نکل گئی۔ اس کا خون اچھل کر روینہ پر آیا۔ خون کے چھینٹوں اور فائر کی آواز نے روینہ کو چوکا دیا اور اس نے بے ساختہ ہاتھ میں موجود گلدان گلگتہ پر دے مارا۔ ورنی گلدان اس کے ماتھے پر لگا اور وہ الٹ کر پیچھے گری اور ساکت ہو گئی۔ روینہ ہشربانی کیفیت میں باہر کی طرف لپکی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے منہ سے پیشیں نکل رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جب وہ گیٹ

READING

CC-0

PAKSOCIETY

Downloaded From
Paksociety.com

کفن بہ دوش

بے پناہ آرتھوڈوکسوں میں مبتلا دنیا کی بہادر قوم کی آلتا ک داستان

ڈاکٹر عبدالرشید

دوسرا اور آخری حصہ

کائنات کے کچھ حصوں میں زندگی کچھ اس طرح محبوس ہے کہ قدم قدم پر گویا سانسین اپنے آنے جانے کا تاوان دے رہی ہوں... جیسے مقبوضہ کشمیر جہاں زندگی اور موت کی آنکھ مجولی اور تماشاٹیوں کی بھیڑ... کون ہے جو اس الجھی گٹھی کو سلجھا سکے۔ بے شک حسن دیکھنے اور چاہے جانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے جسے پانے کے لیے ڈال مچل جاتا ہے مگر دیکھنے، چاہنے اور پانے کی خواہش میں کون اپنی حدود اور دوسرے کے سکون کی پروا کرتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کی قربانی دیتا ہے... اس کا احساس تو بس کوئی ذی شعور ہی کر سکتا ہے... لیکن اس دھکم پیل میں کوئی یہ بھی سوچتا ہے کہ جس حسن کے پیچھے یہ جنگ جاری ہے کیا وہ اس تباہ کاری سے قائم بھی رہ سکے گا اور کیا پانے کے جنون میں مبتلا لوگ جب اسے پائیں گے تو وہ اپنی اصل حالت میں بھی باقی رہے گا۔ چھینا جھپٹی کے اس کھیل میں اس سرزمین پر پیدا ہونے والوں کا بھلا کیا تصور ہے جو اپنے حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے بقا کا بہرہ ٹوٹ جانے پر قہر میں اترتے جا رہے ہیں۔ اپنی چیز کو اپنا کہنا بھی جہاں کسی بڑے جرم سے کم نہیں۔ دنیا بھر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون کی تیند سوتے ہیں اور یہاں نہ رات کا چین نہ دن کا سکون۔ قدم قدم پر قدرت کی طرف سے دولت کی ریل پیل مگر پھر بھی بھوک و افلاس گھر گھر میں براجمان... یہ عجب امتحان ہے، جانے کب اور کیسے اس خونیں کھیل کا اختتام ہوگا... اور کیا خبر کیا انجام ہو... لیکن مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں... بس اسی یقین و ایمان کے ساتھ یہ جد مسلسل جاری ہے۔

READING
Section

مارچ 2016ء

258

سپینس ڈائجسٹ

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

Downloaded From
Paksociety.com



ہوتا تھا کہ یہ دونوں مقبوضہ کشمیر میں پر امن طریقے اور رائج
الوقت قانون کے مطابق داخل ہوئے تھے۔

کیپٹن بھگوت نے ان کے کاغذات چیک کیے۔ اس
پر مزید یہ حقیقت کھلی کہ یہ دونوں بہن بھائی پاکستان کے
ایک بڑے اخباری ادارے کے مالک بھی ہیں۔ لہذا وہ دل
ہی دل میں ان دونوں بہن بھائیوں کو اپنی ”نظر“ میں رکھتے
ہوئے روایتی مکاری سے بولا۔

”ٹھیک ہے لیکن یہاں کے حالات کے مطابق آپ
دونوں کا ہم سے تعاون کرنا بھی فرض بنتا ہے۔ کسی قسم کی
مداخلت آپ کو مشکل میں بھی ڈال سکتی ہے۔“ کیپٹن بھگوت
کھٹپال یہ کہنے کے بعد شیر علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
اپنے سگ اہلکاروں سے حکمانہ انداز میں بولا۔

”اسے گرفتار کر کے ساتھ لے چلو۔“ اس کے حکم کی
تعمیل میں فوراً بھارتی اہلکار شیر علی کو گرفتار کرنے کے لیے
لپکے مگر تویر اور غزالہ فوراً شیر علی کی ڈھال بن کر اس کے
سامنے آن کھڑے ہوئے۔

”اسے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ تو بے چارہ ایک
عام سا غریب کشمیری گائڈ ہے؟ آخر اس کا قصور کیا
ہے؟“ غزالہ نے کیپٹن بھگوت کھٹپال کی طرف دیکھ کر
احتجاجاً کہا تو وہ اس کی طرف بڑی خراش نظر دوں سے
گھورتے ہوئے بولا۔

”میں ابھی تم دونوں سے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں
ہمارے کسی بھی معاملے میں تم دونوں کی دخل اندازی
برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک ریاستی اور قانونی معاملہ
ہے، ورنہ۔“ اس نے تمہیدی انداز میں دانستہ اپنا جملہ
ادھورا چھوڑا اور ساتھ ہی ایک بار پھر اپنے ساتھی اہلکاروں کو
اشارہ کیا۔ وہ دونوں ایک بار پھر حرکت میں آئے اور شیر علی
کو بوجھ لیا تو وہ چلا کر بولا۔

”مجھے تم لوگ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہو؟ کیا قصور
کیا ہے میں نے؟“

”اپنا قصور تو تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو، جیوت
بالکے اب زیادہ اداکاری مت دکھاؤ، چلو ہمارے
ساتھ۔“ ان دو میں سے ایک اہلکار نے استہزائیہ لہجے میں
کہا اور پھر یہ لوگ شیر علی کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل
گئے۔ ہوٹل کے عملے میں سے کسی نے بھی ان کے آڑے
آنے کی جرأت نہ کی تھی، لیکن تویر اور غزالہ ان لوگوں کے
کمرے سے نکلنے کے کچھ سیکنڈوں بعد کمرے سے باہر نکلے
اور ہوٹل کے گیٹ پر آگئے۔ بھارتی فوجی شیر علی کو لیے جیب

بھارتی فوجیوں کی اس ورائڈازی پر شیر علی پریشان
ضرور ہوا تھا مگر خوف کا ایک شائبہ تک اس کے چہرے پر
نہیں آیا تھا۔ اس کے برعکس وہ کیپٹن بھگوت کھٹپال کی
آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا جہاں کینہ توڑی کی
نمایاں چمک موجود تھی۔

”یہ..... یہ کیا حرکت ہے.....؟“ وقتاً کمرے کے
خاموش ماحول میں غزالہ کی آواز ابھری، اس میں ہر اس بھی
تھا اور برہمی بھی۔

اسی کے طے چلے لہجے کی عکاسی کرتی اس کے بھائی
تویر کی بھی چلتی آواز سنائی دی تھی۔

”یہ ایک غلط حرکت ہے۔ ہم احتجاج کریں گے۔ تم
لوگوں کی اس جارحانہ انداز پر.....“

کیپٹن بھگوت کھٹپال نے اب شیر علی کی طرف سے
نظر س ہٹا کر ان دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے
ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ”تم دونوں کون ہو اور یہاں کس
مقصد کے لیے آئے ہو۔ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں.....“

”تمہارا مقصد کیا ہے یہ کہنے کا کہ کون ہیں ہم.....
جانوس؟ وہشت گرد؟ بس اب تم لوگوں کو اپنا سیاہ چہرہ
چھپانے کے لیے اسی طرح کے الزامات کا جھوٹا سہارا لینا رہ
گیا ہے؟“ غزالہ جو اب کالی سنبھل چکی تھی، اس بھارتی
افسر کی بات پر تیز لہجے میں یوں۔ ساتھ ہی غیر ضروری سے
انداز میں وہ اپنے گلے میں جھولتے لاکٹ کے
”پینڈل“ کے ساتھ پھیپھڑے چھاڑ بھی کرنے لگی۔ ایسے میں تویر

نے اپنا اور اپنی بہن کا تعارف ایک پاکستانی صحافی اور سیاح
کی حیثیت سے کر دیا۔

اس پر کیپٹن بھگوت کھٹپال کی تنگ سیاہ پیشانی پر کچھ
سلو نہیں ابھرا آئیں۔ پاکستانی اور پھر صحافی کے تعارف نے
اس کی جارحانہ سوچ اور ورائڈازی کے اس وہشت گردانہ عمل
کو اگر ایک طرف ہمیز بھی کیا تھا تو دوسری طرف اسے محتاط
انداز اپنانے پر بھی مجبور کیا تھا اسے معلوم تھا کہ پاکستان کی شہ
رگ اور بھارت کی دشمنی رگ پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ دونوں صحافی
... کسی بھی وقت ان کی سیاہ کاریوں کی ”لائو“ کوریج کو دنیا کے
سامنے لا اور دکھا سکتے تھے۔ ورنہ تو وہ یہی سمجھا تھا کہ یہ دونوں
(غزالہ اور تویر) کوئی عام سے سیاح ہیں جو بھارت ہی کے
کسی شہر سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔

اگلے چند سیکنڈوں میں تویر اور غزالہ نے اپنی
کاغذی طور پر شناخت بھی کروادی۔ جس میں انٹرنل سیکورٹی
کلیمز کے خصوصی کاغذات بھی شامل تھے جس سے ظاہر

”چلو اپنے کمرے میں، ایک شے تمہیں دکھاتی ہوں اور کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ضرور ہمیں کرنا ہی چاہیے۔۔۔ آؤ۔۔۔“ وہ یہ کہہ کر چلی۔ تنویر بہن کی بات پر چونکا پھر اس کے ساتھ ہولیا۔

ہول کے کمرے میں پہنچ کر غزالہ نے اپنے گلے میں جھولتے ہوئے لاکٹ کو اتارا اور اسے کھولنے لگی تو تنویر ایک ہلکی اور مستی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ غزالہ اسے کیا دکھانا چاہ رہی تھی۔ ہولا۔

”آئی سی۔ اب سمجھا۔۔۔ تم تو مجھ سے بھی تیز نکلیں۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔“

”میں نے تو یہاں کے حالات کے مطابق داخلے کے وقت سے ہی اس کی تیاری کرنی تھی۔“ غزالہ مسکرائی۔ وہ دل کی شکل کا ”پینڈول“ کھول چکی تھی جس میں ایک مائیکرو لینس کیمرہ تھا۔ وہ اپنے اس خفیہ کمرے میں اس سازی مختصر مگر اہم کارروائی کی ویڈیو بنا چکی تھی۔ اس نے اپنا لپ ٹاپ بیگ کھولا، اندر سے اور بھی چند ڈیوائسز نکالیں، پھر تھوڑی دیر میں ہی وہ۔۔۔ یہ مختصر ویڈیو کلپ اپنے لپ ٹاپ کے ویڈیو فولڈر میں منتقل کر چکی تھی۔

”اسے شیئر کرنے کی جلدی مت کرنا ابھی۔“ تنویر، جو اس کی میز کے قریب ہی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، گہری متانت سے ہولا۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ غزالہ نے یہ دستور اپنے لپ ٹاپ پر ٹکا لیا، جمائے رکھتے ہوئے اس سے جوابا کہنا۔

”ہاں! مجھے بھی اس خطرے کا احساس ہے، جس کی طرف تم میری توجہ دلانا چاہتے ہو، کیونکہ ہمارے تعارف سے ہی وہ بھارتی کمپنن اندر سے کلنگ کیا ہوگا اور ہم پر پوری نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ اور کوئی بعید نہیں کہ اس نے ہمارے پیچھے اپنے جاسوس بھی چھوڑ دیے ہوں اور یہ کمرابھی ”بگڈ“ کرنے کی کوشش چاہے گا، اسی لیے ابھی میں اسکی کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ تم بے فکر ہو، یوں بھی ابھی میرا کام نامکمل ہے۔ میں ایسے اور کئی ویڈیو کلپس لینا چاہوں گی اور جب یہ ایک مکمل ڈاکومنٹری قسم کی فلم بن جائے گی تو ہم پاکستان لوٹنے کے بعد دنیا کے سامنے سیکور بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں گے۔“

”گڈ! تو گویا آپ اپنے جی ٹی وی چینل کے لانچ ہونے تک یہ تہلکہ خیز ویڈیو ڈاکومنٹری فلم تیار کر چکی ہوں

میں سوار ہو رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھے کو پھینچنے چلائے ہوئے ان کی طرف بڑھتے دیکھا تو بری طرح ٹکے۔

وہ بوڑھا محمد علی تھا، شیر علی کا باپ۔ وہ بے چارہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتا ہوا کمپنن بھگوت کھٹیاں کے سامنے آ گیا اور داد فریاد کرنے لگا مگر ایک فوجی نے اسے پرے دھکیل دیا اور شیر علی کو لے کر جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ روانہ ہونے لگی تو وہ بوڑھا ”ہائے۔ میرا بچہ لے گئے۔ میرے بچے کو بچاؤ“ کہتا ہوا جیپ کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ پڑا اور ایک جگہ ٹھوکر کھا کے گر پڑا۔ اریب قریب کے لوگ بوڑھے کو سنبھالنے کے لیے لپکے تو تنویر اور غزالہ بھی چونک کر اس کی طرف بڑھے۔

وہ بوڑھا اب اس طرح روئے چلائے جا رہا تھا جیسے بھارتی فوجی اس کی عمر بھر کی جمع پونجی اس سے چھین کر لے گئے ہوں۔

انٹے میں یہ دونوں بہن بھائی بھی اس کے قریب پہنچ گئے اور تنویر نے ان سے پوچھا۔ ”بابا! کیا یہ واقعی تمہارا بیٹا تھا؟“ محمد علی نے اپنی بوڑھی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے روہانے لہجے میں جواب دیا۔

”ہاں! یہ مجھ بدل نصیب کا ہی تخت بکر تھا۔ وہ عالم اب نہ جانے اس کا کیا حشر کریں گے۔ میں لٹ گیا لوگو! برباد ہو گیا میں۔ سمجھایا بھی تھا باہر مت نکلتا، حالات صحیح نہیں۔ آہ۔ اب کیا کروں میں۔“ محمد علی کو آہ و زاریاں کرتے ہوئے غص آ گیا اور وہ وہیں گر پڑا۔ اس غریب بوڑھے کشمیری کی حالت زار دیکھ کر تنویر کے پورے وجود میں کرب کی لہری دوڑ گئی۔ اس کے قریب کھڑی غزالہ کے چہرے پر بھی دکھ کے آثار اڑ آئے تھے۔ باقی لوگ بوڑھے کو سنبھالنے لگے۔

تنویر کے اندر کھد بادی ہونے لگی، اس نے سوچا آخر پتا تو چلے شیر علی کو کس جرم میں بھارتی فوجی اس طرح اٹھا کر لے گئے تھے؟ جب اسے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ پھر تنویر غزالہ کو ساتھ لیے کرے میں آ گیا اور ہولا۔

”ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔“ غزالہ نے کہتے ہوئے اپنے ہونٹ میٹھیے تو تنویر ہولا۔

”ہم بھلا کیا بد کر سکتے تھے اس غریب کی۔ تم نے اس بھارتی کمپنن کا لہجہ محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ ہم سے بھی کس قدر خار کھائے ہوئے تھا۔۔۔ اس کا بس چلنا تو وہ ہمیں بھی گرفتار کر کے ساتھ لے جاتا۔“ بھائی کی بات پر وہ کچھ

گی۔" تنویر اس کے ٹیک عزائم جان کر تو صغی لہجے میں بولا اور تب تک غزالہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔

☆☆☆

شیر علی کی بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر جھگ کی آگ کی طرح پوری داوی میں پھیل گئی اور اس کے گھر سے لے کر عبدالرحمان کے گھر اور گل نور کے کانوں تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس کا چاچا گھر پر نہیں تھا، وہ خود اس وقت اپنی چاچی کے ہمراہ رات کے کھانے کی تیاری میں ان کا ہاتھ بنا رہی تھی کہ یہ اطلاع کسی پڑوس کی خاتون نے دی اور پھر گل نور پریشان ہو گئی۔ اس کی چاچی کی لگا ہوں سے اس کی "پریشانی" سمجھی نہ رہ سکی تھی۔ تب اس نے کہا۔

"نور بیٹی! میرا برقع نکال، ابھی عاتشہ بہن کے پاس جا کر خیر خیر لے آتے ہیں۔" وہ جیسے اسی بات کی نظر تھی، فوراً اندر کمرے کی طرف ہلکی اور اپنا پیشینہ سنبھالنے کے بعد چاچی کا برقع بھی لے آئی۔

عاتشہ خاتون کا گھر ایک دو گھر چھوڑ کے برابر ہی تھا۔ وہاں اور بھی محلے کی عورتیں پریشان حال ماں بیٹیوں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ بھی سمجھیں تو شیر علی کی بہن زینو جو گل نور کی سہیلی اور "راز دار" بھی تھی، اسے دیکھ کر روتے ہوئے اس کے ساتھ پست گئی اور اسی لہجے میں بولی۔

"نن..... نور اداہ..... وہ ظالم، میرے شیر جیسے بھائی کو اٹھا کر لے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ بھارتی غنڈہ افواجی بہت ظالم ہیں۔ وہ..... وہ..... اس کی ہچکیاں بندھ گئیں اور فریاد غم کے باعث وہ اپنا جملہ بھی پورا نہ کر سکی۔ خود گل نور کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور تشویش سے چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ تو خود تسلی کے لیے آئی تھی، اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔

"زینو! اللہ سے دعا مانگو۔ وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ خدا یا شیر علی کو اپنی امان میں رکھنا۔"

وہ خود بھی آخر میں دعا یہ بولی تو زینو نے اس سے پوچھا۔ "چاچا رحمان کہاں ہیں نور..... انہیں خبر ہے؟"

"وہ گھر پہ نہیں تھے، لیکن تم فکر نہ کرو وہ جہاں بھی ہوں گے اتنی اہم خبر ان سے چھپی نہیں رہی ہوگی اور جیسے ہی انہیں پتا چلے گا وہ شیر علی کو ان ظالم بھارتیوں سے چھڑانے کی پوری کوشش کریں گے۔" گل نور نے تسلی دینی چاہی مگر خود اس کا اپنا دل طرح طرح کے دوسوں اور خدشات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔

گل نور کا بھی عجب قصہ تھا۔ ان دونوں نے

کبھی سامنا ہونے پر بھی ایک دوسرے سے اظہار محبت نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کی ضرورت سمجھی تھی یا محسوس کی تھی۔ وہ دونوں اسی طرح تو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جوان ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کر ان کی محبت پر دان چڑھی تھی اور اس کا اظہار وہ ویڈیو پر شوق تھی، جو ایک دوسرے کی ہر وقت بے چینی سے راہ لگتی رہتی تھی۔ پھر جب اپنائیت کی ان بڑھتی ہوئی معصوم منزلوں نے جوانی کی بہار دیکھی تو تب تک آپوں آپ دونوں نے کچا ہو کر باہم ایک پاکیزہ محبت کا سیب بنا لیا تھا..... یوں بچپن سے لڑکپن اور پھر نوجوانی تک یہ سیب بحر الفت کی تہ میں اظہار کی اس وصل شب کی پیاس سہہ رہا تھا، جس طرح ایک سیب برسوں سمندر کی تہ میں رہنے کے باوجود پیاس سہتا ہے اور تب ہی تو اسے سچا موتی نصیب ہوتا ہے۔ دونوں کی پیاس آنکھوں نے اور بے چین دلوں کی تڑپ نے باور کروا دیا تھا کہ ان کی محبت محتاج اظہار نہیں رہی ہے۔ تو پھر بند خول کی اس سفید و شفاف محبت کی سیب پر وارخ کیوں لگایا جائے؟

شیر علی سے متعلق اس بری خبر نے گل نور کو تاتا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت خود دروالم کی گھنٹری بنی ہوئی تھی، جس نے اپنے غم کا بوجھ خود ہی اٹھا رکھا تھا اور اب دوسروں کے درد کا درماں بنی یہاں موجود تھی۔ اس کی باتوں سے شیر علی کی لاڈلی بہن زینو کو تسلی تو ہوئی تھی مگر وہ بار بار چاچا رحمان کا ذکر کرتے ہوئے اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ داوی میں ایک معتبر حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا مقام ایک بہادر اور جرمی کشمیری کمانڈر کا تھا۔ انہیں بھائی شیر علی کی بے خیریت رہائی کے لیے اقدامات اٹھانے چاہئیں اور یہی گل نور اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھا رہی تھی کہ وہ اب تک اس مقصد میں مصروف کار ہو چکے ہوں گے اور بہت جلد انہیں اچھی خبر سننے کو ملے گی۔

کمانڈر عبدالرحمان کو شیر علی کی گرفتاری کی جب خبر ملی تو وہ اس وقت اپنے چند سرفروش مجاہدوں کے ساتھ بارہ مولا کے ایک خفیہ ٹھکانے میں موجود تھے۔ یہ اطلاع پاتے ہی وہ پریشان اور تشویش زدہ ہو گئے۔ ان کے قریب بیٹھے مجاہدان کے حکم کے منتظر تھے۔

"ہمیں فوراً داوی میں ہڑتال کروانا ہوگی اور نوہانا چوک کی طرف سب کشمیری بھائیوں کو اکٹھا کرنا۔" ہوگا۔" نائب کمانڈر شجاع احمد نے مشورہ دینے کے انداز میں ان سے کہا تو وہ انکار میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولے۔

"نہیں، ان ہڑتالوں سے ہمارے غریب کشمیری بھائیوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہڑتال کے ساتھ ہی

اپنے ہر دلخیز کمانڈر کے یوں کہنے پر جیسے شجاع کی مراد برآئی، وہ بہ یک ترنت بولا۔

”محترم اشیر علی والا معاملہ اپنی جگہ مگر موتی بھون والی مہم بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا بھی ضروری ہے، ورنہ ان بھارتی غاصبوں کی... دو انداز ہی بڑھتی جائے گی۔ اصحت ناگ اور پارہ مولا میں اس خبیث کرنل ستیوارام نے فریب اور نیپے کشمیری بھائیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس کے دست راست کیپٹن بھگوت کھنپال نے ہماری غیرت اور عزت نفس کو خاص طور پر نشانہ بنا رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اشیر علی والا معاملہ سنبھال لیں اور مجھے ایک الگ گروپ کی کمانڈر اینڈ کنٹرول تفویض کر دیں۔ میں سب سے پہلے اپنے گروپ کے چند ساتھیوں کی مدد سے موتی بھون والی مہم کو سر کرنا چاہتا ہوں۔“ شجاع نے اپنی بات ختم کی تو کمانڈر عبدالرحمان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ عمو کر آئی۔ ان کی نظروں میں شجاع کی وہی اہمیت تھی جو اب اشیر علی کے سلسلے میں ان کی نگاہ انتخاب میں آنے والی تھی۔

شجاع ایک ستائیس اشٹائیس سالہ پُر جوش اور بہادر نوجوان تھا۔ یہ اصحت ناگ کا رہنے والا تھا اور کشمیری مجاہدوں کے اس گروپ میں شامل ہوئے اسے کچھ زیادہ طویل عرصہ بھی نہیں ہوا تھا مگر گروپ میں شمولیت اختیار کرتے ہی اس نے خصوصی تربیت کے بعد ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے کہ اسے مجاہدین کے... جیلدر جان گروپ کا نائب بنا دیا گیا تھا۔

مضبوط تن و توش جسامت کا مالک شجاع فطرتاً ایک... جوھیلا اور اپنے کار پر جان لڑا دینے والا ایک جبری نوجوان تھا۔ اپنی مادر گیتی کے سینے پر غاصب بھارتیوں کے ناپاک قدم پر جہاں دیگر کشمیریوں کے دل شعلہ جوالا بنے ہوئے تھے، ان میں شجاع بھی پیش پیش تھا لیکن اس نے اپنی عملی مجاہدانہ زندگی کا آغاز اس وقت کیا تھا جب ایک ہندو میجر چندر گپتا نے اپنے شیطانی ٹولے سمیت اس کے گھر پر ہانا بولا تھا اور اس کے ماں باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی بھابی اور جوان بہن کی عصمت بھی تار تار کرنے کے بعد میجر چندر گپتا اور اس کے شیطانی ٹولے نے اس کے گھر کو بھی آگ لگا دی تھی جس میں سوائے اس کے سب شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا پھر کاتب تقدیر نے رفیق صفت میجر چندر گپتا کی موت اس کے ہاتھوں لکھی تھی کہ شجاع زندہ بچ گیا تھا مگر زخمی حالت

بھارتی فوجیوں کو وادی میں کرفیو نافذ کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اس طرح صورت حال برعکس ہو جاتی ہے۔“

”تو پھر محترم اب کیا کیا جائے؟ اس نئے مسئلے کی وجہ سے ہماری موتی بھون والی مہم التوا کا شکار بن رہی ہے۔“ شجاع نے کہا۔ اس کے لہجے سے ایک جوش آمیزی فکیر مترشح ہوتی۔

درحقیقت امیراں کدل ملی پر واقع بھارتی فوجیوں کی ایک عارضی چھاؤنی ”موتی بھون“ کو تباہ کرنے اور بھارتی ورنہ صفت کرنل ستیوارام ڈوڈیہا کو جہنم واصل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ مجاہدین نے دو ”ایکشن پلان“ بھی مرتب کیے تھے لیکن بعض اہم ستم کی وجہ سے کمانڈر عبدالرحمان نے انہیں رو کر دیا تھا۔ اب انہوں نے ایک تیسرا پلان بنایا تھا تو وہ بھی رو کیا جا چکا تھا کہ اشیر علی والا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا۔

کمانڈر عبدالرحمان نے اپنے نائب کی بات پر غور کرنے کے انداز میں اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور اپنی بارش پہ ایک ذرا ہاتھ پھیر کر بولے۔

”موتی بھون والی مہم سے زیادہ اہم معاملہ اشیر علی کا ہے۔ شجاع اشیر علی کو شاید تم نہیں جان سکتے، جتنا کہ میں اسے جاننے لگا ہوں۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں جس روز سے آزادی کی شمع کو ایک دلو لے کے ساتھ فردزاں دیکھا ہے، اس دن سے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہوں۔ اشیر علی جیسے مجاہد، اس سرفروش مجاہدین کے برابر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اشیر علی کے معاملے پر توجہ دینی ہوگی۔“

کمانڈر عبدالرحمان کی بات پر نائب شجاع نے اپنے سر کو پورے احترام کے ساتھ تھکی جیش دی تھی، تاہم عبدالرحمان کی گھاگ نظروں نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی بے چینی کو صاف طور پر محسوس کر لیا تھا۔ کمانڈر عبدالرحمان اپنے ساتھیوں پر اپنی مرضی تمہونے کے قائل تھے نہ ہی اپنا حکم مسلط کرنے کے عادی۔ وہ اپنے سارے کمانڈرز ساتھیوں کی ”یک رائے“ جاننے کے بعد اسی روشنی میں اپنا حتمی فیصلہ سناتے تھے، اسی لیے ان کا وہی فیصلہ آخری سمجھا جاتا تھا۔

بہر طور انہوں نے شجاع کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ملاحظت آمیزی سے پوچھا۔

”یاد رہے شجاع تم شاید کچھ کہنا چاہتے تھے؟“

میں اس نے پورا ایک ماہ بستر پر گزارا تھا اور کیسے ایک جگہ پڑے رہ کر اس نے ایک صدی جیسا مہینا گزارا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ درنہ تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی میجر چندر گپتا کو اصل جہنم کر ڈالا۔

ایک ماہ جیسے عجیبے گزارنے کے بعد اس نے مجاہدین کے مذکورہ گروپ میں شرکت کی اور خصوصی تربیت لینے کے بعد اس نے اپنے سینے کی آتش انتقام سرد کرنے کے لیے اس درندہ صفت بھارتی میجر چندر گپتا اور اس کے ٹولے کی سرکوبی کے لیے زبردان نامی سلسلہ کوہ کے دامن میں واقع میجر چندر گپتا کے ٹھکانے پر گوریلا حملہ کر کے اسے جہنم رسید کر ڈالا۔

اس شیطان صفت بھارتی میجر کے قتل کے گھاٹ اترتے ہی اہت ناگ اور بارہ مولا کے مسلم کشمیریوں نے سکھ کا سانس لیا تھا مگر اب کچھ عرصے سے ابھی ایک اور بھارتی شیطانی ٹولے کرنل ستیا رام اور اس کے دست راست، جو اپنی فطرت میں میجر چندر گپتا سے بھی دو ہاتھ آگے تھے نے بارہ مولا اور اہت ناگ سمیت سری نگر میں ایک عرصے سے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔

بہر طور کمانڈر عبدالرحمان نے شجاع کی یہ تجویز قبول کرتے ہوئے اسے موتی بھون والی مہم کا سرخیل بناتے ہوئے اپنی صوابدید پر اسے پایڈ تکمیل تک پہنچانے کی اجازت دے ڈالی۔ شجاع کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں ایسی ہی چمک ابھری تھی جیسی کسی عقاب کو بلندی سے نیچے اپنا کوئی شکار دکھائی دے جائے۔

☆☆☆

جیب بڑی تیزی کے ساتھ فرارے بھرتی اپنے عقب میں دھول اڑاتی، امیراں کدل ہل والے راستے پر دوڑی جا رہی تھی۔

ہوٹل سے شیر علی کو گرفتار کرنے کے بعد روانہ ہوتے ہی کیپٹن بھگوت کھٹیاں نے اپنے مخبر جسونت تھاری سے رابطہ کیا تھا اور اسے مذکورہ ہوٹل میں مقیم دونوں پاکستانی صحافی بہن بھائی پر نظر رکھنے کی ہدایت دے دی تھی۔ ساتھ ہی اسے تاکید کی تھی کہ ان کی کسی بھی مشکوک حرکت پر بلا تاخیر متعلقہ تھانے کے انچارج انسپٹر چندر لال کو فوراً اس کی اطلاع کرے۔ اس سلسلے میں کیپٹن بھگوت کھٹیاں نے پہلے ہی سے انسپٹر چندر لال کو ”بریف“ کر رکھا تھا..... وہ ”میکلوک“ حرکت کیا ہو سکتی تھی، اس کا مخبر جسونت کو بہ خوبی

شیر علی کے کانوں تک بھی یہ ”ہدایت“ پہنچی تھی مگر بھگوت کو اس کی پردانہ تھی۔ اسے شاید اپنی طاقت کا کچھ زیادہ ہی زعم تھا کہ اب ان کا ہتکار (شیر علی) بھلا ان کے کتنے سے کہاں بچ کر جا سکتا ہے؟ تاہم شیر علی ان دونوں بہن بھائیوں کی طرف سے فکر مند سا ہو گیا۔ خود اسے اپنی سے زیادہ گھردالوں اور بالخصوص گل نور کی بھی فکر تار ہی تھی کہ جب ان سب کو اس کی بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتاری کا پتا چلے گا تو ان بے چاروں پہ کیا گزرے گی۔ اسے اپنے بوڑھے باپ کی آہ وزاری پر بھی دکھ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کی رہائی کے لیے اس مردود کیپٹن بھگوت کے آگے ہاتھ جوڑ کر نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہ جانے کس طرح اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آن نکلا تھا۔

ایک موٹر گاڑنے کے بعد جیب نے اپنا راستہ بدل دیا اور کلعہ موتی بھون کے کھنڈرات والے علاقے میں داخل ہو گئی۔ لگ بھگ کوئی چھ سات کلومیٹر کے بعد جیب، اس عارضی چھاؤنی کے بڑے سے پھانگ کے اندر داخل ہو رہی تھی جہاں قلعے کے اندر بڑی بڑی کئی چھوٹا دریاں بنی ہوئی تھیں۔

جیب انہی میں سے ایک نسبتاً بڑی چھوٹا دریا کے سامنے ایک جھنگلے سے جا کر کیپٹن بھگوت کھٹیاں سمیت دیگر فوجی کد کڑے مار کر نیچے اتر آئے۔ شیر علی کو بھی دو فوجیوں نے دیوچ کر نیچے اتار لیا اور اسے لیے چھوٹا دریا کی طرف بڑھے۔

شیر علی اندر سے پریشان ضرور تھا مگر ہر اسان نہیں تھا۔ وہ یہاں پہلی بار لایا گیا تھا مگر اس نے یہاں آتے وقت بھی اپنے حواسوں پر قابو پائے رکھا تھا اور اب دزویدہ نظروں سے اطراف کا بھی جائزہ لیتا جا رہا تھا۔

اندر کرنل ستیا رام فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ شیر علی کو کیپٹن بھگوت نے اس کے روبرو پیش کر دیا۔ اس کے مگردہ چہرے اور بد ہیئت سیاہ ہونٹوں پر بڑی قاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ اسی نظروں سے اپنے گرد گھنٹال کرنل ستیا رام کی طرف دیکھتا جا رہا تھا کہ ایسے میں ستیا رام نے فون پر اپنی گفتگو کا سلسلہ موقوف کر کے ریسیور قریب کھڑے ایک دردی پوش اہلکار کی طرف بڑھا دیا اور چند قدم چلتا ہوا شیر علی کے قریب آن کھڑا ہوا۔

چند ثانیے وہ چھدی چھدی مکارانہ نظروں سے شیر علی کے چہرے کو بہ غور گھورتا رہا، اس کے بعد جھنگلے دار لہجے میں اس کا نام پوچھا۔

READING
Section

”کیا نام ہے رے تیرا؟“

”شیر علی۔“

”ہم۔ نام تو تیرا بڑا جیوٹ ہے رے، دکھتا بھی ایک دم دھا کڑ ہے، پر ن تو کیا ہے کہ اپنے مزاج میں آنکھ داوکی تعریف کرنا چھتا نہیں۔ بس! اس سے بڑھ کر ہم تمہاری تعریف نہیں کریں گے۔“ کرنل ستی رام جیسے شیر علی کی بے بسی اور قید و بند جیسی کیفیات سے حفا اٹھاتے ہوئے بولا اور پھر ایکا ایک اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سفاکی میں بدل گئی اور وہ کسی باڈے کے کی طرح اپنے دانت نکوستے ہوئے، خراہٹ سے مشابہ آواز میں اس سے دوبارہ مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔

”کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ تو نے ہی لگایا تھا نا؟“

”ہاں۔“ شیر علی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں

ڈالتے ہوئے جم کر کہا۔

”سزا جاتا ہے اس نعرے کی تو؟“ کرنل ستی رام

کے لہجے میں تہدید کی ایسی سنسنی خیزی تھی جو رگوں میں دوڑتے لہو کو بھی خمند کر دے مگر شیر علی بے تاثر لہجے میں بولا۔

”نہیں۔“

”اچھا لگا رے تیرا جواب۔ نہیں ں ں.....“

کرنل ستی رام نے ”نہیں“ کے نون غنہ کو ذرا طویل کھینچا۔

”چلو بتائے دیتے ہیں۔“ یہ کہتے ہوئے کرنل ستی رام۔

یہ ظاہر پیچھے کی طرف مڑا۔ لگا ایسا ہی تھا کہ وہ اپنی جگہ کی طرف

بڑھے گا مگر اچانک ہی وہ وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ پلٹا

اور شیر علی کا گریبان پکڑ کر ایک جھکے سے اس کا چہرہ اپنے

مکروہ چہرے کے قریب کر لیا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔

”پاکستان کا نام لینے والے کو بھی ہم زندہ جلا دیا کرتے

ہیں اور یہ معاملہ تو پھر کشمیر کا ہے۔ بول اب کیا کہتا ہے؟

چکائے گا اس نعرے کی قیمت اپنی چتا پر ملی دے کر؟“

”میں جو اپنے بڑوں کی رہائی سنا آیا تھا، وہی بول

بھی دیا۔ کیا اس طرح نعرہ لگا دینے سے کشمیر پاکستان بن

جائے گا؟ کیا تم لوگ پاکستان سے اتنے ہی خوف زدہ رہتے

ہو؟“ شیر علی نے یہ ظاہر سیاٹ لہجے میں جواب دیا مگر اندر

اس کے ایک آگ سی بھڑکنے لگی تھی اور اس کا بس نہیں چل

رہا تھا کہ وہ اس غاصب کرنل کا گلا دیوچ ڈالے مگر وہ مصلحتاً

درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے تھا، کیونکہ وہ ایک ذلیل کتے

کے ہاتھ سے نام موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ان کے خلاف کچھ

کے ہاتھ سے نام موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ان کے خلاف کچھ

گلے لگانے میں اسے مطلق افسوس نہ ہوتا

لیکن باوجود اس کے اس نے آخر میں اسے پاکستان سے روایتی خوف لگے رہنے کا طعنہ بھی ضرور دے دیا تھا، جس پر کرنل ستی رام قدرے چونک کر اس کا چہرہ کچھ غور سے تکتے لگا۔ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر ایک نامعلوم سی الجھن خیر گئی۔ اس کی اپنی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ شیر علی نے حضور استہزائیہ کا یہ جوتا جو اس کے منہ پر مارا تھا، وہ واقعی ایسا ہی تھا یا پھر اس نے رواروی میں ایسا کہہ دیا تھا؟ تاہم وہ اس کی اول الذکرات ”میں جو اپنے بڑوں کی رہائی سنا آیا تھا وہی بول بھی دیا، کیا اس طرح نعرہ لگا دینے سے کشمیر پاکستان بن جائے گا؟“ پر اس نے اپنے سینے یہ اندازہ لگانے کی ضرور سعی چاہی تھی کہ وہ اسے جو سمجھ رہا تھا، شاید ایسا تھا نہیں۔ یا پھر اٹھارہ انیس سالہ یہ بلا مگر مضبوط کاغذی کا بالکا سے ڈانچ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔

اس نے ایک اور زور دار جھکے سے اس کا گریبان

چھوڑ بھی دیا اور نتیجے میں شیر علی چند قدم دانستہ پیچھے کو لڑکھڑاتا

چلا گیا اور پھر کرنل ستی رام اور اس کا دست راست کپٹن

بھگوت کھنپال کو شائبہ جو کتنے کاموں بھی دیر سے ملا تھا کہ

چند قدم دانستہ ذرا پیچھے تک لڑکھڑاتے ہوئے شیر علی نے یک

دم پلٹا کھایا اور چھو لہاری سے باہر کودوڑ لگا دی۔

چھو لہاری کے باہر سردیوں کی شام بھی جھکنے لگی تھی

اور ہر سوراٹ کا گماں ہوتا تھا۔ اسی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے

ہوئے شیر علی نے چھو لہاری سے باہر نکلنے ہی ایک طرف کو

ووڑ لگا دی تھی۔ عارضی ٹھکانے کا یہ محل وقوع ایسا ہی تھا جیسے

جگہ جگہ ”کیسپنگ“ کی گئی ہو۔ لہذا اس نے فرار ہوتے وقت

ایک مختل مندی یہ ضرور کی تھی کہ کھلے کی طرف، جہاں کچھ گن

بردار فوجی کھڑے تھے۔۔۔۔۔ رخ کرنے کے بجائے، ان

کیپوں کے درمیان بننے خلا میں داخل ہو گیا تھا جو ایک

طرح سے بھول بھلیوں کا منظر پیش کرتے تھے۔

اندر کرنل ستی رام اور کپٹن بھگوت کھنپال ایک

دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ شیر علی کی یہ درانداز حرکت ان

بھارتی ”بھادری چکروں“ کے لیے لفظی غیر متوقع تھی۔

”پکڑو اسے۔ وہ ہاتھ بھر کالونڈا ہمیں نرت بھاؤ دکھا

گیا۔“ کرنل ستی رام حلق کے بل چلا یا اور تب ہی جیسے کپٹن

بھگوت کھنپال کو بھی ہوش آیا۔ وہ ”پکڑو پکڑو۔ جانے نہ

پائے“ کا شور مچاتا ہوا باہر کودوڑا۔

ادھر شیر علی بھی ایک چملاوا ثابت ہوا۔ بھرپور جسمانی

قوت کے ساتھ اس کا ذہن بھی دوڑ رہا تھا۔ جب تک دیگر فوجی

اس کے تعاقب میں لپکے وہ موتی بھون کے برسوں پرانے

کھنڈرات کی اسرار بھری تاریکیوں میں مدغم ہو چکا تھا۔
اس کی ڈھنڈیا پڑ چکی تھی اور خاصا شور مچ گیا تھا، جس میں کبھی کبھار ہلکی ساخت کی مشین گن کے برسٹ چلنے کی خوفناک آواز بھی شامل ہو جاتی تھی۔ یہ فائرنگ اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کی گئی تھی مگر شیر علی گیا، اس جیسے نہ جانے کتنے ہی کشمیری نوجوان ایسی فائرنگ اور گولیوں کی چھاؤں میں پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے، بھلا انہیں یہ "پٹانے" کیا خوف زدہ کرتے؟

شیر علی یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ موتی بھون کے اس پرانے اور خوبیدہ کھنڈرات میں وہ ایسے خفیہ راستے کی طرف بڑھا، جو.... امیراں پل کے بالکل قریب ہی نکلتا تھا۔ اگرچہ وہاں سے نکلتا بھی آسان نہ تھا، کیونکہ اس طرف بھی پہرا ہوتا تھا مگر اس کے لیے وہاں سے نکلتا مشکل ضرور تھا ناممکن نہیں۔

امتداد زمانہ کی عکاسی کرتے اس قلعے کا رقبہ خاصا وسیع تھا۔ بدلتے وقتوں اور جغرافیائی تغیر و تبدل نے اس کی سطح مرتفع پر بھی اثر ڈالا تھا جس کے باعث اس کی زمین کہیں کہیں سے ڈھلانی ہو گئی تھی۔

وہ چھپتا چھپا تا کھنڈرات کے بید ترین گوشے کی طرف نکل آیا۔ یہاں ڈیوڑھی سی بنی ہوئی تھی، اوپر تھوڑا کھلا آسمان نظر آتا تھا جو روشن اور چمک دار تھا، اسی کی روشنی میں اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے کھنڈرات کے سین زدہ سگی اور خالی چوکھٹوں کے خلا اسے گھورتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر سو تاریک ستارے کا راج تھا۔ معافی عقب سے دو تین تلے اوپر فائر ہوئے، قلعے کے متروک دروہام کافی ویر تک اس کی آہنی آوازوں میں چیخے رہے۔ اس نے فوراً حرکت کی اور جلد ہی سینے کے تل پر آ گیا اور اسی طرح تیزی سے ریگلتا ہوا وہ اپنی مطلوبہ سمت کی طرف نکل آیا، جہاں ایک ڈھلان تھی جو خاصی عمودی تھی۔ ایک خاص بڑک سے اسے عبور کرنا شیر علی کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور خود کو ڈھلان پر چھوڑ دیا۔

شیر علی نے اس بات کا خیال ضرور رکھا تھا کہ ڈھلان سے رگڑ کھاتے ہوئے اس کے جسم سے اس کا سر ذرا اوپر کو اٹھا رہے۔ اس ڈھلان کا اختتام اس دریا کے کراڑے پر ہوتا تھا، جس پر امیراں کدل ملی بنا ہوا تھا۔ وہاں تک پہنچتے ہی وہ چھٹانے کے لیے چپے کی طرح دبکا کر دوپیش کی سن گن لپٹا رہا۔

وہی تھیں، اس نے قدرے اطمینان سے اپنے سر کو اٹھاتے میں جنبش دی۔ وہ پہرے دار چوکیوں سے کافی دور تھا۔ اسی وقت وہ بری طرح ٹھنکا۔ اچانک ایک پٹانے جیسا دھماکا ہوا تھا اور اس کی ٹھنکی ہوئی نظروں نے دیکھا کہ ایک تیزی شعاع دار لکیر تار یک آسمان کی طرف لپکی اور مخصوص بلندی پر پہنچ کر منتشر ہو گئی۔ یہ فلش بم تھا۔ اس نے دور و نزدیک روشنی سی پھیلا دی تھی۔ حتیٰ کہ خود شیر علی بھی روشنی میں نہا گیا۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا، ٹھیک اسی وقت یکے بعد دیگرے دو تین فائر ہوئے۔ چونکہ اس کی طرف اسٹائپر گن سے فائر کیا گیا تھا۔ ایک گولی اس کے قدموں سے ٹھنچ چنڈٹ کے فاصلے پر زمین میں جھست ہوئی تھی اور دوسری اس کے دائیں طرف جھاڑیوں میں جا دھنسی تھی، جبکہ تیسری گولی تو بالکل اس کی کتھنی کے قریب سے شاخیں کرتی گزری تھی جس کی سنسناتی ہوئی "جھپک" اسے اپنے چہرے پہ صاف محسوس ہوئی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بال بچا تھا۔ بس یہی وہ موقع تھا جس سے شیر علی نے فوراً فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو جھاڑیوں میں گرایا۔

وہ سمجھ گیا تھا کہ اس فلش بم کی روشنی میں، بہت دور واقع چوکی کی طرف سے اس پر اسٹائپر گن سے فائر کیا گیا تھا۔ روشنی اب سمجھ گئی تھی۔ وہ تیزی سے جھاڑیوں میں کرائنگ کرتا ہوا دریا کے کراڑے کی آڑ لیتا ایک پہاڑی ڈھلان کی طرف نکل آیا۔ یہاں پہنچ کر وہ ذرا سستانے کے لیے رکا۔ اس کی سانس پھوٹی ہوئی تھی مگر بھارتی فوجیوں کے نرنے سے اس طرح سچ نکل جانے پر وہ ان کی ٹھکست سے خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔

تھوڑا اور آگے جا کر اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اسی جوش و خروش سے اس کے اندر ایک طاقت اور قوت ارادی کو ایسی تحریک دی تھی کہ پھر وہ نہیں رکا اور تیرتا چلا گیا، یہاں تک کہ دوسرے کنارے پر ہی جا کر دم لیا۔ یہاں سے اس کے گھر کا راستہ آسان اور قریب تھا۔ وہ تھوڑا سستانے کے بعد اٹھا اور ایک نظر پیچھے ڈالنے کے بعد آگے بڑھ گیا۔

گھر پہنچ کر اس کا ارادہ ان دونوں پاکستانی صحافی بہن بھائیوں سے ملنے کا تھا، وہ ان سے مل کر بھارتی فوجیوں کے خبر جو سنت تھوڑی کے بارے میں بھی بتانا چاہتا تھا اور اس سے ہوشیار رہنے کی تلقین بھی کرتا۔

اس کے اطراف میں گہری خاموشی اور ویرانی کا راج تھا۔ دور ڈل جھیل کی طرف سے روشنیوں کی قد بلیں سی

اور وہاں سے کچھ ٹھنکی روشنیاں دکھائی

جلتی نظر آتی تھیں۔ وہ یہاں بھی محتاط روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور بالآخر جب پہررات کی خاموشی میں اپنے گھر پہنچا تو وہاں ایک خون کے آنسو رلا دینے والا سانحہ رونما ہو چکا تھا۔

☆☆☆

کیپٹن بھگوت کھنپال کی حالت پاگل جنونیوں جیسی ہو رہی تھی۔ شیر علی جس طرح ان کی ناک کے نیچے سے نکل جانے میں کامیاب ہوا تھا، اس کا دل و دماغ یہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہو پارہا تھا۔ جب وہ اس کی تلاش میں ناکام ہو کر واپس منہ لٹکائے اپنے افسر کرنل ستیوارام کے روبرو ہوا، تو اس کے ناکام لوٹنے پر وہ بھی چراغ پا ہو گیا۔

”کون تھا یہ؟ جن یا چھلا دا؟ مجھے دشواری نہیں ہو رہی کہ وہ ہاتھ بھر کا لونڈا اس طرح ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل بھاگا اور ہم... ہاتھ ملتے رہ گئے۔“ کرنل ستیوارام کی حالت اپنے بال نوچنے جیسی ہو رہی تھی۔ اس پر بھگوت بولا۔

”سر! آپ چٹانہ کریں۔ میں ابھی اس کے گھر پر ہلا بول دوں گا اور اسے بھی اس کے گھر والوں سمیت زندہ جلا ڈالوں گا۔“ اس کے لہجے میں سفاکی تھی۔

”وہاں تم ایسا کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔“ کرنل ستیوارام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ”وہاں کشمیری راہنما کمانڈر عبدالرحمان کا بھی گھر ہے۔ اس سے دادی میں کشیدگی بڑھ جائے گی اور عالمی منظر نامے پر ہماری ساکھ پہلے ہی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور والدوں کی طرف سے اس سلسلے میں سخت احکامات ہیں کہ جو کرو اس کا جواز پہلے پیدا کرو، خواہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔“ اپنے افسر کی بات پر کیپٹن بھگوت کھنپال نے کہا۔

”سر! جواز گھڑنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ ہم.....“

”اب مشکل ہو گیا ہے یہ کیپٹن کھنپال!“ ستیوارام نے ایک بار پھر اپنے ماتحت افسر کی بات کاٹی۔ وہ خاصا جھلایا ہوا تھا۔ بولا۔ ”عالمی منظر نامے میں ہمارے اس لٹکڑے لو لے جواز کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ عالمی سطح پر کشمیریوں کی یہ جنگ اپنا اثر دکھانے لگی ہے۔ ہم جتنا اس معاملے سے چشم پوشی کر رہے ہیں، اتنا ہی یہ معاملہ عالمی سطح پر ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔“

”سر! اس کا علاج بھی پھر یہی ہے کہ ہم اپنی پرانی یعنی دادی کے ہر اس کشمیری کو

بہروں تلے کچل ڈالیں جو کشمیر اور پاکستان کی بات کرتا ہو۔“ کیپٹن کھنپال نے زہر خند لہجے میں کہا تو ستیوارام بولا۔

”ہاں! ہونا تو اب یہی چاہیے لیکن کب تک؟ ہم جتنا ان لوگوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کرتے ہیں اتنا ہی ان کا جذبہ جرات اور حریت و آزادی بلند ہونے لگتا ہے، بہت کمال کا حوصلہ ہے ان سلسلے کشمیریوں میں بھی، اس قدر جبر و ظلم برداشت کرتے ہیں، مگر اپنی بات سے اپنے کا ز اور مقصد سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ خیر۔“

کرنل ستیوارام اتنا کہہ کر ذرا رک کا پھر بولا۔ ”کشمیریوں کا بچہ بچہ ہم سے نفرت کرنے لگا ہے اور عام کشمیری نوجوانوں کے دلوں میں تو آزادی اور حق خود ارادیت کا جنون سوار ہے، حالانکہ ان کا شمار آنگک دادیوں (مجاہدین) میں بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت جلد یہ لوگ مختلف کشمیری گروہوں میں شمولیت اختیار کر کے ان آنگک دادیوں کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ میں شیر علی کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے ایسے نوجوانوں کو سب سے پہلے کچلنا چاہیے مگر ابھی تم پہلے کمانڈر عبدالرحمان پر ہاتھ ڈالو۔ میں کل سے ہی نقص امن اور نوجوان طبقے کو ہمارے خلاف درغلانے کا جواز تمہیں کے اس کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے دیتا ہوں۔“

”ذیرری ناگس سر!“ کیپٹن بھگوت کھنپال ایک پر جوش سی منہ سے بولا۔

”دادی میں کسی بھی قسم کا ہنگامہ یا بلوا ہو تو کر فیو لگا دیا جائے۔“

”او کے سر! ایسا ہی ہو گا لیکن ایک درخواست کرنا چاہوں گا سر!“

”ہاں کہو۔“

”سر! شیر علی کے معاملے میں مجھے فری ونڈ دے دیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے۔“

”تم ہر معاملے میں فری ونڈ ہو..... کیپٹن بھگوت کھنپال!“ کرنا ستیوارام نے کہا۔

”جب او پر والوں نے یہاں کے لیے میرا انتخاب کیا تھا تو کچھ دیکھ کر ہی کیا تھا۔ وہ ایسے ہی لوگوں کو یہاں تعینات کرتے ہیں جن کے دل و دماغ میں یہ کشمیری سانپ کی طرح لوٹتے ہیں اور یہ ان کا پھن کھینے کو بے تاب رہتے ہیں۔ پھر جب مجھے اپنا نائب خود چننے کی آزادی دی گئی تو میرا انتخاب تم تھے..... کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے بیک گراؤنڈ سے واقف تھا۔ تمہارے... دادا جنم جنم سے

تیار کرنا تھا اور شیر علی کے ہاں بھی پہنچانا تھا۔ ظاہر ہے فوتگی کا گھر تھا، وہاں تو اب تین دن چولہا سرد پڑے رہنا تھا، ایسے میں اڑوس بڑوس سے کھانا وغیرہ آجاتا تھا۔

دن نکل آیا تھا۔ آسٹن پر باول جھائے ہوئے تھے۔ فضا میں عجیب سی اداسی مٹلی ہوئی تھی۔ گل نور رسوکی میں ناشا بتانے میں مصروف تھی اور شیر علی کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی کہ اسے آج کتنے بڑے دکھ کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن جانے کیا بات تھی، اس کا دل بار بار ایک نامعلوم سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ شیر علی کے بھارتی فوجیوں کے چنگل سے چھوٹ کے آجانے کی اسے خوشی تو تھی مگر باوجود اس کے وہ ایک بے کلی سی محسوس کر رہی تھی۔ چاہتی دوسرے کمرے میں مصروف تھیں کہ اچانک رسوکی میں ناشا بتاتے ہوئے گل نور ایک آواز پر چونکی۔

آواز بھاری گاڑیوں کے شور کی تھی، جو ایک مقام پر ٹھہر گئی تھیں۔ پھر اس کی دھڑکتی سماعتوں نے دھڑ دھڑاتے قدموں کی آواز سنی اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا..... ایسے مخصوص قسم کے بھاری شور و شغب کی آوازوں سے اب تو وادی کا بچہ بچہ بھی آگاہ ہو چکا تھا۔ گل نور کے اندر ہول اٹھنے لگے۔ وہ رسوکی کے اندر سے ہی پوری طاقت سے چلائی۔

”چاہتی..... پھر اٹھ کر دوڑی۔ اس کا رخ اسی کمرے کی طرف تھا، جہاں چاہتی کسی کام میں مصروف تھی۔ وہ ابھی محن میں ہی تھی کہ اچانک گولیوں کی خوفناک تڑتڑاہٹ ابھری.....

☆☆☆

گھر کی فضا مٹی تھی۔ درود یوار اپنی سوگوار آنکھوں سے خالی محن کو گھورتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ گھر میں صرف زینو اور اس کی ماں عائشہ خاتون موجود تھیں۔ بعد نماز فجر محمد علی کو دفن دیا گیا تھا۔ عبدالرحمان ایک جہاندیدہ اور چشم دیدہ انسان تھے۔ خطرے کی بو انہوں نے اسی وقت سونگھ لی تھی جب انہیں شیر علی کے اس طرح بھارتی فوجی کیمپ موتی بھون سے فرار ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ یوں بھی وہ اب سمجھنے لگے تھے کہ شیر علی کا ابھی کچھ روز اپنے گھر میں رہنا مناسب نہ ہوگا۔ لہذا وہ اسے اپنے ساتھ مجاہدین کے کیمپ میں لے گئے تھے۔ نیز اسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر وہ اپنے دس بارہ بہادر اور تربیت یافتہ کمانڈرز کو شیر علی کے گھر کے اطراف میں تعینات کر گئے تھے۔ اس ہدایت کے ساتھ اگر بھارتی فوجیوں کی...

پاکستان اور مسکوں کے نمبر ایک دشمن رہے ہیں۔ اسی لیے سمیٹیشن بھگوت کھپال تم آزاد ہو مگر دھیان رہے کہ گولی چلانے سے پہلے جواز پیدا کر لینا..... چاہے جھوٹا ہی سمیٹیشن ہے۔ اپنے گرو گھنٹال کی بات سن کر سمیٹیشن بھگوت کھپال کی کالے تیل جیسی اہلی ہوئی آنکھوں میں مکروہ چمک ابھری۔ اس نے سب سے پہلے شیر علی کے گھر چھا پامارنے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ کسی مسلمان کے گھر اس طرح چھا پامارنے کا اس کا ایک مکروہ مقصد بھی ہوتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک میں ہوس کاری بھی نمایاں ہو گئی تھی.....

☆☆☆

یہ پو پھٹے تک گل نور کو ایک بری خبر اور ایک خوشی کی خبر مل چکی تھی۔ بری خبر یہ تھی کہ محمد علی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر چکا تھا۔ وہ بوڑھا بے چارہ پہلے ہی نمونیا جیسی مہلک بیماری سے اٹھا تھا اور اس پر سوا یہ ہوا کہ جوان اکلوتے بیٹے کی ماتحت..... گرفتاری نے اسے ساری رات تشویش میں مبتلا رکھا تھا۔ یوں دل پر بوجھ پڑنے سے وہ اس کے باگھاں جملے کا شکار ہو گیا۔ وائے نصیب کہ اس کے انتقال کے تھوڑی دیر بعد ہی جب اس کی بیٹی زینو اور بیوی عائشہ روپیٹ رہی تھیں، تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ بے چاری نہ خوشی کا اظہار کر پائی اور نہ ہی غمی کا۔ بس ایک ہوک سی اٹھ کر رہ گئی، اور ایسے غم آ گیا۔ کمانڈر عبدالرحمان اپنی بیوی اور سبھی گل نور سمیت ان کے گھر پہنچے تھے اور پھر یوں رفتہ رفتہ وہاں لوگوں کا تاننا بند ہوتا چلا گیا۔

شیر علی اپنے بوڑھے باپ کی لاش سے لپٹ کر بہت رویا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کاش! وہ اس وقت اپنے باپ کی بات مان لیتا، جب اس نے اسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا اور جب وہ اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے سبزی منڈی پہنچا تھا تو اس نے اسے اسی وقت گھر لوٹ۔ جانے کی تلقین کی تھی مگر شیر علی گھر واپس لوٹنے کے بجائے ہوٹل کی طرف نکل گیا تھا۔

شیر علی کے باپ کی میت کو دفنانے کے لیے یہ لوگ قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے، گھر میں صرف زینو اور عائشہ خاتون تھیں جبکہ عبدالرحمان کے ہاں ان کی بیوی اور سمیٹیشن گل نور تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ دونوں زینو اور گل نور کے گھر لوٹی تھیں اور ناشا وغیرہ

READING

درا اندازی صرف پوچھ گچھ کی حد تک محدود ہو تو ان پر حملہ کرنے کے بجائے صرف خاموشی سے ان پر نظر رکھی جائے، جب تک کہ وہ کوئی جارحانہ پیش قدمی پر نہ اتر آئیں۔

ان میں چار کمانڈرز رحیم متو کا، آصف لٹرم سمیت دو ساتھی، نیب اور عبید سدھن، شیر علی کے گھر کی چھت پر موجود تھے، جبکہ تین مجاہدین عبدالرحمان کے مکان کے اطراف میں چھپے گھات لگائے چوکس بیٹھے تھے۔ باقی پانچ کمانڈرز عام کشمیری نوجوانوں کے روپ میں گلی کے اندر اور باہر مڑ گشت کر رہے تھے۔

اس گروپ کی کمانڈر رحیم متو کا کے ہاتھ میں تھی جو شیر علی کے مکان کی چھت کی جنوبی منڈیر والی دیوار کے قریب تھا اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنی آنکھوں سے دور بین لگا کر امیراں کدل ہل کی طرف جانے والے راستے کی طرف دیکھ لیا کرتا تھا۔

رحیم متو کا کا شمار عبدالرحمان گروپ کے مجاہدین میں ایسے نوجوانوں میں ہوتا تھا جو کم عمری میں ہی اپنی زندگی کے ایک مقصد کا تعین کر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے علم جنگ ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے عزم اور قوت ایمانی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے۔ گروپ کے نائب شجاع احمد نے انہیں، بیس سالہ رحیم متو کا کو خود گوریلا تربیت دی تھی اور جلد ہی اسے اپنا قریبی ساتھی بھی بنا لیا تھا۔ اپنی آئندہ کی موتی بھون والی مہم میں اس کا ارادہ رحیم کو اپنے ساتھ رکھنے کا بھی تھا۔

رحیم نے جب تیسرا چکر چھت کی مذکورہ سمت کا لگایا اور جیسے ہی اپنی آنکھوں سے دور بین لگائی تو وہ ذرا چونک گیا۔ امیراں کدل ہل کی طرف سے آنے والے راستے پر اسے ایک بھارتی فوجیوں کی جیب آتی ہوئی نظر آئی۔ رحیم متو کا نے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ لگایا کہ یہ جیب کہاں اور کس مقصد کے تحت جا رہی تھی؟ اور اس میں کس حد تک جارحانہ پہلو تھا؟

جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہ تھی جیسی وہ سمجھا تھا۔ جیب معمول کی رفتار اور اپنے عمومی گشت کے انداز میں جا رہی تھی اور اس کا رخ ڈل جمیل کی طرف تھا۔ نیز اس کے اندر بھی محض دو تین ہی فوجی برابھان تھے۔ تاہم پھر بھی وہ اپنی سلی کی خاطر دور بین کو اس وقت تک اپنی آنکھوں سے لگائے رہا جب تک وہ جیب ڈل جمیل کی طرف جانے والے راستے کی طرف نہ مڑ گئی۔

اب راستہ ویران ہو گیا تھا۔ اس نے سکون کی ایک

گہری سانس لی اور پلٹا۔ تھوڑی دیر پہلے بھارتی فوجی جیب کو دیکھ کر اس کے تپے ہوئے اعصاب اب معمول پر آگئے تھے۔

جیسا کہ مذکور ہوا، یہ علاقہ شہری آبادی سے ذرا پرے اور نسبتاً الگ تھلک مقام پر تھا اور اس کے تین اطراف میں اونچے نیچے ٹیلے بے بنے ہوئے تھے۔ گھروں کی تعداد بہ مشکل بیس، پچیس کے قریب تھی اور ایک اچھی خاصی آبادی یہاں بھی مقیم تھی۔ اگرچہ مکانوں کی ترتیب بے واضح اور قطاریں ٹیڑھی میڑھی تھیں کئی جگہوں پر سطح ڈھلوانی اور اونچی نیچی تھی..... یہی صورت حال ان راستوں کی بھی تھی جو ان کے درمیان سے گویا اچانک ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے..... ان میں کئی ایک راستے تو مکانوں کے درمیان سے اچانک نمودار ہوتے محسوس ہوتے تھے۔

انہی راستوں پر اچانک دو تین بھاری گاڑیوں کی آوازیں سنائی دیں جو ایک دم تیزی کے ساتھ عبدالرحمان اور شیر علی کے مکان کے سامنے آن رکی تھیں۔ ان میں ایک فوجی ٹرک اور دو تین بڑی جیپوں بھی تھیں۔ مذکورہ مکانوں کی چھت پر مورچازن گوریلا مجاہدین بھارتی فوجیوں کی یہ مکاری دیر سے سمجھے تھے اور اب اپنے گروپ لیڈر رحیم متو کا کے اشارے کے منتظر تھے۔ نیز اطراف میں مڑ گشت کے انداز میں چکراتے ساتھی کمانڈرز... بھی اس کی اطلاع تب ہی دے پائے تھے جب دشمن ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔

اب صورت حال یک دم بدل گئی تھی، اسی لیے رحیم نے ابھی انہیں اشارے سے اپنی اپنی جگہوں پر دبکے رہنے کی ہدایت دی تھی۔ ان کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے تھے۔ لگتا ایسا ہی تھا کہ دھرتی پر ایک اور خونیں باب رقم ہونے جا رہا تھا۔

رحیم نے اپنی گن پر گرفت مضبوط کی اور اپنے ساتھ موجود ایک ساتھی آصف لٹرم کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا چہرہ بھی بھارتی فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد کو اچانک اتنے قریب دیکھ کر جوش سے سرخ ہو گیا تھا، اگرچہ اس میں ایک فکر و تشویش کا عنصر بھی غالب تھا۔

”آصف! تم دروازے پر نگاہ رکھو۔ میں نیچے جاتا ہوں۔“

”ہمیں کمک کے لیے مجاہدین بلوانے ہوں گے۔ ان کی بھاری تعداد سے ان کے خطرناک اور مذموم ارادوں کا پتا چل رہا ہے۔“ آصف نے سرگوشی میں کہا تو رحیم بھی نیچی آواز میں جوابا بولا۔

تیری اس جوان، خوبصورت، بیٹی کو بھگتنا پڑے گی۔“ عائشہ خاتون نے جو اس رذیل انسان کی گندی زبان سے یہ سنا تو سر تا پا تھرا اٹھی، فوراً اپنا دوپٹا ہاتھوں میں لے کر جموں کی طرح کیپٹن بھگوت کھپال کے سامنے پھیلا دیا اور وہاں دیتے ہوئے بولی۔

”مجھ غریب دکھاری ہو، پر رحم کرو جس کے شوہر کی قبر کی مٹی بھی ابھی چلی ہے۔ م..... میرا بیٹا گھر پہ نہیں ہے۔“
 ”بڑھیا! زیادہ چلتر بازی نہیں کر میرے ساتھ۔ وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے۔ پھر وہ ہے کہاں؟ یہ پوچھ رہے ہیں ہم۔“

کیپٹن بھگوت نے عائشہ خاتون کی طرف خوشخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اپنے دو ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ وہ کمروں اور گھر میں گھس کر تلاشی لینے لگے۔ اوپر چھت پر سیز جیوں والی منڈیر کے قریب دیکھے بیٹھے رحیم نے اپنی گن پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے پکا تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر اس خبیث ہندو کیپٹن نے ان خواہشیں کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے کسی بھی نتیجے کی پروا کیے بغیر برسٹ چلا کر بھون ڈالے گا۔ نظر کچھ ایسا ہی آ رہا تھا کہ شیطانی کھیل کی ابتدا اب تب ختم ہونے والی تھی۔

کیپٹن بھگوت کھپال نے خوشخوار انداز میں دانت پیتے ہوئے، ڈوری سبھی کھڑی زینو کی طرف گھورا اور اس کے بعد کسی شکرے کی طرح چھپانا مار کر اسے دیوچ لیا۔ مارے خوف کے زینو کے غلق سے قہقہہ خارج ہو گئی۔ سر کی چادر سرک کر کیپٹن بھگوت کے پیروں پر آگری جس پر وہ خبیث اپنا بھاری بوٹ رکھ کر عائشہ خاتون کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے بولا۔ ”سچ بتا دے اب۔ ورنہ اس کی طرح مسل دوں گا تیری جوان بیٹی کی عزت کو۔“ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیروں تلے زینو کا دوپٹا روند ڈالا۔

بے چاری عائشہ خاتون کی مارے دہشت کے آنکھیں پھیل سی گئیں۔ وہ جلدی سے بول پڑی۔ ”بب..... بتاتی ہوں۔ وہ..... وہ..... عبدالرحمان کے ساتھ..... گیا ہے۔“
 عبدالرحمان کا نام سنتے ہی کیپٹن بھگوت کھپال کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہاڑ کر بولا۔ ”کدھر لے کر گیا ہے وہ اسے؟“

”پپ..... جانا نہیں۔“ عائشہ خاتون نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ بھگوت کے بے رحم ہاتھوں میں جکڑی ہوئی مصحوم دہلی پٹی زینو خزاں رسیدہ

”اب اس کا وقت نہیں رہا۔ ہم ان کی مکاری میں آجکے ہیں۔ دوپٹو فائرنگ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، گوریلا ایکشن عمل میں لانا پڑے گا۔“

رحیم نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک بھاری قدموں کی دھمک کے ساتھ ہی گولیوں کی خوفناک تڑتڑاہٹ ابھری..... فوجیوں نے شیر علی کے گھر کا دروازہ توڑ کر گرا دیا تھا۔

رحیم نے فوراً آصف کو ہتی بم ہاتھ میں پکڑے رہنے کی ہدایت دی اور خود نیلے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اچانک اسے محسن سے شیر علی کی بہن زینو کی قہقہہ سنائی دی۔

☆☆☆

کیپٹن بھگوت کھپال نے اپنی روائتی چال بازی اور نکر سے کام لیا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے پہلے سے ہی تھا کہ شیر علی کے گھر پہنچنے ہی سب سے پہلے اس کا پڑوسی عبدالرحمان اسے اپنی پناہ میں لینے کی کوشش کرے گا اور۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے تربیت یافتہ گوریلوں کا ایک ٹولا بھی پھرے وغیرہ کے لیے وہاں چھوڑے رکھے۔ یہی سبب تھا کہ انہیں ڈانچ میں رکھنے کے لیے کیپٹن بھگوت کھپال نے پہلے ایک عام سی گاڑی جیل ڈل کی طرف روانہ کر دی تھی تاکہ اگر اس راستے پہ مجاہدین کی نظر ہو بھی تو ان کی توجہ کسی حد تک مبٹ رہے، جبکہ خود وہ ایک بڑے ٹرک اور دو بڑی بچھوں میں اپنے مسلح قافلے کی صورت اندرونی تنگ راستوں سے یہاں آن پہنچا تھا۔ اسی کے اشارے پر سب سے پہلے ایک برسٹ مار کے شیر علی کے گھر کا دروازہ توڑ کے گرایا گیا پھر کیپٹن بھگوت نے دائرہ زور دار آواز میں چلا کر اپنے حواریوں سے کہا۔

”جس گھر سے ذرا بھی صدائے احتجاج بلند ہوتے دیکھو، اس گھر پر ہتی بم پھینک کر آگ لگا دو۔“

اس کے بعد وہ اپنے چند مسلح ساتھیوں سمیت اندر گھستا چلا آیا۔ اس نے سب سے پہلے شیر علی کی جوان بہن اور اس کی ماں عائشہ خاتون کو نشانے پر رکھتے ہوئے ان سے شیر علی کے بارے میں پوچھا۔

”وہ..... وہ گھر پہ نہیں ہے۔“

عائشہ کی ماں نے ڈری سبھی آواز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا تو کیپٹن بھگوت کھپال کے بدہیت ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ ابھری اور وہ اسی لہجے میں ایک شیطانی نظر سے اس کے ساتھ کھڑی تھر تھر کانپتی اس کی بیٹی زینو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ”مجھے بتانا تو پڑے گا ہی طرف..... اس وقت کدھر ہے۔ ورنہ اس کی سزا

تپتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ کیپٹن بھگوت نے اپنے حواریوں کو..... عبدالرحمان کے گھر بھی بلا بولنے کا حکم دے ڈالا۔

ادھر سیدھیوں کی منڈیر کی دیوار کے عقب میں پوزیشن لیے بیٹھے رحیم کے صبر کا پیمانہ لہریز ہوا جا رہا تھا۔ ایک ہندو فوجی کے ہاتھوں مسلم کشمیری خاتون کی یہ بے عزتی اس کی قوت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک چلائی ہوئی آواز ابھری۔

”ہالٹ! وہاں کوئی ہے۔“ رحیم بری طرح ٹھٹکا، وہ بھی سمجھا شاید اسے دیکھ لیا گیا ہے۔ اسی وقت ایک برسٹ چلنے کی آواز ابھری۔ رحیم کو اپنے ایک ساتھی کی کرب انگیز چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کسی کا لہراتا ہوا وجود اس کے قدموں کے قریب لڑکھڑاتا ہوا نیچے لڑھکتا چلا گیا۔ یہ آصف لٹرم تھا۔ اسی وقت نیچے سے ایک بھارتی فوجی اوپر چھانکا تھا۔ اس کی اچانک اور جانے کیسے آصف پر نگاہ پڑ گئی تھی اور اس نے اس پر برسٹ چلا دیا تھا۔

اپنے ساتھی کی اس طرح ہلاکت پر رحیم کے تن بدن میں آگ بھڑکی۔ اس نے اس قافلے بھارتی فوجی کو سنبھلنے بھی نہ دیا اور اپنی گن کی لیلیٰ بادی۔ نال کارخ اسی کی طرف تھا۔ وہ فوجی اپنے طاق سے کرپہ انگیز چیخ خارج کر کے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسری پھرتی کا مظاہرہ اس نے منڈیر کی دیوار سے گن کی طرف ایک اور برسٹ چلا کر کیا تھا۔ کیپٹن بھگوت تو بال بال بچا تھا مگر اس کے دو حواری چیخ مار کر گئے۔ کیپٹن بھگوت نے وہیں سے اپنے پستول کا ٹریگر دبا یا اور دیا تا چلا گیا۔ مقصد رحیم کو اپنی جگہ محسوس کرنا تھا، تا کہ وہ فائر نہ کر پائے اور اس کے حواریوں کو موقع ملے لیکن چھت پر موجود نیب اور عبید سدھن نے ان پر فائر کھول ڈالا۔ بھارتی فوجی منتشر ہونے لگے لیکن کیپٹن بھگوت نے فوراً کماری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زینو کو دبوچ کر اپنی ڈھال بنالیا۔

اسی دوران میں باہر موجود فوجیوں نے چھت پر خطرہ محسوس کرتے ہی وہاں دو دستی بم اچھال دیے۔ اس بات کا اندیشہ صرف چند سیکنڈ پہلے ہی محسوس کرتے ہوئے نیب اور عبید نے مکان کی عقبی دیوار سے نیچے چھلانگ لگا دی اور یہی وہ وقت تھا جب دونوں بم چھت پر گرے اور ساعت شکن دھماکوں سے پھٹے کہ مکان کی چھت ہی نیچے آ رہی۔ ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ رحیم تب تک فائرنگ کرتا ہوا گن میں آ گیا تھا۔

پھر گن سے فائرنگ جاری تھی۔ اس کے کمانڈو ساتھیوں

نے بھارتیوں پر ہلا بول دیا تھا۔ فائرنگ دو طرفہ ہو رہی تھی۔ اسی وقت رحیم کے کانوں سے ایک عورت کی چیخ ہوئی آواز سنائی دی۔

”میری بچی کو بچا لو اس شیطان سے..... خدا کے لیے۔“ یہ شیر علی کی ماں عائشہ خاتون کی آواز تھی۔ جو اس کے دائیں جانب سے ابھری تھی۔ وہ اسی سمت میں دوڑا تو وہ ٹوٹی چھت کے گرے ہوئے ایک بڑے سے شہتیر کے نیچے دبی ہوئی آخری سانسوں پہ تھی، رحیم جب تک اسے سنبھالنے کے لیے بڑھا وہ ختم ہو چکی تھی۔ بس اس بد نصیب ماں کے یہی آخری حسرت زدہ سے الفاظ تھے جس نے رحیم کو لاکے رکھ دیا تھا۔

مکان کو آگ پکڑنے لگی تھی۔ باہر مجاہدین اور بھارتی فوجیوں کے درمیان گھسان کارن بڑا ہوا تھا۔ بھارتی فوجیوں کی اس کھلی بربریت پر دیگر مسلم کشمیری بھروں سے بھی لوجوان، مرد جن کے ہاتھ اسلحے کے نام پر جو لگا، ان کا مقابلہ کرنے نکل آئے۔ پتھراؤ بھی ہوا۔ جن کے پاس بندوقیں تھیں..... وہ ہاتھوں میں لے کر نکل آئے تھے۔ رحیم کو زینو کی تلاش تھی اور اس نے آخری بار اس محسوس کو کیپٹن بھگوت کے بچنے میں دیکھا تھا۔ مکان میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ دروازے کی طرف دوڑا۔ اسے زینو کے ساتھ اپنے کمانڈر عبدالرحمان کے گھر کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہاں اس کے تین ساتھی موجود تھے لیکن جب وہ باہر نکلا تو اس کے گن سے بھی اس نے دھواں اٹھنا دیکھا۔ اسے تشویش نے گھیر لیا۔

باہر ہر سو گرد و غبار اور بارود کا دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف بھارتی فوجیوں کا ٹرک شعلوں کی لپیٹ میں نظر آیا۔ جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ بھارتی فوجی رفو چکر۔ ہونے کی کوشش میں تھے کہ اچانک اسے کہیں قریب سے ایک نسوانی چیخ سنائی دی، وہ بری طرح ٹھٹکا گیا اور زینو کی چیخ پہچان کر بلا تاخیر وہ اسی سمت کو دوڑ پڑا۔ ذرا ہی دیر بعد جب وہ دھوکے سے ابھرا تو اس نے کیپٹن بھگوت کو جیب میں سوار ہوتے دیکھا، اس نے زینو کو دبوچ رکھا تھا۔ رحیم نے اپنی گن سیدھی کرنی مگر اسی وقت اس کے قریب ہی ایک دھماکا ہوا۔ بھاگتے ہوئے فوجیوں نے ایک دستی سپیک دیا تھا۔ رحیم کو یوں لگا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اسے اٹھا کر ذرا پرے اچھال دیا ہو۔ وہ ایک جگہ زخمی ہو کر گرا۔ گن ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ چند ثانیے کے لیے وہ بے حس و حرکت سا رہا، پھر اس کی زخمی سماعتوں میں شیر علی کی ماں کے یاس زدہ

”میری بیٹی کو بچا لو اس شیطان سے..... خدا کے لیے۔“
وہ ہمت کر کے اٹھا اور ایک گلی کی طرف دیوانہ وار
ووڑتا چلا گیا۔ یہاں بھی بزدل بھارتی فوجیوں نے چند
مکانوں میں دستی بم پھینک کر آگ لگا دی تھی۔
اس کی تلاش میں لٹکے ہوئے اس کے دو جری ساتھی
نیب اور عبید بھی اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ بھارتی فوجیوں
کے ٹرک کو بم مار کر انہوں نے آگ لگائی تھی اور ان کے فرار
کی راہ سدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ کئی فوجیوں کو مجاہدین
نے... جنم واصل کر ڈالا تھا۔

ادھر رحیم اندھا دھند ووڑتا ہوا، ایک شارٹ کٹ
راستہ اختیار کرتا اس طرف نکل آیا تھا جہاں سے بھارتی
فوجیوں کی گاڑیاں گزر رہی تھیں، جواب صرف دو کی تعداد
میں تھیں۔ کچھ فوجی پیدل ووڑتا رہے تھے۔ رحیم متو کا کے
رکتے ہی اس کے عقب میں ووڑتے ہوئے آتے نیب اور
عبید بھی اس کے ساتھ آنے لگے۔

”وہ خبیث شیطان بھارتی کمیشن بھگوت، اپنے زخم
چاٹنے کے بعد شیر علی کی جوان بہن کو اٹھالے گیا ہے۔“ رحیم
نے دانت پیس کر کہا۔ اس کی خوشخوار نظریں دور ہوتی بھارتی
گاڑیوں پر مرکوز تھیں۔

”ہمارے بیشتر ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ جیسا آپ کا
حکم ہو۔ ہم تیار ہیں ان کا تعاقب کرنے کے لیے۔“ نیب
نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا اور رحیم نے کوئی
جواب دے بغیر آگے قدم بڑھا دیے۔ نیب اور عبید نے فوراً
اس کی تقلید کی تھی۔

☆☆☆

گل لور کی چیخ سن کر اندر سے اس کی چاچی برآمد
ہوئی۔ گولیوں کا برسٹ چلنے کی آواز پر دونوں متوحش سی ہو
گئی تھیں۔ اس کی چاچی نے بے اختیار خوف زدہ ہو کر اپنی
بیٹی کو خود سے یوں لپٹا لیا تھا جیسے اس نے شکرے کو دیکھ لیا
ہو۔ اسی وقت ان کے مکان کی چھت پر متحین ان پانچوں
کشمیری مجاہدین میں سے ایک نے ان دونوں خواتین کو اندر
کمرے میں چلے جانے کی ہدایت کی۔

اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جیسے رقصِ ابلیس شروع ہو
گیا۔ فائرنگ، دھماکے آہ و فضاں اور آگ کے اس طوفان
کے تھمنے کے بعد تک یہ دونوں خواتین کمرے میں ہی دیکھی
رہی تھیں۔

کئی بھی بزدل فوجیوں نے خون کی ہولی کھینے

کی کوشش کی تھی، مگر محبت پر موجود... مجاہدین نے ان کی
یہ کوشش ناکام بنا دی تھی، مگر تیس مجاہدین نے اس کوشش میں
اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ محن میں بارود کی بو
اور دھوئیں میں پڑی ان کی لاشیں گل نور بھی دیکھ چکی تھی۔

جب ہر سمت خاموشی چھا گئی تو گل نور بے تابانہ انداز
میں کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی چاچی نے اسے عقب سے
تھمبی انداز میں... یکارا بھی، مگر اسے اپنی کھلی زینو اور
اس کی ماں کی نگر لاش ہو گئی تھی۔

نہ جانے اس کے اندر اتنی جرأت اور حوصلہ کیسے پیدا
ہو گیا تھا کہ وہ ٹوٹے دروازے سے ایک دم باہر نکل آئی اور
سیدھی شیر علی کے گھر کی طرف ووڑی اور بھی لوگ وہاں جمع ہو
چکے تھے اور اپنی سی رضا کارانہ کارروائیوں میں مصروف
تھے۔ جلد ہی گل نور کو شیر علی کی ماں عائشہ خاتون کے شہید...
ہونے اور بھارتی کمیشن بھگوت کے ہاتھوں زینو کے اٹھالے
جانے کی روح فرسا خبر مل گئی۔ اسے غش آنے لگا اور وہ وہیں
اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے
آنسو جاری ہو گئے تھے۔

☆☆☆

بھارتی فوجیوں کی اس بہیمانہ اور بزدلانہ کارروائی
کے بعد سرنی نگر، بارہ مولا اور اصت ناگ تک کے حالات
کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ پڑتالیں کی گئیں اور بھارت سرکار
کی عمارتوں کے سامنے کشمیریوں نے سخت احتجاج کے ساتھ
بھارت کے جھنڈے اور اس کے انتہا پسند حکمرانوں کے
پسے نذر آتش کیے اور ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس
کے جواب میں بھارتی سرکار نے ہمیشہ کی طرح جھوٹ اور
منافقانہ بیان دیا کہ مذکورہ علاقے میں فوجی صرف پوچھ گچھ
کرنے گئے تھے، مگر علاقے کے لوگوں (کشمیریوں) نے
بلاوجہ اشتعال میں آکر ان پر پتھراؤ اور فائرنگ تک
کر ڈالی، لہذا اپنے تحفظ میں فوجیوں کو بھی ”مجبوراً“ گولیاں
چلائی پڑیں۔

یہ ان کا رٹا رٹایا بیان تھا جو بھارت سرکار اپنے
چہرے کی کالک دھونے کی ناکام کوشش میں دیا کرتے
تھے۔ اس مجمعے میں تنویر اور غزالہ بھی شامل تھے اور ایک
ایک منظر کی آڈیو ویڈیو رپورٹ بنا رہے تھے۔ نیز اصل
حقائق کی جانچ پڑتال کے لیے وہ مذکورہ علاقے میں بھی
پہنچے تھے جہاں بھارتی فوجیوں نے خون کی ہولی کھیلی تھی۔

انہوں نے وہاں موجود عینی شاہدین کا بیان لیا تھا
اور عائشہ خاتون کی لاش بھی دیکھی تھی۔ انہیں اس درد انگیز

حقیقت کا بھی پتا چلا تھا کہ ان کے گائڈ شیر علی کی جوان کنواری بہن کو بھی بھارتی کمپن بھگوت انعاما اٹھالے گیا تھا۔ ادھر کمپن بھگوت کا ان دونوں پاکستانی صحافی بہن بھائیوں کے پیچھے چھوڑا ہوا خبر جسونت تیواری، برابر ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ کمپن بھگوت کی ہدایت کے مطابق اس نے فوراً سری نگر کے متعلقہ تھانے میں جا کر انسپٹر چندر لال کو اس کی رپورٹ دی۔

انسپٹر چندر لال ایک پینتیس، چالیس سالہ دراز قد آدمی تھا۔ رنگت سانولی مٹی اور سر گنجا تھا۔ چہرہ فٹ بال کی طرح گول تھا۔ بات کرتے ہوئے بار بار اپنے ہونٹ کھینچ لیتا اس کی عادت تھی۔ اسے خصوصی طور پر کرنل ستیaram ڈوڈیہا نے یہاں تعینات کروایا تھا اور اس میں کمپن بھگوت کے خصوصی انتخاب کا دخل بھی تھا۔ اسی نے کرنل ستیaram سے سفارش کی تھی۔

وہ شہری انتظامیہ کی آڑ میں امن وامان کی بحالی کے بجائے، ہمیشہ بھارتی فوجیوں کی کارروائیوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ نیز اس طرح کے حالات میں وہ انسانی حقوق کی پامالی کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا اور ایسے کشمیریوں پر کڑی نظر رکھتا تھا جو اپنے اندر حق خود ارادیت کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کے خلاف وہ طرح طرح کے اوجھے جھکنڈے بھی آزمانے سے گریز نہیں کرتا تھا۔

خبر جسونت تیواری نے جیسے ہی اسے ان دونوں بہن بھائیوں کے متعلق بتایا تو وہ فوراً معمول کی انکواری کے بہانے ان کے ہوٹل جا پہنچا، جہاں تیواری اور غزالہ مقیم تھے مگر اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھے، اگرچہ اس کا چندر لال کو پہلے ہی سے علم تھا مگر وہ اپنی تسلی کی خاطر ہوٹل کی انتظامیہ سے ان کے بارے پوچھتا تھا اور کچھ ضروری ”ہدایات“ جو ڈھکی چھپی دھمکیوں پر ہی مشتمل تھیں، دینے گیا تھا۔ اس کے بعد وہ وہیں سے ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسے خوب اندازہ تھا کہ یہ دونوں کن کن مقام پر پائے جاسکتے تھے۔ تاہم مذکورہ ہوٹل سے نکلنے وقت وہ اپنے دو آدمی سادہ وروی میں وہاں چھوڑ آیا تھا۔ پھر جیسے ہی اسے اطلاع ملی کہ دونوں بہن بھائی واپس آچکے ہیں تو وہ فوراً وہاں جا دھمکا۔

دروازے پر دستک کے جواب میں تیواری نے ہی دروازہ کھولا تھا اور سامنے ایک پولیس انسپٹر کو وردی پوش دیکھ کر چونکا۔

”جی! میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟“ طوعاً و کرہاً

چہرے اور عقب میں کھڑی غزالہ کو ایک گھورتی نظر سے دیکھتے ہوئے خرائٹ لہجے میں بولا۔
”تم سے بات کرنی ہے ہمیں۔ تیواری تمہارا ہی نام ہے؟ اور یہ تمہاری بہن غزالہ؟“

اس کی اتنی جان کاری پر تیواری کے اندر کسی الجھن نے سرا بھارا، تاہم وہ بھی کھنڈی ہوئی مسامت سے بولا۔ ”ہاں! آئیے۔ اندر۔“ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے راستہ دیا اور انسپٹر چندر لال گہری گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اندر آ گیا اور ہونٹ کھینچے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہمراہ دو ساتھی اہلکار بھی تھے۔

”بیٹھیں۔“ غزالہ نے بھی گویا چاروٹا چار سے ایک صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔

وہ عاوتاً اپنے ہونٹ کھینچنے کے بعد ایک گہری ہنکاری خارج کر کے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ ”میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں۔ مجھے تم دونوں کی شناخت درکار ہے۔“ تیواری کے مقابلے میں غزالہ ذرا جو شلی تھی۔ انسپٹر چندر لال کی بات پر اس کے چہرے پر تندی کی لہری ابھری لیکن تیواری نے فوراً اس سے کہا۔

”یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غزالہ! انہیں اپنی شناخت کرا دو۔“ یہ کہتے ہوئے تیواری چند قدم آگے بڑھا۔ غزالہ نے پرمٹانت چہرے کے ساتھ ایک بڑے سے بیگ کے فولڈر سے چھوٹا چرمی پیٹ بگ نکالا اور اس کے اندر سے تمام ضروری کاغذات نکال کر انسپٹر کے سامنے کر دیے۔ ساتھی وہ اس کے بھارتی گول چہرے کا بھی جائزہ لینے لگی۔

اسے انسپٹر چندر کے چہرے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف ان کی شناخت کے کاغذات ہی نہیں چیک کرنے آیا تھا، اس کا مقصد کچھ اور بھی تھا یہی سبب تھا کہ ان کے کاغذات تو اس نے بے دلی کے ساتھ دیکھے تھے، لہذا وہ انہیں واپس لوٹاتے ہوئے خرائٹ لہجے میں بولا۔

”یہاں آنے والے پاکستانیوں کے کاغذات تو ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں آنے کا مقصد ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے مجھے تمہارے کمرے اور سامان کی تلاشی لینا ہوگی۔“

”یہ کیا بات ہوئی بھلا؟“ غزالہ پھٹ پڑی۔ ”ایسی تلاشی کا بھی کوئی معقول جواز ہونا چاہیے۔ کدھر ہے سرچ وارنٹ؟“

انسپٹر چندر لال نے بڑی خشم آلودہ نظروں سے غزالہ کی طرف گھورا اور کرخت لہجے میں بولا۔ ”جواز کی

لال نے اپنے دائیں ہاتھ سے یہ دستور تویر کی گردن پکڑے رکھتے ہوئے اٹھے ہاتھ کا ایک زوردار چھڑ غزالہ کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس کے حلق سے کراہ آمیز چیخ۔۔۔ خارج ہو گئی، وہ کئی قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑا کے بیڈ سے جا گرائی اور گر پڑی۔

”اس کتیا کو دیوچ لو اور اس کے پرسل سامانوں کو بھی قبضے میں لے لو۔ اب تھانے لے جا کر ہی ان سے بات ہو گی۔“ انسپکٹر چندر لال نے سرخ انگارہ آنکھوں سے بیڈ پر گری غزالہ کی طرف دیکھ کر کہا اور دونوں اہلکار اسے دبوچنے کو لپکے۔ اس رذیل انڈین پولیس انسپکٹر کے خطرناک عزائم کا اعزاز ہوتے ہی تویر کے اندر کوئی حلق بھاڑ کے چلایا۔

”اب نہیں تو بھی نہیں۔“ اس نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ ایک ایسی حرکت کر ڈالی تھی جو انسپکٹر چندر لال کے سان گمان میں بھی نہ تھی۔

تویر نے ایک جذبے اور جوش عظیم تلے بڑی سرعت کے ساتھ انسپکٹر چندر کے دائیں ہولسٹر سے اس کا سرورس رپوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اور ایک جھٹکے سے اپنی گردن اس کے ہاتھ سے چھڑا کر رپوالور کی سیاہ نال چندر لال کی پیشانی پر رکھ دی تھی اور وحشت لہورنگ لہجے میں چلا کر بولا۔۔۔۔۔

”خبردار! کسی نے اگر ذرا بھی اپنی جگہ سے حرکت کی تو۔۔۔“
تویر کی آنکھوں میں یکا یک اترے ہوئے خون کی لالی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بہن کی طرف بڑھتے دونوں بھارتی پولیس اہلکاروں کے قدم وہیں رک گئے۔ ان کا افسر گن پوائنٹ پر تھا جبکہ انسپکٹر چندر لال کے چہرے پر بھی تویر کے خوں رنگ لہجے کا خاطر خواہ اثر دیکھنے میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا شاید ایک مسلمان کی غیرت کب اسے کٹ مرنے پر آمادہ کر ڈالتی ہے اور وہ کسی بھی وقت ہر حد سے گزر جانے کو تیار رہتا ہے لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے ہمت کر کے کہا۔

”تم بہت خطرناک غلطی کر رہے ہو مسز تویر!“
”شٹ اپ ذلیل انسان! اپنی زبان بند رکھو۔ ورنہ سوراخ کر دوں گا تمہاری پیشانی پر۔“ تویر غراہٹ سے مشابہ آواز میں اس سے بولا اور غزالہ کو اشارہ کیا۔

اس نے یک دم اپنی جگہ چھوڑی۔ اگلے چند سیکنڈوں میں وہ ان تینوں کو انہی کی ہتھکڑی لگا کر ہاتھ روم میں بند کر چکے تھے۔ بیڈ کی چادر بھاڑ کر انہوں نے اس کی دو جھیاں بنا کے ان کے منہ میں گھسیڑ دی تھیں تاکہ وہ اپنی مدد کے لیے

بات نہ ہی کر دے تو اچھا ہے بی بی ارہی بات سرچ وارنٹ کی تو جہاں کے حالات کے پیش نظر ہمیں اختیارات ملے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں آنے والے کسی بھی دوستیہ بالخصوص پاکستانیوں کی کسی بھی سے مکمل تلاشی لے سکتے ہیں۔ اب آپ ہمارا وقت ضائع نہ کریں اور خاموشی سے تلاشی دیں یا ہم دوسرا طریقہ استعمال کریں؟“ اس کے لہجے میں ایک ایسی تہدید اتر آئی تھی۔ غزالہ غصے سے دانت پیسنے لگی تب ہی تویر نے کسی حد تک مصلحت سے کام لیتے ہوئے اپنی بہن سے کہا۔

”غزالہ! انہیں تلاشی لینے دو۔ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہمارا دامن صاف ہے۔“

”دامن داغ دار ہونے میں بھلا دیر ہی کتنی لگتی ہے۔“ انسپکٹر چندر لال نے ہولے سے گمراہ تہذیبیہ کہا اور پھر اپنے دونوں سامنے اہلکاروں کو مخصوص قسم کا حکمانا اشارہ کیا۔ تلاشی شروع ہو گئی۔ غزالہ ایک طرف کھڑی اندر ہی اندر غصے سے بل کھا رہی تھی۔ تویر کے چہرے سے تیشویشاک۔۔۔۔۔ پریشانی کے آثار مترشح ہورہے تھے۔

”انہیں آن کر کے چیک کرنا ہوگا۔“ معا انسپکٹر چندر لال نے غزالہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کا اشارہ اس بیگ کی طرف تھا جس کے اندر لپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز رکھے تھے۔ وہ تنک کر بولی۔

”یہ میرے پرسل۔۔۔ آرٹیکل ہیں۔ انہیں چیک کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟“

”ہمیں تو کپڑے اترنا کے بھی چینگ کا اختیار ہے مسز تم!“ چندر لال نے غزالہ کے خوب صورت ہرانا کا گرسنہ نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے تھیما نہ لہجے میں کہا تو تویر بھی اپنے جوش غیظ پر قابو نہ پاسکا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا۔

”ماسٹر پور لیٹنگ مسز! تمہیں سے بات کرو، تمہیں شرم آتی چاہے، ایک عورت ذات سے اس طرح بے ہودہ لہجے میں بات کرتے ہوئے۔“ اس کی سخت کلائی پر انسپکٹر چندر لال کی آنکھوں میں یکا یک درشت چمک اتر آئی اور اس نے سنسناتی ہوئی نظروں سے تویر کی طرف دیکھا پھر دوسرے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر اس کی گردن دیوچ لی۔ غزالہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے حلق کے بل چلائی۔

”پور اسکل! رٹش! چھوڑ دو میرے بھائی کو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ انسپکٹر چندر

کسی کو بلا نہ سکیں۔

اپنا سازد سامان سمیٹ کر وہ ہوئی انتظامیہ کو بغیر مطلع کیے خاموشی اور رازداری سے نکل گئے۔

تویر کو اس رڈ میں اسپیکر کے ہی نہیں بلکہ بھارتی فوج کے کیپٹن بھگوت کھٹیاں کے ناپاک اور جارحانہ عزائم کا بھی بہ خوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس کے پاس یہ انتہائی قدم اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں بھی وہ اپنا ”کام“ مکمل کر چکے تھے۔ کشمیر میں ہونے والے بھارتی فوجیوں کے انسانیت سوز ظلم و تشدد کے واقعات کی آنکھوں دیکھی کارروائی کے جس مشن میں وہ یہاں آئے تھے، وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔

لہذا اس سے پہلے کہ ان کی ناکابندی کی جاتی، انہوں نے فوراً رپورٹ کا رخ کیا اور پہلی دستیاب فلائٹ سے پاکستان کی طرف پرواز کر گئے.....

☆☆☆

رحیم اپنے دونوں ساتھیوں، فیب اور عبید کے ہمراہ ان بھارتی فوجیوں کے تعاقب میں بڑھے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے جو شارٹ کٹ راستہ اپنا لیا تھا، وہ دو برفانی چٹانوں کے درمیان سے گزرتا اس طرف جا لکھا تھا، جدھر سے قوس کی شکل میں گھومتی ہوئی امیراں کدل پل کی طرف جاتی یہ سڑک نسبتاً قریب پڑ جاتی تھی۔

یہ چٹانیں دوڑتے ہوئے اسی طرف نکل آئے تھے اور اب پوزیشنیں سنبھالنے بیٹھے گئے تھے۔ چند ثانیے تک گہرے گہرے سانس لینے کے بعد وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل ہوئے تو عبید نے رحیم سے پوچھا۔

”سب سے پہلے ان پرستی بم سپیکر کر انہیں منتشر کیا جائے گا، تب ہی کوئی گوریلا کارروائی کر کے بہن کو بچانا ہوگا۔“

”نہیں، یہ منتشر ہونے کے بجائے ہم پر ایک وقت اپنی گنوں کا منہ کھول دیں گے اور وہ بڑول کیپٹن بھگوت راو فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔“ رحیم نے کہا۔

”لیکن ہمیں جلدی اس قلیل موقع سے فائدہ اٹھانا ہو گا، اگر یہ امیراں کدل پل کے نزدیک بھی پہنچ گئے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے۔“ فیب نے تشویش ظاہر کی تو رحیم چند ثانیے کی پُرسوج خاموشی کے بعد بولا۔

”سنو! ہمیں سب سے پہلے ان دونوں گاڑیوں کے ٹائرؤں کو نشانہ بنانا ہوگا، تاکہ یہ بے کار ہو جائیں اور ان کی پیش قدمی کی رفتار بھی ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد ہی دستی ہونے کا حکم کرنے کے بعد گوریلا کارروائی ہوگی۔ میں سب

سے پہلے کیپٹن کی جیب کے قریب ہونے کی کوشش کروں گا جبکہ تم فائرنگ کر کے ان سب کو الجھائے رکھنا۔“

رحیم کا یہ خطرناک فریضہ فیہب نبھانا چاہتا تھا لیکن اس وقت رحیم کے کانوں پر اس مشن کا بوجھ تھا اور وہ اسے اپنی صوابدید پر پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔

”الٹ! دشمن سامنے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔“ معار رحیم متوکانے کہا اور پھر تیزی سے ایک طرف رینگ گیا۔ اس کے باقی دونوں ساتھی سڑک کے کنارے اگی خود رو جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ایک ایک لمحہ ان کے ٹھکے ہوئے دلوں پر فیصلہ کن گھڑی کی دھمک دیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔

جیسے ہی ان کی گاڑیاں نشانے پر آئیں، انہوں نے دونوں گاڑیوں کے ٹائرؤں کا نشانہ لے کر فریگر دبا دیے۔ فضا میں جیسے یک دم گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری تھی۔ ان کا نشانہ خطا نہیں گیا تھا۔ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کے ٹائر سماعت شکن دھماکوں سے برست ہوئے تھے اور وہ ایک طرف کو جھکتی چلی گئی تھیں۔ یہاں تک کے سڑک کنارے کچے میں جا آئیں۔

رحیم کی عقابانی نظر میں کیپٹن بھگوت کھٹیاں کی جیب پر جھی ہوئی تھیں۔ اس نے جیسے ہی اس کی جیب کو ایک طرف جھکتے اور سڑک کنارے شرابی چال کی طرح لڑکھڑاتے آئے دیکھا تو فوراً پوزیشن سنبھال لی اور سینے اور کہنیوں کے بل آگے بڑھنے لگا۔ اسی دوران میں فوجیوں نے بھی جو اپنی فائرنگ داغ ڈالی تھی جبکہ فیب اور عبید کو رحیم کی بھی لگتی تھی اور وہ اسے بھی کو روہینے کی تنگ دو دو میں تھے مگر فوری طور پر ترتیب دیے جانے والے ایکشن پلان کے مطابق ان کے پاس جتنے دستی بم تھے، وہ سبھی ان کی طرف اچھال دیے۔

پے در پے کئی سماعت شکن دھماکے ہوئے اور ان میں کئی بھارتی فوجیوں کی جینیں بھی شامل تھیں۔ اس کے بعد فیب اور عبید نے فوراً ہی ایک مخصوص جنگی فارمیشن کے تحت اپنی جگہ بدلی تھی، مگر تب تک بھارتی فوجیوں کا وہ ٹولا جو بسوں کی زو میں نہیں آسکا تھا، سنبھلتے ہی ان کی سمت پر اپنی گنوں کے آتشیں دھانے کھول دیے۔ ان کی طاقت ویر جدید نہیں کسی آگ اگلنے والے ڈریگن کی طرح گرجتی تھیں۔ فیب تو بروقت اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، لیکن عبید کو سلائیڈ کرنے میں

لجے بھر کی تاخیر ہو گئی، نتیجتاً وہ گولیوں کی ایک لپکتی ہوئی۔۔۔ عوفناک آتشیں باڑ کی زو میں آ گیا۔ اس کے حلق سے برآمد۔ ہونے والی کرب انگیز چیخ نے بے اختیار فیب کا دل ہولا دیا۔

READING

Section

تازیا نے بھی۔ غیب کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اسی وقت غیب کو قریب کی جھاڑیوں سے ایک کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔
 ”سی سی۔ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ ہم..... غیب! اسے گلگ..... گولی مار دو۔“ وہ چونکا۔ یہ اس کے زخمی ساتھی رحیم متو کا کی آواز تھی۔ غیب غیر ارادی طور پر اس آواز کی سمت بڑھا تھا کہ اچانک ایک بھارتی درندے کو اس کی جھلک نظر آگئی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس پر برسٹ چلا دیا۔ غیب نے گولیوں کی بو جھاڑی کی آواز سنتے ہی بچنے کی کوشش کی مگر اس کا ہایاں شانہ زد میں آ گیا۔ اس نے اپنے حلق سے ابھرنے والی چیخ کو بہ مشکل اپنے دانتوں اور..... ہونٹوں تلے بھیچا تھا۔ وہ نظروں میں آ گیا تھا اور اس حقیقت کا اسے اچھی طرح علم ہو چکا تھا۔

زیو کے الفاظ اب اس کے لیے انگارے بننے لگے تھے، وہ بہ مشکل آگے بڑھا۔ اس پر ایک اور برسٹ قاز کیا گیا تھا مگر اس بار اس نے متوقع خطرہ بھانپتے ہی خود کو گرا لیا تھا اور پھر اپنے مغزوب بدن کی تمام طاقت کو جمع کر کے آگے بڑھا۔ اس پر مشو اثر اور اندھا دھند برسٹ قاز ہو رہے تھے، کہ اچانک ایک گولی اس کے دائیں پہلو کو گھائل کر گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے موت کی دھندلاہٹ طاری ہونے لگی تھی کہ اچانک اسی دھندلاہٹ میں اسے بس صرف ایک جھلک دکھائی دی تھی زیو کی۔ اس نے اسی کا نشانہ لے کر پورا برسٹ قاز کر دیا۔ اس کی زخمی ساعنتوں سے زیو کی دل خراش چیخ سنائی دی اور اس نے جیسے مطمئن ہو کر اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں.....

تھوڑی دیر بعد بھارتی فوجیوں کا یہ درندہ صفت ٹولا زیو کی لاش کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ فضا ساکت تھی۔ ماحول میں بارود کی بو کھلی ہوئی تھی، کہیں کہیں سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ وقت تھا ہوا لگتا تھا، جیسے اسے موت آگئی ہو۔ زیو کی خون میں تھڑی لاش سڑک کے درمیان آڑی ترچھی نظر آرہی تھی اور پھر تب ہی اچانک قریب کی جھاڑیوں سے کوئی آہستہ آہستہ سینے کے بل ریٹکتا ہوا، زیو کی لاش کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر اس نے بے اختیار زیو کی خون آلودہ پیشانی پر بوسہ دے ڈالا۔ یہ رحیم تھا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح واپس پلٹ گیا۔

☆☆☆

(پس منظر)

لاری کے روانہ ہونے تک زیناں اس مجھے کا کافی

اس نے پلٹ کر اپنے ساتھی کا جاگڑہ لیا، پھر اس کے شہید..... ہونے کی تصدیق کے بعد وہ شدت خم تلے اپنے ہونٹوں کو بھیچتا ہوا گن سنبالے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔
 اس نے ایک جگہ رک کر اپنے تیزی سے کام کرتے ذہن میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ بھارتی فوجیوں کو جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے وہ پہنچا چکے تھے مگر اب اس نے اپنے گروپ لیڈر رحیم کی لگر کی اور اسی جانب تیزی سے سینے کے بل ریٹکتا چلا گیا جدھر وہ غائب ہوا تھا۔

غیب جانتا تھا کہ رحیم متو کا کانارگٹ کیپٹن بھگوت تھا اور اس کی جیب اسے دکھائی دے گئی تھی۔ وہ اسی طرف بڑھا اور تب ہی اس کی نظر جیب سے اترتے ہوئے کیپٹن بھگوت پر پڑی۔ وہ بزدل زینو کو دلوچے جیب سے برآمد ہو رہا تھا۔ دو تین ساتھی اہلکار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ ایسے ہی میں اس نے رحیم کو جوش غیرت تلے جھاڑیوں سے ابھرتے اور کیپٹن کو لگارتے دیکھا۔

”ڈیل کئے! چھوڑ دے اس معصوم کو۔“ اس کے لگارتے کی دیر تھی کہ بیک وقت کئی گنیں اس کی طرف اٹھ گئیں، جبکہ بزدل کیپٹن بھگوت نے خطرہ محسوس کرتے ہی زینو کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ اس کے ساتھیوں نے رحیم متو کا کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ ان کا دھیان پٹانے کے لیے غیب نے اچانک ابھر کے انہیں لگارتا دیا اور ساتھ ہی ان پر قازنگ بھی کر ڈالی۔ اس بات کا دھیان اس نے رکھا تھا کہ کوئی گولی کیپٹن بھگوت کی باہ نہ پائے کیونکہ وہ مردود بزدل، معصوم زینو کو اسی مقصد کے لیے اپنے ساتھ لگائے ڈھال بنائے ہوئے تھا کہ کسی مجاہد کی گولی اسے جہنم واصل نہ کر ڈالے۔

اس کے ساتھ کھڑے ساتھی فوجیوں میں سے دو گر پڑے تیسرے نے اس پر قاز کھولا۔ رحیم چیخ مار کے گرا تو غیب وہل گیا۔ گن سنبالتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا تو کیپٹن بھگوت کھپال کے گرد اس کے کچھ ساتھی لپکے۔ اسی وقت اسے زیو کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔

”میرے کشمیری مجاہد بھائی! تم جو کوئی بھی ہو، ایک مسلم بہن تم سے التجا کرتی ہے کہ میری عصمت کو ان بھارتی کانفر درندوں سے بچا لو۔ ہم..... مجھ پر ایک احسان کر دو۔ ہم..... مجھے گولی مار دو۔ گولی مار دو مجھے۔ میں مرنا قبول کرتی ہوں۔“

غیب کو اس آواز میں ایک درد ایک کرب کی تڑپ محسوس ہوئی تھی۔ ایسا درد جس میں حسرت بھی تھی اور یاس کے

دیر تک شکار رہی تھی کہ آخر شفیق یوں اچانک غائب کہاں ہو گیا تھا اور کیوں؟ کیا واقعی اس میں اسے جاتے ہوئے دیکھنے کی تاب نہیں رہی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی؟

دولار یوں اور تین ٹرکوں پر مشتمل مسلمانوں جنوں کا ہجرت کرنے والا یہ قافلہ نصف رات کی پہر تارکی میں روانہ ہو چلا تو بے اختیار کھڑکی کے قریب بیٹھی زینٹاں کی آنکھیں چمک پڑیں۔

اس نے اپنے ہونٹ، ضبط کے انداز میں بھیج رکھے تھے، تاکہ چہرہ مزید اٹکلبار نہ ہو۔ شکر تھا کہ سر پہ چجاب کی چادرتی ہوئی تھی اور اس کا برقعش وجود اس کی ”لیپٹ“ میں چھپا ہوا تھا، تاہم کسی سے بات کرنے پر لہجے کی تم آگیاں لڑکھاہٹ تو ظاہر ہو سکتی تھی، اس کے لیے وہ خود کو سنبھالا دینے کی کوشش کرنے لگی۔

اس کے برابر والی سیٹ پر بھابی کلثوم ایک بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی جبکہ ان کے پیچھے والی سیٹ پر اس کا باپ رحیم خان اور بھائی ولی خان اپنے دوسرے بچے کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ لاری دو روپہ سیٹوں کی قطاروں پر مشتمل تھی۔ اور یہ کھانچ بھری ہوئی تھی۔ سیٹوں کی قطاروں کی درمیانی جگہ میں بھی لوگ سگڑ سمٹ کر بیٹھے تھے، کئی صحبت پر بھی بھرے پڑے تھے۔ لاری کی رفتار مناسب تھی اور دو لاریاں، تین ٹرک ایک قطار کی صورت دھیر کوٹ کی سڑک کو عبور کرتے ہوئے کوئی روڈ پر آگئے۔

یہاں سے آگے سوچیت گڑھ کا فاصلہ خاصا طویل تھا اور گورکھا بلڈ یوسٹم پٹھانہ کے مطابق سوچیت گڑھ سے یہ لوگ سیالکوٹ (پاکستان) کی طرف عازم سفر ہو جائیں گے۔

سفر جاری تھا۔ لاری کے روانہ ہوتے ہی بیشتر مسافروں کو ایک عجیب سی چپ کھا گئی تھی۔ زینٹاں کھڑکی سے باہر نکلے جا رہی تھی جہاں اب بنجر ویرانے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ آسمان پر کئے طباق چاند کی روشنی میں پیچھے بھاگتے مناظر کو دیکھ کر زینٹاں کو ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے لوٹ آنے کا کہہ رہے ہوں۔ پس ایسی وہ وقت تھا جب اس کے دل و دماغ میں نامعلوم سی بے چینی نے گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یک دم جیسے بے کل ہی ہو گئی۔ اس نے یونہی شاید اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کی غرض سے اپنے قریب بیٹھی بھابی کلثوم سے نیچی آواز میں کہا۔

”بھابی! اور کتنا فاصلہ رہ گیا ہو گا سوچیت گڑھ کا؟“

”ابھی تو کوٹلی سے نکلے ہمیں آدھا گھنٹا ہی ہوا ہو گا۔“

کلثوم نے زینٹاں کے خیال سے کھٹوہ روڈ کے بعد ایک گھنٹے کا

سفر اور ہو گا یا پھر دو گھنٹوں کا؟“

”بھابی! ہم سب بہ خیریت پاکستان پہنچ جائیں گے؟“

اندیشناک دوسوں کی غمازی کو تے زینٹاں کے لہجے نے جانے کیوں کلثوم کو بھی لمحے بھر کے لیے چونکا سادیا تھا۔

بولی۔ ”ہاں! انشاء اللہ کیوں نہیں پہنچیں گے؟“ زینٹاں۔

خاموش ہو کر دوبارہ کھڑکی سے باہر، گم مگم لگا ہوں سے نکلنے لگی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی تو اچانک کسی مسافر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔

”ارے! یہ لاریاں کھٹوہ روڈ کی طرف کیوں مڑ رہی ہیں؟“

”میاں! ہو سکتا ہے، اس طرف کا راستہ خراب ہو۔ اسی لیے بیچ کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہو؟“ ایک دوسری آواز میں خیال ظاہر کیا گیا تھا۔ اسی طرح کی ٹلی جلی مزید کچھ اور بھی آوازیں ابھریں، اس کے بعد لاری میں پھر وہی دھڑکتی خاموشی چھا گئی۔

تھوڑی دیر بعد لاری کو پچھلے لگنا شروع ہو گئے۔ لوگ پریشان سے ہو گئے، صاف لگتا تھا کہ لاری اپنے اصل راستے سے ہٹ کر کسی اور طرف کو جا رہی تھی۔ مسافروں میں بے چینی کی لہری دوڑ گئی اور وہ کھڑکی سے باہر سر نکال نکال کر دیران تارکی میں آنکھیں بھاڑے دیکھنے لگے۔ آگے پیچھے آنے والی گاڑیاں بھی اسی طرف کو ہی مڑی چلی آرہی تھیں۔

لاری میں طرح طرح کی چہ میگوئیوں کا ہم بیچ ابھرنا شروع ہوا تو جانے کیوں زینٹاں کے اندر کی بے چینی بھی سوا ہونے لگی۔ اس بار تو اس کی بھابی کلثوم بھی پریشان تھی اور بار بار اپنی گرون پیچھے موڑ کر اپنے شوہر اور سسر کی طرف سوالیہ لگا ہوں سے دیکھنے لگتی۔ بالآخر اس نے اپنے شوہر ولی خاں سے کہا۔

”کیا معاملہ ہے یہ؟ آپ ذرا پتا تو کریں؟“

اس کا شوہر اور سسر رحیم خاں خود پریشان سے تھے۔ اچانک لاری کی رفتار دھیمی پڑنے لگی۔ زینٹاں نے ایک تیز روشنی سی کھڑکی سے باہر دیکھی، وہ ایک طویل میدانی علاقہ ہی نظر آتا تھا، جہاں جا بجا مشعلیں اور لالہ و دہک رہے تھے۔ وہیں اسے لمبے ترنگے گورکھوں کا قرولی بہ دست ٹولا دکھائی دے گیا۔ کسی کے ہاتھ میں کرپان تھی تو کسی کے پاس لائبی لائبی تلواریں۔

”یا اللہ..... رحم۔“ لاری میں ایک کپکپاتی ہوئی آواز ابھری تھی۔

اور وہ ہراساں ہرئی کے مانند ان دونوں کے کھنچوں میں تڑپنے لگی، بچے کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ وہ تھوڑی دور جا کر ایک دوسرے وحشی گورکھے کی بربریت کی سمیٹ چڑھ گیا۔ ادھر ان دونوں گورکھوں نے سب سے پہلے زلیخا کی چادری کھینچ کر اسے بے پردہ کر ڈالا۔ اس کے بعد شیطانی تہمت لگاتے، اسے دیو بچے ہوئے ایک طرف کوچل دیے، جدھر ایک بڑے سے ٹیلے کے قریب خیمے گڑے ہوئے تھے۔

کھٹوہ کے قریب واقع اس میدان کو جیسے میدان کر بلا بنا دیا گیا تھا۔ مہندر جنک سنگھ نے مہاراجا کی ”ہدایت“ کے مطابق اپنے حواری بلند پو سنگھ کے ساتھ مل کر مسلمانان جموں کے اس طرح قتل عام کی جو سازش کھلی تھی، اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔

ہزاروں مسلمانوں مرد دیوڑھوں اور بچوں کا قتل عام کرنے کے بعد ان کی جوان عورتوں کو دیو بچ کر یہ لٹیرے اپنے اپنے خیموں میں کھینٹ کر لے گئے تھے۔ یہ معصوم اور حقت آب عورتیں زندہ لاشوں کی مثل کر دی گئیں، بعد میں انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔

زلیخا کو دیو بچ کر اپنے ساتھ ایک خیمے کے اندر لانے والے دو نیم نیم ڈوگرا گورکھے اسے ایک طرف کونے میں دھکیلے کے بعد اس کی طرف گرسنہ نظروں سے گھورے جا رہے تھے اور اس کی بے بسی پر حفاٹھا رہے تھے۔

”خ..... خدا کے لیے م..... مجھے چھوڑ دو..... ی..... یا مار ڈالو..... لی لیکن میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔“ زلیخا ایک طرف کونے میں کھڑی تھر تھر کاہتی.. ہوئی ان کی مت سماجت کرتے ہوئے بولی۔ اس کی چادر غائب تھی، دوپٹا بھی جانے کہاں جا پڑا تھا، وہ بے چاری اپنے دوپٹے سے بے نیاز سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کی پٹنی بنائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سپید پڑ چکا تھا۔ خوف اس کی آنکھوں سے لہو کے مانند بہتا ہوا تھوس ہو رہا تھا۔ اسے تو اب اپنی جان کی بھی پروا نہیں رہی تھی، مگر اب اس کی کوشش یہی تھی کہ یہ دونوں ظالم شیطان اس کی عزت سے نہ کھلیں۔

ایک گورکھے نے قریب پڑی صراحی اٹھائی اور اپنے منہ سے لگائی۔ پھر اپنی ہتھی باچھوں کو اپنی شلو کے وار نہیں کی آستین سے پونچھتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے بولا۔ ”یہ لے رکھو! لے خالص تاڑی کا مزہ لے، پھر اس کنیا سے کھلوڑ کرنے کا لطف دوہالا ہو جائے گا۔“

اس کے بعد جیسے ایک تماشائوں رنگ شروع ہو گیا، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ لٹیرے لمبی لمبی کر پانوں اور تلواروں، قردلیاں لیے گاڑیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کی لاری پر بھی آٹھ دس خونخوار چہروں والے گورکھا لٹیرے وحشیانہ آوازوں کے ساتھ چڑھ آئے۔ انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے مردوں اور دیوڑھی عورتوں پر حملہ کر دیا۔ زلیخا اور کلثوم ہراساں ہو گئیں۔

”چلو..... چلو اترو..... جلدی۔“ پیچھے سے ولی اور رحیم نے انہیں کھد بڑا۔ دونوں اپنی سیٹوں سے اٹھی ہی تھیں کہ ایک وحشیانہ چنگھاڑا بھری اور کلثوم کے قدموں پر کوئی شے لڑکتی ہوئی آن گئی، اس نے دیکھا تو مارے وہشت کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہو گئی۔ وہ اس کے شوہر ولی خاں کا کتا ہوا سر تھا، اسے فٹس آ گیا۔ وہ گرنے لگی تو پیچھے سے زلیخا نے اسے سنبھالا دینا چاہا مگر اس کے تو اپنے اوسان خطا تھے۔ اسی وقت اس کے باپ کی بھی سر بریدہ لاش اس کے اوپر آن پڑی۔ زلیخا چیختی ہوئی آگے بڑھی قطعی سیٹ پر اس نے اپنے بھائی ولی کی سرکئی لاش پڑی۔ دیکھی، اس کی گود میں جو آٹھ سالہ بچہ بیٹھا تھا، وہ ایک گورکھا کے پیروں پہ جا گیا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ ایک دوسرے وحشی گورکھا لٹیرے نے اس معصوم کے جسم کو عقب سے اپنی لمبی تلوار میں پرو کر برے اچھال دیا۔ اس انسانیت سوز بربریت پر زلیخا کی آنکھیں کھیل گئیں، جو نو سالہ بیٹا اس کی بھائی کلثوم کے ساتھ تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روزانے کی طرف دوڑی اور اسے کسی طرح ان تک انسانیت وحشی گورکھا ٹولے کے سفاک بچوں سے بچا کر لاری سے نیچے اترا آئی..... جبکہ بھائی کلثوم کو دو لٹیرے دیو بچ کر اپنے ساتھ لے گئے، اسے بھی ایک گورکھے نے دیو چننا چاہا تھا مگر وہ اسے دھکا دے کر اپنے معصوم بچے کا ہاتھ پکڑے لاری سے اترا آئی تھی مگر یہاں بھی سفاکی اور بربریت کا بازار گرم تھا، ہر طرف قیامت صغریٰ مچی ہوئی تھی۔

اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائے؟ کہاں کی راہ لے؟ یہاں تو ہر طرف موت کا بازار گرم تھا۔ تلواروں، کر پانوں کی خوں رنگ سنسناتی ”شہا شہ“ میں بھیجا اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس کی کھلی بندھ گئی تھی۔ شاید اس نے اپنے بھائی کا انجام دیکھ لیا تھا۔ وہ اس معصوم کا ہاتھ تھامے ایک طرف کو بھاگی تھی کہ دو مسنڈے گورکھے جیتے کی نظر اس پر جمے۔ اس کے حلق سے چیخ بلند ہو گئی،

صریحی میں شاید شراب تھی، اس کے رگھو نای دوسرے ساگھی نے صراحی لی اور بولا۔
 ”جلدی کر لے۔ ابھی دوسروں کی باری آجائے گی تو اندر گھسے چلے آئیں گے سالے۔ پہلے ہم اس کا مزہ لوٹ لیں۔“

زلیخا ان کی یادہ گوئی پر سر تا پا لرز اٹھی تھی۔ گویا ان دونوں شیطانوں کے بعد اور بھی شیطان اس کی حصے داری کرنا چاہتے تھے۔ باہر دیگر خیموں سے عورتوں کی روح فرسا چیخ و پکار اور گورکھا لٹیروں کے شیطانی تمہیوں کی آوازیں جاری تھیں جو زلیخا کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں..... اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس قیامت کے گزرنے سے پہلے اپنی جان ہی ختم کر ڈالے۔

اسی وقت اس کی نگاہ قریب رہی ایک قرولی پر بڑی، وہاں ذرا قابضے پر ایک ایک کر پان بھی بڑی ہوئی تھی جو انہی دونوں خیموں کی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس طرف تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی اور جھک کر وہ قرولی اپنے ہاتھ میں.... پکڑ لی، لیکن ایک گورکھے نے پہلے ہی سے اس کی یہ حرکت بھانپ لی تھی اور اس نے بھیڑیے جیسی غراہٹ کی آواز سے اس پر جھٹا مارا اور قرولی چھین لی، بلکہ زلیخا کو بھی ویوچ لیا۔ وہ بے بس اور محصوم چڑیا کی طرح اس کے شکرے ایسے کھینچے میں پھڑ پھڑانے لگی تو دوسرے گورکھے نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر اسے بھاڑ ڈالا۔ برہنگی کے احساس نے اس عجب تاب دو شیزہ کو گھڑوں شرم تلے ڈبو دیا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے انہیں خدا کے واسطے دینے لگی جبکہ وہ دونوں شیطان اس کی بے بسی اور کمزوری سے ایک شیطانی لذت محسوس کرتے اس کی طرف ہوس ناک نظروں سے گھورتے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ زلیخا خوف زدہ نگاہوں سے ان کی طرف نکتی، پیچھے ہٹنے لگی مگر کہاں تک ہتی؟ بالآخر خیمے کی دیوار سے جا لگی اور وہ دونوں گورکھا اس کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ ٹھیک اسی وقت کوئی تیزی سے خیمے کے اندر داخل ہوا تھا۔

اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو اس نے آگے بڑھ کر ایک گورکھا کی پشت میں بھونک دی۔ اس کے حلق سے تیل جیسی ڈکراہٹ بلند ہوئی تو دوسرا چوٹک کر زلیخا کی طرف سے توجہ ہٹا کے پلٹا مگر تب تک تو وارد پہلے والے شیطان گورکھے کی پشت سے تلوار نکال چکا تھا اور وہ اس نے اس کے پیچھے سے گھونپ دی۔ اس کا پیٹ چرنا چلا گیا

اور ساری اتھریاں باہر کو آپڑیں۔ منہ خون سے بھر گیا۔ دونوں دھب کی آواز سے گریے زلیخا کی حیرت بھری نگاہ اپنے سامنے پڑی تو جیسے وہ بت بن گئی۔ اس کے سامنے شفیق علی کھڑا تھا۔

”جلدی آؤ زلیخا! وقت کم ہے۔“ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا اور زلیخا کا جیسے سکتہ ٹوٹا۔ ”شش..... شفیق..... تم..... تم.....“ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف لپکی تھی کہ شفیق نے فوراً اس کی چادر اٹھا کر اس کی طرف اچھال دی۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لیے۔ خیمے سے باہر آ گیا۔

باہر ہر طرف محشر کا سا سماں تھا، قتل و قارت گری کا ایک طوفان سا برپا تھا۔ شکر تھا کہ شفیق خود ایک گورکھے کے لباس اور ”گیٹ اپ“ میں تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، زلیخا کو اپنے کاندھوں پر ڈالا اور ایک طرف کو بھاگا۔ دور سے اسے دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی لئیرا گورکھا اپنے ”شکار“ کو پوچھنے لے جا رہا ہو۔

جلد ہی وہ اس میدانِ خارزار کو کارزار سے بہت دور نکل گئے۔ ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر وہ ذرا سستانے کے لیے رکے تو بے اختیار اپنے گھر والوں اور محصوم بھتیجیوں کا انجام یاد کر کے اس کا دل بھرا آیا اور وہ شفیق کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر رو پڑی، اور اس ہچکچوں کے درمیان اس ساری ظلم ناک شب کا حال بتا ڈالا، جسے سن کر شفیق بھی آبدیدہ ہو گیا تھا، تاہم وہ اسے تسلیاں دینے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟

بہر طور بعد میں شفیق نے اسے بتایا کہ عین وقت پر جانے اس کے دل میں کیسی بے چینی نے سرا بھارا کہ وہ گھبرا سا گیا۔ اس کے جی میں آئی کہ اپنی تسلی کی خاطر کم از کم سوچیت گڑھ تک وہ زلیخا کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی جاتا دیکھ کر اچھی طرح تسلی کر لے۔ اس نیت سے وہ بھی دانستہ اس کی نگاہوں سے چھپ کر لاری میں سوار ہو گیا تھا۔

جب گورکھوں اور ڈوگروں نے چنگیزیت کا کھیل کھیلا تو وہ بھی اس کی زد میں آ گیا، مگر اسے زلیخا کی فکر تھی۔ بڑی مشکلوں سے وہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا اور ایک گورکھے کا شکار کرنے کے بعد وہ اس کے لباس میں ذرا منظر عام میں آنے کے قابل ہوا تو پھر وہ اسے (زلیخا کو) ڈھونڈتے ہوئے وہاں آن پہنچا۔

ظلم کی یہ شب گزیدہ رات تمام ہونا تھی اور ہر ایسی شب کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک نئے

چاہیے تھے اگرچہ وہ ایسا کر بھی رہے تھے، ڈوگر اشاہی کے خلاف تازہ جنگ میں کامیابی اس کی حالیہ مثال تھی۔

”ہمیں یا تو ایک بار پھر اس جنگ میں ہمیشہ کی طرح دوستوں (کیپٹن حسین خان اور اشرف خان) کے شانہ بشانہ ہونا پڑے گا یا پھر اس سے پہلے ایک آخری اور فیصلہ کن گوریلا کارروائی کرنا ہوگی جس میں ہمیں مہندر جنگ سنگھ کو ہر قیمت پر جہنم داخل کرنا ہوگا اور اس کا کیپ ایمونیشن سمیت تباہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح اندر سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور جنگ کے اچھے اور متوقع نتائج بھی برآمد ہوں گے۔“

کمانڈر عبداللہ نے اپنی بارش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ساتھیوں سے مشورہ طلب لہجے میں کہا تو ٹھوڑی دیر آتی بحث و محیص کے بعد سب متفق ہو گئے۔

اس مختصر مگر اہم نشست کے ایک گھنٹے بعد ہی پانچ مسلح گوریلا گروپ کمانڈر عبداللہ کی لیڈ میں، دریائے پونچھ کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح عبداللہ خود بھی یہ نفس نفس اس مہم میں شامل تھا۔ باقی چار میں دو اس کے بازو یعنی بیٹے، عبدالقیوم اور عبدالرحمان تھے، تیسرا ساگی شرجیل اور چوتھا ان کا ایک نیا قریبی ساتھی قیصر تھا۔ یہ ایک اٹھارہ انیس سالہ پر خوش لوجوان تھا۔

رات اپنے نصف پہر میں وائل ہو چکی تھی اور یہ پانچوں مجاہد اسی تاریکی کا حصہ بننے، دریائے پونچھ کے دوسرے کنارے تک کامیابی سے پہنچ چکے تھے۔ یہ علاقہ کوٹلی کے قریب تھا اور یہاں سے انہیں پیادہ آگے دھیر کوٹ کی طرف روانہ ہونا تھا۔

انہیں اس بات کا اور اک تھا کہ دھیر کوٹ میں دشمنوں کے پکٹے اور چوکیاں بھی قائم تھیں اگرچہ ہرنہ میر اور ہیرہ والی مہم کی کامیابی کے بعد دشمنوں کی پیش قدمی کو کالی حد تک مشکلات سے دوچار کر دیا تھا اور پھر دونوں طرف سے تازہ اور فیصلہ کن جنگی تیاریوں کی مصروفیت کے باعث دشمن کا دھیان بھی مجاہدین کی کسی بھی ممکنہ گوریلا کارروائی کی طرف کم ہی تھا۔ اسی لیے کمانڈر عبداللہ نے یہی وقت مناسب قرار دیا تھا کہ دشمنوں کی ریڑھ کی ہڈی پر وار کر کے اسے وقت سے پہلے کمزور کروا جائے لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہ تھا کہ یہ مہم اتنی آہل تھی بلکہ اس وقت تو پورے دھیر کوٹ میں دشمنوں کی مشترکہ فوج اتری ہوئی تھی۔ میجر کالی کھرانہ کی دو بیٹالین کمپنیاں (ہندو اور گورکھا) اور ڈوگر اشاہی کا افسر اعلیٰ مہندر جنگ سنگھ بھی اپنی عسکری قوت کا ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا۔

سورے کی امید میں شیخ، زلیخا کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آیا تھا۔

☆☆☆

حجرہ دو تھان کی ایک نسبتاً بڑی سی کوشٹری میں کمانڈر عبداللہ، اپنے دونوں جوان جری بیٹوں، عبدالقیوم اور عبدالرحمان سمیت دیگر چند جاہاز ساتھیوں کے ساتھ موجود اہم نشست میں معروف تھا۔

مسلمانان جموں و کشمیر تک اس سانحہ شب گزیدہ کی خبر پہنچ چکی تھی اور پوری ریاست میں ڈوگروں اور ہندو گورکھوں کے خلاف غم و غصے کی ایک شدید لہر سی دوڑ گئی۔ انہیں پتا چل چکا تھا کہ یہ قتل عام سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا جس کے پیچھے مہاراجا اور اس کے دست راست ڈوگر اسالار مہندر جنگ سنگھ کا ہاتھ تھا۔

ہرنہ میر اور ہیرہ والی کامیاب مہم اور خان مہار اور محمود کی شہادت کے بعد ان کے قریبی ساتھیوں میں شرجیل باقی بچا تھا جو وہاں موجود تھا۔

یہ لوگ اس وقت ڈوگر اسرکار کے اہم مہرے مہندر جنگ سنگھ کو جہنم داخل کرنے کے منصوبے پر غور کر رہے تھے، سوچیت گڑھ کے اس خون ریز واقعے نے ان مجاہدین کی رگوں میں بھی لاوا سا نچا کر دیا تھا اور وہ اس کا انتقام لینے کے لیے تیار ہیں بیٹھے تھے۔

ہرنہ میر اور ہیرہ والی مہم کی کامیابی کے بعد انہیں اپنے حیالیوں کی طرف سے یہ اطلاع ملی تھی، کہ دریائے پونچھ کے دوسرے کنارے پر واقع کوٹلی میں دھیر کوٹ کے مقام پر موجود ڈوگر اشاہی کے ایک اہم افسر مہندر جنگ سنگھ نے اپنی گلست (کیپٹن اشرف حسین وغیرہ والی مہم) اور یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ بہت جلد سرحد پار سے (پاکستان سے) غیور قبائلیوں کا ایک پورا جتھا ڈوگر اشاہی سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے جوق در جوق جموں پہنچ رہا ہے تو اس نے خوب زور دار بدلہ لینے کے لیے بھارت سرکار سے مدد مانگ لی ہے اور اس سلسلے میں بھارت نے نہ صرف اس کی مدد کرنے کی پالیسی بھری ہے بلکہ اس سلسلے میں ہندو اور گورکھا کمپنیوں پر مشتمل دو بیٹالین بھیج بھی چکی تھیں جن کی مشترکہ کمانڈنگ بھارتی فوج کا ایک افسر میجر کالی کھرانہ کر رہا تھا، جس نے اپنا فوجی کیپ نالا پتاکھ کے قریب قائم کر رکھا تھا۔

کمانڈر عبداللہ کا خیال تھا کہ انہیں اس صورت حال میں کھرانہ کی دو بیٹالین کمپنیاں (ہندو اور گورکھا) اور ڈوگر اشاہی کا افسر اعلیٰ مہندر جنگ سنگھ بھی اپنی عسکری قوت کا ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا۔

READING Section

یہی سبب تھا کہ اس خطرناک مگر اہم مہم میں روانگی سے پہلے ہی کمانڈر عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں اور ساتھیوں سے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ ایک کفن... بہوش مہم ہے اور ہمیں اپنی جانوں کی پروا کیے بغیر اس میں بہر صورت کامیاب ہونا ہے۔ کیونکہ دشمنوں کے خلاف بہت جلد ہونے والی ایک بڑی جنگ میں مسلمانان جموں و کشمیر کی فتح کا دارو مدار اسی گوریلا کارروائی پر تھا۔ ان چاروں نے بھی اپنے کمانڈر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ سر بکف ہیں۔

وریا کے کنارے بنے ٹیلوں بیوں کی طرف پیش قدمی کے دوران یہ پانچوں ایک مقام پر ذرا سستانے کے لیے رک گئے۔ کمانڈر عبداللہ نے اوپر کھلے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا کہ فضا صاف مگر رکی ہوئی تھی اور آسمان روشن تھا، جس پر ٹھٹھاتے ستاروں کی روشنی میں اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ سرگوشی میں اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے ہوئے بولا۔

”ہم اس وقت چھ حصہ کے بالکل ٹھیک مقام پر موجود ہیں۔ کیونکہ ادھر ہی سے ایک راستہ نصف میل کے بعد ڈوکرا شہر کی عسکری کمپ کے ان کیمپوں کی طرف جاتا ہے، جہاں میجر کالی کھرانہ اپنی دونوں بیٹوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس طرف میں جاؤں گا اور ان کا ایسویٹیشن تباہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ہمراہ عبدالرحمان اور شرجیل ہوں گے جبکہ ہمارے دوسرے ساتھی، عبدالقیوم اور قیصر ڈوکرا کے کیمپ میں محسوس کر مہندر سنگھ کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے اور ممکنہ حد تک ان کے ڈمپ کو نقصان پہنچانے کی حتی الوسع کوشش بھی کریں گے۔“

یہ طے پاتے ہی یہ دو کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اپنے اپنے ہدف کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کمانڈر عبداللہ اپنے بیٹے عبدالرحمان اور ساتھی شرجیل کے ساتھ یہاں سے سیدھے ہاتھ کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ دوسرا بیٹا عبدالقیوم اپنے ساتھی قیصر کے ہمراہ ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔

عبداللہ نے اپنی توڑے دار راٹھل، جس کی نال کے آگے تیز دھار سنگین نصب تھی، تانے محتاط روی کے ساتھ ٹیلوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ دشمن کے ایک پکٹے کے قریب جا پہنچا۔ وہاں اسے سنانا محسوس ہوا۔ اس نے چند ثانیے محسوس کر کر دو پیش کا جائزہ لیا، اس کے بعد اپنے دونوں ساتھیوں کو ایک مخصوص اشارہ کیا وہ دونوں ایک طرف کو کہیں اور سینے کے بل

ریگ گئے۔ جبکہ خود عبداللہ بائیں جانب گھوم گیا اور سنگین پہ دست راٹھل تانے جھکا جھکا پکٹے کی جنوب مشرقی سمت کی دیوار کے قریب سرک آیا۔ اندر جھانکا تو اس کی آنکھوں میں شکاری چمک ابھری۔ پکٹا واقعی ویران اور خالی تھا مگر یہ بات اس کے لیے الجھن کا باعث بھی تھی، جس سے خطرے کی بو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی مشکلوں اور محنت سے ہننے والے پکٹے کو دشمن بھلا خالی کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ یہی وہ خیال تھا جو ایک سوالیہ آنکڑے کے مانند اس کے حلق میں اٹک گیا تھا اور جب اس نے محتاط روی کے ساتھ دیوار پھلانگ کر اندر قدم رکھا تو ایک انکی جیسے اسے سانپ سوگھ گیا اور وہ اپنی جگہ جہاں کا تھاں کھڑا رہ گیا۔ جانتا تھا کہ اس نے لاعلمی میں خطرے کے جس بٹن پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا، وہ کسی بھی وقت بارودی سرنگ کی طرح پھٹ سکتا تھا۔ یہاں جا بجا ڈوکروں کا مخصوص ہتھیار یعنی الارمنگ سٹم بچھا ہوا تھا اور پال سے باریک تار پہلی نگاہ میں تو کیا دوسری نظر میں بھی دکھائی نہیں دیتے تھے، یہ ہر طرف بچھے ہوئے تھے، یک بیک دشمن کی یہ چال سمجھتے ہی عبداللہ نے اپنی سانس تک روک لیں اور وہ دل ہی دل میں اب یہ دعا مانگنے لگا کہ اس کے وہ دونوں ساتھی جنہیں اس نے پکٹے کی دوسری جانب جانے کا اشارہ کیا تھا، کہیں وہ دشمنوں کے اس ”خاموش“ جھانسنے میں نہ آجائیں، ورنہ ان کی یہ مہم ابتدا میں ہی بری طرح ناکامی سے دوچار ہو جائے گی بلکہ یہ لوگ بھی بے موت مارے جائیں گے۔

دشمنوں نے یہ پکٹا دانستہ خالی چھوڑا تھا تاکہ کوئی بھی دشمن یہاں کا رخ بھی کرے تو پکٹے کو خالی پا کر جوش جرات میں اندر داخل ہوتے ہی، جا بجا بچھائے تاروں کے جال سے تو ضرور ہی ٹکرا جائے گا اور یوں ذرا فاصلے پر پوزیشن میں بیٹھے رخ فوجیوں کے قریب جمولتے بھاڑے بچ کر انہیں کسی بھی خفیہ پیش قدمی کے بارے میں مطلع کر دیں گے۔

عبداللہ چند ثانیے تو... سانس تک روکے اپنی جگہ جامد کھڑا رہا۔ اس کے بعد اس نے بہت سکون اور باریک بینی کے ساتھ غور کرتے ہوئے... اس ناویدہ جال کی ”ویدگی“ کا ساماں کیا اور پھر نہایت احتیاط کے ساتھ کسی تار سے ٹکرائے بغیر وہ دھیرے دھیرے پیچھے سرکنے لگے جہاں آگے ہی بڑھنے لگا کیونکہ فوراً ہی اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ابھرا تھا کہ اگر وہ ادھر ہی سے واپس پلٹ گیا تو، پھر بھی آگے نہ بڑھ سکے گا کیونکہ اس پکٹے کو بغیر کسی تار سے ٹکرائے اگر اس نے کامیابی سے پار کر لیا تو

کرتے ہوئے بھی محتاط تھے۔ تاہم قیصر کے یوں اچانک رکتے ہی قیوم نے اس کی طرف قدرے چونک کر دیکھا اور تب ہی قیصر نے اپنے ایک ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دی۔ قیوم پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ وہ رکا اور پھر اپنی رائفل کی نال کو آگے کی طرف لہرایا۔ بال بھریا ایک تاروں کا ایک سلسلہ جاتا دکھائی دیا۔ ان دونوں نے فوراً اپنا راستہ بدل دیا مگر اس طرح ان کی توجہ کچھ بٹ گئی اور یہیں ان سے ایک فاش غلطی ہو گئی کہ قیوم ایک پہرے دار کی نگاہ میں آ گیا۔

”ہالٹ! کون ہے وہاں؟“ سسٹل ڈوگر پہرے دار نے سننا تے لہجے میں کہا اور پکٹے کی دیوار سے ذرا سسر اہمار کے دیکھا بھی تھا۔ تب ہی اسے قیوم دکھائی دے گیا اور اس کے ساتھ ڈوگر پہرے دار نے اس کی طرف اپنی گن تان لی، مگر وہ اس پر گولی چلانے کی حسرت پوری نہ کر سکا، یہی وہ وقت تھا جب قیصر کو تمام احتیاط ہالائے نطق رکھتے ہوئے حرکت میں آنا پڑا۔ چونکہ وہ اور قیوم تھوڑا فاصلہ دے کر ایک دوسرے کو کور دیے آگے بڑھ رہے تھے۔ قیوم تو پہرے دار کی زد میں تھا مگر قیصر کی زد میں بر وقت وہ سسٹل پہرے دار آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ قیوم اس کا سامنی ہی نہیں بلکہ اس کے ولیر کمانڈر عبداللہ کا بڑا بیٹا بھی ہے۔

اس نے نہایت پھرتی کے ساتھ اپنی رائفل کی سنگین اس کی گردن میں بھونک دی یہ قسمتی سے وہاں موجود اس کے دوسرے پہرے دار اس کی آواز پر متوجہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے خطرہ بھانپتے ہی تیزی کے ساتھ حرکت کی اور قیصر پر اپنی گنیں تاننے کی کوشش کی کہ اچانک قیوم نے تب تک قیصر کے دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کپڑے کی بیلٹ میں اڑسا ہوا چاقو نکال کر ایک پہرے دار پر پھینکا جو اس کی شہ رگ کا فنا ہوا نکل گیا، پہرے دار کی گردن سے خون کا فوارہ اچھلا اور وہ اپنی گردن پکڑے ذبح کیے جانور کی طرح خرخرانے جیسی گھٹی گھٹی آوازیں خارج کرتے ہوئے تھوڑا کر گز پڑا۔

تیسرے پہرے دار کو قیصر نے اپنی جگہ سے بجلی کی طرح پھرتی کے ساتھ اچھل کے چھاپ لیا، جو ابھی اپنی رائفل کا گھوڑا چڑھانے کی ناکام کوشش ہی کر رہا تھا، وہ اسے رگیدتا ہوا لے گیا۔ قیوم بھی قیصر کو کور دینے کے لیے پکٹے کے اندر جا کھڑا تھا کہ کہیں اندر موجود کوئی چو تھا دشمن اس کے سامنی پر دار نہ کر جائے مگر اور کوئی نظر نہ آیا۔ قیصر نے تیسرے پہرے دار کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان دونوں نے پکٹے کا جائزہ لیا۔ خوش قسمتی سے انہیں

آگے دشمن کی شہ رگ کے قریب پہنچنا نسبتاً آسان اور کارآمد بھی ثابت ہو جائے گا۔ وہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ تاریں پھلانگ رہا تھا، اپنی سنگین کو اس نے پیروں کے قریب جھکا رکھا تھا۔ اس کی دھار سے منعکس ہونے والی روشنی میں تار میں چمک پیدا ہو رہی تھی، جو اوپر کھلے اور روشن آسمان کی مرہون منت تھی۔

اسی طرح وہ کامیابی سے یہ پکٹا کر اس کے جب دشمنوں کے گڑھ میں قدم رکھ چکا تو ٹھٹک کر رہ گیا، اسے یہ دیکھ کر ایک نہایت خوشگوار حیرت ہوئی تھی کہ اس کے دونوں سامنی بھی اسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے، وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرائے اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔

جلد ہی یہ تینوں دشمن کیمپوں کے نزدیک پہنچ چکے تھے اور اب یہاں سے ان کا اصل کام شروع ہونا تھا۔ ایمنیشن ڈسپ اسی کیمپ میں کہیں موجود تھا، جس کا ابھی انہیں علم نہ ہوسکا تھا لیکن اپنی ذہنی فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے، انہیں اس کا بھی اندازہ ہونے میں دیر نہ لگی تھی کیونکہ ایمنیشن کی مخصوص انداز کی رکھوائی ہی اس کی نشاندہی کے لیے کافی تھی۔

وہاں سخت پہرا تھا۔ کامیابی کے نزدیک پہنچ کر عبداللہ نے دل میں پکا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کیمپ کو تباہ کرنے میں اپنی جان بھی لڑا دینے سے دریغ نہیں کرے گا۔

☆☆☆

رات کی دم بہ خود تار کی میں عبدالقیوم اور قیصر محتاط روی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ اب ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے، جہاں سے سسٹل ڈوگروں کے پہرے، پکٹوں اور مورچوں کی صورت میں نظر آرہے تھے، اور ان دونوں نے ان سے بچ کر ہی رہا تھی کیمپ تک رسائی حاصل کرنا تھی۔

دونوں ایک دوسرے کو کور کیے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنے کمانڈر عبداللہ کی سکھائی ہوئی تربیت کے مطابق اپنی رائفلوں کی سنگینیں اپنے پیروں کی طرف جھکا رکھی تھیں لیکن ابھی تک کسی چھپی ہوئی تار کی چمک کا انعکاس نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب تھا یہاں ایسا کوئی الارمنگ سسٹم موجود نہیں تھا، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ چند قدم مزید آگے بڑھنے کے بعد قیصر ایک جگہ رگ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔

وہ دونوں اس وقت دشمنوں کی ناک کے نیچے سے

کے چہرے پر جی ہوئی تھی۔ قیوم نے ذرا وزویدہ نظروں سے اندر حجرے کی طرف دیکھا تو اسے داخلی راستے سے پہلے والے پہرے دار کی جھلک دکھائی دی اور وہ سنسناٹا تھا..... وہ چرخئی والے وائرلیس ٹیلی فون پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا۔

”عطرہ؟“ بے اختیار قیوم کے ٹھٹھے ہوئے ذہن میں یہ لفظ ابھرا تھا اور پل کے پل اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ان دونوں پر شہجے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی۔

مذکورہ پکٹے میں یقیناً ان کے ہی کوئی خاص اور ”چنیدہ“ آدمی منتھین ہو سکتے تھے اور یہ اتفاق ہی تھا کہ قیوم اور قیصر کا ٹکراؤ بھی پہلے انہی سے ہو گیا۔ یہی بات ان کی ابھن کا سبب بنی تھی اور اب وہ ان کے بارے میں کنفرمیشن کرنا چاہتا تھا۔

قیوم نے اپنی آنکھوں کو دائرے کی صورت غیر محسوس انداز میں گھما کے، سامنے اور وائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ ان کے عقب میں تو گلیاں تھا دائیں بائیں کیمپ ڈرائیو والے پر تھے اور وہاں دو چار پہرے دار نظر آتے تھے، وہ بھی نیند اور تنگن سے السائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ سامنے ان کا مطلوبہ کیمپ تھا۔ اسی وقت قیوم کی سماعتوں سے پہلے والے پہرے دار کی کھردری مگر پارغب آواز نکرائی۔ ”ہیلو ہیلو..... کاشن۔ پلزز ہیلو..... کاشن۔“

یہی وہ وقت تھا جب قیوم نے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حرکت کی۔ اسے لات چلانے کا موقع تب ہی ملا تھا جب اس دوسرے پہرے دار نے لمبے بھر کو اپنی گرزن ڈراموڈ کر حجرے کی طرف دیکھا تھا اور قیوم کی لات تیزی سے حرکت میں آگئی تھی۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے اچھلی اور قیصر نے موقع تاک کر اس پر جھپٹا مارا اور قیوم نے اپنا ابتدائی کام ختم کر حجرے والے پہرے دار کی طرف پیش قدمی کی۔ پہرے دار کی اچانک اس پر نگاہ پڑی اسے یوں اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتا دیکھتے ہوئے۔ اس نے چکری دار وائرلیس فون سپیکر اپنی گن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ قیوم نے اپنی گن کی سنگین سیدھی کر رکھی تھی۔ وہ اس ڈوگرے فوجی کے سر پر پھینچ چکا تھا۔ قیوم نے سنگین اس کے پیٹ میں گھونپنا چاہی مگر ڈوگرے نے سمجھنے کی کوشش میں خود کو اس مہلک دار سے بچا یا اور پیٹ کے بجائے سنگین اس کے

اندازہ ہو گیا تھا کہ اسی پکٹے کو پار کر کے وہ اپنی مطلوبہ سمت میں آگے بڑھ سکتے تھے لیکن مسئلہ وہی تھا کہ ادھر بھی سخت پہرا تھا۔ قیوم کے ذہن رسا میں اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کودا۔ اس نے قیصر سے کچھ کہا اور اس نے مسکرا کر اپنے سر کو اثبات میں جنبش دی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ بڑے آرام سے اور بلا خوف پکٹے کے راستے سے اپنی مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گئے۔

ان کے جسموں پر اب ڈوگرہ پہرے داروں کی مخصوص وردیاں تھیں۔ آگے دو تین مورچے اور مسلح ڈوگرہ فوجیوں کے ٹھکانے آئے، مگر کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی مگر رہائشی خیمے کی طرف جاتے ہوئے انہیں اچانک گورکھا فوجیوں نے روک لیا۔

قیوم اور قیصر منزل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سامنے انہیں وہ رہائشی کیمپ نظر آ رہا تھا، جس میں ڈوگرہ فوجی سالار مہندر جنک سنگھ اپنی موت سے بے خبر محو استراحت تھا۔ دونوں... دروی پوش ڈوگرہ فوجیوں میں سے ایک نے کڑک دار لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔

”تم کدھر اس طرح منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ تمہیں تو اس وقت اپنے پکٹے میں موجود ہونا چاہیے تھا؟“ جو اپنا قیوم نے فوراً مؤدبانہ لہجے میں کہا۔

”جناب! ہمارے ایک مٹھے خیالی نے ایک ضروری اطلاع دی تھی وہ ہم سالار (سالار) صاحب کو ترنت پہنچانے آگئے ہیں۔“ قیوم نے اپنے لہجے کو خالص گورکھا اسٹائل میں بنانے کی کوشش کی تھی۔ فوجی اس کی بات پر چونکے، پھر دوسرے نے اسی طرح بارعب انداز میں پوچھا۔

”کس نمبر کے پکٹے سے آئے ہو تم دونوں؟“

”جی فور انمبر سات سے۔“ اس بار قیصر نے کہا۔

”سات نمبر سے.....؟“ پہلا والا الجھ کر بولا۔ قیوم کی بھانپتی نظروں نے اس کی پیشانی پر بڑنے والی سلوٹوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی۔ کیونکہ پہلے والے کا سوالیہ انداز کھٹک پیدا کرنے والا تھا۔

”مگر وہاں تو۔“ وہ کچھ کہتے کہتے رکا اس کے بعد اس نے اپنے ساتھی کو ان پر نگاہ رکھنے کو کہا اور پاس بنے ایک حجرے میں چلا گیا۔

پہلے والے پہرے دار کے ہاتھ میں مشین گن تھی جو اس نے ان دونوں پر تان رکھی تھی۔ قیوم اور قیصر کے دل بری طرح بوجھ دھڑا رہے تھے۔ ڈوگرے فوجی کی نگاہ ان

تھا۔ اس نے زیر لب کلمہ پڑھا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔

☆☆☆

ایک تاریک گوشے کی طرف پیش قدمی کرنے کے بعد عبداللہ نے اپنے بیٹے عبدالرحمان اور سامحی شرجیل کو چند مختصر مگر ضروری ہدایت دی اور ایک نسبتاً الگ گوشے کی طرف

پہلو میں پیوست ہو گئی، تب تک وہ بھی اپنی مشین گن سیدھی کر چکا تھا اور اس نے لیلیٰ دبادی۔ مشین کے آتشیں دہانے سے گولیوں کی پوری باڑ چنگھاڑتی ہوئی خارج ہوئی اور قیوم چھٹی ہو کر گر پڑا۔ وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ خود ڈوگر فوجی بھی بری طرح کھال تھا اور زیادہ دیر اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ لہذا گر کر اوتوب تک قیصر دوسرے پہرے دار کو چنم داخل کر چکا تھا۔

اس نے اپنے ساتھی کا یہ انجام دیکھا تو کرب و دکھ کی لہر نے اس کے پورے وجود کو آنسو بنادیا مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی رقت بھری اس کیفیت پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے ذرا بھی دیر ہو گئی تو نہ صرف اس کے ساتھی کی قربانی ضائع چلی جائے گی بلکہ وہ خود بھی بے موت مارا جائے گا، جبکہ ابھی اس کا مشن ادھورا تھا اور قاترنگ کے شور کی وجہ سے ٹیمپ میں کھلبلی مچ چکی تھی، اس نے سب سے پہلے اس زخمی ڈوگرے کو سٹین گھونپ کر ہلاک کیا پھر اس کی مشین گن قبضے میں کرتے ہی ٹیمپ کی طرف دوڑا۔ اندر داخل ہوا تو مہندر جگ سنگھ ہاتھ میں پستول لیے اپنی مسبری سے اٹھ رہا تھا۔ ایک پستول وہ اپنے بچکے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا۔ قاترنگ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ جیسے ہی قیصر چارحاشہ انداز میں اندر داخل ہوا، تو مہندر سنگھ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو چونکا کیونکہ وہ ڈوگرے پہرے دار کی مخصوص دردی میں تھا لیکن قیصر کے تیوروں اور چارحاشہ انداز نے اسے پل کے پل بہت کچھ سمجھا دیا اور..... اس نے اس پر گولی چلا دی۔ قیصر کے حلق سے ایک کرب ناک چیخ خارج ہوئی۔

گولی اس کے دائیں پہلو میں پیوست ہو گئی تھی لیکن اس نے بھی اپنی گن کی لیلیٰ دبادی، جس کی نال کارخ پہلے ہی مہندر جگ سنگھ کی طرف تھا۔ وہ گولیوں سے چھٹی ہو کر گرا اور وہیں ختم ہو گیا۔

مہاراجا کا دستو راست اور سوچیت گڑھ میں ہزاروں مسلمانوں، بوڑھوں اور محصوم بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے، اور پاک دامن مسلم خواتین کی عصمت دردی کر دینے والا سفاک و رندہ صفت ڈوگرے سالار بالآخر اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ قیصر زخمی حالت میں داہیں پلٹا اور اس کے سامنے مئی گوردھار ڈوگرے فوجی ہاتھوں میں راٹھلین لٹے تے کھڑے تھے۔ قیصر کا مشن پورا ہو چکا

قاریبن متوجہ ہوں

پہچا

☆

کچھ عرصے سے بعض مقامات سے یہ شکایات مل رہی ہیں کہ ذرا بھی تاخیر کی صورت میں قاریبن کو پرچا نہیں ملتا۔ ایجنٹوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ پرچا نہ ملنے کی صورت میں افادے کو خط یا فون کے ذریعے معزز جزیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

☆ ایک ہفت روزہ کے ایڈیٹر کی جانب سے

☆

☆

رائیٹے اور مزید معلومات کے لیے

نور عباس

03012454188

جاسوسی ڈائجسٹ پبلی کیشنز

سٹریٹس، جاسوسی، پاکیزہ، سرگرسٹ

C-62، فیروز ٹاؤن، اسلام آباد، سگ، اتھارٹی میں کوری روڈ، کراچی

☆

☆

☆

☆

☆

انہوں نے گریہ قدمی سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ دو ہندو بھارتی فوجی ایسویٹیشن کیمپ کی مشرقی سمت کی طرف کھڑے آپس میں باتوں میں مشغول تھے، جبکہ چاروردی پوش مسلح فوجی ان سے ذرا فاصلے پر موجود تھے۔ یہاں ذرا قریب پہنچ کر عبداللہ نے اپنے بیٹے عبدالرحمان کو ایک مخصوص اشارہ کیا، وہ ان سے جدا ہو کے تھوڑے فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر حلق سے عجیب آواز خارج کی۔ آواز کا بجم سچ اس نے صرف اسی قدر رکھنے کی کوشش کی تھی کہ صرف قریب کے دو پہرے داروں کے کانوں تک ہی پہنچے۔ یہ آواز ایسی ہی تھی جیسے کوئی جانور اچانک کسی کو دیکھ کر ہڈک کے بھاگا ہو۔ وہ دونوں پہرے دار اس آواز پر چونکے۔ ایک نے آواز کی طرف اپنا رخ پھیرا اور دوسرا اپنی رائفل تانے سے کور ورتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔

جب وہ دونوں خاصے فاصلے پر چلے گئے تو عبداللہ نے شرجیل کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے مخالف سمت کی طرف ریٹک گیا اور جہاں وہ چار فوجی کھڑے تھے، ان سے ذرا فاصلے پر جا کے وہی عمل کیا جو عبدالرحمان نے کیا تھا۔ توجیح کے عین مطابق ان میں سے صرف دو فوجیوں نے اس آواز کی جانب محتاط روی سے حرکت کی تھی، باقی دو اپنی جگہ پر کھڑے رہے، البتہ ان کا وہ بیان اب اپنے انہی دونوں ساتھیوں کی طرف مبذول ہو چکا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب عبداللہ نے بہ سرعت اپنی جگہ سے حرکت کی اور سرک کر ان کے بالکل قریب جا پہنچا اور پھر اپنی رائفل کی سنگین ایک کی پشت میں گھونپ دی۔ وہ ایک ٹھٹی ٹھٹی گراہ آمیز توجیح کے ساتھ تورا کر گرا تو دوسرے نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا رخ پھیرا۔ عبداللہ کو گھات مل چکی تھی، لہذا مات و من کا مقدر ٹھہری، دوسرا فوجی ابھی اس کی طرف بہ مشکل پلٹا ہی تھا کہ عبداللہ نے رائفل کی سنگین توجیح کر رائفل کا ٹھوس کنڈا اس کی گن پٹی پر بجا دیا۔ اس نے تیزی سے ایسویٹیشن ڈمپ کی طرف رخ کیا مگر ابھی چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا کہ بری طرح ٹھٹک گیا۔

اسے گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ سمت وہی تھی جدھر گھات لگا کر شرجیل نے ان دونوں جیوں کو پوچھنا تھا، مگر شاید شرجیل سے کہیں کوئی فاش غلطی ہو گئی تھی۔ ایسویٹیشن ڈمپ کے قریب ایسی غلطی خود ان کے لیے کسی بارود کے ذخیرے پر پاؤں رکھنے کے مترادف تھی کیونکہ اس ”حسابی“ مقام پر ایسا ذرا سا مٹھکوک واقعہ بھی پوری ہندو اور

ڈوگر فوجیوں یہاں متوجہ کرنے کا باعث تھا، لیکن یہ غلطی ہو چکی تھی مگر عبداللہ نے تو اپنی جان پر کھیل کر یہ اہم ترین مشن پورا کرنے کی قسم کھا رکھی تھی سو وہ نہیں رکا اور روانہ وار ووڑتا ہوا ایسویٹیشن والی اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ جس کی دیواریں ریت اور گاجتی مٹی سے بنائی گئی تھیں۔

اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنی طائرانہ نظروں سے جائزہ لیا اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد فلیٹوں (فتیلوں) کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ چار پانچ فلیٹوں کو آگ لگا کے وہ دوسری سمت سے باہر کی طرف لپکا تھا کہ ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کا بیٹا عبدالرحمان اور شرجیل زخمی حالت میں سات آٹھ ڈوگر اور بھارتی فوجیوں کے زرخے میں آچکے تھے سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس کے دونوں ساتھی کسی وقت بھی اپنی جان سے جاسکتے تھے۔ اس نے وہیں سے انہیں لٹکارا۔ دشمن اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک مجاہد کو اپنے اسلحے اور بارود کے ڈھیر پر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ عبداللہ حلق کے بل چلا کے بولا۔

”میرے ساتھیوں کو جانے دو۔ ورنہ میں بارود کے ڈھیر میں گولی چلا کر سب کو خاک کر ڈالوں گا۔“ کہتے ہوئے اس نے اپنی رائفل کا رخ اندر بارودی ذخیرے کی طرف کر دیا۔ اگرچہ فلیٹوں کو وہ شعلہ دکھانا چکا تھا، مگر ابھی انہیں بلاسٹ ہونے میں چند سیکنڈ باقی تھے مگر دشمن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کی پہلے ہی قبر کھود چکا ہے۔

پھر سب کچھ چشم زدن میں ہی وقوع پذیر ہو گیا۔ وہ چند سیکنڈوں میں یا تو اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا اور اپنے بیٹے سمیت اپنے ساتھی شرجیل کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا، یا پھر ان کا وہ بیان ذرا ادیر کو بیٹا کر انہیں پہلے نکل بھاگنے کا موقع دیتا مگر اس میں اس کی اپنی موت بیٹنی تھی اور وہی ہوا وہ دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرنے لگا تھا۔ اس کے عقب میں ایک سماعت فٹن دھماکا ہوا اور اس کا وجود سیکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ دشمن اس کی طرف متوجہ تھے، ان میں افراتفری مچ گئی۔ دشمن کیمپ پر آگ اور شعلوں کی سرخ چادری تن گئی تھی۔ عبدالرحمان اور شرجیل اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے مگر عبدالرحمان کو اپنے باپ کی شہادت کا دکھ بھی تھا اور شرجیل کی آنکھیں اپنے بہادر کمانڈر کی اس بے مثال قربانی پر آبدیدہ ہو گئی تھیں۔

بہر طور انہیں پورا یقین تھا کہ اب دشمن کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اور... آئندہ ہونے والی جنگ ان کی شکست کا

باعث بننے والی تھی اور وہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے فتح و کامرانی مسلمانان جموں و کشمیر کے نام لکھ دی تھی، کیونکہ اس کے کچھ ہی روز بعد ڈوگر! اور گورکھوں کو اس جنگ میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بری طرح پسا ہو کر پیچھے ہٹ گئے تھے اور مہاراجا ہری سنگھ کو بالآخر اپنی راجدھانی سے کنارہ کش ہونا پڑا لیکن اس نے پاکستان کے اس انوٹ انگ کشمیر کو بہ ظاہر آزاد اور کشمیریوں کے حق... خدامادیت کے نام پر کرنے کے دھوکے میں اسے بھارت کے نام لکھ دیا اور اسے ہندوستان کی ریاست میں شامل کر کے تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب رقم کر ڈالا۔

☆☆☆

(پیش منہر)

اس دل دوز واقعے کے بعد داوی میں زبردست کشیدگی پھیل گئی۔ ٹوہانا چوک پر آئے دن بھارت اور اس کی غاصبانہ و ظالمانہ دراندازی پر احتجاج اور بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف تقریریں اور مرتے دم تک ان کے جبر و استبداد سے لڑنے کا عزم کیا جاتا۔

شیر علی اپنے خاندان کی برباوی، اپنی ماں اور بہن کی موت کے بعد اپنا راستہ مجاہدوں کے ساتھ طے کر چکا تھا۔ وہ اب انہی کے تربیتی کیمپ میں اپنے روز و شب گزارا کرتا تھا۔ وہ بغیر کسی اشد ضرورت کے کسی سے فالتو بات نہیں کرتا تھا۔ رحیم اور شجاع اسے گوریلا طرز کی ٹریننگ دینے میں مصروف تھے۔

کمانڈر عبدالرحمان نے اگرچہ شیر علی کو اپنے ہاں رہنے کی پیشکش کی تھی، لیکن شیر علی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے اب اپنا جینا مرنا بھی ان مجاہدین کے ساتھ کر دیا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ وہ گل نور کو بھی فراموش کیے ہوئے تھا، مگر اس کی فراموشی ایک اہم مقصد کی تکمیل تک محدود تھی اور وہ اہم مقصد تھا کرل ستیوارام اور کیپٹن بھگوت کی موت۔

یوں بھی ان دنوں مجاہدین نے امیراں کدل ملہا پر واقع اس بھارتی فوجی ٹھکانے کو کرل ستیوارام اور کیپٹن بھگوت کھنپال سمیت نیست و نابود کرنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔

نائب کمانڈر شجاع اور رحیم اس مہم کو جلد از جلد سر کرنے کا حتمی ارادہ کیے ہوئے تھے، جبکہ شیر علی کی ابھی تربیت تکمیل نہیں ہوئی تھی اسی لیے اسے اس اہم مہم میں شامل نہیں کی گئی۔ اس بات نے شیر علی کو بے

چمن کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچا گیا تھا؟ جبکہ وہ تو بھارتی فوجیوں کے امیراں کدل ملہا اور موتی بھون جیسے اہم ٹھکانے سے کامیابی کے ساتھ فرار بھی ہوا تھا جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ کس قدر جبری اور چابک دست تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ ان کے ٹھکانے کے پیچھے پیچھے سے بھی واقف تھا۔

اس نے اس مہم میں شمولیت نہ ملنے کی پور زور احتجاجی شکایت جب کمانڈر عبدالرحمان سے کی تو انہوں نے بھی اس سے ایک ایسی اور عجیب بات کہہ ڈالی کہ وہ ہکا بکارہ گیا۔

”شیر علی! میں تمہارے عزم اور حوصلے کی قدر کرتا ہوں... اور تمہارے دل میں جلتی ہوئی اس آتش انتقام سے بھی...“

بنخونی واقف ہوں، جو ان بھارتی غاصبوں کی ہی لگائی ہوئی ہے لیکن صرف انتقامی جذبات ہی ایسی اہم نوعیت کی مہمات کے لیے کافی نہیں ہوا کرتے پٹا! عبدالرحمان نے اپنی پارٹس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پُر شفقت لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو شیر علی حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا:

”محترم ایہ انتقام کا جذبہ ہی تو ہے، جو ہمیں ابھی تک ان غاصب بھارتی فوجیوں کے سامنے سیدہ پلائی دیوار بنایا ہوا ہے اور ہم ان کے سامنے ابھی سے نہیں ہلکے گئی سالوں سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کے ظلم و ستم اور جبر و استتصال کے سامنے اسی جذبے نے ہی تو ابھی تک ہمیں جھکنے نہیں دیا اور رہی بات میرے انتقام کی تو... شاید اسے آپ نے ایک ذاتی نوعیت پر محمول کیا ہے، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ میں تو ہر اس کشمیری نوجوان کی طرح اسی دن سے ہی آزادی کی شمع اپنے اندر روشن کیے ہوئے ہوں جب سے ہماری داوی میں ان بھارتی درندوں نے اپنی اجارہ داری و دراندازی قائم کرنے کی کوشش کر رکھی ہے۔ کیا آپ ڈل گیٹ والا واقعہ بھول گئے؟ آپ نے خود میرے گھر پر آ کر میری پیٹھ ٹھونک کر مجھے شاباشی دی تھی۔ اس وقت تک تو میرے گھر والوں پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی، تو پھر وہ میں نے بھلا کس انتقامی جذبے کے تحت کیا تھا؟“

”مجھے سب یاد ہے میرے بچے!“ وہ اسی طرح شفیق لہجے میں بولے۔ وہ واقعی اس کی بات سے لاجواب ہو گئے تھے۔

”لیکن شجاع اور رحیم کے مطابق تمہاری تربیت کا معیار ابھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا ہے اور تمہیں ایسی خطرناک اور اہم مہم پر بھیج کر ہم اپنے مستقبل کے بہادر اور

پھر عزم کمانڈو کو خارج نہیں کر سکتے۔“

کمانڈر عبدالرحمان کی دلیل بھی اپنی جگہ تھی لیکن شیر علی مطمئن نہ ہوا اور نہ ہی عبدالرحمان کو اس سلسلے میں قائل کرنے میں کامیاب ہو سکا لیکن حکم عدولی اور سرکشی بھی اس کی سرشت میں شامل نہ تھی۔ لہذا اس نے چپ سادھ لی مگر اس کے اندر کی آگ کم نہ ہوئی تھی بلکہ وہ پوری شدت کے ساتھ بھڑکتی ہی رہی تھی۔

اس روز کی شب وہ شجاع اور رحیم کو موتی بھون والی ہم پر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کے اپنے دل و دماغ میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ شجاع اور رحیم اپنے پانچ کمانڈو مجاہدین کے ساتھ جب امیراں کدل کی طرف روانہ ہو گئے تو شیر علی بھی خود کو نہ روک سکا، اس نے سوچا تھا کہ جب وہ وہاں سے واپس آسکتا تھا تو پھر جانے میں اسے کیا تامل تھا؟

ان مجاہدین کے روانہ ہوتے ہی وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنی مختصر ”تجاری“ کے بعد انتہائی رازداری سے مجاہدین کے اس کیپ سے روانہ ہو گیا۔

وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دشمن سے برسر پیکار ہونے کے لیے کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے عزم و جوش ہی کافی ہوتا ہے ایک سچے مسلمان مجاہد کا ہتھیار اس کا ایمانی طور پر پختہ ہونا ہی کافی ہوتا ہے پھر یوں بھی وہ مجاہدین کے اس تربیتی کیپ میں کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا؟ اس نے مختصر مدت میں ہی اسکی، جو بھی سیکھا تھا وہ اسے ناکافی ہرگز محسوس نہیں ہو رہا تھا۔

اس ہم میں تنہا نکلنے کے جذبے سے سرشار وہ۔ امیراں کدل ہل والے راستے پر ہو لیا تھا۔ اس نے موتی بھون تک جانے کے لیے وہی راستہ اپنایا تھا جس سے وہ فرار ہو کے لوٹا تھا۔

ایک مطلوبہ مقام پر پہنچ کر وہ دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنی اسلحہ کی کٹ سر پہ لا درگی تھی۔ سخت سردی میں پانی کی برودت نے اسے بری طرح ٹھنڈا کر رکھا تھا، مگر اسے اب ان موسمی اثرات کی کب پروا رہی تھی۔ وہ بہ آسانی رات کی تاریکی میں اپنے الگ راستے پر گامزن تھا اور یوں دوسرے کنارے پر جا پہنچا۔ دشمن کے علاقے یعنی ”ریڈ زون“ میں پہنچتے ہی اس نے مشین گن اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ وہ سب سے پہلے اس شیطان صفت سفاک درندے کیپٹن بھگوت کھٹیاں کا شکار کرنا چاہتا تھا۔

آج جانے کیوں آسمان بھی اسے تاریک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تاریکی کا فائدہ اٹھانے آگے ہی آگے بڑھتا

رہا۔ پھر ایک جگہ روشنی دیکھ کر وہ رکا۔ وہ دشمن مورچے کے قریب پہنچ چکا تھا اور یہاں سے آگے موتی بھون کے کھنڈرات کا علاقہ شروع ہوتا تھا جہاں بھارتی فوجی کیپ قائم تھا۔

مورچے کے اطراف کا تقریباً تیس چالیس گز تک کا علاقہ گھاس اور خود رو جھاڑیوں سے صاف کیا جا چکا تھا تاکہ کوئی ان کے مورچے کے قریب نہ پہنچ پائے اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے بھی تو وہ نظروں میں آسکے۔ یہی مشکل شیر علی کو ٹھوڑا پریشان کر گئی تھی۔

وہ چند ٹاپے دیں تاریکی کا حصہ بنا بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا راستہ بدلا۔ پھر مورچے سے دور اس مقام پر ٹھہر گیا جہاں سے خود رو جھاڑیوں کا سلسلہ موقوف ہوتا تھا۔

اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے غور کیا کہ اب تک مجاہدین کا ٹولا کہاں تک نکلتے میں کامیاب ہو سکا ہوگا؟ کیونکہ اس کے اعزازے کے مطابق اب تک انہیں اپنی کارروائی کی ابتدا شروع کر دینی چاہیے تھی۔ شاید وہ اسی بات کا منتظر تھا کہ افراتفری کا کوئی سماں پیدا ہو تو وہ اپنی پیش قدمی کو دشمن کے مرکزی ٹھکانے تک ممکن بنا سکے مگر اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے۔ بے کار بیٹھنے سے بھی اسے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے خود ہی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ ابھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ اچانک اسے سامنے موتی بھون کے علاقے سے ایک تیز چمکتا شعلہ سا تاریک آسمان کی جانب اٹھتا دکھائی دیا اور وہ چونک گیا۔ اس کا مطلب وہ جانتا تھا، ایسا اس کے ساتھ بھی ہو چکا تھا، جب فرار ہوتے وقت اسے دیکھ لیا گیا تھا اور دشمن نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ ”فلش بم“ کار کیا تھا۔ تو گویا اس کے ساتھی مجاہد دشمنوں کی نگاہ میں آچکے تھے؟ اس نے سوچا۔

ٹھیک اسی وقت دور کہیں اس کی سماعتوں میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی، اس کے اعصاب یکلخت تن گئے۔ گولیوں کے ساتھ ہی دھماکے اور بھاری گنوں کی سبب خراش آوازیں بھی سنائی دینے لگیں تو وہ اٹھا اور سینے اور کہنیوں کے بل پر تیزی کے ساتھ مورچے کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔

بلاشبہ اس نے ایک خطرناک رسک لیا تھا۔ محض اس خیال سے کہ دشمن مورچے کی توجہ دوسری جانب ہٹ چکی ہو گی مگر ایسا نہیں تھا۔ بے شک مورچے میں موجود دشمن دوسری طرف متوجہ ہو چکے تھے، مگر ایک دو نے سامنے بھی نگاہ

وہ آگے بڑھا۔ اس کا رخ کیپٹن بھگوت کھپال کی طرف تھا لیکن اس کی ٹڈ بھڑ ایک مسلح بھارتی ٹولے سے ہو گئی۔ جو وہاں گھات لگائے بیٹھا تھا اور شاید مجاہدین پر دوسری سمت سے حملے کے لیے ہر توجہ رہا تھا۔

ادھر مجاہدین بھی سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے اور دشمنوں کی اس روز دالی سفاکانہ کارروائی کا بھرپور انتقام لینے پر تھے ہوئے تھے لیکن شیر علی کو محسوس ہو رہا تھا کہ مجاہدین کی پیش قدمی کو دشمن بڑی کامیابی سے روکے ہوئے تھا اور مجاہدین اس وقت صرف دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے تھے۔

تو کیا ان کا حملہ ناکام گیا تھا؟ اس نے ہل بھر کو سوچا۔ جس ٹولے سے اس کی ٹڈ بھڑ ہوئی تھی، وہ دوسری جانب سے مجاہدین کی اس دفاعی پوزیشن کو بھی کمزور کرنے کی نیت سے آگے بڑھنے کے لیے پر توجہ ہوئے تھا مگر شیر علی نے اپنی کٹ سے وودستی ہم ان کی طرف اچھال دیے۔ ایک ساعت شکن دھماکے میں اسے دشمن فوجیوں کی کریہہ انگیز چھین سنائی دی تھیں، وہ سرشار ہو گیا اور تیزی سے آگے بڑھا مگر فوراً ہی رکا۔ اسے یوں لگا جیسے اچانک ہی قائرنگ کا سلسلہ بتدریج موقوف ہونے لگا ہو۔ وہ ہی خیال ذہن میں آتے تھے۔ پہلا تو یہ کہ مجاہدین کو فتح حاصل ہوئی تھی جس کا امکان کم ہی تھا، کیونکہ اس طرح اچانک قائرنگ کا سلسلہ تھمتا کوئی اور معنی بھی رکھتا تھا، جبکہ دوسرا خیال شیر علی کے ذہن میں آیا تھا کہ مجاہدین پٹ چکے تھے۔

بہر طور وہ اپنی کن سنبھالے آگے بڑھا۔ اس کا ہدف کیپٹن بھگوت کا کیمپ تھا۔ وہ ابھی کھنڈرات کے اندر ہی ہنک رہا تھا مگر درست سمت میں بڑھ رہا تھا۔

ایک مقام پر پہنچ کر تو اسے ایکا ایکی خاموشی اور سنائے کا احساس ہوا۔ اس کے دل و دماغ میں طرح طرح کے اندیشے سر اٹھانے لگے۔ تب پھر اچانک ہی اس کے ہمایا تک اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔

وہ ایک شاسا مگر مکروہ آواز تھی جسے سن کر شیر علی کو اندازہ ہو گیا کہ مجاہدین پساہی کے قریب تھے۔ بلکہ انکس ایک جگہ پر محبوس ہونے پر مجبور بھی کر دیا گیا تھا۔

”خبردار اتم سب ایک ایسے گوشے میں مقید ہو چکے ہو جو کھل طور پر ہماری زون میں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے تم سب اپنے ہتھیار ڈال دو۔“

یہ اس خبیث کیپٹن بھگوت کی آواز تھی۔ یکلخت شیر علی کے اعصاب تن گئے۔ اس کے پاس فقط دو ہی وقتی ہم بچے

رکھی ہوئی تھی۔ ان کے پاس جدید انفراریڈ دوربین تھی لیکن شیر علی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ابھی تک ان کی زد میں نہیں آیا تھا لیکن تمھوڑا قریب پہنچنے ہی ایک دشمن کو اس کا حرکت کرتا ہوا دکھائی دے گیا۔ اس نے اپنی دوربین مارا شین گن کی نال اس کی طرف گھمادی اور ٹیکر دیا دیا۔ گولیوں کی گرج دار اور خوفناک باڑ نے شیر علی پر شب خون مارنا چاہا تھا لیکن وہ بھی ایسے کسی اچانک اور ممکنہ خطرے کے لیے تیار تھا اور اپنی سماعتوں کو آواز پر مرکوز رکھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی اس نے گولیوں کی گرج سنی اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ لڑھکنی لگائی اور پھر فوراً ہی اٹھ کر دوگ زیگ انداز میں مورچے کی طرف دوڑ لگا دی۔

یہ اس کا بہادرانہ اور سرفروشانہ جذبہ ہی تھا کہ جسے اس نے اس اقدام پر اکسایا تھا، کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، وہ سر سے کفن باندھ کے نکلا تھا، واپس لوٹنے کے لیے نہیں، آگے بڑھنے اور دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔

اس نے دوڑتے ہوئے جوانی قائرنگ بھی کر ڈالی۔ اس وقت مورچے کے بیشتر فوجی دوسری طرف مصروف ہو چکے تھے۔ شیر علی کی قائرنگ سے اسٹین گن دالاز د میں آ گیا۔۔۔ قائرنگ موقوف ہوتے ہی شیر علی نے بھی اپنی دوڑنے کی رفتار تیز کر دی اور دراندہ دار مورچے کی دیوار پھلانگ کر زخمی شیر کی طرح گرجتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہاں دو بھارتی فوجی اسے یوں دراندہ دار اپنے سامنے کو دتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خوف زدہ سے ہو گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے شیر علی نے اندر کودتے ہی ان پر چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ ان دونوں کو بیک وقت رگیدتا ہوا زمین پر آ رہا تھا۔ پھر سنبھلتے ہی اس نے ایک کی ٹھوڑی پر اپنی گن کا ٹھوس کندا رسید کر دیا اور دوسرے کے پیٹ پر اپنا گھٹنا پوری قوت سے رسید کر دیا۔ دشمن تکلیف سے دہرا ہو گیا، پہلے والے نے لیٹے لیٹے اپنی گن سیدھی کرنی چاہی تھی کہ شیر علی نے دوسرے مصدوب شکار کے اوپر پڑے پڑے اس پر برسٹ قائر کر دیا، اسے چھلنی کرتے ہی، اس نے دوسرے کو بھی ڈبیر کر دیا۔ مورچے پر اب اس کا قبضہ تھا۔ اس نے اندرونی گوشے کا رخ کیا اور وہاں سے موٹی بھون کیمپ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک تاریک گوشے میں جا چھا۔ قائرنگ کا سلسلہ جاری تھا اور اس کے آہنگ سے صاف صاف قائرنگ کی طرف قائرنگ تھی۔

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ پیریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو ایسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

← ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

← ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

وہ زخمی ہو کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر شیر علی ملک الموت بنا اس کے سر پہ جا پہنچا۔

”کہہ جا رہے ہو کیپٹن بھگوت؟ اپنی موت سے تو نظریں ملا لو ذرا۔“

شیر علی نے نفرت اور غیظ بھرے جوش تلے اسے لٹکا رہا تو اسے کھنڈر میں ہونے والی مدھم مدھم روشنی میں وہی ”ہاتھ بھر“ کا چھو کر اگن ہاتھ میں لیے کھڑا نظر آ گیا۔

”ظالم انسان! تو نے اس داوی کے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، نہ جانے کتنی عفت مآب پاک دامن عورتوں کو اپنی ہوس کی بھینت چڑھایا ہے۔ دیکھ لے اپنی موت کا انجام اپنی آنکھوں سے اور مجھے بھی۔“ شیر علی کہتے ہوئے خون کے آنسو رو پڑا۔

”پہچان لے مجھے اے ظالم انسان کہ ہر ظلم کو زوال ہے اور ہر حوصلہ حق کو کمال زور ہے۔ میں وہی ہوں جس کے گھر پہ تو نے شب خون مارا۔ اسے آگ لگا دی۔ میری ماں کو بھی نہ چھوڑا، اور..... اور میری معصوم بہن زینو..... بھی تیری ہی بربریت کی بھینت چڑھی۔ دیکھا تھا اس معصوم کا حوصلہ کتنا کمال کا تھا تیرے اس شرمناک ظلم کے آگے کہ وہ تیری ہوس کی بھینت چڑھانے کے بجائے موت کو گلے لگانا زیادہ بہتر سمجھتی تھی اور اس نے وہی کیا بھی۔“

یہ کہتے ہی شیر علی نے اپنی گن کی نال اس کے سینے پر لگا دی۔ کیپٹن بھگوت کے چہرے کا رنگ زرو پڑ گیا۔ وہ معافی مانگنے لگا مگر شیر علی نے لمبی دہاوی۔ اتنے قریب سے پڑنے والے گولیوں کے برسٹ نے کیپٹن بھگوت کھنڈر کا ناپاک وجود بری طرح اویڑ کر رکھ دیا تھا۔

شیر علی پلٹا تو ٹھنک کر رک گیا۔ سامنے شجاع اور رحیم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے.....

مجاہدین کو اس اہم ترین اہم میں فقید المثال کامیابی حاصل ہوئی تھی اور اس کامیابی کا سہرا انہوں نے شیر علی کے سر باندھا تھا..... کرنل ستیا رام کو چھاؤنی چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا اور اس نے بھارت جا کر ہی دم لیا تھا۔

امیراں کدل پل کے موتی بھون میں واقع ایک بڑی بھارتی فوجی چھاؤنی کو تباہ کرنا مجاہدین کشمیر کا آنے والے وقتوں میں ایک بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا رہا تھا، کیونکہ اس کے خاتمے کے بعد کافی عرصے تک داوی میں امن رہا تھا۔

شیر علی اور..... گل نور بھی اپنی وہ منزل پا چکے تھے جن کا ان دونوں نے بچپن سے ہی خواب دیکھ رکھا تھا۔

(ختم شد)

تھے۔ وہ انہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے، آگے بڑھا اور ایک بوسیدہ مگر سنگلاخ... آڑ سے جھانکا تو اسے سامنے ہی ذرا قاصلے پر کیپٹن بھگوت اور اس کے آٹھ، دس مسلح فوجیوں کا ٹولا دکھیں تانے پوزیشنیں سنبھالے دکھائی دے گیا۔ وہ موتی بھون کے اس گوشے کو نشانے پر لیے ہوئے تھے، جو غلام گردشوں کے عقب میں ایک کھلے ہال کمرے کی سال خوردہ سنگی دیواروں پر مشتمل تھا اور اس کے اندر مجاہدین مجبوس ہو چکے تھے۔ جبکہ اس گوشے کو تین اطراف سے دشمن ٹولے کی بھاری تعداد نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ دوسرا ٹولا شیر علی کو آگے پیش قدمی کرتے ہوئے نظر آیا تھا۔

یہی وہ وقت تھا جب شیر علی نے پل کے پل ایک حتی فیصلہ کیا اور پہلے ایک دستی بم کی پن دانتوں سے کھینچ کر کیپٹن بھگوت والے ٹولے کی طرف اچھال دیا۔ ایک ساعت ٹھنک دھماکا ہوا..... اور دوسرا بم اس نے دوسرے ٹولے کی جانب پھینکا۔ یہ عمل ایک وقت چابک دستی اور پھرتی کا متقاضی تھا، جو شیر علی نے بڑی کامیابی سے سرانجام دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی اس نے اپنی گن سے فائر بھی کھول دیا۔

دستی بموں کے ہونے والے بے در پے دو دھماکوں اور پھر فوراً بعد مخالف سمت سے ہونے والی فائرنگ نے دشمنوں کو ہتر ہتر کر دیا اور یہی موقع اندر مجبوس مجاہدین کے لیے کافی تھا اور وہ اس پر حیران بھی تھے کہ یہ بھی امداد کہاں سے آ پہنچی تھی۔

درحقیقت شجاع اور رحیم کو پہلے پہلے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، اگرچہ اس میں ان کے کچھ ساتھی بھی مارے گئے تھے، لیکن کامیابی کے اسی جوش میں انہوں نے بلا سوچے سمجھے جس طرف رخ کیا تھا، اس کا موقع دشمن نے والستہ انہیں خود ہی فراہم کیا تھا۔ کیونکہ موتی بھون کے اس منحوس کھنڈر سے صرف بھارتی فوجی ہی واقف تھے۔ بہر طور یہی گوشہ مجاہدین کے لیے چوہے دان ثابت ہوا تھا۔

اب شیر علی کی اس بروقت کارروائی کے بعد ان مجاہدین کے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا کہ وہ نہ صرف اپنی جان بچا لیتے بلکہ آگے بڑھ کر دشمن پر کاری دار بھی کرتے۔ تاہم انہیں اس بات کی حیرت لگی کہ یہ ”کارنامہ“ آخر کس نے انجام دیا تھا؟

ادھر شیر علی نے اس سمت جست لگا لی تھی جہاں کیپٹن بھگوت کے ٹولے پر اس نے دستی بم پھینکا تھا۔